

الجزء الأول الصحيح
لأحاديث الإمام البخاري الصحيح

ROMAN SCRIPT

MUKHTASAR
SAHIH
AL-BUKHARI

(1)

❦ MUALLIF ❦

Imam Abul Abbas Zainuddin Ahmed
Bin Abdul Lateef Az Zubaidi Rahimahullah

❦ TARJUMA WA FAWAYED ❦

Abu Muhammad Hafiz Abdus-Sattaar Hammaad Hafizahullah

❦ NAZR-E-SANI ❦

Hafiz Abdul Aziz A'lvī Hafizahullah

MAKTABA AL-USAID

Tolic Chowki, Hyderabad (T.S)

Cell : 8686474855

www.minhajusunat.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

منہاج السنہ ڈاٹ کام پر تمام ”پی ڈی ایف“ کتب
قارئین کے مطالعے اور دعوتی و اصلاحی مقاصد کے
لئے اپلوڈ کی جاتی ہیں۔

تنبیہ

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر
استعمال کرنے کی سخت ممانعت ہے، اور ان کتب کو
تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی
، قانونی و شرعی جرم ہے۔

منہاج السنہ النبویہ ﷺ لا بُرری ٹیم



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده، وصحبه أجمعين، أما بعد:

الجزء الأول
أحكام الصلاة والصوم

MUKHTASAR SAHIH AL-BUKHARI

1

MUALLIF

Imam Abul Abbas Zainuddin Ahmed
Bin Abdul Lateef Az Zubaidi Rahimahullah

TARJUMA WA FAWAYED

Abu Muhammad Hafiz Abdus-Sattaar Hammaad Hafizahullah

NAZR-E-SANI

Hafiz Abdul Aziz A'Ivi Hafizahullah

MAKTABA AL-USAID

Tolic Chowki, Hyderabad (T.S)

Cell : 8686474855

Jumla Huqooq mahfooz hain: © ALL RIGHTS RESERVED

Naam kitab	:	Mukhtasar Sahih Al-Bukhari
Taleef	:	Imam Abul A'baas Zainuddeen Ahmed Bin Abdul- Lateef Az-zubaidi Rahimahullah
Tarjuma wa fawaaid	:	Shaikhul Hadees Abu Muhammad Abdus-Sattaar Hamaad Hafizahullah Faazil Madinah Munawwarah University
Narz-e-Saani	:	Shaikhul Hadees Haafiz Abdul A'zeez Alvi Hafizahullah
Transliteration	:	Abu Arqam Salafi
Nashir	:	Maktaba Al-Usaid,Hyd
Ta'daad	:	1000
Edition	:	2014
Zere Ehtemaam	:	Muhammad Salik Usaid

Milne ke Pate:



HYDERABAD

Deccan Traders,
Moghalpura, Hyd.
Al-Athar Islamic Center,
Purani Haweli,Hyd.
Husami Book Depot,
Machli Kamaan Hyd.
Huda Publications,
Purani Haweli Hyd.
Darul Kitab,
City Civil Court, Hyd.



OTHER STATES

Islam World,
35, Haines Road, Neare Coles Park,
Fraser Town, BLR.
Darut Touyeah,
Charminar Masjid, BLR.
Suffa Islamic Book Centre,
Bellary, Karnataka.
Burraque Enterprises
Gopalapuram, Chennai.

Distributer

FAIZI BOOK DEPOT

H.No 9-4-57/12/10 , Hakeempet Road, Toli Chowki, Hyderabad-TELENGANA.

Cell : 8125925335, 8985740592, 9494511336

A'rz-e-Naashir

Qur'an-e-Majeed ke saath Hadees Islaami Ta'leemaat ka doosra sarchashma hai, Ahadees ke baghair Islaami Ahkaamaat par amal mumkin nahi, Hadees se khaali Islaam ki haisiyat amali namoono se mahroom bas chand ghair wazeh afkaar aur naqabile amal hidaayaat par mushtamil mazhab ki hogi, yahi wajah hai ke Allah ke Rasool ﷺ ne Qur'an aur Hadees ko ek doosre keliye lazim -omalzoom qaraar diya hai, Aap ne farmaya:

"beshak main ne tum mein do cheezein chodi hain, un ke ba'd tum hargiz gumrah na hoge, aik Allah ki kitab aur doosri meri Sunnat, yeh dono hargiz juda nahi ho sakte yahan tak ke Hauz-e-Kausar par mujh se aa milein" (Hakin jild:1 page:93, Saheeh aljame':2937)

aur yahi wajah hai ke Allah Ta'ala ne jis tarah Qur'an ki hifazat ki zimmedari li hai usi tarah Hadeed ki hifaaizat ki zamaanat bhi li hai, Allah Ta'ala ka irshaad hai: "Phir iss (Qur'an) ki tashreeh ki zimmedaari hamaari hai" (Al-Qiyamah:19)

Allah Ta'ala ne iss wa'de ki takmeel iss tarah pharmayi ke Sahaaba-e-kiraam رضی اللہ عنہم ke dilon mein Nabi ﷺ ki Hadeeson se be panaah muhabbat daal di, chunaancheh unhon ne na sirf Hadeeden yaad ki balke unhen hoobahoo apne ba'd ke logon tak pahuncha diya, un ke b'ad Imamon aur Mohaddison ne Hadees ki hifaaizat ka beda uthhaaya aur har qism ki takleefen aur mosibaten utha kar Ahadees ko kitabon ki shakl mein mahfooz kardiya, aaj kutub-e-Hadees mein Ahadees ka aisa bada zakhira maujood hai ke un ke zariye Islaam ko hum ek mukammal chalta phirta, harkat w amal se bharpoor aur insaani zindagi ki tamaam zaroriyaat ki takmeel karne wale be misaal mazhab ki haisiyat se dekh sakte hain.

Ahadees ko kitabi shakl mein mahfooz kardene ka azimushshaan kaarnaama jin Mohaddeseen-e-kiraam ne anjaam diya unmein Imam Bukhari رحمه الله ka naam sab se uncha hai, aur un ki kitab Sahih Bukhari ko Ahadees ki kitabon mein sab se a'la muqaam hasil hai, Ummat ke Ulama' ne mutafaqah taur par use "Asahhul kutub ba'd kitabillah" (kalaam-e-Elaahi ke ba'd sab se sahih kitab) qarar diya hai aur poori ummat use sab se ziyadah i'zzat-o-ehteraam ki nazar se dekhti hai.

Aallah ke fazl aur uske karam se "Maktaba Al-Usaid Hyd" ko iss azeem kitab ko roman script mein pesh karne ka sharf hasil ho raha hai, Urdu Zabaan ki hifaaizat ke nuqta-e-nazar se yeh koshish goke mahmood na ho lekin Urdu samajhne ke bawajood Urdu padhne se door aur mahroom, saath English waghairah zubaanon ko mukammal taur par samajhne se qaasir nayi nasl ki dini hifazat ke peshe nazar ise pasand nahin to gawarah zaroor kiya jaa sakta hai, baharhaal iss shakl mein Sahih Bukhari ki yeh peshkash badi mehnaton aur roz-o-shab ki koshishon se mumkin huyi hai, yeh peshkash raaqim ke chhote

bhaiyon (Muhammad salik usaid, Muhammad Asjad aur bataur-e-khaas Muhammad Tarique salafi) ki kosishon ka nateejah hai, in ke zariye Urdu addition se kayi martabah muaazanah karke iss baat ki pori koshish ki gayi hai ke koi ghalti na ho raaqim ne bhi kitab ke shuru' ke bade hisse ko dekhne ke saath kitab ki पूरी Arabi Ebaarat ka harf baharf mutala'a kiya hai, is tarah ummeed hai ke koyi badi aur qaabil-e-zikr ghalati kitab ka hissa na bane, is ke bawajood agar kuch ghaltiyan saamne aajati hai to uske liye hum Allah Ta'ala se mu'afi magne ke saath apne padhne wale bhaiyon se guzaarish karte hain ke woh hamaari rahnumayi karke shukrye ka moqa' dein aur ajr ke mustahiq hon.

Akhir mein du'a hai ke Allah Ta'ala iss kitab ko logon faayide mand banaaye aur hum sab keliye sa'aadat-e- daarin ka zariya karde. aameen

wassalam

*Mumammad Sajid Usaid Nadwi
Tolichoki Hyd. 25.01.2014*

Muqaddamah

Allah ne tamaam musalmaanon par apne ahkaam ki paabandi aur eta'at ke saath saath Rasoolullah ﷺ ke ahkaam wa awaamir ki ettiba' zaroori qaraar diya hai. is ke muta'alliq chand Qur'ani ayaat darj zel hain:

- (1) "Jis ne Rasool ki etaa'at ki be shak us ne Allah ki etaa'at ki." (Al Nisa 4/80)
- (2) "Allah ki etaa'at karo aur Rasoolullah ﷺ ka kaha maano." (Al Nisa 4/59)
- (3) "Aur Rasool tumhen jo hukm de use le lo aur jis cheez se mana' kare usse ruk jao." (Al Hashr 159/7)
- (4) "Be shak tumhaare liye Allah ke Rasool behtareen namoona hain." (Al Azaab 33/21)
- (5) "Aap kah den agar tum Allah ko mahboob rakhna chaahate ho to meri etteba' karo Allah tumhen mahboob rakhkhega aur tumhaare gunaahon ko bakhsh dega." (Aale Imraan 3/31)

In aayaat se ma'loom huwa ke Allah aur uske Rasool ﷺ donon ke ahkaam ki etaa'at waajib hai neez Rasoolullah ﷺ ki etaa'at ain Allah ki etaa'at hai.

agar ham mazeed ghaur-o-fikr se kaam len to ma'loom hota hai ke deene islaam ki sahih tasweer quraan aur hadees donon se milkar hi tayyaar hoti hai. jo log yeh chaahate hain ke in donon ko ek doosre se alag karden' ek ko maanen doosri ka enkar karden' woh sirat-e-mustaqeem se door hain. taareekh gawaah hai ke musalmaanon mein jitne gumrah firqe paida huye hain un ki gumraahi yahi thi ke unhon ne Qur'an ko Hadees se ya Hadees ko Qur'an se alaahidah karna chaaha' khawaarij ki gumraahi is ke elaawah kuch na thi ke unhon ne Qur'an ko maana lekin Hadees se ru gardaani ki neez mo'tazala ka bhi yahi qusoor tha ke unhon ne Quraani aayaat ke muta'alliq door azkaar taaweelaat ka sahaara le kar Ahaadees se ru gardaani ki, nateejah yeh huwa ke unke liye gumraahi likh di gayi. muddaton tak zalaalat ke andheron mein bhatak te rahe, fitnah enkaar-e-hadees ke dar asl yahi log baani' lekin puraane-e-munkireen-e-hadees aur jadeed munkireen-e-hadees mein numaaya farq yeh hai ke qadeem Munkireen-e-Hadees Ahaadees-e-Nabawi ke munkir zaroor the magar unka mazaag nahin udaate the. inka yeh fitnah ek ilmi fitnah tha lekin hamaare daur ka fitnah enkaare Hadees ilm-o-faham par mabni nahin balke jahil-o-enaad par mabni hai, iska maqsad mazhab ki girift dheeli karna aur use aisi soorat karna hai jo har saanche mein dhaalne ke qaabil ho jaaye iss liye ab enkaare hadees ke liye kisi badi daleel ki zaroorat nahin rahi balke chand ahaadees mein ma'mooli shubhhaat paida karke baqiyah tamaam ahaadees bila wajah radd kardi gayin. yeh log na sirf ahaadees ka enkaar ka rte hai balke uska mazaag karte hain aur unhin a'jmi saazish ka nateejah qaraar dete hain.

Qura'n ne to shaareea'te moosiyah ke sirf chand shadeed ahkaam ko esro aghlaal se ta'beer farmaya tha lekin hamaare daur ke munkireene hadees ne Rasoolullah ﷺ ki

tamaam ahaadees ko esro aghlaal kah daala. is giroh ka aqeedah hai ke etaa'at waajib hai' Rasoolullah ﷺ ki etaa'at mansab risaalat ke lehaaz se koyi zaroori nahin hai' iss ka fareezah sirf tabhleeqh quraan se adaa ho jaata hai' uske ba'd woh aa'm ensaanon ki tarah ek ensaan hota hai.

Is aqeedah ki buniyaad dar haqeeqat maqaa-e-nabuwat aur huqooq-e-nabuwat se tamaam tar jihaalal aur na waaqifiyat hai is giroh ke chand darj zail hai:

- (1) Etaa'at sirf Allah ki ho sakti hai kisi ensaan ki nahin hatta ke Rasool bhi apni etaa'at kisi se nahin kar wa sakta. (M'ariful Quraan: 6864/)
 - (2) Allah aur Rassol se muraad woh markaz-e-millat hai jo dunya mein khudaayi qanoon naafiz kare. (Maqaam-e-Hadees 64/1)
 - (3) Yeh aqeedah ke bila samajhe quraan ke alfaaz dohraane sawaab hota hai yaksar ghair quraani aqeedah hai. (Quraani Faisle: 103)
 - (4) Tamaam Ahaadees takhmeeni aur zanni hain aur iss liye yeh deen nahin qaraar paa saktin (maqaaam-e-hadees 1/63)
 - (5) Namaaz khuda ke parashtish ki rasam hai jo har mazhab mein kisi na kisi shakal mein maujood hai aur paarsiyon ke haan iss ka naam tak bhi nahin. (Quraani Faisle: 27)
 - (6) Hajj ek yaatra ki qism hai yeh bhi rasam hai' islaami mu'aashrah ka juzz nahin. (Quraani Faisle 63)
 - (7) Yeh jo ham badi eid ke moqe' par har shahar aur har qaryah har gali' har kooche mein bakre' gaayen' zabah karte hain yeh ek rasm hai jo ham mein mutawaatir chali aarahi hai. (Quraani Faisle:57)
 - (8) Agar musalmaan mazeed zillat wa khawaari se bachna chaahta hai to use mazhab chodna hoga. (Tulu'-e-Islaam/Fabruary1952h)
 - (9) Deen us zaabtaye zindagi ka naam hai jise quraan ne mua'iyen kiya hai aur mazhab in aqaayid wa rusoom ka naaam hai jo hum mein rayej hain. (Islaami Nizaam: 26)
- (1) Musalmaanon ko quraan se door rakhne ke liye jo saajish ki gayi iss ki pahli kadi yeh aqeedah paida karna tha ke Rasoolullah ko uss wahi ke elaawah jo qura'an mein mahfooz hai ek aur wahi bhi di gayi thi jo qura'an ke saath bilkul aham paaya hai yeh wahi rivaayaat mein milti hai iss liye rivaayaat ain deen hain. yeh aqeedah paida kiya aur iss ke saath hi rivaayaat saazi ka silsila shuru' kar diya gaya aur dekhte dekhte rivaayaat ka ambaar jama' ho gaya hai. (Maqaam-e-Hadees: 1/461)

Yeh dass aqaaid in hazraat ki kitaabon ke hawaale se bayaan kiye gaye hain jo apne andar deen-e-islam se baghaawat ka pahlu rakhte hain. waazeh rahe ke Rasoolullah ﷺ ne iss fitne enkaare hadees ki taraf bayin alfaaz eshaarah farmaaya tha:

"Khabardaar! mujhe qura'an majeed aur iss tarah ek aur cheez bhi di gayi hai. khabardaar! qareeb hai ke ek aasoodah haal aadmi apni masnad par baith kar yeh kahe ke tumhen yeh qura'an kaafi hai' iss mein jo halaal hai use halaal samjho iss mein jo haraam hai use haraam qaraar do. khabardaar! main tumhaare liye paaltu gadhnon ke gosht ko haraam karta hoon' isi tarah kachli waale darinde ko bhi haraam karta

hoon. (jis ka zikr qura'an mein nahin hai)" (Sunan Abu Dawood, Kitaabussunnah, Baabuluzmussunnah)

Tirmzi ke ek rivaayat mein mazed wazaahat hai ke:

"Be shak jo cheezen Allah ke Rasool ﷺ ne haraam ki hain goya Allah ne haraam ki hain" (Tirmezi, Kitabul ilm)

Hazrat Umar ؓ ne bhi iss fitne ko bhaanp liya tha aur iss ki rok thaam ke liye tadbeer bhi batlaayi thi' farmaate hain:

"Tumhaare paas aise log aayenge jo qura'ani shubhhaat ki aad mein tumhaare saath jhagda karenge' unka hadees se muwaakhazah karo kyunke ahaadees ka ilm rakhne waale hi kitaabullah ki behtareen ta'beer kar sakte hain."(Daarmi: 1/470

In Ahaadees se ma'loom hota hai ke munkireene hadees badi pur takalluf zindagi guzaarte honge aur khoob pet bhar kar aaraastah takhton aur narm wa naazuk takiyon par tek lagaa kar ahaadees ka enkaar karen ge, chunaancheh Rasoolullah ﷺ ki yeh pesheen goyi harf ba harf poori huyi, aaj ham dekh rahe hain ke Ghulaam Ahmad Parvez aur uski zurriyyat faraaghat wa khush haali aur aisho nashaat ki zindagi guzaarti hai, aise log hi hadees ka enkaar karte hain. mundarjah baala hadees ke roshni mein munkireene hadees ki tareekhi sar guzisht kuchh yoon hain:

- (1) Khawaarij ne fazaaiile ahle bait se muta'alliqah ahaadees ka enkaar kiya.
- (2) Iske bar a'ks rawafiz ne fazaaiile sahaaba par mushtamil ahaades se pahlu tahi ki.
- (3) Mo'tazalah aur jahmiyah ne ahaades sifaate baari ta'ala ko mustarad kar diya.
- (4) Muta'akhhireen Fuqhaaye hanafiyah mein se chand Hazraat ne aisi ahaadees ko na maana jo baqaule unke ghair faqeeh raaviyon se marvi thin.
- (5) Mutakallimeen ki ek jama'at ne hujjiyat-e-khabar-e-waahid se ru gardaani ki.
- (6) Barre sagheer mein Sar Sayyad aur Molvi Chireeghe Deen ne aisi ahaadees ko rad kar diya jo baza'm khuwesh akhlaaq ki khilaaf thin.
- (7) Abdullah Chakdaalvi aur Hashmat Ali Lahauri ne tamaam ahaadeese nabawi ko mustarad kar diya.
- (8) Ahmad Ali Amrit sari aur Ghulaam Ahmad ke nazdeek ahaadees ek khel aur baazi chaye atfaal ki haisiyat rakhti hain. muakhhharuzzikr ke nazdeek Rasoolullah ﷺ ki etaa'at aap ki zindagi tak "mahaz" markaz-e-millat" hone ki wajah se thin jiski paabandi aaj ghair zaroori hai.
- (9) Ameen Ahsan Islaahi aur unke khawaane ilm ke rezah cheenon ne "fikr faraahi" aur "nazm quraan" ke u'nwaan se muta'addid ahaadees ka enkaar wa estakhfaaf kiya.

Ab hum dekhte hain ke Allah Ta'ala ne jis nabi mukarram ﷺ ki etaa'at farz aur uski naafarmaani ko kufr se ta'beer kiya hai uski hai? kiya woh ek daakiyah ki tarah hai jo ek band lifaafe ko maktoob elaih tak pahuncha de aur bass' ya uss ke elaawah kuch aur bhi uske faraaiz mansabi mein shaamil hai? ershaad baari ta'ala hai:

"Aur hamne Aap par qura'an utaara hai taake Aap logon ke saamne ise khoob

waazeh karen"

Aayat baala mein lafz (Linnaas) qaabile ghaur hai' isse ma'loom hota hai ke qura'an agar cheh khud bayaan sahi lekin har shakhs iss bayaan ke samajh ne se qaasir hai' aam logon ke iss qusoor-e-faham ki wajah se iss bayaan ko mazed waazeh karne ke liye Rasool bhejha jaata hai chunaankeh jo kalaam jitna bhi buland paaya hota hai usi qadar sharah ka ziyaadah mohtaaj hota hai' doosre yeh bhi ma'loom huwa ke kitaabullah ki muraad bayaan karna sirf usske Rasool ka mansab hai balke uski be'sat ki yeh ek badi gharz-o-ghaayat hai.

Hazrat Mutarrif bin Shikhkhir se ek shakhs ne kaha ke aap hamaare saamne qura'an ke siwa kuch aur mat bayaan ki jiye to unhon ne farmaya:

"Allah ki qasam! qura'an ki bajaaye hum bhi koyi aur kitaab nahin chahte lekin ham usse ham kaise qata' nazar kar sakte hain jo qura'an ko ziyaadah jaanne waala hai."(Muwaafaqaat:4/26)

Imaam Auzaaei ne hadees ki isi sifate bayaan ke peshe nazar yeh farmaaya tha:

"Kitaabullah sunnat ki taraf ziyaadah mohtaaj hai' banisbat sunnat ke kitaabullah ki taraf (Jaame' bayaanul ilm)' Haafiz Abu Amr iski muraad yeh bayaan karte hain ke Imaam Auzaaei ka matlab yeh hai ke sunnat qura'an ki muraad bayaan karti hai. yeh wazaahat khud Imaam Auzaaei ne Hassaan bin Attiyah se bhi naql farmaayi hai ke aan Hazrat ﷺ par wahi aaya karti thi aur Hazrat Jibrayeel aap ke paas woh sunnat le kar aaye jo iss wahi ki tafseer kar deti thi Imaam Shaatbi iski mazed sharah karte huye likhte hain ke Qur'an ki ebaarat mein kabhi do baaton ka aur kabhi usse bhi ziyaadah ehtamaal hota hai' aur yeh muta'yyan nahin hota hai ke Allah ta'ala ki yahaan muraad kiya hai? hadees in mein se ek ehtamaal ko muta'ayyan kar deti hai aur wahi Qur'an ki muraad samjhi jaati hai phir doosre ehtamalaat ko nazar andaaz kar diya jaata hai."(muwaafiqaat:4/10)

Tamaam ahle ilm iss baat par muttfaq hain ke Qur'an kareem sirf alfaaz-e- qur'an ya qur'aani ma'aani ka naam nahin balke alfaaz wa ma'aani ke majmooe' ko Qur'an kaha jaata hai. yeh ek aisi haqeeqat hai jis par dalaail qaayim karne ki zaroorat nahin hai aur yeh baat bhi azharu minashshams hai ke qura'an ke ma'aani alfaaz qura'n se se juda gaanah haqeeqat rakhte hain' woh iss tarah ke qura'an ke mua'aani samjhaane ke liye aise naye alfaaz este'maal karna entehaayi zaroori hain jo alfaaz qura'an ke elawaah hon. hadees- e-nabawi dar asl qura'ani alfaaz ke ma'ni hi ka naam hai aur yahi qur'an ka bayaan hai jiske muta'alliq ershaad baari ta'ala hai:"Phir hamaara zimme uska bayaan karna hai."

Isse ma'loom huwa ke qura'an aur uska bayaan donon min jaanib Allah hain' donon ki hifaazat Allah ta'ala ne apne zimme bayin alfaaz li hai:

"Hamne hi yeh zikr utaara hai aur ham hi iske muhaafiz hain."

ab agar koyi kahta hai ke qura'an to mahfooz hai magar hadees mahfooz nahin to goya woh yeh kahta hai ke qura'an ke alfaaz to mahfooz hain' magar isske ma'ni

mahfooz nahin hain halaanke ma'ani ke baghair alfaaz ki hifaaizat bekaar hai hadees kiya hai?

Mujmilaat Qur'an ki tafseel' mubhamaat-e-Qur'an ki wazaahat' mushkilaat qura'an ki tafseer aur kunniyaat Qur'an ki tasreeh hai.

Aayat baala se ma'loom huwa ke Allah ta'ala ne alfaaz qura'an ke saath unke ma'ani wa bayaan ka zimmah bhi khud liya hai aur iss hifaaizat ke teen maraahil hain.

(1) Allah ta'ala ne alfaaz-e-Qur'an aur inki muraadaat ko apni hifaaizat ke saath seenaye nabuwat mein utaar kar jama' aur mahfooz kiya.

(2) Rasool ﷺ ne iss hifaaizat-e-elaahiah ki madad se Qur'an-e-kareem ke alfaaz tilaawat ke zariye aur iske bayaan ko apne af'aal-o-aqwaal aur taqreeraat ke zariye apne sahaab-e-kiraam ko muntaqil farma diya.

(3) Uske ba'd yeh Qur'an aur iska bayaan donon sahaaba kiraam ﷺ se taabi'een رضى الله عنهم aur taba' taabi'een رضى الله عنهم tak, phir seena ba seena hote huye ham tak pahunche.

Aur in donon mein choli daaman ka saath hai jaisa ke Rasoolullah ﷺ ka ershaad hai.

Ab hum hifaaizat-e-hadees par mukhtasaran apni guzaarishaat pesh karte hain. kyunke mazkoorah tamaam qism ke munkireene hadees yahi shubah paida karke estekhfaaf karte hain ke hadees ki kama haqqahu hifaaizat nahin ki gayi. Rasoolullah ﷺ ne sunnat ki hifaaizat ke liye jo iqdaamaat farmaaye unki tafseel hasab zel hai.

Ta'amul-e-Ummat

Qura'n ke ahkaam ki ta'meel jis tarah Rasoolullah ﷺ farmaate the' aap ke sahaaba-e-kiraam bhi aap ke naqshe qadam par chalte huye aap ki etteba' karte' Rasoolullah ﷺ ke darmiyaan kitaabullah ke mutaabiq faisle farmaate aur arkaane islaam ko bajaa laate yeh eqdaam Qur'an-o-hadees ki hefaazat ke darmiyaan mushtarak tha. Allah ke kalaam ke ehkaam ki ta'meel ka doosra naam sunnat ya ta'aamule ummat hai'

Hifz-o-Simaa'(Sunnah)

"Hifaaizat-e-hadees ka doosra tareeqah hadeese mubaarakah ka sunaana' use yaad rakhna aur doosron tak pahun chaana tha iske muta'alliq Rasoolullah ﷺ ki dua'a bataure khaas kutube hadees mein marvi hai' farmaate hain ke Allah ta'ala aise shakhs ko khush wa khurram rakhkhe jisne meri baat ko sunaa' use yaad rakhkha phir use beainihi aage pahunchaaya kyunke jin logon ko baat pahunchaayi jaati hai un mein se bahut se baraahe raast sunne waalon se bhi ziyaadah yaad rakhte hain.

Sahaaba-e-kiraam ﷺ ne iss dua'aaye nabawi ka misdaaq banne ke liye hifaaizate hadees se muta'alliq ek misaali kirdaar adaa kiya jis ki tafseel ka yahaan moqa' nahin hai.

Kitaabat-e-Hadees

Hifaaizate hadees ki teesri soorat iski kitaabat wa tahreer hai aur yeh soorat bhi aap ke hukm se ekhtiyaar ki gayi thi jaisa ke aap ne fathe makkah ke moqe' par faramaya ke Abu Shaah ko mera khat likh do isi tarah Rasoolullah ﷺ ne Hazrat Abdullah bin

Amr Rasoolullah ﷺ ko bataure khaas kitaabate hadees ki ejaazat marhamat farmaayi thi. goya Rasoolullah ﷺ ne ahaadeese mubaarakah likhne ka khud hukm diya jo aap ke zamaana-e-nabuwat se shuru' hokar jaari hai' kitaabate hadees ko ham teen adwaar mein taqseem karte hain.

- (1) Daure risaalat aur daure sahaaba mein ahaadees ka bahut sa tahreer sarmaaya wajood mein aagaaya tha.
- (2) Hazrat Umar bin Abdul Azeed رضى الله عليه ne apne daure khilaafat mein zabaani aur tahreeri ahaadees ki jama' wa tadveen ka hukm Muhammad bin Muslim Ibne Shihaab Zaahri ko diya' jo apne waqt ke bahut bade haafize hadees the'
- (3) Yeh daur chauthi sadi ke khaatimah tak faila huwa hai is daur mein musnad nawesi ka aaghaaz huwa un masaaneed mien muhaddiseen kiraam رضى الله عليهم/sahih wa imtiyaz jama' karte the. bil aakhir Sultaanul muhaddiseen Abu Abdullah Muhammad Bin Ismaail Bukhaari ne sab se pahle aisi kitaab likhi jo sehat ke e'tabaar se a'la darje ki haamil thi' phir unke tilmeez Rasheed Imaam Muslim Bin Hajjaaj ne bhi sahih muslim tarteeb di phir sunan arba' ki tadveen huyi. (رضى الله عليهم)

Fanne hadees par jis qadar kitaaben likhi gayin hain un mein sahih bukhari hai iske muta'alliq chand ahwaal hai:

Kitaab ka Naam

Sahih Bukhari ka poora naam yeh hai "الجامع الصحيح المسند المختصر من امور رسول الله ﷺ و سنته و ايامه" is naam mein 6 cheezen qaabile wazaahat hain.

- (1) Al Jaame': us kitab ko kahte hain jo mundarjah zel 8 qism ki ahaadees par mushtamil ho. ahkaam' manaaqib' siyara' aadaab' tafseer' fitan' riqaaq aur aqaaid.
- (2) **Assahih:** iska matlab yeh hai ke buniyaadi taur par iss mien sirf sahih ahaadees ko bayaan kiya jaaye ga iss se muraad yeh hai ke hadees ki sanad ebtadaa se entehaa tak muttasil aur iske raavi aadil wa zaabtah honge neez woh shaaz aur ma'lool nahin hogi.
- (3) **Al Musnad:** isse muraad marfoo' aur muttasil ahaadees hain ya'ni Imaam Bukhaari ka asl maqsood ahaadees marfooa' maqsad ka bayaan karta hai lekin tayeed wa mutaabi'at mein ahaadese muta'allaqa aur aasaare mauqoofah bhi pesh kiye jaate hain.

Min Umoore Rasoolullah ﷺ: in alfaaz se musnad ki wazaahat maqsood hai ya'ni iss kitaab mein Rasoolullah ﷺ ke aqwa'aal wa afa'aal aur taqreeraat ka bayaan hoga.

- (4) **Sittah:** isse muraad aap ki taraf se jaari hone waale fiqhi ahkaam hain ya'ni zaabta-ezindagi aur uski tafseer jo aap se manqool hai woh bayaan ki jaaye gi.
- (5) **Ayyaamih:** isse muraad shab wa roz Rasoolullah ﷺ ko pesh aane waale hawaadis wa waaqi'aat ka bayaan ya'ni abwaab-e-jihad aur maghaazi ki tafseel maqsood hai.

Sababe Taleef: iss azeem kitaab ki taleef ka sabab ke ustaaz mohtaram muhaddis Ishaq Bin Raahwaih hain unhon ne ek martabah iss khawaahish ka ezhaar farmaaya ke aisi kitaab likhi jaaye jis mein sahih ahaadees jama' ho Imaam Bukhaari us majlis

mein maujood the' unhon ne iss ka beda uthaaya aur ise paaye tahmeel tak pahunchaaya' neez iss silsile mein Imam Bukhaari ne ek khawaab dekha ke main morchal se Rasool ﷺ ke chehre mubaarak se makhkhiyaan udaa rahaa hoon iss khawaab ki ta'beer yoon di gayi ke Imaam Bukhaari Rasool ﷺ ke kalaame mubaarak se kizb wa eftra ki makhkhiyaan door farmaayen ge chunaancheh sahih bukhari ki taaleef dar asl aap ke khawaab ki ta'beer hai.

Maqsad-e-Taaleef: Imaam Bukhaari ne hasb zel chaar Aghraaz ke peshe nazar iss kitaab ko taaleef farmaya hai:

- (1) Buniyaadi maqsad yeh hai ke iss mein sirf ahaadeese sahiha marfood' ko bayaab kiya jaaye jin mien koyi kamzori ya zua'f na ho.
- (2) Sahih hadees se masaail wa ahkaam ka estinbaat karna chunaancheh iss kitaab mein be shumaar ahkaame fiqhiyya aur fawaaid badeea' bayaan hote hain jinhen dekh kar aqal dang rah jaati hai
- (3) Estinbaat-e-masaail ki ta'leem dena bhi aap ka maqsood hai chunaancheh nusoos se fiqhi ahkaam saabit karne ke kayi ek tareeqe hain ya'ni dalaalate nass, ebaarate nass aur eshaarate nass waghairah in tareeqa-e-estekhraaj ki is kitaab mein amla ta'leem di gayi hai.
- (4) Hadeese waqfah ko jama' karna ya'ni yeh kitaab sirf fanne hadees par hi mushtamil nahi balke iss mein kitaabo sunnat par mabni fiqh ka bayaan hai.

Khusoosiyat-e-Bukhaari: iss kitaab ki kayi ek khosusiyat hain jo doosri kitaabon mein nahin hain, yahaan chand ek tazkirah kiya jaata hai:

Tangi daaman ke peshe nazar hum sirf tarjumah abuwab ke muta'alliq ekhtesaar ke saath kuchh guzaarishaat pesh karte hain. Allah ki tafseeq se iss ki tafseel tarjumah Sahih Bukhaari ke muqaddamah mein bayaab karen ge jis par Allah ke tafseeq se kaam jaari hai

Taraajim abwaab ke muta'alliq Imaam Bukhaari ka tarze amal nihaayat daqeeq aur ameeq hain chunaancheh mashhoor maqoolah hai (Fiqhul Bukhaari fi taraajimeh) ya'ni Imaam Bukhaari ne apni fuqhaat ko apne qaayim kardah abwaab mien bayaan kiya hai' Imaam Bukhaari ke taraajim ki mukhtalif sooraten aur mukhtalif Aghraaz hoti hain sirf chand ek ka tazkirah kiya jaata hai:

- (1) **Bayaan Muraad-e-Hadees:** tarjumatul baab mein koyi qaid kardi jaati hai jabke uske tehat aane waali hadees muta'alliq hoti isse muraad iss hadees ki wazaahat hoti hai'' Baabussafarati wal kidrati fi ghaire ayyaamil haiz'' ke tehat aane waali hadees muta'alliq hai ghair ayyaamul haiz ke alfaaz ne iska ma'na muta'yyan kar diya hai.
- (2) Kabhi tarjumatul baab mein aisa maslah zikr kiya jaata hai jis mein mukhtalif ahaadees aati hain isse maqsood wajhe tatbeeq wa tarjeeh bayaan karna hota hai.
- (3) Tarjumatul baab ke tehat kabhi aisi hadees bayaan ki jaati hai jo khud tarjumatul baat par dalaalat nahin karti iski wajah yeh hoti hai ke woh hadees muta'addid tareeqe se marvi hoti hai ba'z rivaayaat mein koyi aisa sareeh lafz zaroor hota hai jo

tarjumatul baab par dalaalat karta hai jaisa ke assamro fil ilm ke tehat jo Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se marvi hadees bayaan ki hai iss mein raat ki guftugu ka zikr nahin lekin kitaabut tafseer mein Ibne Abbaas رضي الله عنهما ki bayaan kardah isi hadees mein raat ki guftughu ka tazkirah bissaraahat maujood hai.

(4) Kabhi Imaam saaheb tarjumatul baab mein aisi hadees laate hain jo unki shart par nahin hoti phir iss hadees ki sehat ke muta'alliq bataure shahaadat o'nwaan ke tehat aisi ahaadees pesh karte hain jo Imaam Saaheb ki shaarait ke mutaabiq hoti hain isse tarjumatul baab mein pesh kardah hadees ki taakeed maqsood hoti hai.

(5) Kabhi tarjumatul baab se ebaarat ka zaahir madlool maqsood nahin hota balke dalaalate ittezaami saabit hone waala amar maqsood hota hai jo ahaadees baab mein kaafi ghaur fikr karne ke ba'd maslan baab kaifa kaan badyil wahi mein aaghaaze wahi ka tazkirah hi maqsood nahin balke wahi ke jumlah mabaadi ya'ni muta'alliqe wahi' iski aqsaam' iski azmat wa sadaaqat' maqaame wahi' zamaane wahi aur moha elaih ya'ni Rasoolullah ﷺ ke haalaat wa akhlaaq neez saahibe wahi Hazrat Jibrayeel haalaat ke waghairah ka bayaan karna maqsood hai.

(6) Ba'z auqaat baab bila o'nwaan hota hai Imaam Bukhaari ki isse aam taur par teen aghraaz hoti hain:

(1) Iss qism ke baab ka ta'alluq pahle baab se hota hai' goya iski haisiyat ek" fasl" ki hoti hai jaisa ke kitaabussalah fi baaussalah bainassawaari ke ba'd ek baab bila o'nwaan hai.

(2) Qaariyeen ahle ilm aur talbah ko iss baat par aamaadah karna maqsood hota hai ke woh az khud ghauro fikr karke uss maqaam par o'nwaan qaayim karen jo moqa' wa mahal ke mutaabiq ho jaisa ke kitaabuttayammum ke aakhir mein ek baab bila o'nwaan hai jiske tehat Hazrat Imraan Bin Hussain رضي الله عنهما ki hadees ka zikr hai ke ek junbi aadmi namaaz mein shaamil na hua to Rasool ﷺ ne use ta'leem di. iss maqaam par hasbe haal yeh o'nwaan munaasib hai ke "Jab junbi ko paani na mile to tayammum karle.

Shraayite Bukhaari: Imaam Bukhaari ne akhz-e-rivaayaat ke silsilah mein apni kisi kitaab mein sharaayit waghaairah ka zikr nahin kiya hai balke unke ba'd ulamaa hazraat ne unki kitaab ka mutaala'a kiya aur tatabee' wa talaasyh ke ba'd in sharaait ka zikr kiya jo unhon ne akhz rivaayaat mein malhoos rakhkhi hain Imaam Bukhaari ne jin sharaait ka e'tabaar kiya hai woh Imaam Muslim ki shraait se ziyadah sakht hain do cheezon ka khaas khayaal rakhkha jaata hai:

(1) Raawi ki zaati haisiyat uska aadil wa zaabit aur seqah hona'

(2) Is raawi ka apne shaikh se kisi qism ka ta'alluq hai 'mulaaqaat wa semaa' kis paaye ka hai.

Imaam Bukhaari ne in donon cheezon ka khaas taur par lihaaz rakhkha hai ya'ni woh raawi jisse rivaayaat leta hai woh aadil siqah aur aadil ho aur shakhs ke saath uski mulaqaat bil fe'l saabit ho' safar-o-hazar mein apne shaikh ke saath

rahaa ho kam az kam hazar mein to uski mulaaqaat bakasrat ho kyunke jo aadmi safar wa hazar mein kisi ka saathi hoga usse ghalti ka emkaan bahut kam hota hai. Imam Muslim pahli shart mein to Imam Bukhaari ke saath hain al battah doosri shart bil fe'l mulaaqaat ko woh zaroori khayaal nahin karte' balke akhze rivaayat ke liye woh imkaan mulaqaat hi kaafi samajhte hain' Imam Abu Dawood aur Imam Nasayi donon lamam Bukhaari ki taraf shart saani mein shareek hain' sharte awwal ka unke haan etna ehtaam nahin hai' tirmizi mein donon sharaait mafqood hain' al gharz raavi paanch tarah ke hote hain.

yahi woh shraayet wa wajoohaat hain jin ki bena par yeh mutafaqqah faislah hai. ke sahih bukhaari ko baaqi kutube hadees par tarjeeh hai. yeh tarjeeh hai khawaah sehat ke ho ya jaudat w fuqahal ki wajah se ho' isi bena ko''ameerul mu'mineen fil hadees''aur'' sayyedul muhaddiseen'' ke naam se yaad kiya jaata hai. agar cheh ba'z muhaddiseen ka yeh faislah ke sehat ke e'tabaar se sahih bukhaari ko tarjeeh hai aur husne tarteeb ke lehaaz se Imaam Muslim ko fauqiyat haasil hai lekin yeh faislah mahlee nazar hai kyunke muhaddiseen ne alal etlaaq Imaam Bukhari ki ''al jaameu'ssahih'' ko har lehaaz se athaarty tasleem kiya hai.

Imam Bukhaari ki iss taleef ko sharfe qubooliyat se nawaaza iski muta'addid shurooh likhi gayin aur iske taraajim ki baarikiyon aur lataafaton par mustakil tasaaneef manassah shuhood par aayin ba'z muhaddiseen kiraam ne mukarraat ko hazf karke iska ekhtasaar kiya chunaanche Allamah Zubaidi ne bhi ise mukhtasar kiya jo mukhtasar sahih bukhaari ke naam mashhoor wa mutadaawil hai jis ka tarjumah aur mukhtasar -o-hawaashi hadya qaariyeen hain.

Muallif Tajreed ka mukhtasar ta'arruf: Aap ka poora naam ''Abul Abbaas Zainuddeen Ahmad Bin Abdul Lateef Ashsharji Azzubaidi'' hai jo Imaam Zubaidi ke naam se zeyaadah mashhoor hain' aap yaman ke shahar Zubed ke qareeb ''sharjah'' ke maqaam par jum'atul mubaarak ki raat morkhah 12 ramzaan 812h bmutaabiq 1410e ko paida huye' us waqt ke bade bade ulmaa se kasbe faiz kiya fanne hadees par unhen khusoosi dastaras thi apne waqt ke azeem muhaddis aur maahire adab the yamni riyasaton men arsaah-e-daraaz tak dars-e-hadees diya bil aakhir 893 bamutaabiq 1488m ko apni umar ki 81 bahaaren dekhne ke ba'd shahar zubed mein entaqaal farmaaya aur wahin dafan huye.

Abwaab	Fihrist-e-A'naaween	Page No
	Arz-e-Naashir	3
	Muqaddamah	5
	Muqaddamtul kitaab	41
	Rasoolullah ﷺ par Aaghaaz-e- wahi ka bayan	47
Baab:1	wahi kaise shuru hoyi?	47
	Eemaaniyaat	58
Baab :1	Farmaan-e-Nabwi: "Islam ki Buniyad Paanch Cheezen Hain"	58
Baab:2	Umoor-e-Eemaan	58
Baab:3	Musalmaan woh hai jis ki zabaan aur haath se doosre Musalmaan mahfooz rahen	58
Baab:4	Kaunsa Musalmaan Afzal hai?	59
Baab 5	Khaana khilaana Khaslat-e-Islam hai	59
Baab:6	Eemaan ki alaamat hai ke apne bhaayi ke liye wahi pasand kare jo apne liye pasand karta hai.	59
Baab:7	Rasoolullah ﷺ se Mohabbat juzw eemaan hai	60
Baab:8	Eemaan ki shireeni	60
Baab:9	Ansaar se Mohabbat Alaamat-e- Eemaan hai	61
Baab:10	Fitnon se faraar deendaari hai	62
Baab:11	Farmaan-e-Nabwi: "Allah ke muta'alliq main tum sab se ziyaadah jaanne waala hoon."	62
Baab:12	Ahle Eemaan ka a'maal ke lehaaz se ek doosre se afzal hona	63
Baab:13	Haya juzwe eemaan hai	63
Baab:14	Farmaan-e-elaahi: "Phir agar woh tauba karen, namaaz padhen aur zakaat den to un ka raasta chhod do" ki tafseer	64
Baab:15	Uss shakhs ki daleel jo kahta hai: "Eemaan amal hi ka naam hai"	64
Baab:16	Kabhi Islam se uske haqeeqi (Shara'yee) ma'na muraad nahin hote	64
Baab:17	Khaawind ki na shukri bhi kufr hai lekin kufr, kufr mein farq hota hai	65
Baab:18	Gunaah jaahiliyyat ke kaam hain aur unka murtakib	66
Baab:19	Aur agar Ahl-e-Eemaan mein se do giroh aapas mein jhagad paden to unke darmiyaan sulah karaao	66
Baab:20	Ek Zulm doosre Zulm se kamtar hota hai	67
Baab:21	Munaafiq ki nishaaniyaan	67
Baab:22	Shab-e-Qadr ka qiyaam juzwe eemaan hai	68
Baab:23	Jehaad eemaan ka hissa hai	68
Baab:24	Ramzaan mein taraaweeh padhna (bhi) eemaan se hai	68
Baab:25	Sawaab ki niyyat se ramzaan ke roze rakhna eemaan ka hissa hai	69
Baab:26	Deen Aasaan hai	69
Baab:27	Namaaz bhi eemaan ka juzw hai	69
Baab:28	Aadmi ke islam ki khoobi	70

Baab:29	Allah Ta'ala ko woh amal bahut pasand hai jo hameesha kiya jaaye	70
Baab:30	Eemaan ki kami wa beshi	71
Baab:31	Zakaat dena islam se hai	72
Baab:32	Janazah ke hamraah jaana eemaan ka hissa hai	73
Baab:33	Momin ko darna chaahiye ke mubaadan uske a'maal be khabri mein zaa'ye ho jaaen.	73
Baab:34	Hazrat Jibrayeel ﷺ ka Rasoolullah ﷺ se eemaan, islam aur ehsaan ke muta'alliq daryaaft karna	74
Baab:35	Apne deen ki khaatir gunaahon se alag ho jaane waale ki fazeelat	75
Baab:36	Khumus ka adaa karna juzw-e-eemaan hai	76
Baab:37	(Sawaab ke) tamaam kaam niyyat par mauqoof hone ka bayaan	77
Baab:38	Rasoolullah ﷺ ka yeh farmaan ke "Deen khair khaahi ka naam hai"	77
	Ilm ka bayaan	78
Baab:1	Ilm ki fazeelat	78
Baab:2	Ilmi baaten ba aawaaz buland kahna	78
Baab:3	M'aloomat aazmaane keliye ustaad ka shaagirdon ke saamne koyi masalah pesh karna.	79
Baab:4	Shagird ka ustaad ke saamne padhna aur pesh karna	79
Baab:5	Irshaad-e-Nabwi: "Basaa awqaat woh shakhs jis hadees pahunchaayi jaae (baraahe raast mujh se) sunne wale se ziyadah yaad rakhne waala hota hai.	81
Baab:6	Rasoolullah ﷺ ka ilm aur wa'z ke liye khayaal rakhna (ria'ayat karna) taake loge ghabra na jaaen.	82
Baab:7	Allah jis ke saath bhalaayi chahta hai use faham deen ataa farmaata hai.	83
Baab:8	Ilm men faham wa baseerat ka bayaan.	83
Baab:9	Ilm wa hikmat men rashk karna	83
Baab:10	(Hazrat ibne Abbas keliye) Nabi ﷺ ki du'aa! use qura'n ka ilm de.	84
Baab:11	Ladke ka kis umr men simaa'-e- hadees durst hai?	84
Baab:12	Ilm padhne aur padhane waale ki fazeelat.	84
Baab:13	Duniya se ilm uthh jaana aur jehaalat ka a'am ho jaana.	85
Baab:14	Ilm ki faravaani	86
Baab:15	Sawaari waghairah par sawaar rah kar fatwa dena.	86
Baab:16	Jis ne haath ya sar ke ishaarah se sawaal ka jawaab diya.	86
Baab:17	Dar pesh masalah keliye safar karna aur apne ahal ke ta'leem dena	88
Baab:18	Husool-e-ilm keliye baari moqarrar karna.	88
Baab:19	Wa'z ya t'aleem ke waqt kisi naa pasandeedah baat par izhaar- e-naaraazi karna.	89
Baab:20	Khoob samjhane keliye ek baat ko teen martabah dohraana.	91
Baab:21	Apni laundi aur Ahl-e-khana ko ta'leem dena.	91
Baab:22	Imaam ka Auraton ko naseehat karna.	91
Baab:23	Hadees-e-Nabwi ﷺ ke husool keliye hirs karna.	92
Baab:24	Ilm kis tarah uthha liya jaayega?	92
Baab:25	Kiya Auraton ki ta'leem keliye alag din muqarrar kiya jaa sakta hai?	92
Baab:26	Ek baat sunne ke ba'd samajhne ke liye dobarah poochhna	93
Baab:27	Chaahiye ke haazir ghaayib ko ilm pahunchaa de.	93
Baab:28	Rasoolullah ﷺ par jhoot bolne ka gunah	94

Baab:29	<i>Ilm ki baaten</i>	95
Baab:30	<i>Raat ko ilme wa naseehat ki baaten karna</i>	96
Baab:31	<i>Raat ko ilm ki baaten karna.</i>	96
Baab:32	<i>Ilm ko yaad rakhna.</i>	97
Baab:33	<i>Ahl-e-ilm ki baat sunne keliye khamoosh rahne ka bayaan.</i>	98
Baab:34	<i>Jab Aalim se poochha jaae ke logon men kaun ziyadah jaanne waala hai to use kiya kahna chaahiye?</i>	98
Baab:35	<i>Jo Aalim baithha ho us se khade khade sawaal karna.</i>	101
Baab:36	<i>Irshaad-e-ilaahi (ki tafseer): "Tumhen thoda saa hi ilm diya gaya hai.</i>	102
Baab:37	<i>Andesha naa fahmi ki wajah se ek qaum ko chod kar dosron ko ta'leem dena</i>	102
Baab :38	<i>Ilm poochhne men sharm karna</i>	103
Baab:39	<i>Sharm ki bana par doosron ke zariye masala poochna.</i>	103
Baab :40	<i>Masjid mein ilm ki baaten karna aur fatwa dena</i>	104
Baab :41	<i>Sawaal se ziyadah jawaab dene ka bayaan.</i>	104
	Wazoo ka bayaan	105
Baab :1	<i>Wazoo ke baghair namaaz qubool nahin hoti.</i>	105
Baab :2	<i>Wazoo ki fazeelat</i>	105
Baab :3	<i>Shak se wazoo na kare taa waqt yake (Hadas ka) yaqeen na ho jaae.</i>	105
Baab:4	<i>Halka wazoo karna</i>	106
Baab: 5	<i>Mukammal wazoo karna</i>	106
Baab :6	<i>Chullu bhar kar donon haathon se munh dhona.</i>	107
Baab:7	<i>Baitul Khala jaane ki du'aa</i>	107
Baab: 8	<i>Baitul Khala ke paas paani rakhna</i>	107
Baab: 9	<i>Qazaa-e-haajat ke waqt qiblah rukh na baithhna.</i>	108
Baab: 10	<i>Eeinton par baithh kar qazaaye haajat karna.</i>	108
Baab: 11	<i>Auraton ka qazaaye haajat keliye baahar jaana</i>	109
Baab: 12	<i>Paani se istinja karna</i>	109
Baab: 13	<i>Istinja ke liye paani ke saath barchhi le jaana.</i>	109
Baab: 14	<i>Daayein haath se istinja karne ki mumaani'at</i>	109
Baab: 15	<i>Dhelon se istinja karna</i>	110
Baab: 16	<i>Gobar se istinja na karna</i>	110
Baab: 17	<i>Wazoo mein a'aza ko ek ek baar dhona.</i>	111
Baab: 18	<i>Wazoo mein a'aza ko do do baar dhona</i>	111
Baab: 19	<i>Wazoo mein a'aza ko teen teen baar dhona</i>	111
Baab: 20	<i>Wazoo mein naak saaf karna</i>	112
Baab: 21	<i>Istinja mein taaq dhele lena</i>	112
Baab: 22	<i>Jooton par masah karne ki bajaaye donon paaun ko dhona</i>	112
Baab: 23	<i>Wazoo aur ghusl mein daayen jaanib se shuru karna</i>	113
Baab: 24	<i>Jab namaaz ka waqt aa jaae to paani talaash karna.</i>	113
Baab: 25	<i>Jis paani se aadmi ke baal dhoye jayen (uska paak hona)</i>	114
Baab: 26	<i>Jab kutta bartan mein (munh daal kar) pee le (to use saat martabah dhona)</i>	114
Baab: 27	<i>Jo hadas makhrajain (qubul ya dubur) se nikle uska naaqiz-e -wazoo hona</i>	115

Baab: 28	<i>Doosre ko wazoo karaana</i>	116
Baab: 29	<i>Baghiar wazoo Qur'an padhna</i>	116
Baab: 30	<i>Tamaam sar ka masah karna</i>	117
Baab: 31	<i>Logon ke wazoo se baaqi maandah paani ko istemaal karna.</i>	117
Baab: 32	<i>Mard ka apni biwvi ke saath wazoo karna.</i>	118
Baab: 33	<i>Rasoolullah ﷺ ka apne wazoo se baaqi maandah paani be hosh par chhidakna.</i>	119
Baab: 34	<i>Tab (تَبُّ) yaa lagan se ghusl aur wazoo karna</i>	119
Baab: 35	<i>Ek mudd se wazoo karna.</i>	120
Baab: 36	<i>Moozon par masah karna.</i>	121
Baab: 37	<i>Moozon ko baa wazoo pahanne ka bayaan</i>	121
Baab: 38	<i>Bakri ke gosht aur sattu khaane ke b'ad wazoo na karna.</i>	122
Baab: 39	<i>Sattu khaane ke b'ad sirf kulli karna aur wazoo na karna</i>	122
Baab: 40	<i>Doodh peene ke b'ad kulli karna</i>	123
Baab: 41	<i>Neend se wazoo karna neez ek ya dobaar ounghne ya jhonka lene se wazoo zaroori nahin</i>	123
Baab: 42	<i>Hadas ke baghair wazoo karne ka bayaan.</i>	123
Baab: 43	<i>Apne peshaab se ehtiyaat na karna kabeerah gunah hai.</i>	124
Baab: 44	<i>Peshaab ko dhona.</i>	124
Baab: 45	<i>Rasoolullah ﷺ aur Sahaaba kiraamؓ ne dehaati ko kuchh na kaha yahaan tak ke woh Masjid mein peshaab se faarigh ho gaya.</i>	124
Baab: 46	<i>Bachchon ka peshaab</i>	125
Baab: 47	<i>Khade ho kar peshaab karna</i>	125
Baab: 48	<i>Diwaar ki vot mein aur apne saathi ke nazdeek hi peshaab karna</i>	125
Baab: 49	<i>Khoon ka dhona:</i>	126
Baab: 50	<i>Mani ka dhona aur use khurach daalna.</i>	126
Baab: 51	<i>Ount Bakriyon aur digar chaupaaiyon ke peshaab neez Bakriyon ke baade ka hukm</i>	127
Baab: 52	<i>Ghee aur paani mein najaasaton ka pad jaana</i>	127
Baab: 53	<i>Khade paani mein peshaab karna.</i>	128
Baab: 54	<i>Jab namaazi ki pusht par gandagi ya murdaar daal diya jaaye to uski namaaz kharaab nahin hogi.</i>	128
Baab: 55	<i>Kapde mein thookna aur naak waghairah saaf karna.</i>	129
Baab: 56	<i>Aurat ka apne baap ke chehre se khoon dhona</i>	130
Baab: 57	<i>Miswaak karna</i>	130
Baab: 58	<i>Bade shakhs ko pahle miswaak dena</i>	130
Baab: 59	<i>Baa wazoo sone ki fazeelat</i>	131
	Ghusl (nahaane) ka bayaan	132
Baab: 1	<i>Ghusl se pahle wazoo karna</i>	132
Baab: 2	<i>Mard ka Apni biwi ke saath ghusl karna</i>	132
Baab: 3	<i>Ek saa' ya uske qareeb (paani) se ghusl karna</i>	133
Baab: 4	<i>Sar par teen baar paani bahaane ka bayaan</i>	133
Baab: 5	<i>Nahaate waqt helaab (dahi waghairah ka iste'maal) ya khushbu se ibteda karna</i>	133

Baab: 6	<i>Humbisrtar hone ke b'ad dobaarah biwi ke paas jaana</i>	134
Baab: 7	<i>Khusbu lagaa kar nahana</i>	134
Baab: 8	<i>Dauraan-e-ghusl baalon mein khilaal karna</i>	135
Baab: 9	<i>Masjid mein aane ke b'ad janaabat ka ilm ho to fauran nikal jaaye aur tayammum na kare.</i>	135
Baab: 10	<i>Ghoshah tanhaayi mein nange nahana.</i>	135
Baab: 11	<i>Logon ke saamne nahaate waqt pardah karna.</i>	136
Baab: 12	<i>Junbi ka paseena aur Musalmaan ka naapaak na hona.</i>	137
Baab: 13	<i>Janaabat ke b'ad sirf wazoo karke sona.</i>	137
Baab: 14	<i>Jab (Biwi khaawind ke) khitaan mil jaayen (to ghusl zaroori hona)</i>	137
	Haiz ka bayaan	138
Baab: 1	<i>Haayizah ko (dauraan-e-hajj) kiya karna chaahiye</i>	138
Baab: 2	<i>Haayizah aurat ka apne shauhar ke sar ko dhona aur us mein kanghi karna</i>	138
Baab: 3	<i>Mard ka apni haayizah biwi ki god mein takyah laga kar qur'an padhna</i>	138
Baab: 4	<i>Haiz ko nefaas kahna</i>	139
Baab: 5	<i>Haayizah aurat ke saath letna</i>	139
Baab: 6	<i>Haazah ka rozah chodhna</i>	140
Baab: 7	<i>Mustahaaza ka e'takaaf baithhna</i>	140
Baab: 8	<i>Ghusl-e-haiz se faraghat ke b'ad aurat ka khushbu lagana</i>	141
Baab: 9	<i>Ghusl-e-haiz ke waqt badan malne ka bayaan</i>	141
Baab: 10	<i>Ghusl-e-haiz ke waqt baalon mein kanghi karna</i>	142
Baab: 11	<i>Ghusl-e-haiz ke waqt aurat ka apne baal kholna</i>	142
Baab: 12	<i>Haayizah ka namaaz ki qaza na dena</i>	143
Baab: 13	<i>Haiz ke kapde pahanne ke bawajood haayizah aurat ke saath letna</i>	143
Baab: 14	<i>Haayizah aurat ka eidain mein shamuliyat karna</i>	143
Baab: 15	<i>Ayyaame haiz ke elaawah khakistari aur zard rang dekhna</i>	144
Baab: 16	<i>Tawaaf-e-efaaazh ke b'ad haiz ka aana</i>	144
Baab: 17	<i>Nefaas waali aurat ka janaazah padhna aur uska tareeqah</i>	144
Baab: 18		144
	Tayammum Ka Bayaan	145
Baab: 1	<i>Tayammum ki aayaat فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ka shaane nuzool</i>	145
Baab: 2	<i>Paani na mile aur namaaz ke qaza hone ka andesha ho to hazar mein tayammum karna</i>	146
Baab: 3	<i>Tayammum karne waale ka haathon par phoonk maarna</i>	146
Baab: 4	<i>Paak mitti Musalmaan ka wazoo hai aur use paani ke badle kaafi hai.</i>	147
	Namaaz Ka Bayaan	150
Baab: 1	<i>Shab-e-Me'raaj mein namaaz kis tarah farz ki gayi?</i>	150
Baab: 2	<i>Namaaz ke liye libaas ki farziyat</i>	153
Baab: 3	<i>Ek hi kapde ko lapet kar uss mein namaaz padhna</i>	153
Baab: 4	<i>Jab koyi ek hi kapde mein namaaz padhe to apne kandhon par kuchh (kapda) daal le</i>	154
Baab: 5	<i>Jab kapda tang ho (to uss mein kaise namaaz padhe?)</i>	154
Baab: 6	<i>Shaami jubbah mein namaaz padhna</i>	155
Baab: 7	<i>Namaaz mein barhanah hone ki mumaani'at</i>	156

Baab: 8	<i>Jism mein qaabil-e-satar hisse</i>	156
Baab: 9	<i>Raan ke baare mein kiya aaya hai?</i>	157
Baab: 10	<i>Aurat kitne kapdon mein namaaz padhe?</i>	159
Baab: 11	<i>Jab koyi monaqqash kapde mein namaaz padhe.</i>	159
Baab: 12	<i>Agar slaeeb ya tasweer bane kapde mein namaaz padhe to kiya faasid ho jaayegi?</i>	159
Baab: 13	<i>Reshmi kot mein namaaz padhna aur phir use utaar dena</i>	160
Baab: 14	<i>Surkh kapde mein namaaz padhna</i>	160
Baab: 15	<i>Chhat mimbar aur lakdi par namaaz padhna</i>	161
Baab: 16	<i>Chataayi par namaaz padhne ka bayaan</i>	161
Baab: 17	<i>Bistar par namaaz padhna</i>	162
Baab: 18	<i>Sahkt garmi mein kapde par sajdah karna</i>	162
Baab: 19	<i>Jooton samet namaaz padhna</i>	163
Baab: 20	<i>Mooze pahan kar namaaz padhna</i>	163
Baab: 21	<i>Dauraan-e-Sajdah Donon baazu kushaadah aur pahlu se door rakhna</i>	163
Baab: 22	<i>(Namaaz mein) Qiblah ru khade hone ki fazeelat</i>	164
Baab: 23	<i>Farmaan-e-ilaahi: "Maqaam- e-Ibraheem ko jaaye namaaz banaao"</i>	164
Baab: 24	<i>Aadmi jahaan kaheen ho (namaaz ke liye) qiblah ki taraf rukh kare.</i>	164
Baab: 25	<i>Qiblah ke muta'alliq kiya aaya hai? aur jis shakhs ne ghair qiblah ki taraf sahwana namaaz padhli uske liye namaaz ka e'aadah zaroori nahin</i>	166
Baab: 26	<i>Thook ko bazariya' haath Masjid se saaf karna.</i>	166
Baab: 27	<i>Namaazi apni daayen jaanib na thooke</i>	167
Baab: 28	<i>Masjid mein thookne ka (kiya) kaffarah (hai)</i>	167
Baab: 29	<i>Imam ka logon ko naseehat karna ke namaaz ko (achchhi tarah) poora karen aur qible ka tazkirah</i>	168
Baab: 30	<i>Masjid bani fulaan kaha jaa sakta hai.</i>	168
Baab: 31	<i>Masjids mein maal taqseem karna aur khosha-e-khujoor latkaana.</i>	168
Baab: 32	<i>Gharon mein Masaajid banaana</i>	169
Baab: 33	<i>Zamaanah Jaahiliyat mein bani huyi mushrikon ki qabron ko ukhaad kar unki jagah Masaajid ko banaaya jaa sakta hai</i>	170
Baab: 34	<i>Ounton ki jagah par namaaz padhna</i>	172
Baab: 35	<i>Agar koyi namaaz padhe aur uske saamne tannoor ya aag ya koyi aisi cheez ho jis ki ebaadat ki jaati hai lekin namaaz ki niyyat Allah ki raza joy'i ho (to uski namaaz durust hai)</i>	172
Baab: 36	<i>Qabrstaan mein namaaz padhne ki hurmat</i>	173
Baab: 37		173
Baab: 38	<i>Masjid mein Aurat ka sona</i>	173
Baab: 39	<i>Masjid mein mardon ka sona</i>	174
Baab: 40	<i>Jab koyi Masjid mein aaye to chaahiye ke do rak'at namaaz padhe</i>	175
Baab: 41	<i>Masjid ta'meer karna</i>	175
Baab: 42	<i>Masjid banaane mein ta'awun karna</i>	176
Baab: 43	<i>Jo shakhs Masjid banaaye (uski fazeelat ka bayaan)</i>	176
Baab: 44	<i>Masjid se guzre to teer ka phal (nok) pakadle</i>	176
Baab: 45	<i>Masjid se guzarna</i>	177
Baab: 46	<i>Masjid mein sh'er padhna</i>	177

Baab: 47	<i>Barchhe waalon ka Masjid mein daakhil hona</i>	177
Baab: 48	<i>Masjid mein qarz daar se qarz ka taqaaza karna aur uske peechhe padna.</i>	177
Baab: 49	<i>Masjid se chethde, kooda karkat aur lakdiyaan uthhana aur uski safaayi karna</i>	178
Baab: 50	<i>Masjid mein sharaab ki tijaarat ko haraam kahna</i>	178
Baab: 51	<i>Qaidi ya qarzdaar ko Masjid mein baandhna</i>	179
Baab: 52	<i>Masjid mein bimaaron aur doosron ke liye kheema lagaana</i>	179
Baab: 53	<i>Zaroorat ke waqt ount ko Masjid men laana.</i>	180
Baab: 54		180
Baab: 55	<i>Masjid mein khidki aur guzar gaah rakhna.</i>	180
Baab: 56	<i>K'aba aur digar Masaajid keliye darwaaze chatkhani aur taala lagaana.</i>	181
Baab: 57	<i>Masjid mein Halqe banaana aur baithhna.</i>	182
Baab: 58	<i>Masjid mein chit letna</i>	182
Baab: 59	<i>Baazaar ki Masjid mein namaaz padhna</i>	183
Baab: 60	<i>Masjid waghairah mein (haathon ki) Ungliyon ko ek doosri mein daakhil karna.</i>	183
Baab: 61	<i>Madina ke raasta mein waqe' Masaajid aur woh maqamaat jahaan Rasoolullah ﷺ ne namaaz padhi.</i>	184
Baab: 62	<i>Imam ka sutrah muqtadiyon ke liye bhi hai.</i>	188
Baab: 63	<i>Namaazi aur sutrah mein faaslah ki miqdaar</i>	189
Baab: 64	<i>Nezah ki taraf namaaz padhna.</i>	189
Baab: 65	<i>Sutoon ki aad mein namaaz padhna.</i>	190
Baab: 66	<i>Akele Namaazi ka do Sutoonon ke darmiyaan namaaz padhna.</i>	190
Baab: 67	<i>Sawaari ount, darakht aur paalaan ki taraf namaaz padhna</i>	190
Baab: 68	<i>Chaarpaayi ki taraf (munh karke) namaaz padhna</i>	191
Baab: 69	<i>Namaazi apne saamne se guzarne waale ko rokega</i>	191
Baab: 70	<i>Namaazi ke aage se guzarne par way'eed</i>	192
Baab: 71	<i>Soye ke peechhe namaaz padhna</i>	192
Baab: 72	<i>Dauraan-e-namaaz chhoti bachchi ko gardan par uthha lena</i>	193
Baab: 73	<i>Aurat ka namaazi ke badan se gandagi utaar phenkna</i>	193
	Namaazon ke auqaat ka bayaan	194
Baab:1	<i>Namaaz ke auqaat aur unki fazeelat.</i>	194
Baab:2	<i>Namaaz gunaahon ke liye kaffarah hai</i>	194
Baab:3	<i>Namaaz bar waqt padhne ki fazeelat.</i>	196
Baab:4	<i>Paanchon Namaazein (Gunaahon ka) kaffarah hain</i>	196
Baab:5	<i>Namaazi apne rab se munajaat karta hai.</i>	197
Baab:6	<i>Sakht garmi ki benaa par namaaz-e-zohar thhande waqt adaa karna.</i>	197
Baab:7	<i>Zohar ka waqt zawaal-e- oofaab par hai.</i>	198
Baab:8	<i>Namaaz-e-Zohar ko waqt-e-Asr tak moakhkhar karna.</i>	199
Baab:9	<i>Asr ka waqt</i>	199
Baab:10	<i>(Uss Shakhs ka gunaah jis se namaaz-e-Asr jaati rahe.</i>	200
Baab:11	<i>Jis ne Namaaz-e-Asr (daanista) chhod di.</i>	200
Baab:12	<i>Namaaz-e-Asr ki Fazeelat</i>	200
Baab:13	<i>Jis shakhs ne ghuroob se pahle Asr ki ek raka't paali</i>	201
Baab:14	<i>Maghrib ka waqt</i>	202

Baab:15	Maghrib ko Isha kahne ki karaahat.	203
Baab:16	Namaaz-e-Isha ki fazeelat	203
Baab:17	Agar neend ka ghalbah ho to Isha se pahle so jaana	204
Baab:18	Isha ka waqt aadhi raat tak hai	205
Baab:19	Namaaz-e-Fajr ki Fazeelat	205
Baab:20	Namaaz-e-Fajr ka waqt	206
Baab:21	Namaaz-e-Fajr ke ba'd Aaftaab ke buland hone tak namaaz (ka hukm)	206
Baab:22	(Namaaz-e-Asr ke) ba'd ghuroob-aaftaab se pahle namaaz ka qasd na kare	207
Baab:23	Asr ke ba'd Namaaz-e-Qaza aur iss tarah ki (sababi) namaaz padhna	208
Baab:24	Waqt guzar jaane ke ba'd (qaza namaaz ke liye) azaan dena	208
Baab:25	Waqt guzar jaane ke ba'd qaza namaaz ba jamaa'at adaa karna	209
Baab:26	Jo shakhs kisi namaaz ko bhool jaaye to jis waqt yaad aaye padh le	209
Baab:27		210
Baab:28		210
	Azaan ke bayaan mein	213
Baab:1	Azaan ki ibtedaa	213
Baab:2	Azaan mein dohre kalimaat kahna	213
Baab:3	Azaan kahne ki Fazeelat	213
Baab:4	Ba aawaaz buland azaan kahna	214
Baab:5	Azaan sun kar qitaal wa khoon rezi se ruk jaana	214
Baab:6	Azaan sun kar kiya kahna chaahiye	214
Baab:7	Azaan ke waqt du'a padhna	215
Baab:8	Azaan kahne keliye Qura' Andaazi karna	215
Baab:9	Andhe ko agar koyi waqt bataane waala ho to uska azaan kahna	216
Baab:10	Tulu'-e-Fajr ke b'ad azaan dena	216
Baab:11	Subh-e-Saadiq se pahle azaan kahna	216
Baab:12	Azaan aur Takbeer ke darmiyaan apni marzi se (nafil) namaaz padhna	217
Baab:13	Safar mein chaahiye ke ek hi muazzin azaan de	217
Baab:14	Musafir agar ziyaadah hon to azaan aur eqaamat kahni chaahiye	218
Baab:15	Aadmi ka yeh kah dena ke hamaari namaaz faut hogayi	218
Baab:16	Eqaamat ke waqt log imam ko dekh kar kab khade hon?	218
Baab:17	Takbeer ke b'ad Imam ko agar koyi zaroorat pesh aajaaye	219
Baab:18	Namaaz ba Jamaa'at ka farz hona	219
Baab:19	Namaaz bajamaa'at ki Fazeelat	219
Baab:20	Fajr ki namaaz ba jamaa'at padhne ki Fazeelat	220
Baab:21	Namaaze Zohar awwal waqt padhne ki fazeelat	220
Baab:22	Masjid jaate waqt har qadam par sawaab ki niyyat karna	221
Baab:23	Namaaze Isha ba jamaa'at adaa karne ki fazeelat	221
Baab:24	Masaajid aur un mein namaaz ke intezaar mein baithhne ki fazeelat	221
Baab:25	Subh ya shaam Masjid mein jaane waale ki fazeelat	222
Baab:26	Namaaz ki eqaamat ke b'ad farz namaaz ke elaawah koyi namaaz nahin padhna chaahiye	222
Baab:27	Mareez ko kis had tak jamaa'at mein aana chaahiye	223

Baab:28	<i>Kiya Imam jiss qadar log maujood hon unhein namaaz padhaade? kiya jum'a ke din baarish mein khutbah padhe</i>	224
Baab:29	<i>Dauraan-e-Eqaamat agar khana aajaaye to kiya karna chaahiye.</i>	225
Baab:30	<i>Jamaa'at khadi ho jaaye to gharelu masroofiyaat tark karké namaaz mein shareek hona chaahiye</i>	225
Baab:31	<i>Masnoon Tareeqa sikhaane keliye logon ke saamne namaaz padhna</i>	225
Baab:32	<i>Saahib-e-Ilm-wo-Fazl Imam ka ziyaadah haq daar hai</i>	226
Baab:33	<i>Ek shakhs ne imaamat shuru kardi itne mein imaam awwal aa jaaye (to kiya karna chaahiye)</i>	227
Baab:34	<i>Imam isliye banaaya jaata hai ke uski iqtedaa ki jaaye</i>	228
Baab:35	<i>Imam ke peechhe muqtadi kab sajdah karega?</i>	229
Baab:36	<i>Imam se pahle sar.Uthhaane waale ka gunaah</i>	230
Baab:37	<i>Ghulaam, Azaad kardah aur naa baaligh bachche ki imaamat</i>	230
Baab:38	<i>Jab Imaam apni namaaz ko poora na kare aur muqtadi poora karen</i>	230
Baab:39	<i>Jab sirf do hi namaazi hon to muqtadi imaam ke daayein jaanib uske baraabar khada ho</i>	230
Baab:40	<i>Jab imaam (namaaz ko) tool de aur koyi zaroorat mand (namaaz tod kar) akela namaaz padhle (to jaayiz hai)</i>	231
Baab:41	<i>Imaam ko qiyaam mein takhfeef aur ruku' wa sujood mein e'tedaal karna chaahiye</i>	231
Baab:42	<i>Ekhtisaar ke baawajood namaaz ko mukammal karna</i>	232
Baab:43	<i>Jo shakhs bachche ke rone ki wajah se namaaz mukhatasar karde</i>	232
Baab:44	<i>Eqaamat ke waqt safon ko baraabar karna</i>	233
Baab:45	<i>Safein baraabar karte waqt imaam ka logon ki taraf mutawajjah hona</i>	233
Baab:46	<i>Jab imaam aur muqtadiyon ke darmiyaan koyi pardah ya diwaar haayel ho (to koyi harjj nahin)</i>	233
Baab:47	<i>namaaz e tahajjud (raat ki namaaz)</i>	234
Baab:48	<i>Takbeer-e-Tahreema mein aaghaaz namaaz ke saath hi donon haathon ko buland karna</i>	234
Baab:49	<i>Namaaz mein daayan haath baayen par rakhna</i>	235
Baab:50	<i>Namaazi takbeer-e- Tahreema ke ba'd kiya padhe</i>	235
Baab:51		236
Baab:52	<i>Namaaz mein imaam ki taraf dekhna</i>	237
Baab:53	<i>Namaaz mein aasmaan ki taraf dekhna</i>	237
Baab:54	<i>Namaaz mein idhar udhar dekhna kaisa hai?</i>	237
Baab:55	<i>Imam aur muqtadi ke liye tamaam namaazon mein qura'n padhna waajib hai</i>	238
Baab:56	<i>Namaaz-e-Zohar mein qira'at</i>	240
Baab:57	<i>Namaaz-e-Maghrib mein qira'at</i>	241
Baab:58	<i>Namaaz-e-Maghrib ba aawaaz-e- buland qira'at karna</i>	241
Baab:59	<i>Namaaz-e-Isha mein sajdah waali soorat padhna</i>	241
Baab:60	<i>Namaaz-e-Isha mein qira'at</i>	242
Baab:61	<i>Subah ki namaaz mein qira'at</i>	242
Baab:62	<i>Subah ki Namaaz mein ba aawaaz buland qira'at karna.</i>	242
Baab:63	<i>Do suraten ek rak'at mein padhna, soorat ki aakhri aayat padhna, tarteeb ke khilaaf padhna neez soorat ki ibtedaayi aayaat telaawat karna</i>	244

Baab:64	Aakhri do raka'ton mein sirf surah faatiha padhna	244
Baab:65	Imaam ka ba aawaaz buland aameen kahna	244
Baab:66	Aameen kahne ki fazeelat	245
Baab:67	Shumooliyat saff se pahle ruku' karna	245
Baab:68	Ruku' mein poore taur par takbeer kahna	245
Baab:69	Jab sajdah karke khade ho to takbeer kahna	246
Baab:70	Bahaalat-e-Ruku' haath ghutnon par rakhna	246
Baab:71	Ruku' mein pusht ka baraabar rakhna aur uss mein e'tedaal wa itmenaana karna	246
Baab:72	Ruku' mein Du'a karna	247
Baab:73	﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ﴾ ki fazeelat	247
Baab:74		247
Baab:75	Ruku' se sar uthhane ke ba'd itmenaana se seedha khada hona	248
Baab:76	Sajdah ke liye Allahu Akbar kahta huwa jhuke	249
Baab:77	Sajde ki fazeelat	249
Baab:78	Saat haddiyon par sajdah karna	252
Baab:79	Donon sajdon ke darmiyaan thhaharna	253
Baab:80	Dauraan-e-Sajdah apne baazoo zameen par na bichhaaye	253
Baab:81	Taaq rak'at ke ba'd thoodi der baithh kar phir khada hona	253
Baab:82	Do rakaton se Uthhte Waqt takbeer kahna	254
Baab:83	Tashahhud mein baithhne ka tareeqa	254
Baab:84	Jo pahle tashahhud ko waajib nahin kahta.	255
Baab:85	Doosre qa'dah mein tashahhud padhne ka bayaan	255
Baab:86	Salaam se pahle du'a ka bayaan	256
Baab:87	Tashahhud ke ba'd pasandeedah du'a karna	257
Baab:88	Salaam pherna	257
Baab:89	Imam ke salaam ke saath hi muqtadi bhi salaam pherde	257
Baab:90	Namaaz ke bad Zikr-e-Ilaahi karna	258
Baab:91	Imam ko chaahiye ke salaam pherne ke ba'd logon ki taraf munh karke baithhe	259
Baab:92	Jo shakhs namaaz padha kar apni koyi zaroorat yaad kare aur logon ko phlaangta huwa nikal jaaye.	260
Baab:93	Namaaz padh kar daayen ya baayen taraf se phirna	260
Baab:94	Kachche lahsan piyaaz aur gandne ke baare mein kiya aaya hai	261
Baab:95	Kam sin bachchon ka wazoo	261
Baab:96	Raat aur andhere mein mastoorat ka Masjid ki taraf jaana	262
	Juma' ke bayaan mein	263
Baab:1	Farziyat-e-jum'a ka bayaan	263
Baab:2	Jum'a ke din khushboo lagaana	263
Baab:3	Jum'a ki fazeelat ka bayaan	263
Baab:4	Jum'a ke liye baalon ko tel lagaane ka bayaan	264
Baab:5	Jum'a ke din hasb-e-taufeeq behtareen libaas pahne	265
Baab:6	Jum'a ke din miswaak karna	265
Baab:7	Jum'a ke din subah ki namaaz mein imam kiya padhe?	266

Baab:8	Dehaaton aur shahron mein juma' padhna	266
Baab:9	Jise jum'a ke liye aana zaroori nahin kiya uss par ghusl jum'a waajib hai?	266
Baab:10	Kitni masaafat se jum'a ke liye aana chaahiye aur kis par jum'a waajib hai	267
Baab:11	Jab jum'a ke din garmi ziyadah ho?	268
Baab:12	Jum'a ke liye rawaangi ka bayaan	268
Baab:13	Apne bhaayi ko uthha kar khud uski jagah baithhne ki mumaaniyat	268
Baab:14	Jum'a ke din azaan	268
Baab:15	Jum'a ke din ek hi moazzin ho	269
Baab:16	Jum'a ke din (imaam bhi) mimbar par baithha azaan ka jawaab de	269
Baab:17	Khutbah mimbar par dena	270
Baab:18	khade ho kar khutba dena	270
Baab:19	Khutbah mein sana ke ba'd "amma ba'd" kahna	271
Baab:20	jab imam dauraan-e-khutbah kisi ko aata dekhe to do raka't padhne ka hukm de	272
Baab:21	Khutbah-e-jum'a ke dauraan baarish ke liye du'a karna	272
Baab:22	Jum'a ke din dauraan khutba khaamoosh rahna	273
Baab:23	Jum'a ki ek ghadi (jis mein du'a qubool hoti hai)	274
Baab:24	agar namaaz-e-jum'a mein kuchh log imam ko chhod kar chale jaayen (to baaqi muqtadiyon ki namaaz sahih hai)	274
Baab:25	Jum'a se pahle aur ba'd namaaz padhna	275
	Namaaze khauf ka bayaan	276
Baab:1	Bawaqt-e-jung namaaz padhana	276
Baab:2	Peyaadah aur sawaar ho kar namaaz-e-khauf adaa karna	276
Baab:3	ta'aaqub kunindah aur ta'aaqub shudah ka sawaari par ishaarah se namaaz padhna	277
	Eidain ka bayaan	278
Baab:1	Eid ke din bar chhiyon aur dhaalon se jehaadi mashq karna	278
Baab:2	Eidul fitr ke din (Namaaz ke liye) nikalne se pahle kuchh khana	278
Baab:3	Eidul Azha ke din khaane ka bayaan	278
Baab:4	Eid gaah mein mimbar ke baghair jaana	279
Baab:5	Eid ke liye paidal ya sawaar ho kar jaana aur khutbah se pahle namaaz adaa karna	280
Baab:6	Namaaze Eid ke ba'd khutba	281
Baab:7	Ayyaam-e-tashreeq mein ibaadat karne ki fazeelat	281
Baab:8	Ayyaam-e-mina aur maydaan- e-arfaat ko jaate takbeeren kahna	281
Baab:9	Qurbaani ke din Eid gaah mein ount ya koyi jaanwar zabah karna	282
Baab:10	Eid ke din waapsi par raastah badalna	282
	Witr ke bayaan mein	283
Baab:1	Witr ke muta'alliq jo waarid hai	283
Baab:2	Namaaz-e-Witr ke auqaat	283
Baab:3	Chaahiye ke apni aakhir namaaz witr ko banaaye	284
Baab:4	Sawaari par witr padhna	284

Baab:5	Ruku' se pahle aur ruku' ke ba'd qunoot ka bayaan	284
	Baarish Talab Karne ka bayaan	286
Baab:1	Istesqaa ka bayaan	286
Baab:2	Rasoolullah ﷺ ki bad du'a ke aisi qahat saali daal jaisi Hazrat Yusuf <small>عليه السلام</small> ke zamaana mein thi	286
Baab:3	Jaama Masjid mein baarish ke liye du'a karna	288
Baab:4	Khutbah Jum'a mein ghair qiblah rukh kiye baarish ki du'a karna	288
Baab:5	Rasoolullah ﷺ ne (istesqa' mein) logon ki taraf apni pusht kaise pheri?)	289
Baab:6	Imaam ka baarish ke liye haath uthaa kar du'a karna	289
Baab:7	bawaqte baarish kiya kahna chaahiye?	289
Baab:8	Jab aandhi chale to kiya karna chaahiye?	290
Baab:9	Irshaad-e-Nabwi ke baad-e- saba ke zari'ye meri madad ki gayi hai	290
Baab:10	Zalzalon aur alaamaate qiyamat ke baare mein jo aaya hai	290
Baab:11	Allah ke elaawah koyi nahin jaanta ke baarish kab hogi	291
	Girhan ke bayaan mein	292
Baab:1	Sooraj girhan ke waqt namaaz ka bayaan	292
Baab:2	Girhan ke waqt sadqa karna	293
Baab:3	Girhan mein Assalatu jaami'ah ke zari'y e'laan karna	294
Baab:4	Bawaqte girhan azaabe qabr se panaah maangna	294
Baab:5	Girhan ki namaaz ba jamaa'at adaa karna	294
Baab:6	Jisne ghirhan ke waqt ghulaam aazaad karna behtareen amal samjha	295
Baab:7	Sooraj girhan ke waqt zikr-e- elahi karna	295
Baab:8	Namaaze kusoof mein ba aawaaze buland qera'at karna	296
	Sajda-e-Telaawat aur Uska Tareeqa	297
Baab:1	Sujood-e-Qur'an aur unke tareeqe ke muta'alliq jo waarid hai.	297
Baab:2	Surah "Sa'd" ka sajdah	297
Baab:3	Musalmaanon ka Mushrikeen ke saath sajdah karna halaan ke Mushrik paleed aur be wazoo hota hai.	297
Baab:4	Jis ne Aayat-e-Sajdah padhi magar sajdah na kiya.	298
Baab:5	Surah ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ka sajdah	298
Baab:6	Jo Shakhs ba wajah hujoom sajdah-e-telaawat ke liye jagah na paaye	298
	Namaaz-e-Qasr ke Bayaan mein	299
Baab:1	Namaaz-e-Qasr aur Musaaafir kitni iqamat par qasr kar sakta hai	299
Baab:2	Maqaam-e-Mina mein Namaaz-e- (Qasr)	299
Baab:3	Ketni Masaafat par namaaz ko Qasr kiya jaaye	300
Baab:4	Namaaz-e-Maghrib Dauraan-e-Safar bhi teen rak'at padhe.	301
Baab:5	Gadhe (گدھے) par (sawaar hokar) namaaz-e-nafil padhna	301
Baab:6	Jo Dauraan-e-Safar namaaz ke ba'd nafil namaaz nahin padhna	302
Baab:7	Jo Safar mein namaaz se pahle ya ba'd ki sunnaton ke elaawah deegar nawaafil padhta hai.	302
Baab:8	Dauraan-e-Safar Maghrib wa Isha ko mila kar padhna	302
Baab:9	Jo Shakhs baithh kar namaaz padhne ki taqat na rakhta ho woh pahloo ke bal let kar namaaz padhe	303

Baab:10	<i>Jab koyi baithh kar namaaz shuru kare phir dauraan-e-namaaz achchha ho jaaye ya use takhfeef maloom ho to baaqi namaaz (khade ho kar) poori kare</i>	303
	Tahajjud ke bayaan mein	304
Baab:1	<i>Raat ke waqt namaaze tahajjud padhna</i>	304
Baab:2	<i>Namaaze shab ki fazeelat</i>	304
Baab:3	<i>Bimaar ke liye tahajjud chhod dene ka bayaan</i>	305
Baab:4	<i>Rasoolullah ﷺ ka namaaz-e- Shab aur deegar nawaafil ke liye bila wajoob targheeb dena</i>	305
Baab:5	<i>Rasoolullah ﷺ ka qiyaam iss qadar hota ke Aap ke paaun mutwaram ho jaate</i>	306
Baab:6	<i>Jo shakhs sehri ke waqt so raha</i>	307
Baab:7	<i>Tahajjud ki namaaz mein lamba Qiyaam karna</i>	307
Baab:8	<i>Rasoolullah ﷺ namaaz-e-shab kis tarah aur kis qadar padht the</i>	308
Baab:9	<i>Rasoolullah ﷺ ka raat ke waqt Qiyaam aur neend karna neez Qiyaam-e- Shab kis qadar mansookh huwa?</i>	308
Baab:10	<i>Shaytaan ka guddi par girah lagaana jab ke aadmi namaaz-e -shab na padhe</i>	309
Baab:11	<i>Jo Shakhs so rahe aur namaaz na padhe to shaytaan us ke kaan mein peshaab kardeta hai</i>	309
Baab:12	<i>Pichhli raat du'a aur namaaz ka bayaan</i>	310
Baab:13	<i>Jo Shakhs Shuru raat so jaaye aur aakhri shab bedaar ho</i>	310
Baab:14	<i>Rasoolullah ﷺ ka Ramzaan aur ghair Ramzaan mein raat ka qiyaam</i>	310
Baab:15	<i>Ibaadat mein sakhti uthhana ek naa pasandeedah amal hai</i>	311
Baab:16	<i>Ehtemaam-e-tahajjud ke bad use tark kardena makrooh hai.</i>	311
Baab:17	<i>Uss shakhs ki fazeelat jo raat uthhe aur namaaz padhe</i>	312
Baab:18	<i>Nafil namaaz do do raka'at karke padhne ka bayaan</i>	313
Baab:19	<i>Fajr ki do sunnaton par mudaawamat karna aur jisne unhein nafil ka naam diya</i>	314
Baab:20	<i>Fajr ki sunnaton mein kiya padha jaaye?</i>	314
Baab:21	<i>Ghar mein namaaze chaasht padhne ka bayaan</i>	314
Baab:22	<i>Zohar se pahle do sunnaton padhna</i>	315
Baab:23	<i>Namaaz-e-maghrib se pahle sunnat padhne ka bayaan</i>	315
	Makkah aur Madinah ki Masaajid mein namaaz padhna	316
Baab:1	<i>Makkah aue Madinah ki Masjid mein namaaz padhne ki fazeelat</i>	316
Baab:2	<i>Masjide Quba ka bayaan</i>	316
Baab:3	<i>(Masjide Nabawi mein) qabr aur mimbar ke darmiyaan maqaam ki fazeelat</i>	317
	Namaaz mein koyi kaam karne ka bayaan	318
Baab:1	<i>Namaaz mein kalaam ka mamnu' hona</i>	318
Baab:2	<i>Namaaz mein kankariyan hataana</i>	318
Baab:3	<i>Agar kisi ka bahaalate namaaz jaanwar bhaag jaaye (to kiya kare?)</i>	319
Baab:4	<i>Namaaz mein Salaam ka jawaab (zabaan se) nahin dena chaahiye</i>	319
Baab:5	<i>Namaaz mein kamar par haath rakhna man'a hai</i>	330

	Sajda-e-Sahw ke Bayaan mein	321
Baab:1	<i>Jab (bhool kar) paanch rak'at padh le</i>	321
Baab:2	<i>Jab Namaazi se koyi baat kare aur woh sun kar haath se ishaarah kar de</i>	321
	Janaazah ke Bayaan mein	323
Baab:1	<i>Jis Shakhs ki aakhri baat لا اله الا الله ho</i>	323
Baab:2	<i>Janaaze mein shareek hone ka hukm</i>	323
Baab:3	<i>Jab Murdah Kafan mein Lapet diya jaaye to us ke paas jaana</i>	324
Baab:4	<i>Jo Shakhs mayyat ke azeelon ko uske marne ki khabar khud de</i>	325
Baab:5	<i>Uss Shakhs ki Fazeelat jis ka koyi bachcha mar jaaye to woh sawaab ki ummeed se sabr kare</i>	326
Baab:6	<i>Mayyat ko taaq martabah ghusl dena pasandeedah hai.</i>	326
Baab:7	<i>Mayyat ke daayen atraaf se ghusl shuru kiya jaaye</i>	326
Baab:8	<i>Kafan ke liye safed kapdon ka hona</i>	327
Baab:9	<i>Do kapdon mein kafan dena</i>	327
Baab:10	<i>Mayyat ke liye kafan</i>	327
Baab:11	<i>Jab kafan sirf itna ho jo mayyat ke sar ya paaun ko chhupaaye to usse sar ko dhaanp diya jaaye.</i>	328
Baab:12	<i>Zamaana-e-Nabuwwat mein kisi qism ke e'teraaz wa inkaar ke baghair jis ne apna kafan tayyar kiya</i>	329
Baab:13	<i>Auraton ka Janaaze ke hamraah jaana (Mamnu' hai)</i>	330
Baab:14	<i>Aurat ka apne Shauhar ke elaawah kisi doosre par sog karna</i>	330
Baab:15	<i>Qabron ki ziyaarat karne ka bayaan</i>	330
Baab:16	<i>Irshaad-e-Nabawi ke mayyat ke aqaarib ke rone se mayyat ko a'zaab hota hai yeh uss waqt jab rona peetna uske khaandaan ka wateerah ho</i>	331
Baab:17	<i>Mayyat par noha karna makrooh hai</i>	333
Baab:18	<i>Jo shakhs (museebat ke waqt) apne rukhsaar ko peete woh hum se nahin</i>	333
Baab:19	<i>Sa'd Bin Khaulah ؓ par Rasoolullah ﷺ ka taras khaana</i>	333
Baab:20	<i>Museebat ke waqt sar mudwaana mana hai</i>	334
Baab:21	<i>Museebat ke waqt ghamgeen hona.</i>	335
Baab:22	<i>Jo Shakhs museebat ke waqt apne ranj wa gham ko zaahir na hone de</i>	335
Baab:23	<i>Irshaad-e-Nabawi ke (Aye Ibraheem) hum teri judaayi se ranjeedah hain</i>	336
Baab:24	<i>Mareez ke paas rona</i>	337
Baab:25	<i>Noha aur giriya zaari se mumaani'at aur isse daantna</i>	337
Baab:26	<i>Janaazah dekh kar khada hona</i>	338
Baab:27	<i>Janaaze ke liye khada ho to kab baithhe?</i>	338
Baab:28	<i>Yahoodi ke janaazah ke liye khada hona</i>	339
Baab:29	<i>Auraton ke siwa sirf mardon ko janaazah uthhaana chaahiye</i>	339
Baab:30	<i>Janaazah ko Jaldi le jaana</i>	339
Baab:31	<i>Janaaze ke saath jaane ki fazeelat</i>	340
Baab:32	<i>Qabron par Masjid banaana haraam hai</i>	340
Baab:33	<i>Zachgi ke dauraan marne waali aurat ki namaaz-e-janaazah padhna</i>	340
Baab:34	<i>Namaaz-e-Janaazah mein surah Faatiha padhna</i>	341
Baab:35	<i>Murdah jooton ki aawaaz ko (bhi) sunta hai</i>	341

Baab:36	<i>Arz-e-Muqaddas ya kisi aur mutabarrak maqaam mein dafan hone ki aarzo karna</i>	342
Baab:37	<i>Shaheed ki Namaaz-e-Janaazah</i>	342
Baab:38	<i>Jab koyi Musalmaan Bachcha faut hojaaye to kiya uski namaaz-e-janaazah padhna chaahiye? neez kiya bachche par islam pesh kiya jaaye?</i>	343
Baab:39	<i>Agar Mushrik marte waqt kalima-e-tauheed kah de to (kiya uss ki maghfirat ho sakti hai?)</i>	346
Baab:40	<i>Aalim ka qabr ke paas (baithh kar) naseehat karna jabke uske shaagird ird gird baithhe hon.</i>	346
Baab:41	<i>Khud kashi karne waale ke baare mein kiya aaya hai?</i>	347
Baab:42	<i>Logon ka mayyat ki ta'reef karna.</i>	348
Baab:43	<i>A'zaab-e-Qabr ka bayaan</i>	349
Baab:44	<i>A'zaab-e-Qabr se panaah maangna</i>	350
Baab:45	<i>Murde ko subah wa shaam uska thhekaana dikhaaya jaata hai</i>	350
Baab:46	<i>Musalmaanon ki nabaaligh aulaad ke muta'alliq jo kaha gaya hai</i>	351
Baab:47	<i>Mushrikon ke bachchon ke muta'alliq kiya kaha gaya hai?</i>	351
Baab		351
Baab:48	<i>Naa gahaani maut</i>	354
Baab:49	<i>Rasoolullah ﷺ, Hazrat Abu Bakr aur Hazrat Umar رضى الله عنهما ki qabron ka bayaan</i>	355
Baab:50	<i>Murdon ko bura bhala kahne ki mumaniy'at ka bayaan</i>	355
	Zakaat ke bayaan mein	356
Baab:1	<i>Farziyyat-e-Zakaat ka bayaan</i>	356
Baab:2	<i>Zakaat na dene waale ka gunaah</i>	358
Baab:3	<i>Jis maal ki zakaat adaa kardi jaaye woh kanz nahin hai</i>	359
Baab:4	<i>Sadqah Halaal kamaayi se hona chaahiye</i>	359
Baab:5	<i>Sadqah dena chaahiye qabl uss zamaana ke jab koyi sadqah na lega</i>	360
Baab:6	<i>Aag se bacho agarcheh khujoor ka tukda aur thoda sa sadqah hi kyun na ho</i>	361
Baab:7	<i>Kaunsa Sadqah Afzal hai?</i>	362
Baab:8		363
Baab:9	<i>Aagar naadaanistah taur par kisi maaldaar ko sadqah de diya jaaye?</i>	363
Baab:10	<i>Apne bete ko laa shu'oori taur par sadqah dena</i>	364
Baab:11	<i>Jo Shakhs khud apne haath se sadqah dene ki bajaaye apne kisi khidmat gaar ko uska hukm de</i>	365
Baab:12	<i>Sadqah wahi hai jis ke ba'd bhi aadmi ghani rahe</i>	365
Baab:13	<i>Sadqah ke liye targheeb dena aur uski baabat sefaarish karne ka bayaan</i>	366
Baab:14	<i>Apni Iste'taat ke mutaabiq sadqah dena</i>	366
Baab:15	<i>Jo shakhs bahaalate shirk sadqah kare phir musalmaan ho jaaye</i>	367
Baab:16	<i>Khidmat gaar ka sawaab jab woh bahukme aqa de basharte ke uski niyyat bigaad ki na ho</i>	367
Baab:17	<i>Irshaade baari Ta'ala: Jo shakhs sadqah de aur dar jaaye" aur yeh du'a ke Allah kharch karne waale ko ne'mul badal ataa kar"</i>	367
Baab:18	<i>Sadqah dene waale aur bakheel ki misaal</i>	368

Baab:19	<i>Har musalmaan par khairaat karna waajib hai agar na paaye to bhali baat ko amal mein laana khairaat hai</i>	368
Baab:20	<i>Zakaat ya Sadqah se (kisi zaroorat mand ko) kis qadar dena chaahiye</i>	369
Baab:21	<i>Zakaat mein (Naqdi ki bajaaye) deeger asbaab ka lena dena</i>	369
Baab:22	<i>(Zakaat se bachne ke liye) alag alag maal ko jama na kiya jaaye aur na hi yakjaayi ko mutafarriq kiya jaaye.</i>	370
Baab:23	<i>Sahraakat daar (zakaat ka) hissa baraabar baraabar ada karen</i>	370
Baab:24	<i>Ounton ki zakaat</i>	370
Baab:25	<i>Jiske maal mein ek saalah ounni sadqah padti ho lekin uske paas na ho (to kiya kare?)</i>	371
Baab:26	<i>Bakriyon ki zakaat ka bayaan</i>	372
Baab:27	<i>Zakaat mein sirf Sahih wa tandurust jaanwar liya jaaye</i>	373
Baab:28	<i>Zakaat mein logon ka umdah maal na liya jaaye</i>	374
Baab:29	<i>Apne Rishtah daaron ko zakaat dena</i>	374
Baab:30	<i>Musalmaan ke liye apne ghode ki zakaat dena zaroori nahin</i>	376
Baab:31	<i>Yateemon par sadqah</i>	376
Baab:32	<i>Khaawind aur zer-e- kifaalat yateemon ko zakaat dena</i>	377
Baab:33	<i>Irshaade Baari Ta'ala gulaamon ko azaad karne mein. Qarzdaaron ko najaat dilaane mein aur Allah ki raah mein (maal-e- zakaat kharch kiya jaaye)</i>	378
Baab:34	<i>Sawaal karne se bachna</i>	378
Baab:35	<i>Jis shakhs ko Allah baghair sawaal aur baghair tama' ke kuchh de (to use qubool karna chaahiye)</i>	380
Baab:36	<i>Jo apni daulat badhaane ke liye logon se sawaal kare.</i>	381
Baab:37	<i>Kis qadar maal se ghana (Maaldaari) haasil hoti hai?</i>	381
Baab:38	<i>Khujoor ka (darakhton par) andaazah lagaana</i>	381
Baab:39	<i>U'shr uss kheti mein hai jise aabe baaraan ya aabe rawaan se seencha jaaye</i>	383
Baab:40	<i>Jab khujoor darakhton se toden uss waqt zakaat li jaaye neez kiya bachche ko yoon hi chhod diya jaaye ke woh sadqah khujooron se kuchh le le?</i>	383
Baab:41	<i>Kiya Aadmi apni sadqah di huyi cheez khud khareed sakta hai? albatta doosre ki sadqah di huyi cheez khareedne mein koyi qabaahat nahin.</i>	383
Baab:42	<i>Rasoolullah ﷺ ki Azwaaj-e- Mutahharaat ki laundi ghulaamon ko sadqah dena.</i>	384
Baab:43	<i>Jab Sadqah ki haalat badal jaaye?</i>	384
Baab:44	<i>Sadqah maaldaron se wasool karke faqeroon par sarf kiya jaaye khaah woh kaheen hon.</i>	385
Baab:45	<i>Saahib-e-Sadqah ke liye Imam ka Rahmat ki Khaastgaari aur du'a karna</i>	385
Baab:46	<i>Jo maal Samandar se nikaala jaaye (us mein zakaat hai ya nahin?)</i>	385
Baab:47	<i>Madfoon Khazaanah mein 5 waan hissa waajib hai</i>	386
Baab:48	<i>Irshaad-e-Baari Ta'ala: Tahseeldaaron ko bhi zakaat se hissa diya jaaye neez haakim ko unka muhaasbah karna chaahiye.</i>	386
Baab:49	<i>Haakim-e-Waqt ka zakaat ke ounton ko khud apne haath se daagh dena</i>	387
	Sadqah Fitr ke bayaan mein	288
Baab:1	<i>Sadqa-e-Fitr ki Farziyat</i>	388

Baab:2	<i>Eid se pahle Sadqah Fitr ki adaayegi ka bayaan</i>	388
Baab:3	<i>Sadqah Fitr har Aazad ya Ghulaam par waajib hai</i>	388
	Hajj ke bayaan mein	389
Baab:1	<i>Hajj Ki Farziyyat aur uski fazeelat.</i>	389
Baab:2	<i>Irshaad-e-baari Ta'ala: "Log tere paas door daraaz raaston se duble ounton par sawaar ya paidal chal kar aayenge taake apne fawaaid haasil karen."</i>	389
Baab:3	<i>Sawaar ho kar hajj ko jaana</i>	390
Baab:4	<i>Hajj-e-Mabroor ki fazeelat</i>	390
Baab:5	<i>Ahle Yaman ke liye ehraam ki jagah</i>	390
Baab:6		391
Baab:7	<i>Rasoolullah ﷺ ka shajrah ke raastah se nikalna</i>	391
Baab:8	<i>Rasoolullah ﷺ ka farmaan: "Waadiye Aqeeq ek mubaarak waadi hai"</i>	391
Baab:9	<i>(Mohrim ke liye) apne kapdon se teen baar khushbu ka dhona</i>	392
Baab:10	<i>Ehraam ke waqt khushbu lagaana aur mohrim jab ehraam baandhne ka iraadah kare to kiya pahne.</i>	393
Baab:11	<i>Baalon ko jamaa kar ehraam baandhna</i>	393
Baab:12	<i>Masjid Zulholaifah ke paas (ehraam baandh kar) LABBAIK pukaarna</i>	393
Baab:13	<i>Hajj mein doosre ke peechhe sawaar hona</i>	394
Baab:14	<i>Mohrim kis qism ke kapde, chaadar aur tahband pahne.</i>	394
Baab:15	<i>Labbaik ka bayaan</i>	395
Baab:16	<i>Sawaari par sawaar hote waqt talbiyah se pahle tamheed wa tasbeeh aur takbeer kahna.</i>	395
Baab:17	<i>Qiblah ru ho kar ehraam baandha</i>	396
Baab:18	<i>Mohrim jab waadi mein utre to labbaik kahe.</i>	396
Baab:19	<i>Jis shakhs ne zamaanae nabawi mein Rasoolullah ﷺ ke misl ehraam baandha</i>	396
Baab:20	<i>Irshaade Baari Ta'ala: "Hajj ke chand mu'ayyan mahine hain"</i>	397
Baab:21	<i>Hajje tamatto' qeraan aur mufrad aur jiske paas qurbaani na ho uske liye hajj ko faskh karke umrah bana dene ka bayaan</i>	398
Baab:22	<i>Hajj-e-tamatto' ka bayaan</i>	401
Baab:23	<i>Makkah Mukarramah mein kidhar se daakhil huwa jaaye?</i>	401
Baab:24	<i>Makkah aur uski emaraton ki fazeelat</i>	401
Baab:25	<i>Makkah ke gharon mein weraasat ka jaari hona aur unki khareed-o-farokht karna neez Masjid-e-Haraam mein logon ka baraabar haqdaar hona.</i>	402
Baab:26	<i>Rasoolullah ﷺ ka Makkah mein utarna</i>	403
Baab:27	<i>Ka'ba ka giraana</i>	403
Baab:28	<i>Irshaad-e-Baari Ta'ala: "Allah ne makaan mohtaram Ka'ba ko logon ke qiyaam ka zariy'a banaaya aur maathe haraam ko bhi"</i>	403
Baab:29	<i>Inhedaam-e-Ka'ba ki peshen goyi.</i>	404
Baab:30	<i>Hajre Aswad ke muta'alliq jo bayaan kiya gaya hai?</i>	404
Baab:31	<i>Jo shakhs (hajj ya umrah mein) ka'ba ke andar daakhil nahin huwa</i>	405
Baab:32	<i>Jis shakhs ne Ka'ba ke konon mein 'Allahu Akabar' kaha</i>	405
Baab:33	<i>(Tawaaf mein) Ramal ki lbteda kaise huyi.</i>	406

Baab:34	<i>Jab koyi makkah aaye to pahle tawaaf mein sab se pahle Hajr-e-Aswad ko choome aur teen chakkaron mein Ramal kare (Akad kar chale)</i>	406
Baab:35	<i>Hajj aur Umre mein Ramal karna</i>	406
Baab:36	<i>Chhadi se Hajr-e-Aswad ko chhoona</i>	407
Baab:37	<i>Hajr-e-Aswad ko bosa dena</i>	407
Baab:38	<i>Jis Shakhs ne Makkah aate hi ka'ba ka tawaaf kiya qabl iske ke apne thhikaane par jaaye.</i>	408
Baab:39	<i>Dauraan-e-Tawaaf guftagu karna.</i>	408
Baab:40	<i>Ka'ba ka Tawaaf koyi barhana aadmi na kare aur na hi koyi mushrik hajj ko aaye.</i>	408
Baab:41	<i>Jo shakhs pahla tawaaf karke phir ka'ba ke qareeb na gaya aur na usne (dobaarah) tawaaf kiya yahaan tak ke arafaat se ho aaya</i>	409
Baab:42	<i>Haajiyon ko paani pilaana.</i>	409
Baab:43	<i>Safa Marwah (ke darmiyaan say'i) ka waajib hona.</i>	410
Baab:44	<i>Safa Marwah ke darmiyaan say'i karne ke baare mein kiya aaya hai?</i>	411
Baab:45	<i>Haayizah, tawaaf ka'ba ke elaawah deegar tamaam af'aale hajj baja laaye.</i>	412
Baab:46	<i>8win Zulhijjah ko haaji namaaz-e-zohar kahaan padhe?.</i>	412
Baab:47	<i>Arafah ke din rozah rakhne ka bayaan.</i>	413
Baab:48	<i>Arafah ke liye din thheek dopahar ke waqt rawaana hona.</i>	413
Baab:49	<i>Arafaat mein thhaharne ke liye jaldi karna</i>	414
Baab:50	<i>Maydaan-e-Arafaat mein thhaharna</i>	414
Baab:51	<i>Arafaat se laut te waqt kis tarah chalna chaahiye/</i>	414
Baab:52	<i>Arafaat se laut te waqt Rasoolullah ﷺ ka sukoon wa itmenaan ke muta'alliq hukm dena aur kode se ishaarah farmana</i>	415
Baab:53	<i>Jis ne kamzor ghar waalon ko raat pahle bhej diya woh muzdalfah mein thhahren, du'a karein aur chaand ghuroob hote hi unko aage (Mina) rawaana kar diya.</i>	415
Baab:54	<i>Namaaz-e-Subh muzdalfah hi mein padhna.</i>	416
Baab:55	<i>Muzdalfah se kab rawaana hona chaahiye?</i>	417
Baab:56	<i>Qurbaani ke ounton par sawaar hona</i>	417
Baab:57	<i>Jo shakhs qurbaani ka jaanwar hamraah le kar gaya.</i>	418
Baab:58	<i>Jis shakhs ne Zul Halaifah pahunch kar Asha'ar (Qurbaani ki kohaan ko zakhm lagaya) aur taqleed yani un ke gale mein patta daala phir ehraam baandha.</i>	418
Baab:59	<i>Jis ne apne haath se qalaadah pahnaaya</i>	419
Baab:60	<i>Bakriyon ko Qalaadah pahnaana</i>	419
Baab:62	<i>Oun se Qalaade tayyaar karna</i>	420
Baab:62	<i>Qurbaani ki jholen tak Khairat kardene ka bayaan</i>	420
Baab:63	<i>Apni Biwiyon ki taraf se unke kahe baghair Gaaye zabah karna</i>	420
Baab:64	<i>Mina mein Rasoolullah ﷺ ke maqaam-e-qurbaani par qurbaani karna</i>	421
Baab:65	<i>Ount ka paaun baandh kar qurbaani karna</i>	421
Baab:66	<i>Qurbaani se Qasaab ko (bataur-e-ujrat) koyi cheez na dena.</i>	421
Baab:67	<i>Qurbaani ke Jaanwaron se kiya khayen aur kiya khairaat karen</i>	421
Baab:68	<i>Ehraam kholte waqt sar mundwaana aur katarwana</i>	422
Baab:69	<i>Kankariyan maarna.</i>	423
Baab:70	<i>Waadi ke nasheb se kankariyaan maarna.</i>	423
Baab:71	<i>Har Jamrah par saat saat kankariyaan maari jaayein.</i>	423

Baab:72	<i>Narm Zameen par Qiblah ru kahade hokar pahle aur doosre jamre ko kankariyaan maarna.</i>	424
Baab:73	<i>Tawaaf-e- wid'a ka bayaan.</i>	424
Baab:74	<i>Agar tawaaf-e-ziyaarat kar lene ke ba'd aurat ko haiz aa jaaye?</i>	425
Baab:75	<i>Waadiye mohassab mein thhaharna.</i>	425
Baab:76	<i>Dukhoole Makkah se pahle zi tuwa mein thhaharna aur Makkah se laut te waqt uss bat,haa mein padaau karna jo zulholaifah mein hai</i>	425
Umrah ke bayaan mein		427
Baab:1	<i>Farziyat-e-Umrah aur uski fazeelat</i>	427
Baab:2	<i>Hajj se pahle Umrah karna.</i>	427
Baab:3	<i>Rasoolullah ﷺ ne kis qadar Umre kiye?</i>	427
Baab:4	<i>Tana'yeem se Umrah karna</i>	429
Baab:5	<i>Hajj ke ba'd Qurbaani ke baghair Umrah karna</i>	429
Baab:6	<i>Umrah ka sawaab baqadr mushaqqat hai</i>	429
Baab:7	<i>Umrah karne Waala Ehraam se kab azaad hota hai?</i>	430
Baab:8	<i>Jab koyi hajj, Umrah ya jehaad se laute to kiya du'a padhe?</i>	430
Baab:9	<i>Aane waale haajiyon ka istaqbaal karna aur teen aadmiyon ka sawaari par baithhna</i>	430
Baab:10	<i>(Musaafir ka) zawaal ke bad ghar mein dakhil hona.</i>	431
Baab:11	<i>Madinah ke Qareeb pahunch ne par sawaari ko tez kardena</i>	431
Baab:12	<i>Safar bhi goya ek qism ka azaab hai</i>	431
Hajj wa Umrah se reke jaana		433
Baab:1	<i>Jab Umrah karne waale ko rok diya jaaye.</i>	433
Baab:2	<i>Hajj se roke jaana</i>	433
Baab:3	<i>Jab roka jaaye to sar mundwaane se pahle qurbaani kare.</i>	433
Baab:4	<i>Jis Aayat mein Allah Ta'ala ne sadqah ka hukm diya hai usse muraad chhe miskinon ko khana khilaana hai.</i>	434
Baab:5	<i>Fidyah mein har Miskeen ko nisf sa' diya jaaye.</i>	434
Shikaar aur uske misl deegar afa'al ki jaza		435
Baab:1	<i>Jab koyi Ghair mohrim shikaar kare aur mohrim ko tohfa de to woh use kha sakta hai.</i>	435
Baab:2	<i>Mohrim shikaar maarne mein ghair mohrim ki madad na kare.</i>	436
Baab:3	<i>Mohrim shikaar ki taraf iss gharz se ishaarah na kare ke ghair Mohrim uska shikaar karle.</i>	436
Baab:4	<i>Jab koyi shakhs mohrim ko zindah jangli gadha hadya de to mohrim use qubool na kare.</i>	436
Baab:5	<i>Mohrim Haram mein kin jaanwaron ko maar sakta hai.</i>	437
Baab:6	<i>Makkah Mukarramah mein jang jaayez nahin.</i>	438
Baab:7	<i>Mohrim ke liye puchhne lagwaane ka bayaan.</i>	438
Baab:8	<i>Mohrim ka nikaah karna.</i>	438
Baab:9	<i>Mohrim ka nahaana.</i>	439
Baab:10	<i>Makkah aur Haram mein baghair ehraam daakhil hona</i>	439

Baab:11	Mayyat ki taraf se hajj aur nazr ka poora karna neez mard ka aurat ki taraf se hajj karna.	439
Baab:12	Bachchon ka hajj karna.	440
Baab:13	Auraton ka Hajj karna	440
Baab:14	Jo shakhs Ka'ba tak paidal jaane ki mannat maane	441
	Fazaail-e-Madinah ke bayaan mein	442
Baab:1	Madinah ke haram ka bayaan	442
Baab:2	Madinah ki fazeelat aur uska bure aadmiyon ko nikaalna.	443
Baab:3	Madinah ka ek naam Taabah hai	443
Baab:4	Jo shakhs Madinah se nafrat kare.	444
Baab:5	Eemaan Madinah ki taraf simat aayega.	445
Baab:6	Jo ahle Madinah se fareb kare uska gunaah	445
Baab:7	Mahallaat-e-Madinah ka bayaan	445
Baab:8	Dajjaal Madinah ke andar daakhil nahin ho sakega.	445
Baab:9	Madinah bure aadmi ko nikaal deta hai	447
Baab:10		447
Baab:11		448
	Roze ke bayaan mein	450
Baab:1	Roze ki fazeelat	450
Baab:2	Rayyaan roze daaron ke liye hai.	450
Baab:3	Ramzaan kaha jaaye ya mahe ramzaan aur ba'z hazraat ne donon tarah jaayez khayaal kiya hai.	452
Baab:4	Jis shakhs ne bahaalat-e-Rozah jhoot bolna aur fareb karna tark na kiya.	452
Baab:5	Jab kisi Rozah daar ko gaali di jaaye to kiya jaayez hai ke kah de "Main rozah daar hoon"	452
Baab:6	Jo shakhs tajarrud ki wajah se badkaari ka andeshah rakkhe to woh roze rakkhe.	453
Baab:7	Farmaan-e-Nabawi ke ramzaan ka chaand dekho to rozah rakkho aur shawwaal ka chaand dekho to rozah mauqoof kar do	453
Baab:8	Eid ke donon mahine kam nahin hote	454
Baab:9	Irshaad-e-nabawi: ke "hum log hisaab wa kitab nahin jaante"	454
Baab:10	Koyi shakhs ramzaan se ek ya do din pahle (istaqbaali) rozah na rakkhe	454
Baab:11	Irshaad-e-Baari Ta'ala: "Tumhaare liye roze ki raat apni biwiyon ke paas jaana halaal kar diya gaya hai woh tumhaare liye aur tum unke liye libaas ho"	455
Baab:12	Irshaad-e-Baari Ta'ala raaton ko khaao piyo yahaan tak ke tumhen shab ki siyaah dhaari se sapedah sehar ki dhaari numayaan nazar aaye	455
Baab:13	Sehri aur namaaz-e- fajr mein ketna waqfah hona chaahiye?	456
Baab:14	Sehri baa'is-e-barkat hai magar waajib nahin	456
Baab:15	Agar koyi shakhs din ko roze ki niyyat kare	457
Baab:16	Rozah daar subah ko bahaalat-e- Janaabat ho to kiya kare?	457
Baab:17	Rozah daar ke liye mubaashirat	457
Baab:18	Rozah daar agar bhool kar khaa pi le	457
Baab:19	Jab koyi Ramzaan mein Jima' kare aur uske paas bhi kuchh na ho use sadqah mile to usse kaffaarah de	458

Baab:20	<i>Rozah daar ka puchhne lagaana ya use qai aana</i>	459
Baab:21	<i>Safar mein Rozah rakhna ya iftaar karna</i>	459
Baab:22	<i>Jab Ramzaan mein kuchh din rozah rakkhe phir safar kare</i>	460
Baab:23		460
Baab:24	<i>Irshaad-e-Nabawi ke (sakht garmi mein) dauraan-e-safar rozah rakhna neki nahin hai</i>	460
Baab:25	<i>Sahaaba kiraam dauraan- e-safar koyi kisi par Rozah rakhne na rakhne par aib na lagaata tha</i>	461
Baab:26	<i>Agar koyi mar jaaye aur uske zimme roze hon</i>	461
Baab:27	<i>Rozah daar ko kis waqt rozah iftaar karna chaahiye?</i>	462
Baab:28	<i>Iftaar mein jaldi karna afzal hai</i>	462
Baab:29	<i>Agar Rozah Iftaar karne ke ba'd sooraj nikal aaye</i>	462
Baab:30	<i>Bachchon ke roze ka bayaan</i>	463
Baab:31	<i>Subah tak wisaal karna ya'ni sehri tak kuchh na khana</i>	463
Baab:32	<i>Kasrat se wisaal karne waale ko saamaan-e-ibrat banaana</i>	463
Baab:33	<i>Agar koyi apne bhai ko nafli rozah tod dene ki qasam de</i>	464
Baab:34	<i>Sha'baan mein roze rakhna.</i>	465
Baab:35	<i>Rasoolullah ﷺ ke rozah rakhne aur na rakhne ka bayaan</i>	466
Baab:36	<i>Jism ka bhi roze mein haq hai</i>	466
Baab:37	<i>Rozah rakhne mein biwi ke haq ki ri'aayat karna</i>	467
Baab:38	<i>Jo koyi (bahaalat-e-rozah) kisi se milne gaya aur wahaan rozah na toda</i>	467
Baab:39	<i>Mahinah ke aakhir mein roze rakhna</i>	468
Baab:40	<i>Juma ke din rozah rakhna</i>	768
Baab:41	<i>Rozah ke liye koyi din muqarrar kiya jaa sakta hai?</i>	469
Baab:42	<i>Ayyaam-e-Tashreeq mein rozah rakhna</i>	469
Baab:43	<i>Aashoora ke din rozah rakhna</i>	469
	Namaaz-e-Taraawih ke bayaan mein	471
Baab:1	<i>Ramzaan mein taraawih padhne ki fazeelat</i>	471
Baab:2	<i>Shab-e-Qadr ko aakhri saat raaton mein talaash karna chaahiye</i>	471
Baab:3	<i>Laylatul Qadr ko aakhri 10 taaq raaton mein ibaadat ki haalat mein talaash karna</i>	472
Baab:4	<i>Ramzaan ke aakhri ashrah mein ibaadat karna</i>	473
	E'tekaaf ke bayaan mein	474
Baab:1	<i>Aakhri a'shrah mein e'tekaaf karna neez e'tekaaf har masjid mein durust hai</i>	474
Baab:2	<i>Zaroorat ke waqt ghar mein daakhil hona</i>	474
Baab:3	<i>Sirf Raat bhar ke liye e'tekaaf karna</i>	474
Baab:4	<i>E'tekaaf ke liye Masjid mein khime lagaana</i>	475
Baab:5	<i>Kiya Mo'takif apni kisi zaroorat ke pesh-e-nazar masjid ke darwaaze tak aa sakta hai?</i>	475
Baab:6	<i>Ramzaan ke darmiyaani a'shrah mein e'tekaaf karna</i>	476
	Khareed wa Farokht ke bayaan mein	477
Baab:1	<i>Irshaad-e- baari Ta'ala "jab juma' ki namaaz ho jaaye to zameen mein phail jao!"</i>	477

Baab:2	<i>Halaal waazeh hai aur Haraam zaahir hai in donon ke darmiyaan kuchh shubah ki cheezen hain</i>	478
Baab:3	<i>Shub,haat ki tafseer</i>	478
Baab:4	<i>Jin ke nazdeek waswasah aur uss jaisi cheezein mushtabah cheezon mein daakhil nahin</i>	479
Baab:5	<i>Jis ne kuchh parwaah na ki jahaan se chaaha maal kama liya</i>	479
Baab:6	<i>Khushki mein tijaarat karna</i>	480
Baab:7	<i>Tejaarat ke liye safar karna</i>	480
Baab:8	<i>Jis ne Rizq mein Us'at ki khaahish ki</i>	481
Baab:9	<i>Rasoolullah ﷺ ka udhaar khareedna</i>	481
Baab:10	<i>Aadmi ka khud kamaana aur apne haath se kaam karna</i>	482
Baab:11	<i>Khareed wa farokht mein narmi aur kushaadah dili</i>	482
Baab:12	<i>Jis shakhs ne maaldaar ko bhi mohlat de di</i>	482
Baab:13	<i>Jab Baay'e aur Mushtari donon aib wa hunar bayaan kar den aur ek doosre ki behtari chaahein</i>	483
Baab:14	<i>Khujooron ki mukhtalif aqsaam ko milaakar bechna</i>	483
Baab:15	<i>Sood adaa karne waala</i>	483
Baab:16	<i>Irshaad-e-Baari Ta'ala "Allah Ta'ala sood mitaata hai aur sadqaat ko badhaata hai"</i>	484
Baab:17	<i>Lohaar ke peshe ka bayaan.</i>	484
Baab:18	<i>Darzi ka tazkerah</i>	485
Baab:19	<i>Jaانwaron aur gad,hon ki khareed wa farokht</i>	485
Baab:20	<i>Piyaas ki bimaari mein muhtala ounton ki khareed wa farokht</i>	486
Baab:21	<i>Singi lagaane waale ka tazkirah</i>	487
Baab:22	<i>Baab aisi cheezon ki tijaarat jin ki kamaayi durst nahin</i>	487
Baab:23	<i>Jab koyi shakhs kisi cheez ko khareede aur baaye' mushtari ke juda juda hone se pahle usi waqt kisi ko hibah karde</i>	488
Baab:24	<i>Khareed wa farokht mein fareb kaari aur dhoka dahi naa jaayez hai</i>	489
Baab:25	<i>Baazaaron ki nisbat kiya kaha gaya hai?</i>	489
Baab:26	<i>Bazaar mein shor wa ghul karna makrooh hai</i>	491
Baab:27	<i>Naap taul karna bechne waale aur dene waale ke zimma hai</i>	492
Baab:28	<i>Ghalle waghairah ka naapna mustahab hai</i>	492
Baab:29	<i>Rasoolullah ﷺ ka saa' aur mud baa barkat hai</i>	493
Baab:30	<i>Ghallah bechne aur uske zakheerah karne ke muta'alliq kiya bayaan kiya jaata hai</i>	494
Baab:31	<i>Koyi aadmi apne bhaayi ki bai' par bai' na kare aur na hi uski qeemat par qeemat lagaaye yahaan tak ke woh ijaazat de ya use chhod de</i>	494
Baab:32	<i>Nilami ki bai' ka bayaan</i>	494
Baab:33	<i>Dhoke aur Habalul Habalah ki bai'</i>	495
Baab:34	<i>Baaye' ko jaayez nahin ke woh (kisi ko dhoka dene ke liye) Ount , Gaaye aur Bakri ke thanon mein doodh jama kare</i>	495
Baab:35	<i>Zina kaar Ghulaam ki bai'</i>	496
Baab:36	<i>Kiya Shahri kisi dehaati ke liye bila mu'aawazah bai' kar sakta hai? kiya woh uski madad aur khair khaahi kar sakta hai</i>	496
Baab:37	<i>Shahar se baahar Ahl-e -Qaafleh se khareed wa farokht ki khaatir mulaqaat mana hai</i>	496

Baab:38	<i>Kishmish ka kishmish ke e'waz aur ghalle ka ghalle ke e'waz khareed-o-farokht karna kaisa hai?</i>	497
Baab:39	<i>Jau ko jau ke e'az farokht karna</i>	497
Baab:40	<i>Sone ke e'waz sona farokht karna kaisa hai?</i>	497
Baab:41	<i>Chaandi ko chaandi ke e'waz farokht karna</i>	497
Baab:42	<i>Dinaar ko dinar ke e'waz udhaar bechna</i>	498
Baab:43	<i>Chaandi ko sone ke e'waz udhaar bechna</i>	598
Baab:44	<i>Bai' Muzaabanah</i>	499
Baab:45	<i>Darakht par lagi khujoor sone chaandi ke e'waz farokht karna</i>	499
Baab:46	<i>Salaahiyat paida hone se pahle phalon ko farokht karna (mana' hai)</i>	500
Baab:47	<i>Agar koyi salaahiyat paida hone se pahle phalon ko bech daale to aafat aane par woh zimme daar hoga</i>	501
Baab:48	<i>Agar koyi behtareen khujooron ke e'waz aam khujooron ko farokht karna chaah</i>	501
Baab:49	<i>Kachche daanon ya phalon ka farokht karna kaisa hai?</i>	501
Baab:50	<i>Khareed-o-farokht aur ejaarah neez maap taul mein mulki dastoor ke mutaabiq hukm diya jaaye ga</i>	502
Baab:51	<i>Ek shareek apna hissa doosre shareek ko farokht kar sakta hai</i>	502
Baab:52	<i>Harbi kaafir se ghulaam khareedna aur uska hibah karna ya azaad karna</i>	503
Baab:53	<i>Khinzeer ka qatl karna kaisa hai?</i>	504
Baab:54	<i>Be jaan cheezon ki tasaaveer farokht karna neez unki kaunsi shakl haraam hai?</i>	504
Baab:55	<i>Jo kisi azaad shakhs ko farokht kar de uska gunaah</i>	505
Baab:56	<i>Murdaar aur buton ka farokht karna</i>	505
Baab:57	<i>Kutte ki qeemat wasool karne ki mumaani'at</i>	506
	Salam (سَلَام) ke bayaan mein	507
Baab:1	<i>Mua'yyan paimaana mein salam karna</i>	507
Baab:2	<i>Uss shakhs se salam karna jiske paas asal maal hi nahin</i>	507
	Shuf 'ah ke bayaan mein	508
Baab:1	<i>Shuf'a ko shafi' par pesh karna</i>	508
Baab:2	<i>Kaunsa hamsaaya ziyaadah haqdaar hai</i>	508
	Ejaarah ke bayaan mein	509
Baab:1	<i>Ejaarah ka bayaan</i>	509
Baab:2	<i>Qeeraat par bakriyan charaana</i>	509
Baab:3	<i>Asr se raat tak mazdoori lena.</i>	510
Baab:4	<i>Ek aadmi mazdoori chhod kar chal de aur jis ne mazdoor lagaaya tha woh uski mazdoori mein mehnat karke use badhaaye (to woh kaun le ga?)</i>	510
Baab:5	<i>Dam kar ne se jo ujrat di jaaye</i>	513
Baab:6	<i>Nar ko maadah ke saath jufti karaane ki ujrat</i>	514
	Hawaalon ke bayaan mein	515
Baab:1	<i>Jab kisi maaldaar par hawaalah kiya jaaye to uss maaldaar ko waapas kar dene ka haq nahin</i>	515
Baab:2	<i>Jab koyi shakhs mayyat ke zimme qarz ko doosre ke hawaale karde to jaayiz hai</i>	515
Baab:3	<i>Ershaad-e-Baari Ta'ala: "Jin se tum ne qasmen uthha kar qaulo qaraar kiya hai unhen unka hissa do"</i>	516

Baab:4	Jo shakhs mayyat ki taraf se qarz ka kafeel huwa use ruju' ki ejaazat nahin	516
	Wakaalat ke bayaan mein	518
Baab:1	Ek shareek ka doosre shareek ke liye wakeel banna	518
Baab:2	Jab charwaaha ya wakeel kisi bakri ko dekhe ke mar rahi hai to use zabah kar de ya koyi cheez jo kharaab ho rahi hai to use durust karde	518
Baab:3	Qarz adaa karne ke liye wakeel banaana	519
Baab:4	Agar kisi qaum ke wakeel ya sifaarshi ko kuchh hibah diya jaaye to jaayiz hai	519
Baab:5	Jab kisi ko wakeel banaaye phir wakeel kisi cheez ko chhod de aur muakkil use manzoor kare to jaayez hai	520
Baab:6	Agar wakeel bai' faasid kare to woh mustarad hogi	522
Baab:7	Had lagaane ke liye kisi ko wakeel banana	523
	Kaashtkaari aur bataayi ka bayaan	524
Baab:1	kaashtkaari aur Shajar kaari ki fazeelat	524
Baab:2	Zarayi' aalaat mein bahut masroof rahne aur jaayiz hudood se tajaawuz karne ke bure anjaam ka bayaan	524
Baab:3	Kheti ki hifaaizat ke liye kutta rakhna	524
Baab:4	Kheti baadi ke liye Gaaye, Bail se kaam lena	525
Baab:5	Jab koyi kahe ke tu nakhlitaan ki khidmat apne zimme lekar mujhe faarigh karde	526
Baab:6	Nisf Paidawaar par zameen kaasht karne ka bayaan	526
Baab:7	Sahaaba Kiraam ﷺ ke auqaaf, kharaaji zameenon aur unki bataayi neez unke muaa'mlaat ka bayaan	527
Baab:8	Jo shakhs kisi be aabaad banjar zameen ko aabaad kare (woh usi ki hai)	527
Baab:9	Sahaaba Kiraam ﷺ ek doosre ko kheti aur phalon mein shareek kar liya karte the	528
Baab:10		530
	Masaqaat ka bayaan	531
Baab:1	Paani ki taqseem ka bayaan	531
Baab:2	Paani ka maalik sairaab hone tak paani ka ziyaadah haqdaar hai	532
Baab:3	Kunwen ke muta'alliq jhagadna aur uska faisla karne ka bayaan	532
Baab:4	Uss Shakhs ka gunaah jo kisi musaafir ko paani se roke	533
Baab:5	Paani Pilaane ki Fazeelat.	533
Baab:6	Hauz aur Mashk ka maalik apne paani ka ziyadah haqdaar hai	534
Baab:7	Sarkaari Charagaah to sirf Allah aur uske Rasool ﷺ ke liye hai	535
Baab:8	Nahron se Insaanon aur Chaupaayon ka paani peena durust hai	535
Baab:9	Eindhan aur ghaas farokht karna	536
Baab:10	Jaageer likh kar dena.	537
Baab:11	Jis shakhs ke baagh mein guzargaah ya nakhlitaan mein chashmah ho to uska kiya hukm hai	537
	Qarz lena aur qarzah ada karna, tasarruf se rokna aur diwaliyah qaraar dena	539
Baab:1	Jo shakhs logon se adaayegi ya barbaadi ki niyyat se qarz le	539
Baab:2	Qarzon ka ada karna.	539
Baab:3	Umdah taur par haq ada karna	540

Baab:4	<i>Maqrooz ki namaaz-e-janazah padhna</i>	540
Baab:5	<i>Maal ko zaaye' karne ki mumaani'at ka bayaan</i>	541
	Jhagdon ke bayaan mein	542
Baab:1	<i>Kisi shakhs ko giriftaar karne neez musalmaan aur yahoodi ke darmiyaan jhagde ki baabat kiya manqool hai?</i>	542
Baab:2	<i>Jhagadne waalon ka ek doosre ke muta'alliq guftagu karna shara'an kiya hukm rakhta hai?</i>	543
	Giri padi cheez ko uthhaane ke bayaan mein	544
Baab:1	<i>Jab luqtah ka maalik uski pahchaan bataa de to woh uske hawaale kardi jaaye</i>	544
Baab:2	<i>Agar koyi raastah mein giri huyi khujoor paaye to kiya kare?.</i>	544
	Huqooq ke bayaan mein	545
Baab:1	<i>Zulm wa Ziyaadati ka badlah</i>	545
Baab:2	<i>Irshaad-e-Bari Ta'ala: "Khabar daar! zaalimon par Allah ki la'nat hai"</i>	545
Baab:3	<i>Ek Musalmaan doosre musalmaan par na zulm kare aur na use be yaar-o- madadgaar chhode</i>	546
Baab:4	<i>Tu apne bhaayi ki madad kar khaah woh zaalim ho ya mazloom</i>	546
Baab:5	<i>Zulm qiyaamat ke din taarikiyon ka baaiy's hoga</i>	547
Baab:6	<i>Jis shakhs ne kisi par zulm kiya ho aur mazloom use ma'af kar de to kiya zaalim ko apne zulm ki wazaahat karna zaroori hai</i>	547
Baab:7	<i>Uss shakhs ka gunaah jo kisi ki kuchh zameen zabardasti chheen le</i>	547
Baab:8	<i>Jab koyi Insaan doosre ko (kisi baat ki) ljaazat de to woh kar sakta hai</i>	548
Baab:9	<i>Irshaad-e-Baari Ta'ala: "woh bada sakht jhagdaalu hai"</i>	548
Baab:10	<i>Uss Shakhs ka gunaah jo deedah daanistah kisi naa haq baat par jhagda kare</i>	548
Baab:11	<i>Mazloom agar Zaalim ka maal paale to baqadr ziyaadati apna hissa wasool kar sakta hai</i>	549
Baab:12	<i>Koyi padosi doosre padosi ko apni diwaar par lakdi gaadne se na roke</i>	549
Baab:13	<i>Gharon ke saamne maidaanon aur raaston mein baithhna</i>	550
Baab:14	<i>Agar shaare' aam mein ikhtelaaf ho jaaye to kiya kiya jaaye?</i>	550
Baab:15	<i>Loot maar aur asal soorat bigaadne se mumaani'at.</i>	550
Baab:16	<i>Jo shakhs apne maal ki hifaazat ke liye ladta hai</i>	551
Baab:17	<i>Agar kisi ka piyaala ya koyi aur cheez tod de (to taawaan padega ya nahin?)</i>	551
	Shiraakat ke bayaan mein	552
Baab:1	<i>khaane,zaad-e-safar aur deegar asbaab-e-zindagi mein shiraakat</i>	552
Baab:2	<i>Bakriyon ka taqseem karna</i>	553
Baab:3	<i>Shurkaa ke darmiyaan mushtarkah cheezon ki adl ke saath qeemat lagaana</i>	554
Baab:4	<i>Kiya taqseem mein qura' andaazi ki jaa sakti hai?</i>	554
Baab:5	<i>Ghallah waghairah mein shirkat</i>	555
	Bahaalate eqaamat girvi rakhna	556
Baab:1	<i>Girvi ke jaanwar par sawaar hona aur uska doodh peena</i>	556

Baab:2	Agar Raahin aur murtahin kisi baat mein ihtelaaf karen to kiya kiya jaaye?	556
	Ghulaam azaad karne ke bayaan mein	557
Baab:1	Kaunsa Ghulaam azaad karna afzal hai?	557
Baab:2	Mushtarkah ghulaam ya laundi ko azaad kar dena	557
Baab:3	Azad karne, Talaaq dene aur isi tarah deegar (mu'aamlaat) mein ghalti aur bhool ho jaaye	558
Baab:4	Jab koyi apne ghulaam se kahe yeh Allah keliye hai aur niyyat azaad karne ki ho neez azaad karne mein gawaah banana	558
Baab:5	Mushrik ka ghulaam azad karna.	559
Baab:6	Agar koyi shakhs kisi arabi ghulaam ka malik ho jaaye (to kiya yeh durust hai?)	559
Baab:7	Ghulaam par dast daraazi karna na jaayiz hai	560
Baab:8	jab kisi shakhs ka khadim uska khaana laaye	560
Baab:9	Agar apne ghulaam ko maare to chehre par maarne se parhez kare	560
Baab:10	Mukaatab se kaunsi sharten jaayez hain	561
	Hibah ki Fazeelat aur uski Targheeb	562
Baab:1	Hibah ki fazeelat	562
Baab:2	Shikaar ka tohfa qubool karna	563
Baab:3	Hadyah qubool karna	563
Baab:4	Apne kisi dost ko qasdan uss din tohfa bhejna jab woh kisi khaas ahliya ke paas ho	564
Baab:5	Kis qism ke tohfe waapas na kiye jaayen	566
Baab:6	Hadyah ka badlah dena masnoon hai	566
Baab:7	Hadyah mein gawaah muqarrar karna	566
Baab:8	Biwi Khaawind ka aapas mein tohfe ka tabaadlah karna kaisa hai?	567
Baab:9	Shauhar ki maujoodgi mein aurat ka kisi ko hadyah dena aur ghulaam azad karna	567
Baab:10	Ghulaam laundi aur deegar saamaan par kaise qabzah hota hai?	568
Baab:11	Aise libaas ka tohfa dena jis ka pahanna na jaayez ho	569
Baab:12	Mushrikeen ka hadyah qubool karna	569
Baab:13	Mushrikeen ko tohfa dena	570
Baab:14		570
Baab:15	Umra aur Ruqba ka bayaan	571
Baab:16	Shaadi mein dulhan ko pahnaane ke liye koyi cheez aariyatan lena	571
Baab:17	Doodh ka jaanwar aariyatan dene ki fazeelat	571
	Gawaahi ke bayaan mein	573
Baab:1	Agar koyi gawaah banaaya jaaye to kisi zulm ki baat par gawaahi na de	573
Baab:2	Jhooti gawaahi ke muta'alliq kiya kahaa gaya hai?	573
Baab:3	Naa Beena ki gawaahi, uska hukm dena, apna ya kisi doosre ka nikaah padhna, khareed-o-farokht karna aur azaan waghairah durst hai neez aisi baaton ka qubool karna jo aawaaz se pahchaani jaati hain	573
Baab:4	Khawaateen ka ek doosre ki safaayi dena	574
Baab:5	Jab ek shakhs doosre ki safaayi de to kaafi hai	581
Baab:6	Bachchon ki gawaahi aur unke baaligh hone ka bayaan	582

Baab:7	<i>Kuchh log agar qasam uthhaane mein jaldi karein to unke muta'alliq kiya zaabtah hai</i>	582
Baab:8	<i>Qasam kis tarah li jaaye?</i>	582
Baab:9	<i>Jo shakhs logon ke darmiyaan sulah karaade (agar khilaaf-e-waaq' baat kah de) to woh jhoota nahin</i>	583
Baab:10	<i>Imaam ka saathiyon se kahna ke hamen le chalo hum sulah karaden</i>	583
Baab:11	<i>Dastaawezaat sulah yoon likkhi jaaye</i>	583
Baab:12	<i>Hazrat Hasan bin Ali رضى الله عنهما ke muta'alliq farmaane Nabawi ﷺ ke yeh mera beta sayyed hai</i>	585
Baab:13	<i>Kiya (yeh durust hai ke) imaam sulah ke liye ishaarah kar de</i>	585
	Shuroot ke bayaan mein	587
Baab:1	<i>Aqd nikaah karte waqt mahar mein koyi shart lagaane ka bayaan</i>	587
Baab:2	<i>Hudoodullah mein naa rawa shart ka bayaan</i>	587
Baab:3	<i>Kheti Baadi mein shart lagaana</i>	600
Baab:4	<i>Jehaad aur kuffaar se sulah karte waqt sharten lagaana aur unhen tahreer mein laana</i>	601
Baab:5	<i>Eqraar mein kis qism ki shart aur istesna durust hai</i>	601
	Wasiyaton ke bayaan mein	
Baab:1	<i>Wasiyat ki ahmiyat</i>	612
Baab:2	<i>Marte waqt sadqah karna</i>	613
Baab:3	<i>Kiya A'urat aur bachche aqaarib mein shaamil hain</i>	613
Baab:4	<i>Irshaad-e-Baari Ta'ala!"Aur tum yateemon ka imtehaan lo ta aanke woh nikah ki umr ko pahunch jayein agar tum un mein salaahiyat dekho to unke maal unke hawaale kar do".</i>	614
Baab:5	<i>Irshaad-e-Baari Ta'ala: "Jo log yateemon ka maal zulm se khaate hain woh apne peton mein aag bharte hain unhein an qareeb dozakh mein daala jaayega."</i>	614
Baab:6	<i>Waqf ke muntazim ka kharcha waqf jaayedaad se poora kiya jaaye</i>	615
Baab:7	<i>Agar koyi zameen ya mashroot taur par kunwa waqf kare ke uska dol bhi deegar musalmaanon ki tarah uss mein pada karega</i>	615
Baab:8	<i>Baab 8:Irshaade Baari Ta'ala!"Musalmaano! jab tum</i>	616

Muqaddama Tul Kitaab

Har qism ki ta'reef Allah Ta'ala hi ke liye hai jo tamaam makhlooqaat ko behtareen andaaz aur munaasib shakl wa soorat ke saath paida farmata hai, woh aisa daata, meharbaan aur rozi resaan hai ke kisi pahle ke haq ke baghair bhi makhlooq ko apni ne'maton se maala maal kiye huye hai aur jab tak subho shaam ka silsila jaari hai uss waqt tak Allah ta'ala ki rahmat aur salaamti uske Rasool bar haq par ho jo Makaarim-e-Akhlaaq ki takmeel ke liye mabwoos huye jin hein Allah ta'ala ne tamaam makhlooq par bartari aur fazeelat ataa farmayi, isi tarah un ki Al-o-Aulaad par bhi Allah ki rahmat ho jo Allah ki raah mein badi fayyazi se kharch karte hain aur un ke sahaba kiraam ﷺ par bhi jo etaa'at guzaar aur wafa she'ar hain.

Hamd wa sana ke b'ad m'aloom hona chahiye ke Imamul Muhaddiseen Abu Abdullah Muhammad bin Ismaeel bin Ibraheem Bukhari رحمه الله عليه ki azeemush-shaan "Aljaamiu's Sahih" Islami kutub mein sab se ziyaadah m'otabar aur be shumaar fawaaid ki haamil hai. Lekin iss mein Ahaadees takraar ke saath mukhtalif abwaab mein mutafarriq taur par bayaan hoyi hain agar koyi shakhs apni matloobah hadees talaash kanra chaahe to intehaayi talaash wa justajoo aur sakht mehnat ke ba'd hi ise ma'lloom kar sakta hai, bila shubah is qism ke takraar se Imam Bukhari ka maqsad yeh tha ke mukhtalif asaaneed ke saath ahaadees bayaan ki jaayen taake inhein darja-e-shuhtrat hasil ho jaaye lekin iss majmoo'a-e-ahaadees se hamaara maqsad nafs-e-hadees se waaqfiyat hasil karna hai. baaqi rahi in ki sehat wa saqaahat

مقدمة الكتاب

(الْحَمْدُ لِلَّهِ) الْبَارِي الْمَصَوِّرِ الْخَلَّاقِ،
الْوَهَّابِ الْفَتَّاحِ الرَّزَّاقِ، الْمُبْتَدِي بِالنِّعَمِ
قَبْلَ الْإِسْتِحْقَاقِ. وَصَلَاتُهُ وَسَلَامُهُ عَلَى
رَسُولِهِ الَّذِي بَعَثَهُ لِيُتِمَّ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ،
وَفَضْلَهُ عَلَى كَأَفَّةِ الْمَخْلُوقِينَ عَلَى
الْإِطْلَاقِ. حَتَّى فَاقَ جَمِيعَ الْبَرِيَاءِ فِي
الْآفَاقِ، وَعَلَى إِلِهِ الْكُورَامِ الْمَوْصُوفِينَ
بِكَثْرَةِ الْإِنْفَاقِ، وَعَلَى أَصْحَابِهِ أَهْلِ
الطَّاعَةِ وَالْوَفَاقِ، صَلَاةً دَائِمَةً مُسْتَمِرَّةً
بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ.

(أَمَّا بَعْدُ) فَاعْلَمَ أَنَّ كِتَابَ الْجَمَاعِ
الصَّحِيحِ لِلْإِمَامِ الْكَبِيرِ الْأَوْحِدِ، مُقَدِّمِ
أَصْحَابِ الْحَدِيثِ، أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ
اللَّهُ، مِنْ أَعْظَمِ الْكُتُبِ الْمُنْصَفَةِ فِي
الْإِسْلَامِ، وَأَكْثَرِهَا فَوَائِدَ، إِلَّا أَنَّ
الْأَحَادِيثَ الْمُتَكَرِّرَةَ فِيهِ مُتَّفِرِّقَةً فِي
الْأَبْوَابِ، وَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ يَنْظُرَ
الْحَدِيثَ فِي أَيِّ بَابٍ لَا يَكَادُ يَهْتَدِي إِلَيْهِ
إِلَّا بَعْدَ جَهْدٍ وَطَوِيلِ فَتْشٍ، وَمَقْصُودُ
الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ كَثْرَةُ طُرُقِ
الْحَدِيثِ وَشُهْرَتِهِ، وَمَقْصُودُنَا هُنَا اخْتِ
أَصْلِ الْحَدِيثِ، لِكَوْنِهِ قَدْ عَلِمَ أَنَّ جَمِيعَ
مَا فِيهِ صَحِيحٌ.

to iss ke mutaalliq sab jaante hian ke iss majmoo'a ki tamaam ahaadees sahih aur qaabil-e- E'tebaar hain. Imam Navavi Sharah-e- Muslim ke muqaddame mein likhte hain:

Imam Bukhari رحمه الله عليه ek hadees ko mukhtalif asaaneed ke saath mutafarriq abwaab mein zikr karte hain. ba'z auqaat iss hadees ka muta'alliqah baab se bahut door ka ta'alluq hota hai chunaancheh aksar auqaat iss ke muta'alliq yeh khiyaal tak nahin guzarta ke iss ka wahaan zikr karna munaasib hoga iss liye ek taalib-e-ilm ke liye iss matloobah hadees ko talaash karna aur iski tamaam asaaneed ko ma'loom karna sakht mushkil ho jaata hai."Aap ne mazeed farmaya:

"Muta'akhhireen mein se ba'z huffaaz iss ghalat fahmi mein muftala hochuke hain ke unhon ne Bukhari mein aisi ahaadees ki maujoodgi se inkaar kardiya jo mutafarriq abwaab mein darj thin lekin unki taraf ba sahoolat zahan ki rasaayi na hosaki." (Sharh Novi, Pege:15.1)

Aise haalaat mein mere ander yeh khahish paida huyi ke main apni kitaab mein mundarjah zail baaton ka ehtemaam karoon:

1. Al-jami'us-Sahih ki tamaam ahaadees ko unki sanadon aur takraar ke baghair jama kardiya jaaye taake matloobah hadees kisi qism ki dushwaari ke baghair talaash ki jaa sake.
2. Har mukarrar hadees ko ek hi jagah bayaan karunga lekin agar kisi doosri jagah iss rivaayat mein koyi ezaafah huwa to poori hadees zikr karne ki bajaaye ezaafah ka hawaalah dunga.
3. Ager pahle koyi hadees mukhtasar taur par zikr hoyi ho aur ba'd mein kahin uski tafseel ho to ezaafi faaidah ke pesh-e-nazar doosri tafseeli rivaayat ko naqal

قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي مُقَدِّمَةِ كِتَابِهِ شَرْحِ مُسْلِمٍ: ((وَأَمَّا الْبُخَارِيُّ، فَإِنَّهُ يَذْكُرُ الْوُجُوهَ الْمُخْتَلِفَةَ فِي أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ مُتَبَاعِدَةٍ، وَكَثِيرٍ مِنْهَا يَذْكُرُهُ فِي غَيْرِ بَابِهِ الَّذِي يَسْبِقُ إِلَيْهِ الْفَهْمُ أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ، فَيَضَعُ عَلَى الطَّالِبِ جَمْعَ طُرُقِهِ وَحُضُولَ الثَّقَةِ بِجَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ طُرُقِ الْحَدِيثِ)). قَالَ: ((وَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ الْحَفَاطِ الْمُتَأَخِّرِينَ غَلَطُوا فِي مِثْلِ هَذَا، فَتَفَوُّوا رِوَايَةَ الْبُخَارِيِّ أَحَادِيثَ هِيَ مَوْجُودَةٌ فِي صَحِيحِهِ فِي غَيْرِ مَظَانِهَا السَّابِقَةِ إِلَى الْفَهْمِ)). إِنْتَهَى مَا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ.

فَلَمَّا كَانَ كَذَلِكَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُجَرِّدَ أَحَادِيثَهُ مِنْ غَيْرِ تَكَرُّرٍ، وَجَعَلْتُهَا مَحْدُوفَةَ الْأَسَانِيدِ لِيَقْرُبَ انْتِزَالُ الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، وَإِذَا أَتَى الْحَدِيثُ الْمُتَكَرِّرُ أُثْبِتُهُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي زِيَادَةً فِيهَا فَأَيْدَةً ذَكَرْتُهَا وَإِلَّا فَلَا، وَقَدْ بَاتِي حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ وَيَأْتِي بَعْدُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَبْسَطَ وَفِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى الْأَوَّلِ، فَأَكْتُبُ الثَّانِي، وَأَتْرُكُ الْأَوَّلَ لِزِيَادَةِ الْفَائِدَةِ.

karunga.

4. Maqtoo' aur muallaq rivayaat ko nazar andaaz karte huye sirf marfoo aur muttasil ahaadees ko bayaan karunga.
5. Sahaaba-e-kiraam aur unke b'ad aane waale doosre logon ke waq'e'aat. jin ka hadees se koyi ta'alluq nahin aur na hi un mein Rasool ﷺ ka zikr mubaarak hai, jaise hazrat Abu bakr aur Hazrat 'Umar رضي الله عنهما ka saqeefa bani sa'edah ki taraf jaana aur wahaan jaakar bahami baat cheet karna neez Hazrat 'Umar رضي الله عنهما ki shahaadat, apne bete ko hazrat Aaishah رضي الله عنها se unke ghar mein dafan hone ke liye ijaazat lene ki wasiyyat, aaindah majlis-e-shura ke muta'alliq un ke irshadaat, isi tarah hazrat 'Uthmaan رضي الله عنهما ki bay'at Hazrat Zubair رضي الله عنهما ki apne beton ko qarz utaarne ki wasiyyat aur in jaise digar waqia'at ko bhi zikr nahin karunga.

6. Har hadees ke shuru mein sirf usi sahaabi ka naam zikr karunga jis ne uss hadees ko bayaan kiya hai taake pahli nazar mein hi uske raavi ka ilm ho jaaye

7. Raavi ka naam lene mein unhi alfaaz ka iltezaam karunga jaisa ki Imaam Bukhari ne kiya hai masalan Imaam Bukhari kabhi to 'an Aaisha رضي الله عنها aur 'an Ibne Abbaas رضي الله عنهما aur kabhi 'an Abdullaah bin Abbaas رضي الله عنهما kah dete hain kabhi 'an Ibne Umar رضي الله عنهما aur basa auqaat an Abdullah bin Umar رضي الله عنهما neez ba'z auqaat an Anas bin Malik رضي الله عنهما zikr karte hain.

Algharz main iss mua'amle mein unki poori mutaabaqat karugna isi tarah kabhi sahabi ke hawale se bayaan karte huwe 'Anin-Nabiyyi ﷺ aur kabhi Qaala Rasoolullaah ﷺ kahte hain phir b'az auqaat Innan-Nabiyya ﷺ qaala kaza ke alfaaz zikr karte hain. baharhaal main ne alfaaz ke zikr karne mein

وَلَا أَذْكَرُ مِنَ الْأَحَادِيثِ، إِلَّا مَا كَانَ مُسْنَدًا مُتَّصِلًا، وَأَمَّا مَا كَانَ مَقْطُوعًا أَوْ مُعَلَّقًا فَلَا أَنْعَرُضُ لَهُ، وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنْ أَخْبَارِ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعَدَهُمْ مِمَّا لَيْسَ لَهُ تَعَلُّقٌ بِالْحَدِيثِ، وَلَا فِيهِ ذِكْرُ النَّبِيِّ ﷺ فَلَا أَذْكَرُهُ: كَحِكَايَةِ مَشِي أَبِي بَكْرٍ وَعَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَمَا كَانَ فِيهِ مِنَ الْمَقَاوِلَةِ بَيْنَهُمْ. وَكَقِصَّةِ مَقْتَلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَوَصِيَّتِهِ لَوْلَدِهِ فِي أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَائِشَةَ لِيُذْفَنَ مَعَ صَاحِبِيهِ، وَكَلَامِهِ فِي أَمْرِ الشُّورَى، وَبَيْعَةِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَوَصِيَّةِ الزُّبَيْرِ لَوْلَدِهِ فِي قَضَاءِ دِينِهِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

ثُمَّ إِنِّي أَذْكَرُ اسْمَ الصَّحَابِيِّ الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ فِي كُلِّ حَدِيثٍ لِيَعْلَمَ مَنْ رَوَاهُ، وَالتَّرْتِيبُ كَثِيرًا الْفَاطَةَ فِي الْعَالِبِ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: عَنْ عَائِشَةَ، وَتَارَةً يَقُولُ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَحِينًا يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَكَذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ. وَحِينًا يَقُولُ: عَنْ أَنَسٍ، وَحِينًا يَقُولُ: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَاتَّبِعُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ. وَتَارَةً يَقُولُ: عَنْ فُلَانٍ يَعْنِي الصَّحَابِيَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَتَارَةً يَقُولُ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَحِينًا يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كَذَا وَكَذَا، فَاتَّبِعُهُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، فَمَنْ وَجَدَ فِي هَذَا الْكِتَابِ مَا يُخَالِفُ الْفَاطَةَ فَلَعَلَّهُ مِنْ اخْتِلَافِ النُّسخِ.

Imam Bukhrai رحمه الله عليه ka poora poora itteba' kiya hia agar kisi jagah alfaaz ka koyi nazar aaye to use mutaddid nuskhon ke ikhtelaaf par mahmool kiya jaaye.

Tahdees-e-Ne'mat

Allah ke fazl wa karam se mujhe mukhtalif mashaikh-e-izaam se kayi ek muttasil asaaneed haasil hain jo Imam Bukhari tak pahunchi hain un me se chand ek yah ahin:

Pahli Sanad:-

Yaman ke Darul-hukoomat ta'ez mein Allaamah Nafeesuddeen Abur-Rabee Sulaimaan bin Ibraaheem 'Alvi se 823h mein main ne sahih Bukhari ke kuchh ajzaa padhe aur aksar ka sema'a karke us ki ijaazat (sanad) haasil ki unhon ne apne waalid-e-muhtaram se ijaazat-e-hadees li phir apne ustaaz sharful muhaddiseen Moosa bin Moosa bin Ali dimashqi se jo ghazuli ke naam se mashhoor hain mukammal taur par sahih Bukhari ka dars liya.

Allaamah ke waalid ko shaikh Abul-Abbaas Ahmed bin Abi Taalib Hajjaar se qaulan aur un ke ustaad ko se ma'an ijaazat haasil hai.

Doosri Sanad:-

Mujhe Imam Abul Fatah Muhmmad bin Imam Zainuddeen Abu Bakr bin Hussain madani Usmaani se Bukhari ke beshtar hissa ki sema' aur waise tamaam kitab ki ijaazat haasil hai. isi tarah Shaikh Imam Shamsuddeen Abu Azhar Muhammad bin Muhammad Jazri dimashqi se aur qaazi Allaamah Haafiz Taqiuddeen Muhammad bin Ahmed faasi jo makkah mukarramah mein uhda-e-qaza par faayiz the un se bhi mujhe bataur-e- ijaazat sanad haasil hai, in teenon shuyookh ko shaikhul Muhddeseen Abu

وَلِي بِحَمْدِ اللَّهِ فِي الْكِتَابِ
الْمَذْكُورِ أَسَانِيدُ كَثِيرَةٌ مُتَّصِلَةٌ
بِالْمُصَنِّفِ عَنْ مَشَائِخِ عَدَّةٍ.

فَمِنْ ذَلِكَ: رَوَيْتِي لَهُ عَنْ شَيْخِي
الْعَلَّامَةِ نَفِيسِ الدِّينِ أَبِي الرَّبِيعِ سُلَيْمَانَ
بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيِّ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى،
قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ لِبَعْضِهِ، وَسَمَاعًا
لَأَكْثَرِهِ، وَإِجَازَةً فِي الْبَاقِي، بِمَدِينَةِ تَعَزُّ
سَنَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ وَتَمَانٍ مِائَةً، قَالَ:
أَخْبَرَنَا بِهِ وَالِدِي وَشَيْخُنَا الْإِمَامَ الْكَبِيرَ
شَرْفَ الْمُحَدِّثِينَ مُوسَى بْنَ مُوسَى بْنِ
عَلِيِّ الدِّمَشْقِيِّ الْمَشْهُورِ بِالغَزُولِيِّ، قِرَاءَةً
مِنِّي عَلَيْهِ لِجَمِيعِهِ.

قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّيْخُ الْمُسْنِدُ الْمَعْمَرُ
أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي طَالِبِ الْحَجَّارِ،
إِجَازَةً لِأَوَّلِ وَسَمَاعًا لِلثَّانِي.

وَمِنْهَا: رَوَيْتِي لَهُ عَنِ الشَّيْخِ الصَّالِحِ
الْإِمَامِ وَلِيِّ اللَّهِ تَعَالَى أَبِي الْفَتْحِ مُحَمَّدِ
بْنَ الْإِمَامِ زَيْنِ الدِّينِ أَبِي بَكْرِ بْنِ
الْحُسَيْنِ الْمَدَنِيِّ الْعُثْمَانِيِّ، سَمَاعًا عَلَيْهِ
لَأَكْثَرِهِ وَإِجَازَةً لِجَمِيعِهِ.

وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ خَاتِمَةُ الْحُقَاطِ شَمْسِ
الدِّينِ أَبِي الْخَيْرِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
مُحَمَّدِ الْجَزْرِيِّ الدِّمَشْقِيِّ.

Ishaaq Ibraheem bin Muhammad bin Siddeeq dimashqi Al-m'arroof bih ibn-e-Rassaam se aur unhen hazrat Abul Abbaas Al Hajjaar se ijaazat Haasil hai.

Teesri Sanad:-

Main ne apne shaikh Abul Fatah ke bete Shaikh Imaam Zainuddeen Abu Bakr bin Hussain madani maraaghi se bhi aali sanad haasil ki hai neez qaazi Alquzaat majdudideen Muhammad bin Y'aqoob Shiraazi se bhi ijaazat Aammah lee.

In donon shuyookh ko hazrat Abul Abbaas hajjaar se ijaazat haasil hai shiakh Abul Abbaas Al-hajjaar ko shaikh Hussain bin Mubaarak Zabidi se, Unhen Shaikh Abul waqt Abdul Awwal bin Eesa bin Shuaib bin Al-harvi soofi se, Unhen shaikh Abur-Rahmaan bin Muhammad Muzaffar dauodi se, inhen Imaam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmed bin Hammuyah sarakhsee se aur unhen shaagird Imam Bukhari Shaikh Muhammad bin Yusuf farabri se aur unhen Shaikh Kabeer Imamul Muhaddeseen Abu Abdullah Muhammad bin Ismaa'el bin Ibraheem Bukhari se sanad-e -ijaazat haasil hai.

وَالْقَاضِي الْعَلَّامَةُ الْحَافِظُ تَقِيَّ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَاسِيَّ الشَّرِيفِ الْحَسَنِيِّ الْمَكِّيَّ قَاضِي الْمَالِكِيَّةِ بِمَكَّةَ الْمُشْرِفَةِ، إِجَازَةً مُعَيَّنَةً مِنْهُمْ لِجَمِيعِهِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى.

قَالُوا ثَلَاثَتُهُمْ: أَنْبَأَنَا بِهِ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْحَافِظُ شَيْخُ الْمُحَدِّثِينَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صِدِّيْقِ الدِّمَشْقِيِّ، الْمَعْرُوفُ بِابْنِ الرَّسَّامِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا بِهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَجَّارُ.

وَأَخْبَرَنِي بِهِ عَلِيًّا الشَّيْخُ الْإِمَامُ زَيْنُ الدِّينِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَدَنِيُّ الْمَرَاغِيُّ وَلَدُ شَيْخِنَا أَبِي الْفَتْحِ وَقَاضِي الْقُضَاةِ مَجْدِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الشِّيرَازِيَّ إِجَازَةً عَامَّةً.

قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْعَبَّاسِ الْحَجَّارُ قَالَ: أَنْبَأَنَا بِهِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ الْحُسَيْنُ بْنُ الْمُبَارَكِ الزَّيْدِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا بِهِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ أَبُو الْوَقْتِ عَبْدُ الْأَوَّلِ بْنُ عَيْسَى بْنِ شُعَيْبِ الْهَرَوِيُّ الصُّوفِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُظْفَرِ الدَّأُوْدِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا بِهِ الْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَمُوِيَّةِ السَّرْحَسِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا بِهِ الشَّيْخُ الصَّالِحُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفَرَبْرِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا بِهِ الْإِمَامُ الْكَبِيرُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

Inke elaawah bhi muta'addad asaaneed hain jo imaam Bukhari tak pahunchi hain.

Main ne sirf mashhoor aur 'aali Isnaad ke zikr par iktefaa kiya hai wa garna in ke elaawah bhi mujhe muta'addad shuyookh se ijaaazat haasil hai jin ka zikr tawaalat ka baa'is hai.

Main ne iss kitab ka naam (Attaj Reedus Sareehu li Ahaadeesil jaam'eis Sahih) tajweez kiya hai.

Du'a hai ke Allah ta'ala ise logon ke liye nafa bakhsh banaaye aur is ke zariye a'maal wa maqaasid ki islaah farmaye aameen.

وَلِكَلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْمَدْكُورِينَ
إِلَى الْبُخَارِيِّ أَسَانِيدُ كَثِيرَةٌ بِطُرُقٍ
مُتَنَوِّعَةٍ.

وَلِي بِحَمْدِ اللَّهِ أَسَانِيدُ غَيْرُ هَذِهِ عَنْ
مَشَايخَ كَثِيرِينَ بِطُولِ تَعْدَادِهِمْ،
اِقْتَصَرْتُ مِنْهَا عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقِ
لِشَهْرَتِهَا وَعُلُوِّهَا.

وَسَمَّيْتُ هَذَا الْكِتَابَ الْمُبَارَكَ :
(التَّجْرِيدُ الصَّرِيحُ لِأَحَادِيثِ الْجَامِعِ
الصَّحِيحِ).

وَالْمَسْئُولُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَنْفَعَ
بِدَالِكَ، وَيَجْعَلَهُ خَالِصًا لِرُجْهِهِ
الْكَرِيمِ.

وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و
صحابہ أجمعین.

Rasoolullah ﷺ par

Aaghaaz-e-wahi ka bayaan

Baab: wahi kaise shuru huyi?

1. Hazrat 'Umar bin Khattaab ؓ se rivaayat hai, bayaan karte hain ke main ne Rasoolullah ﷺ se suna Aap farmaate the "(Sawaab ke) tamaam kaam niyyaton par mauqoof hain aur har aadmi ko uski niyyat hi ke mutaabiq phal milega phir jis shakhs ne dunya kamaane ya kisi a'urat se shadi rachaane ke liye watan chhoda to us ki hijrat usi kam ke liye hai jis ke liye us ne hijrat ki hogi." (Sahih Bukhari:1)

Fawaaid: Ilmaam Bukhari ne is hadees ko kitaab ke shuru mein is liye bayaan kiya hai ke is kitaab ki taleef mein sirf Allah ta'ala ki raza maqsood hai neez wahi ke zariye ahkaam-e-shariya bayaan kiye jaate hain aur shara'ee ahkaam ki buniyaad khuloos-e-niyyat hai. (Awnul Baari:1/28) waazeh rahe ke har kaar-e-khair ke baar aawar hone ke liye achchhi niyyat ka hona zaroori hai basoorat-e-digar na sirf sawaab se mahroomi hogi balke Allah ke yahaan sakht sazaa ka bhi andesha hai aur jo a'maal khaalisan dil se muta'alliq hain masalan khauf wa rajaa (ummeed) waghairah in mein niyaat ki chandan zaroorat nahin. neez Nabi ﷺ ki taraf nuzool-e-wahi ka sabab aap ka ekhlaas-e-niyyat hi hai.

2. Hazrat Aaishah رضي الله عنها se rivaayat hai ke hazrat Haaris bin Hishaam ؓ ne Rasoolullah ﷺ se poochha ya Rasoolullah ﷺ! aap par wahi kaise aati hai? to Rasoolullah ﷺ ne irshaad farmaya: "kabhi to wahi aane ki kaifiyat ghanti (کھنٹی) ki tan tan ki tarah hoti hai aur yeh kaifiyat mujh par bahut giran (mushkil) guzarti hai phir jab farishte ka paighaam mujhe yaad ho jaata hai to yeh ruk jaati hai aur kabhi farishta insaani shakl mein mere paas aakar mujh se hum kalaam hota hai aur jo kuchh woh kahta hai main use mahfooz (yaad) kar leta hoon." Hazrat Aaishah رضي الله عنها ka bayaan hai ke main ne sakht sardi ke dinon mein Rasoolullah ﷺ ko dekha ke jab wahi aati to uske mauqoof hone par aap ki peshानी se paseena phoot padta tha. (Sahih Bukhari:2)

کتاب بدء الوحي

(باب: كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْوَحْيِ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)

۱. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصَيِّبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِيَ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)

(رواه البخارى: ۱)

۲. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ بَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلَاطَةِ الْجَرَسِ، وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، فَيَقْصِمُ عَيْنِي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيَكَلِّمُنِي فَأَعْي مَا يَقُولُ).

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبُرْدِ، فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا. (رواه البخارى: ۲)

Fawaaid: Aap ke paas wahi kis haalat mein aati hai? is sawaal men teen cheezen aajati hain. (1) Khud wahi ki kaifiyat, (2) Haamil-e-wahi Hazrat Jibraeel عليه السلام ki kaifiyat (3) Khud Rasoolullah ﷺ ki kaifiyat. Jawaab mein in teenon cheezon ki wazaahat hai. hadees mein wahi ki do sooraton ko bayaan kiya gaya hai jo 'aam taur par aap ko pesh aati thi iske elaawah kabhi khaab ki shakl mein kabhi hazrat Jibraeel ke apne asli roop mein aane se aur kabhi Allah Ta'ala ka pas-e-pardah bazaat-e-khud kalaam karne se bhi wahi ka suboot milta hai.

('Awnul bari:1/38)

3. Hazrat Aishah رضي الله عنها se hi rivaayat hai ke unhon ne farmaya: Rasoolullah ﷺ par wahi ki ibteda sachche khaabon ki shakl mein huyi, Aap jo kuchh khaab mein dekhte woh subh ki safedi ki tarah namudaar hota phir aap ko tanhaayi mahboob hogayi chunaanche aap ghaar-e-hira mein khalwat ikhtiyaar farmaate aur kayi kayi raat ghar tashreef laaye baghair masroof-e-ibaadat rahte. aap khaane peene ka samaan ghar se le jaa kar wahaan chand roz guzaarte phir Hazrat Khadijah رضي الله عنها ke paas waapas aate aur taqreeban utne hi dinon ke liye phir tosha le jaate. ek roz jab ke aap ghaar-e-hira mein the yakaa yak aap ke paas haq aa gaya aur ek farishte ne aakar aap se kahaa: padho! Aap ne farmaya main padha huwa nahin hoon, iss par farishte ne mujhe pakad kar khoob dabocha yahan tak ke meri quwwat-e-bardaasht jawaab dene lagi phir chod kar kaha, padho! main ne kaha main padha huwa nahin hoon. usne dobaraah mujhe pakad kar dabocha yahaan tak ke meri quwwat-e-bardaasht jawaab dene lagi phir chod kar kaha, padho! main ne phir kaha main padha huwa nahin hoon, usne teesri baar mujhe pakad kar dabocha phir chod kar kaha, padho apne rab ke naam se jis ne paida kiya, jis ne insaan ko khoon ke lothde se paida kiya, aur tumhaara rab to nehaayat kareem hai.

Rasoolullah ﷺ in aayaat ko le kar waapas aaye aur aap ka dil dhadak raha tha. chunaanche aap (apni beevi) Hazrat Khadijah bint-e-Khowailid رضي الله عنها ke paas tashreef

۳. عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَوَّلُ مَا بَدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْوَحْيِ الرَّؤْيَا الصَّالِحَةَ فِي النَّوْمِ، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، ثُمَّ حَبَبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ، فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءٍ، فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ— وَهُوَ التَّعَبُّدُ. اللَّيَالِي ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ، وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِمِثْلِهَا، حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَاءٍ، فَجَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ، قَالَ: مَا أَنَا بِقَارِئٍ) قَالَ: (فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أُرْسَلَنِي) فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: (مَا أَنَا بِقَارِئٍ) فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ، ثُمَّ أُرْسَلَنِي) فَقَالَ: اقْرَأْ، قُلْتُ: (مَا أَنَا بِقَارِئٍ) فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ أُرْسَلَنِي) فَقَالَ: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ) فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْجُفُ فَوَاؤُهُ، فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَالَ: (رَمَلُونِي

laaye aur farmaaya: "Mujhe chaader odha do mujhe chaader odha do." unhon ne aap ko chaadar odhadi yahaan tak ke khauf zadgi ki kaifiyat door ho gayi, phir aap ne hazrat Khadijah رضي الله عنها ko waqiah ki ittela dete huye farmaya: "mujhe apni jaan ka dar hai" hazrat Khadija رضي الله عنها ne kaha: qat'an nahin, Allah ki qasam! Allah Ta'ala aap ko kabhi ruswa nahin karega. aap silah rahmi karte hain, darmandon ka bojh uthhate hain, faqeroon wa muhtaaajon ko kama kar dete hain mehmaanon ki mezbaani karte hain aur haq ke silsile mein pesh aane wale masaab mein madad karte hain.

Phir hazrat Khadijah رضي الله عنها Rasoolullah ﷺ ko saath lekar apne chacha zaad bhayi Warqa bin Naufal bin Asad bin Abdul 'Uzza ke paas aayeen. Warqa daur-e-jehaalat mein 'eesaayi ho gaye the aur 'Ibraani bhi likhna jaante the chunaanche 'Ibraani zabaan mein hasb-e-taufeeq elaahi injeel likhte the uss waqt bahut boodhe aur naa beena ho chuke the, un se hazrat Khadijah رضي الله عنها ne kaha bhayi jaan! aap apne bhateeye ki baat sunein, warqa ne poochha: bhateeye kiya dekhte ho? Rasoolullah ﷺ ne jo kuchh dekha tha woh bayaan farmaa diya uss par Warqa ne aap se kahaa: yeh to wahi naamoos (wahi laane waala farishta) hai jise Allah Ta'ala ne Hazrat Moosa عليه السلام par naazil farmaaya tha, kaash main aap ke zamaane nubuwat mein tawana hota, kaash main uss waqt tak zindah rahoon jab aap ki qaum aap ko nikaal degi. Rasoolullah ﷺ ne farmaaya, achchha to kiya woh log mujhe nikaal denge? Warqa ne kahaa: haan! jab bhi koyi aadmi is tarah ka paighaam laaya jaisa aap laaye hain to usse zaroor dushmani ki gayi aur agar mujhe aap ka zamaana naseeb huwa to main tumhaari bhar poor madad karunga, uske b'ad Warqa jald hi faut ho gaye aur (kuchh dinon tak)

زَمَلُونِي). فَرَمَلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ
الرَّوْعُ، فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا
الْخَبَرَ: (لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي)
فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: كَلَّا وَاللَّهِ مَا
يُخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا، إِنَّكَ لَتَصِلُ
الرَّحِمَ، وَتَحْمِلُ الْكُلَّ، وَتَكْسِبُ
الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ
عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ.

فَانْطَلَقْتُ بِهِ خَدِيجَةَ حَتَّى أَتَتْ بِهِ
وَرَقَةَ بْنَ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزَى،
ابْنَ عَمِّ خَدِيجَةَ، وَكَانَ أَمْرًا اتَّصَرَ
فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ
الْعِبْرَانِيَّ، فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ مَا شَاءَ
اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ
عَمِيَ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ: يَا ابْنَ عَمِّ،
اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ:
يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ خَبْرًا رَأَى، فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ:
هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَلَ اللَّهُ عَلَى
مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَدْعًا، لَيْتَنِي
أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ،
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَوْ مُخْرِجِي
هُمُ؟) قَالَ: نَعَمْ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ
بِمِثْلِ مَا جِئْتُ بِهِ إِلَّا عُودِي، وَإِنْ
يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرَكَ نَصْرًا
مُؤَزَّرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوَفِّيَ
وَفَتَرَ الْوَحْيَ. (رواه البخاري: ٣)

wahi ruk gayi. (Sahih Bukhari:3)

Fawaaid: Fatrate wahi (bandish-e-wahi) ke zamaana men sirf nuzool-e- qur'an mua'khhkar huwa tha Hzrat Jibraeel ki aamad-o-raft munqa'ta nahin huyi thi aur jab kabhi aap pahaad par apne aap ko gira dene ke iraaade se chad te to aap ko tasalli dene ke liye hazrat jibraeel ﷺ tashreef laate aur aap ko Nabi bar haq hone ka bashaarat sunaate. ('Awnul-bari:1/38)

4. Hazrat Jaabir bin Abdullah Ansaari رضی اللہ عنہ سے rivaayat hai, unhon ne Rasoolullah ﷺ ki zabaani bandish-e- wahi ka waqia'h suna, aap ne bayaan farmaya: ek roz main raaste se guzar raha tha ke achaanak mujhe aasmaan se ek aawaaz sunaayi di, main ne sar uthhaya to dekha ke wahi farishta jo mere paas ghaar-e-Hira mein aaya tha aasmaan wa zameen ke darmiyaan ek kursi par baithha huwa hai, main use dekh kar sakht dahshat zadah ho gaya, ghar laut kar main ne ahl-e-khaanah se kaha mujhe chaadar odhaao, mujhe chaadar odhaao (Unhon ne mujhe chaadar odhaadi). uss waqt Allah Ta'ala ne wahi naazil ki: "A chaadar lapet kar sone wale, Uthho aur khabar daar karo aur apne rab ki badayi ka e'laan karo aur apne kapde paak rakhkho aur gandagi se door raho. (Suratul Modassir) phir nuzool-e-wahi mein tezi aagayi aur laga taar naazil hone lagi. (Sahih Bukhari:4)

Fawaaid: "Fahamiyal Wahyu" ka lughwi ma'na "wahi garm hogayi" jab koyi cheez garam ho jaaye to kuchh der ke b'ad thhandi ho jaati hai, mutataabe' ka matlab hai ke wahi musalsal shuru ho gayi garm hone ke b'ad goya sard nahin huyi. ('Awnul- bari:1/45)

5. Hazrat ibne Abbaas رضی اللہ عنہما iss farmaan-e-elaahi "Aye paighambar! Aap wahi ko jaldi se yaad karne ke liye apni zabaan ko harkat na den" ki tafseer bayaan karte huye farmaate hain ke Rasoolullah ﷺ qur'an utarte waqt (use yaad karne ke liye) apne honton ko hilaaya karte the aur uss se Aap ﷺ ko kaafi takleef hoti thi (hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما ne kahaa main hont hilaakar dekhataa hoon jaise Rasoolullah ﷺ apne hont hilaate the) iss par Allaah ta'ala ne farmaaya "Aye Nabi! is wahi ko jaldi jaldi yaad karne ke liye apni zabaan ko harkat na

۴. عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فِتْرَةِ الْوَحْيِ، فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ: (بَيْنَا أَنَا أَمْشِي إِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِجْرٍ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَرَعَبْتُ مِنْهُ، فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ: زَمِلُونِي زَمِلُونِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. وَيَتَابَكَ فَطَهِّرْ. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ فَحِمَى الْوَحْيُ وَتَتَابَعَ (رواه البخاري: ۴)

۵. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ﴾ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَالِجُ مِنَ التَّزْيِيلِ شِدَّةً، وَكَانَ مِمَّا يُحْرِكُ شَفْتَيْهِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَنَا أَحَرُّ كُهُمَا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَرِّكُهُمَا. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَا تُحْرِكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ﴾

do, isko jama karna aur padha dena hamari zimmadaari hai" y'ani aap ke seene mein mahfooz kardena aur padha dena hum par hai" phir iss irshaad-e-elaahi: "Phir jab hum padh chuken to hamaare padhne ki pairvi karo" ki tafseer karte huye farmaya: khaamooshi se kaan lagaa kar sunta rah" phir farmaan-e-elaahi: uska bayaan karna bhi hamara kaam hai" ki tafseer karte huye farmaaya phir iska matlab samjhaa dena bhi hamaari zimmedaari hai. In aayaat ke nuzool ke b'ad jab Hazrat Jibraeel ﷺ Rasoolullah ﷺ ke paas aakar qur'aan sunate to aap kaan laga kar sunte rahte, jab woh chale jaate to Rasoolullah ﷺ use (wa'da-e-elaahi ke mutaabiq) uss tarah padhte js tarah Hazrat Jibraeel ﷺ ne padha tha.(Bukhri:5)

Fawaaid: Iss hadees mein qur'an hakeem ke muta'alliq teen maraahil ko zikr kiya gaya hai. pahla marhala yah hai ke aap ke seena-e-mubaarak mein mahfooz tareeqe par utaarna aur doosra marhala yah hai ke qalb mubaark mein jama shudh qur'aan ko zabaan ke zariye padhne ki tafseel dena phir aakhri marhala qur'an ke mujmalaat ki tashreeh aur mushkilaat ki tauzeeh hai jo ahaadees (Sahiha) ki sahl mein maujood hai. in tamaam maraahil ki zimmedaari khud Allah ta'ala ne uthhayi hai. (Awnul-bari:1/58)

6. Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ sab logon se ziyaadah sakhi the, Khusooson ramzaan mein jab hazrat Jibraeel ﷺ se aap ki mulaqaat hoti to bahut sakhaawat karte aur hazrat jibraeel ﷺ ramzaanul mubaarak mein har raat aap se mulaqaat karte aur qur'aan majeed ka daur farmaate. al-gharaz Rasoolullah ﷺ sadqah karne mein khuli hawa (Aandhi) se bhi ziyaadah tez tar raftaar hote.(Bukhari:6)

Fawaaid: Iss hadees ki baab se munaasabat is tarah hai ke jitnaa hissa qur'an ka naazil ho chukha tha utne hisse ka Hazrat Jibraeel ﷺ har ramzaan mein aap se daur karte, aakhiree saal aap ne do martabah daur farmaaya taake majmoo'ye taur par pure qur'aan ki yaad dehaani ho jaaye. ('Awnul-bari:1/60)

7. Hazra ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se hi rivaayat hai unhon ne farmaaya ke Abu Sufyaan bin Harb ﷺ ne unse bayaan kiya ke (Shaah-e-Room) hiraql ne usko quraish ki ek jama'at

قَالَ: جَمَعُهُ لَكَ فِي صَدْرِكَ
وَتَقْرَأَهُ: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾
قَالَ: فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنْصِتْ ﴿ثُمَّ إِنْ
عَلَيْنَا بَيِّنَاتٌ ﴿ثُمَّ إِنْ عَلَيْنَا أَنْ تَقْرَأَهُ،
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا
أَتَاهُ جِبْرِيلُ اسْتَمَعَ، فَإِذَا انْطَلَقَ جِبْرِيلُ
قَرَأَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمَا قَرَأَهُ،

(رواه البخارى: ٥)

٦. وَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ
أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ
جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي
كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيَدَارِسُهُ الْقُرْآنَ،
فَلَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ
الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ (رواه البخارى: ٦)

٧. وَ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ
بْنَ حَرْبٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ
إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، كَانُوا تَجَارًا

samet bulwaaya. yeh jama'at Sulah Hudaibiya ke tehat Rasoolullah ﷺ aur kuffaar-e-quraish ke darmiyaan tai shudh arasa-e-aman mein mulk-e-Shaam baghrz tejaarat gayee huyi thi. yeh log eeliya (Baitul Muqaddas) mein us ke paas haazir ho gaye. Hiraql ne inhen apne darbaar mein bulaaya uss waqt uske ird gird Room ke bade log baithhe huye the. phir usne un ko aur apne tarjumaan ko bulaa kar kahaa ke yeh shakhsh jo apne aap ko Nabi samajhta hai tum mein se kaun uska qareebi risht-e-daar hai? Abu Sufyaan ne kahaa main uska sab se ziyaadah qareebun-nasab hoon, tab Hiraql ne kaha, ise mere qareeb kardo aur uske saathiyon ko bhi qareeb karke us ka pas-e-pusht baithhaao. uske b'ad Hiraql ne apne tarjumaan se kaha: In se kaho ke main iss shakhs se uss aadmi (Nabi ﷺ) ke muta'alliq sawaalaat karunga agar yeh ghalat bayaani kare to tum logon ko use jhuhtlaa dena hai. Abu Sufyaan ﷺ kahte hain ke Allah ki qasam! agar yeh jhoot bolne ki badnaami ka khauf na hota to main aap ﷺ ke muta'alliq yaqeenan jhoot bolta.

Abu Sufyaan ﷺ kahte hain ke is ke ba'd pahla sawaal jo Hiraql ne mujh se aap ke baare mein kiya woh yeh tha ke tum logon mein uska nasab kaisa hai? Main ne kaha woh ounche nasab waala hai. phir kahne laga, achha! to kiya yeh baat iss se pahle bhi tum mein se kisi ne kabhi kahi thi? main ne kaha nahin, kahne laga! achchha uske buzrugon mein se koyi baadshaah guzra hai? main ne kaha nahin, kahne laga: achchha yeh bataao ke bade logon ne uski pairvi ki hai ya ghareebon ne? main ne kaha balke kamzoron ne, kahna laga: uske pairo kaar (din ba din) badh rahe hain ya kam ho rahe hain? main ne kaha balke unki ta'daad mein ezaafah ho raha hai. kanhe laga: kiya uss

بِالشَّامِ، فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَادَّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ، فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِأَيْلِيَاءَ، فَدَعَاهُمْ وَحَوْلَهُ عُظْمَاءُ الرُّومِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ فَدَعَا بِالتَّرْجُمَانِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ: أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَقْرَبُهُمْ، فَقَالَ: أَذْنُوهُ مِنِّي، وَقَرَّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِرَجُلَيْنِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَأَلْتُ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكُذِّبُوهُ. فَوَاللَّهِ لَوْلَا الْحَيَاءُ مِنْ أَنْ يَأْتُرُوا عَلَيَّ كَذِبًا لَكَذَّبْتُ عَنْهُ. ثُمَّ كَانَ أَوَّلَ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَنْ قَالَ: كَيْفَ نَسَبُهُ فِيمَكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ. قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مِنْكُمْ أَحَدٌ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَأَشْرَافِ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعْفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: ضَعْفَاؤُهُمْ، قَالَ: أَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ.

قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخَطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ يُمَكِّنِي كَلِمَةً أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ

deen mein daakil hone ke bad koyi shakhs uss deen se bargashta ho kar murdat bhi ho jaata hai? main ne kaha nahin, kahne laga: usne jo baat kahi hai kiya us (da'wa-e-Nabuwat) se pahle tum log usko jhoot ka ilzaam dete the? main ne kaha: nahin, kahne laga: kiya woh bad ahdi karta hai? main ne kaha nahin, al batta hum log iss waqt uske saath sulah ki ek muddat guzaar rahe hain maloom nahin iss mein woh kiya karega? Abu Sufyaan kahte hain ke iss faqre ke siwa mujhe aur kaheen (apni taraf se) baat daakil kanre ka mauqa nahin mila, kahne laga: kiya tum logon ne uss se jung ladi hai? main ne kaha: ji haan, uss ne kaha phir tumhaari aur uski jung kaisi rahi? main ne kaha jung hum donon ke darmiyaan baraabar ki chot hai kabhi woh hamein zak pahunchaa leta hai aur kabhi hum use nuqsaan se do chaar kardete hain. kahne laga: woh tumhein kin baaton ka hukm deta hai? main ne kaha woh kahta hai sirf Allah ki ibaadat karo us ke saath kisi cheez ko shareek na karo, jin ki tumhaare baap dada ibaadat karte the un ko chhod do aur woh hamein, namaaz, sachchaayi, parhez gaari. paak daamni aur qaraabat daaron ke ssath husn-e-sulook ka hukm deta hai.

Iske ba'd Hiraql ne apne tarjumaan se kaha tum iss shakhs (Abu Sufyaan) se kaho ke main ne tum se uss shakhs (Nabi ﷺ) ka nasab poochha to tum ne bataaya ke woh ounche nasab ka hai aur dastoor yahi hai ke paighambar (hamesha) apni qaum ke ounche nasab mein se bheje jaate hain aur main ne daryaافت kiya ke aaya yeh baat iss se pahle bhi tum mein se kisi ne kahi thi? tum ne batlaaya ke nahin. main kahata hoon ke agar yeh baat iss se pahle kisi aur ne kahi hoti to main kahta ke yeh shakhs ek aisi baat ki naqqaali kar raha hai jo isse pahle kahi jaa

هَذِهِ الْكَلِمَةَ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟
 قلت: نَعَمْ. وَقَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالِكُمْ
 إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ
 سَجَالٌ، يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ:
 فَمَادَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اْعْبُدُوا
 اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا،
 وَاتْرِكُوا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ.
 وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ وَالْعَفَافِ
 وَالصِّلَةِ، فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي
 سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ
 ذُو نَسَبٍ، وَكَذَلِكَ الرَّسُلُ تَبِعَتْ
 فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ
 أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ، فَذَكَرْتَ أَنَّ
 لَا، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ
 قَبْلَهُ، لَقُلْتُ رَجُلٌ يَتَأَسَى بِقَوْلٍ قِيلَ
 قَبْلَهُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ
 مَلِكٍ، فَذَكَرْتَ أَنَّ لَا، قُلْتُ: لَوْ كَانَ
 مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ، قُلْتُ رَجُلٌ
 يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ
 كُنْتُمْ تَتَّهَمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ
 مَا قَالَ، فَذَكَرْتُ أَنَّ لَا، فَقَدْ أَعْرِفَ أَنَّهُ
 لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ
 وَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ. وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافَ
 النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضَعَفَاؤُهُمْ، فَذَكَرْتَ
 أَنَّ ضَعَفَاؤُهُمْ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ اتَّبَاعُ
 الرَّسُلِ. وَسَأَلْتُكَ أَيَزِيدُونَ أَمْ
 يَنْقُصُونَ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ،
 وَكَذَلِكَ أَمْرُ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتِمَّ

chuki hai aur main ne dariyaft kiya ke uske buzrogon mein se koyi baadshaah guzra hai? tum ne batlaya ke nahin, main kahta hoon ke agar uske buzrogon mein koyi baadshaah guzra hota to main kahta ke yeh shakhs apne baap ki baadshaahat ka taalib hai aur main ne yeh daryaft kiya ke jo baat usne kahi hai iss (dawa-e-nabuwat) se pahle tum ne kabhi uss par jhoot bolne ka ilzaam aayed kiya tha. to tum ne batlaaya ke nahin aur main achchhi tarah jaanta hoon ke aisa nahin ho sakta ke woh shakhs logon par jhoot baandhne se parhez kare aur Allah par jhoot bole. main ne yeh bhi daryaft kiya ke bade log uske pairvi kar rahe hain ya kamzor? to tum ne batlaaya ke naa tawaan logon ne uski pairvi ki hai aur haqeeqat yehi hai ke iss qism ke log hi paighambaron ke pairo kaar hote hain. main ne poochha ke woh badh rahe hain yaa kam ho rahe hain? tum ne batalaaya ke unki ta'daad mein musalsal ezaafah ho raha hai aur dar haqeeqat eemaan ka yahi haal hota hai ta aanke woh paay-e-takmeel tak pahunch jaata hai. phir main ne poochha ke kiya iss deen mein daakhil hone ke ba'd koyi shakhs mutanaffir ho kar murtaad bhi hota hai? to tum ne batlaaya ke nahin aur eemaan ka yahi haal hota hai ke iski chaashni jab dil mein sama jaati hai to phir nikalti nahin aur main ne daryaft kiya ke kiya woh ahad shikni bhi karta hai? to tum ne batlaaya ke nahin aur Rasool aise hi hote hain woh dhoka nahin karte. main ne yeh bhi poochha ke woh tumhein kin baaton ka hukm deta hai? to tum ne batlaaya ke woh Allah ki ibaadat karne aur uske saath koyi shareek na thhahraane ka hukm deta hai. tumhein but parasti se mana karta hai aur tumhein namaaz, sachchaayi aur parhez gaari wa paakdaamni ikhtiyaar kanre ke muta'alliq

وَسَأَلْتُكَ أَيَّرْتَدُّ أَحَدٌ سَخَطَةَ لِدِينِهِ
بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَا،
وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ
بَشَاشَتَهُ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ
يَغْدِرُ، فَذَكَرْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ
الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ بِمَا
يَأْمُرُكُمْ، فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ
تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا، وَبَيْنَهُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ،
وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقِ
وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا
فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمِي هَاتَيْنِ، وَقَدْ
كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ
مِنْكُمْ، فَلَوْ أَعْلَمْتُ أَنِّي أَخْلَصُ إِلَيْهِ،
لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ
لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ. ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الَّذِي بَعَثَ بِهِ دُحْيَةَ
إِلَى عَظِيمِ بُصْرَى، فَدَفَعَهُ إِلَى هِرْقَلِ،
فَقَرَأَهُ فَإِذَا فِيهِ: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
إِلَى هِرْقَلِ عَظِيمِ الرُّومِ: سَلَامٌ عَلَيَّ
مَنْ أَتْبَعَ الْهُدَى، أَمَا بَعْدُ، فَإِنِّي
أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ، أَسْلِمْ
تَسْلِمًا، يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ،
فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ
الْأَرِيسِيِّينَ، وَ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ
تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
الَّتِي نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا

kahta hai, to jo kuchh tum ne bataaya hai agar woh sahih hai to yeh shakhs bahut jald iss jagah ka maalik ho jaayega jahaan mere yeh donon qadam hain. main jaanta tha ke yeh Nabi Aane wala hai lekin mera yeh khayaal na tha ke woh tum mein se hoga. agar mujhe yaqeen hota ke main uske paas pahunch sakunga to uss se mulaqaat ki zaroor zahmat uthhata agar main uske paas (Madina mein) hota to zaroor uske paaon dhota, iske ba'd Hiraql ne Rasoolullah ﷺ ka woh khat mangwaaya jo aap ne Dahya Kalbi (رحمة كلبى) ke zariye haakim-e-basra ke paas bhejaa tha aur usne woh khat Hiraql ko pahuncha diya tha. Hiraql ne use padha uss mein yeh likha tha. shuroo' Alllah ke naam se jo bahut Mehar baan Nehaayat Raham karne waala hai.

Allah ke bande aur uske Rasool Muhammad ﷺ ki taraf se Hiraql Azeem-e-Room ke naam.

Uss shakhs par salaam jo hidaayat ki pairvi kare, uske ba'd main tujhe kalma-e-Islam (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) ki da'wat deta hoon. Musalmaan ho jaa tu mahfooz rahega, Allah ta'ala tujhe dohra ajr dega phir agar tu yeh baat na maane to teri rea'ayaa ka gunah bhi tujh par hoga.

"Aye Ahle kitab! ek aisi baat ki taraf aa jao jo hamaare aur tumhaare darmiyaan yaksaan hai. hum Allah ke elaawah kisi aur ki ibaadat na karen aur uske saath kisi ko shareek na karen aur hum mein se koyi Allah ke elaawah ek doosre ko apna kaar saaz na samjhe pas agar yeh log e'raaz karen to saaf kah do ke gawaah raho hum to farmaan bardaar hain".

Abu Sufyaan رضي الله عنه ne kaha jab Hiraql jo kahna chahta tha kah chuka aur khat padh kar faarigh huwa to wahaan aawaazen buland huyin aur bahut shor macha aur hum baahar nikaal diye gaye. main ne baahar aakar apne

يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ ط فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٥٥﴾. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّخَبُ وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا، فَقُلْتُ لِصَاحِبِي: لَقَدْ أَمَرَ أَمْرٌ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ. إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ. فَمَا زِلْتُ مُوقِنًا أَنَّهُ سَيُظْهِرُ حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامَ. وَكَانَ ابْنُ النَّاطُورِ، صَاحِبَ إِبِلِيَاءَ وَهَرَقُلَ، أُسْقِفَ عَلَى نَصَارَى الشَّامِ، يُحَدِّثُ أَنَّ هَرَقُلَ حِينَ قَدِمَ قَدِمَ إِبِلِيَاءَ، أَصْبَحَ خَبِيئَ النَّفْسِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ بَطَارِقَتِهِ: قَدْ اسْتَكْرَمْنَا هَيْئَتَكَ، قَالَ ابْنُ النَّاطُورِ: وَكَانَ هَرَقُلُ حَزَاءً يُنْظَرُ فِي النُّجُومِ، فَقَالَ لَمْ حِينَ نَظَرْتُ فِي النُّجُومِ أَنَّ مَلِكَ الْخِثَّانِ قَدْ ظَهَرَ، فَمَنْ يَخْتَبِئُ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ قَالُوا: لَيْسَ يَخْتَبِئُ إِلَّا الْيَهُودُ، فَلَا يَهْمَنَّكَ شَأْنُهُمْ، وَاکْتُبْ إِلَى مَدَائِنِ مُلْكِكَ، فَيَقْتُلُوا مَنْ فِيهِمْ مِنَ الْيَهُودِ. فَيَيْنَمَا هُمْ عَلَى أَمْرِهِمْ، أَتَى هَرَقُلُ بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ عَسَانَ يُخْبِرُ عَنْ خَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا اسْتَخْبَرَهُ هَرَقُلُ قَالَ: أَذْهِبُوا فَانظُرُوا أَمْخَتَيْنِ هُوَ أَمْ لَا؟ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ، فَحَدَّثُوهُ أَنَّهُ مَخْتَبِئٌ، وَسَأَلَهُ عَنِ الْعَرَبِ، فَقَالَ: هُمْ يَخْتَبِئُونَ، فَقَالَ

saathiyon se kaha: Abu Kabsha ke bete ka mua'amlah bada zor pakad gaya uss se to roomiyon ka baadshaah bhi darta hai, uss roz ke ba'd mujhe baraabar yaqeen raha ke Rasoolullah ﷺ ka deen ghaalib aakar rahega, yahaan tak ke Allah ta'ala ne mere andar islaam jaa guzin kar diya.

Ibn-e-Natoor jo eiliya ke governor Hiraql ka musaahib aur shaam ke eesaaiyon ka paadri tha bayaan karta hai ke Hiraql jab eiliya (Baitul Muqaddas) aaya to ek roz subah ke waqt ranjeedah khaatir bedaar huwa aur uske kuchh musaahib kahne lage hum dekhte hain ke aap ki tabiyat kuchh bujhi bujhi hai ibn-e-Naatoor ne kaha ke Hiraql maahir nujoomi aur sitaarah shanaas tha jab logon ne uss se poochha to kahne laga ke main ne aaj raat taaron par ek nigaah dali to dekhta hoon ke khatna karne waalon ke baadshaah ka zuhoor ho chuka hai (bataao) in dinon kaun log khatna karte hain? masaahib kahne lage yahoodiyon ke siwa koyi khatna nahin karta, un se fikr mand hone ke chandaan zaroorat nahin, aap apne ahl-e-elaqa ko parwaana bhej den ke wahaan ke tamaam yahoodiyon ko maar daalen. iss guftagoo ke dauraan hi Hiraql ke saamne ek shakhs pesh kiya gaya jise Shaah-e-Ghassan ne bheja tha aur woh Rasoolullah ﷺ ka haal bayaan karta tha, jab Hiraql ne uss se tamaam ma'loomaat haasil kar leen to kahne laga ke ise le jao aur dekho ke iss ka khatna huwa hai ya nahin? logon ne use dekha aur Hiraql ko bataya ke is ka khatna huwa hai, Hiraql ne uss se daryaافت kiya ke a'rab khatna karte hain.usne kaha haan woh khatna karte hain tab Hiraql ne kaha yahi shakhs (Paighambar) iss ummat ka baadshaah hai jis ka zuhoor ho chuka hai phir Hiraql ne apne ilm mein hum palla ek dost ko roomiyah mein khat likha

هَرَقْلُ: هَذَا مَلِكُ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَدْ
ظَهَرَ. ثُمَّ كَتَبَ هَرَقْلُ إِلَى صَاحِبِ لَهُ
بِرُومِيَّةٍ، وَكَانَ نَظِيرَهُ فِي الْعِلْمِ، وَسَارَا
هَرَقْلُ إِلَى حِمَصَ، فَلَمَّ يَرِمُ حِمَصَ
حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِنْ صَاحِبِهِ يُوَأْفِقُ
رَأَى هَرَقْلُ عَلَى خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ،
وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هَرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ
فِي دَسْكَرَةِ لَهُ بِحِمَصَ، ثُمَّ أَمَرَ
بِأَبْوَابِهَا فَعَلِقَتْ، ثُمَّ أَطْلَعَ فَقَالَ: يَا
مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ
وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ، فَتَبَايَعُوا
هَذَا النَّبِيَّ؟ فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ
الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ
عُلِقَتْ، فَلَمَّا رَأَى هَرَقْلُ نَفَرْتَهُمْ،
وَأَيْسَ مِنَ الْإِيمَانِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ،
وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالِي أَنِفًا اخْتَبِرْ بِهَا
شِدَّتْكُمْ عَلَيَّ دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ،
فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ
آخِرَ شَأْنِ هَرَقْلِ.

(رواه البخارى: ٤)

aur khud Hims rawaana hogaya, abhi Hims nahin pahuncha tha ke use apne dost ka jawaab mau sool ho gaya, uski raaye bhi Rasoolullah ﷺ ke zaahir hone mein Hiraql ke mowaafiq thi ke aap nabi-e-bar haq hain, aakhir Hims pahunch kar usne room ke sardaaron ko apne mahal aane ki da'wat di. (jab woh aagaye) to usne hukm de kar darwaazah band karwaadiya phir baala khaana se unhen dekha aur kahne laga room ke logo! agar tum apni kaamyabi bhalaayi aur baadshaahat par qaayem rahna chaahte ho to iss paighambar ki bai'at karlo, yeh (elaan Haq) sunte hi woh log jangli gadhon ki tarah darwaazon ki taraf daude dekha to woh band the ab jab Hiraql ne unki nafrat ko dekha aur unke eemaan laane se maayoos huwa to kahne laga in sardaaron ko mere paas laao. (jab woh aaye) to kahne laga ke main ne abhi jo baat tumhein kahi thi woh sirf aazmaane ke liye thi ke dekhun tum apne deen par kiss qadar mazboot ho? ab main woh dekh chuka phir tamaam hazreen ne use sajdah kiya aur us se raazi ho gaye. yeh Hiraql ke eemaan laane) ke muta'alliq aakhree aakhree m'aloomaat hain.

(Bukhari:7)

Fawaaid:Hiraql se muta'alliq yeh hadees goya barzakhi hadees hai kyun ke iss ka ta'alluq wahi ke saath bhi bayin taur hai ke Hiraql jo eesaayi mazhab ka haamil tha usne Rasoolullah ﷺ ki risaalat ka eqraar kiya jo wahi ka nateeja hai aur iske hadees ka maa ba'd kitabul eemaan se bhi ta'alluq hai kyun ke eemaan ki imtiyaazia'laamat 'amal wa mutaaba'at hai jo Hiraql mein na thi, tasdeeq-e-jali aur eqraar maujood hai lekin uske mutaabiq amal na karne se kaafir hi raha, Haafiz Ibne Hajar ne likha hai ke Imam Bukhari ne iss kitab ko hadees-e-niyat se shuroo kiya tha goya aap yeh bataana chaahte hain ke agar Hiraql ki niyat durst thi to use kuchh faaidah pahunchne ki ummeed hai basoorat digar uske muqaddar mein halaakat aur tabaahi ke siwa kuchh nahi. ('Awnul-bari:1/87)

Noat:-Iss hadees mein teesri cheez (Mooha elaih) Y'ani jis par wahi utri thi ki sifaat wa kaifiyaat ko bhi bayaan kiya gaya hai. (Alvi)



Eemaaniyaat

کتابُ الْإِيمَانِ

Eemaan ke liye teen cheezon ka hona zaroori hai. 1) Dil se tasdeeq. 2) Zabaan se eqraar. 3) Digar a'azaa se iltezaam-e-amal wa mutaaba'at. yahood ko aap ki ma'rifat wa tasdeeq thi neez Hiraql aur abu Talib ne to eqraar bhi kiya tha lekin uske bawajood momin nahin hain dil se tasdeeq aur zabaan se eqraar ki a'mal wa mutaaba'at ke baghair koyi haisiyat nahin, lehaaza tasdeeq mein kotaahi ka murtakib munafiq aur eqaraar mein kotaahi kufr ka baa'is jab ke amlki kotaahi ka nurtakib faasiq hai agar inkaar ki wajah se bad 'amli ka shikaar hai to uske kufr mein koyi shubah nahin aise haalaat mein tasdeeq wa eqraar ka koyi faayedah nahin.

Baab 1: Farmaan-e-Nabwi:

"Islam ki Buniyad Paanch Cheezen Hain"

8. Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما se rivayaat hai ke Rasoolullah ﷺ ne irshaad farmaya: "Islam ki bunyaad paanch cheezon par rakhi gayi hai. gawaahi dena ke Allah ke elaawah koyi ma'bood nahin aur Hazrat Muhammad ﷺ Allah ke Rasool hain, namaaz qaayem karna, zakaat ada karna, hajj karna aur ramzaanul mubarak ke roze rakhna."

(Bukhari:8)

۱. بَابُ: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: بُنِيَ

الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ

۸. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بُنِيَ

الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ

الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ،

وَصَوْمُ رَمَضَانَ (رواه البخارى: ۸)

Fawaaid: Imaam Bukhari ke nazdeek islam aur eemaan ek hi cheez hai aur yeh baab baandh kar saabit kiya hai ke shari'at ne chand cheezon se eemaan ko murakkab banaaya hai aur iss mein kami wa beshi ho sakti hai. Imaam Bukhari khud farmate hain ke main mukhtalif shahron mein hazaar se ziyadah ahl-e-ilm se mila hoon sab yahi kahte the ke eemaan qaul aur 'amal ka naam hai aur yeh kam wa besh hota rahta hai.

Baab:2 Umooor-e-Eemaan

9. Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayan karte hain aap ne farmaya: "eemaan ki 60 se kuchh zaayed shaakhen hain aur Haya bhi eemaan ki ek (aham) shaakh hai". (Bukhari:9)

۲. بَابُ: أُمُورُ الْإِيمَانِ

۹. عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَلِإِيمَانُ بَضْعٌ

وَسِتُّونَ شُعْبَةً، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ

الْإِيمَانِ) (رواه البخارى: ۹)

Fawaaid: Hadees ke aakhir mein haya ko khusoosiyat ke saath bayaan kiya gaya hai kyun ke insaani akhlaaq mein haya ka bahut buland maqaam hai yeh woh khaslat hai jo insaan ko bahut se jaraayem se rokti hai. haya sirf logon se hi nahin balke sab se ziyadah haya Allah se hona chaahiye. iss bina par sab se bada be haya woh badbakth insaan hai jo gunaah karte waqt Allah se nahin sharmaata yahi wajah hai ke eemaan aur haya ke darmiyaan bahut gahra rishta hai. ('Awnul-bari:1/94)

Baab:3 Musalmaan woh hai jis ki zabaan aur haath se doosre Musalmaan mahfooz rahen.

۳. بَابُ: الْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ

الْمُسْلِمُونَ مِّنْ لِّسَانِهِ وَيَدِهِ

10. Hazrat Abdulla bin Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain, aap ne farmaya: "ke Musalmaan woh hai jis ki zabaan aur haath se doosre Musalmaan mahfooz rahen aur Muhaajir woh hai jo un cheezon ko chhod de jin se Allah ne mana' kiya hai." (Bukhari:10)

۱۰. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ) (رواه البخارى: ۱۰)

Fawaaid: Iss hadees mein sirf zabaan aur haath se eiza rasaani ka zikr hai kyun ke beshtar insaani aziyyaton ka ta'alluq inhi do se hota hai warna musalmaan ki shaan to yeh hai ke doosre logon ko uss se kisi qism ki takleef na pahunche chunaanche b'az rivaayat mein yeh ezaafah bhi hai ke momin woh hai jis se doosre logon ke khoon mahfooz rahen. waazeh rahe ke iss se muraad woh eiza rasaani hai jo bila wajah ho kyun ke bashart-e-qudrat mujrimon ko saza dena aur shar pasand a'naasir ki fasaad angeziyon ko bazor-e-baazu. rokna to musalmaan ka farz-e-mansabi hai. ('Awnul-bari:1/96)

Baab 4: Kaunsa Musalmaan Afzal hai?

Hazrat Abu Musaa Ash'ari رضي الله عنه se rivaayat hai ke Sahaaba-e-Kiraam رضي الله عنهم ne a'rz kiya yaa Rasoolallah (ﷺ)! kaunsa Musalmaan afzal hai? aap ne farmaya: jis ki zabaan daraazi aur dast andaazi se doosre Musalmaan mahfooz rahen." (Bukhari:11)

۴. باب: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟
۱۱. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ) (رواه البخارى: ۱۱)

Fawaaid: ((أَيُّ الْإِسْلَامِ)) mein hazaf hai dar asl (أَيُّ ذَوَى الْإِسْلَامِ) hai iski taayeed sahih Muslim ki ek rivaayat se hoti hai jiske alfaaz (أَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ) bayaan huye hain. tarjuma ke waqt hum ne isi rivaayat ko saamne rakha hai taake sawaal wa jawaab mein mutaabaqat qaayem rahe.

Baab 5: Khaana khilaana Khaslat-e-Islam hai.

12. Hazra Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke ek aadmi ne Rasoolullah ﷺ se daryaaft kiya ke islam ki kaunsi khaslat behtar hai? aap ne farmaya: "tum (mohtaajon) ko khaana khilao aur aashna aur ghair aashna har ek (musalmaan) ko salaam karo." (Bukari:12)

۵. باب: إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ
۱۲. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: (تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) (رواه البخارى: ۱۲)

Fawaaid: Iss hadees ke mutaabiq khaana khilana aur salam karne ko behtareen a'mal bataaya gaya hai jab ke doosri ahaadees mein zikrullah aur jehaad aur eta'at-e-waaledain ko afzal qaraar diya gaya hai iss mein koyi tazaad nahin hai balke yeh farq saayel ki haalat wa zaroorat aur mauqa mahal ke lehaaz se hai.

Baab 6: Eemaan ki alaamat hai ke apne bhaayi ke liye wahi pasand kare jo apne liye pasand karta hai.

13. Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke

۶. باب: مِنَ الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ
۱۳. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ

Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "Tum mein se koyi shakhs momin nahin ho sakta jab tak apne bhaayi ke liye wahi na chaahe jo apne liye chaahta hai.(Bukhari:13)

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ).

(رواه البخارى: ١٣)

Fawaaid:Akhlaaqiyaat ke baab mein iss khaslat ko bunyaadi qaraar diya gaya hai. Musalmaan ko chaahe ke woh Musalamaan bhaaiyon balke tamaam insaanon ka khair khaah rahe. aise insaan ki dunya wa aakhirat bade aaraam wa sukoon se guzarti hai.

Baab7: Rasoolullah ﷺ se Mohabbat juzw eemaan hai.

14: Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "Mujhe qasam hai uss Allah ki jis ke haath mein meri jaan hai tum mein koyi shakhs momin nahin ho sakta jab tak ke usko meri mohabbat apne baap aur aulaad se ziyaadah na ho."

(Bukhari:14)

٤. باب: حُبُّ الرَّسُولِ ﷺ مِنَ الْإِيمَانِ
١٣. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ).

(رواه البخارى: ١٣)

Fawaaid:Rasoolullah ﷺ se taba'ei mohabbat ke elaawah eemaani mohabbat ki bhi zaroorat hai warna taba'ei mohabbat to janaab Abu taalib ko bhi thi lekin use momin nahin kaha gaya. baap aur aulaad ka khusoosiyat se zikr farmaya kyun ke insaan un se be had mohabbat karta hai phir baap ko muqaddam kiya kyun ke baap sab ka hota hai jab ke tamaam ke liye aulaad ka hona zaroori nahin ('Awnul-bari:1/101)

15. Hazrat Anas ؓ ne bhi iss hadees ko iss tarah bayaan kiya hai lekin is ke aakhir mein baap aur aulaad ke saath tamaam logon (se ziyaadah mohabbat) ka ezaafah kiya hai.

(Bukhari:15)

١٥. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدِيثَ بَعِيْنِهِ وَزَادَ فِي آخِرِهِ: (وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). (رواه البخارى: ١٥)

Fawaaid:Ek doosri rivaayat mein hai ke jab tak insaan Rasoolullah ﷺ ki zaat-e-girami ko apni jaan se bhi ziyaadah 'azeez na samjhe uss waqt tak eemaan ki takmeel nahin hoti.

Baab 8: Eemaan ki shireeni

16. Hazrat Anas ؓ se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "Eemaan ki mithhas usi ko naseeb hogi jis mein teen baaten hongi Ek yeh ke Allah aur us ke Rasool ﷺ se mohabbat usko sab se ziyaadah ho, Doosri yeh ke sirf Allah hi ke liye kisi se dosti rakhe Teersi yeh ke do baarah kaafir banna use aisa hi naa gawaar ho jaise aag mein jhonka jaana hota hai.(Bukhari:16)

٨. باب: حَلَاوَةُ الْإِيمَانِ
١٦. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَؤُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّفَ فِي النَّارِ). (رواه البخارى: ١٦)

Fawaaid: M'aloom huwa ke maar peet aur zillat wa ruswaayee ko kufr par tarjeeh dena baay'is-e-fazeelat hai. (Al-Ikraah:694) ghair maryai mithhas aur lazzat hoti hai. yeh ush shakhs ko mahsoos hoti hai jo hadees mein mazkoor maqaam par pahunch jaaye. ba'z auqaat to yah chaashni is had tak mahsoos hoti hai ke banda-e-momin eemaan par apni jaan qurbaan karne keliye bhi tayyaar ho jaata hai. ('Awnul-bari:1/104) Aisa insaan neki aur eta'at ke kaam karne mein lazzat aur farhat mahsoos karta hai.

Baab 9: Ansaar se Mohabbat Alaamat-e-Eemaan hai

17. Hazrat Anas رضی اللہ عنہ se hi rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya: "Eemaan ki nishaani Ansaar se mohabbat rakhna aur nifaaq ki nishaani Ansaar se bughz rakhna hai." (Bukhari:17)

Fawaaid: "Ansaar" Madeena Munawwarah ke woh log hain jinhon ne Rasoolulla صلی اللہ علیہ وسلم ko panaah di aur aise waqt mein aap ka saath diya jab ke aur koyi qaum aap ki madad karne ke liye tayyaar na thi. pahle yeh log banu Qeela ke naam se mashoor the Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne unka naam Ansaar rakkha. ('Awnul-bari:1/106) Ansaar se aap ke madad gaar aur mu'aavin ki haisiyat se mohabbat karna muraad hai, shakhsi taur par kisi se ekhtelaaf wa jhagda hona uske munaafi nahin.

18. Hazrat 'Ubaadah bin Saamit رضی اللہ عنہ ka bayaan hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke ird gird sahaba-e-kiraam رضی اللہ عنہم ki ek jama'at thi to aap ne farmaya: "Tum sab mujh se iss baat par bai'at karo ke Allah ke saath kisi ko shareek na thhahraaoge, chori nahin karoge, zina nahin karoge, apni aulaad ko qatl nahin karoge, apne haath aur paaon ke saamne (deedah daanista) kisi par iftiraa pardaazi nahin karoge aur achchhe kaamon mein naafar maani na karoge phir jo koyi tum mein se yeh ahad poora karega uska sawaab Allah ke zimme hai aur jo koyi in gunaahon mein se kuchh kar baithhe aur use dunya mein uski saza mil jaaye to uska gunaah utar jaayega aur jo koyi in jaraayem mein se kisi ka irtekaab kare phir Allah ne dunya mein us ki pardah poshi farmayi to woh Allah ke hawaale hai agar chahe to (qayamat ke din) use ma'af kare ya saza de" hum ne in sab sharton par Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se bai'at karlee. (Bukhari:18)

۹. باب: عَلَامَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ
۱. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَآيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَارِ) (رواه البخارى: ۱۷)

۱۸. عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، وَحَوْلَهُ عَصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: (يَا بَعْوُنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ) فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

(رواه البخارى: ۱۸)

Fawaaid: Iss hadees se yeh bhi m'aloom huwa ke hudoos gunaahon ka kaffarah hain y'ani hadd-e-shara'ei qaayem hone se gunaah ma'af ho jaata hai. (Al-hudood: 6801,6784) m'aloom huwa ke deen-e-islam mein bai'at lena ek masnoon 'amal hai. Rasoolullah ﷺ logon se deen islam par kaar band rahne, hijrat karne, maidaan-e- jihaad mein saabit qadam rahne, fawaahish wa munkaraat ko chod ne, sunnat par a'mal karne aur bid'aat wa rusoom se door rahne ki bai'at lete the. albatta bai'at-e- tasawwuf ka koyi wajood nahin hai bahut ba'd ki paida waar hai. ('Awnul-bari:1/112)

Baab 10: Fitnon se faraar deendaari hai

19. Hazrat Abu Sayeed Khudri ؓ se rivayat hai ke unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "Woh zamaana qareeb hai jab musalmaan ka behtareen maal bakriyan hongy jin ko lekar woh pahaadon ki chotiyon aur baarish ke maqaamaat ki taraf nikal jaaega aur fitnon se raah-e- faraar ekhtiyaar karke apne deen ko bacha lega." (Bukhari:19)

۱۰. باب: مِنَ الدِّينِ الْفِرَارُ مِنَ الْفِتَنِ
 ۱۹. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 (يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرُ مَالِ الْمُسْلِمِ
 غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ
 الْقَطْرِ، يَفْرُ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ).

(رواه البخارى: ۱۹)

Fawaaid: Fitna se muraad har woh cheez jis se insaan gumrah ho kar Allah ke zikr aur uski eta'at se ghaafil ho jaaye. hamaare iss daur mein aise fitnon ka hujoom hai jo gumraahi aur deen se be zaari ka sabab bante hain. aise haalaat mein gosha-e tanhaayi ikhtiyaar karna jaayez hai haan ager insaan mein aise dajjaali fitnon ka muqaablah karne ki ilmee, amalee aur akhlaaqee himmat hai to mu'aashrah mein rahte huye in ki rok thaam mein koshaan rahna afzal hai.

Baab 11: Farmaan-e-Nabwi: "Allah ke muta'alliq main tum sab se ziyadah jaanne waala hoon."

20. Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab Sahaaba-e-Kiraam ؓ ko hukm dete to unhi kaamon ka hukm dete jin ko woh baa asaani kar sakte the, unhon ne a'rz kiya yaa Rasoolallah! hamaara haal aap jaisa nahin hai Allah ne to aap ki agli pichhli har kotaahi se dar guzar farmaya hai yeh sun kar aap iss qadar naaraaz huye ke aap ke chehr-e-mubarak par ghusse ka asar zaahir huwa phir aap ne farmaya: "Main tum sab se ziyadah parhezgaar aur Allah ko jaanne waala hoon. (Bukhari:20)

۱۱. باب: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ أَنَا
 أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ
 ۲۰. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَهُمْ، أَمَرَهُمْ
 مِنَ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ، قَالُوا: إِنَّا لَسْنَا
 كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ
 غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ،
 فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ،
 ثُمَّ يَقُولُ: (إِنَّ أَتَقَامُ وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ أَنَا)
 (رواه البخارى: ۲۰)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ isliye naaraaz huye ke Sahaaba-e-Kiraam ؓ ne "Aasaan kaamon" ko raf'a-e-darjaat aur gunaahon ke m'afi ke liye na kaafi khayaal kiya. unke mutaabiq buland maraatib ke husool ke liye aise kathhin a'amaal hone chaahiye jin ki adaayegi mein takleef wa mushaqqat uthana pade. iss par aap ne tanbeeh farmaayi ke sharee'at mein dakhil andaazi ki zaroorat nahin balki jo aur jaisa irshad ho uspar ektefaa kiya jaaye. ('Awnul-Lbari:1/115)

Baab 12: Ahle Eemaan ka a'amaal ke lehaaz se ek doosre se afzal hona

21. Hazrat Abu Sayeed Khudri رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke jannat waale jannat mein aur jahannam waale jahannam mein chale jaayenge to Allah ta'ala farmaayega ke jis shakhs ke dil mein raayee ke daane ke baraa bar eemaan ho use jahannam se nikaal laao to aise logon ko jahannam se nikaala jaayega jo jal kar siyaah ho chuke honge phir unhen paani ya zindagi ki nahar mein daala jaayega. (Malik ko shak hai ke usdaad ne kaun sa lafz bola) wo az sar-e-now yun ugenge ke jaise dana lab-e- jau (Nadi ke kinaare) ugta hai. kiya tu dekhta nahin woh kaise zard zard lipta huwa namudaar hota hai. (Bukhari:22)

Fawaaid: Imaam Bukhari ne Uhaib ki rivaayat bayaan imaam Malik ko huwa y'ani "zindagi ki nahar" sahih hai.

22. Hazrat Abu Sayeed Khudri رضی اللہ عنہ se hi rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya: "Main ek martabah so raha tha ke ba haalat-e-khaab logon ko dekha woh mere saamne laaye jaate hain aur woh kurte pahne huye hain ba'z ke kurte chhaatiyon tak hain aur kuchh logon ke iss se bhi kam aur Umar bin khattaab رضی اللہ عنہ ko mere saamne iss haalat mein laaya gaya ke woh kurta pahne huye aur use zameen par ghaset rahe hain. Sahaaba Kiraam رضی اللہ عنہم ne poochha ya Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم aap iski kiya ta'beer karte hain? aap ne farmaya: "Deen". (Bukhari:23)

Fawaaid: Iss hadees se ma'loom huwa ke khaab mein apni qameez ghaset te huye dekhna aala darjah ki deendaari ki alaamat hai, neez yeh bhi saabit huwa ke eemaan mein tafaazul aur kami beshi mumkin hai. ('Awnul-bari:1/119)

Baab 13: Haya juzwe eemaan hai

23. Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ek ansaari mard ke paas se guzre jab ke woh apne bhaayi ko samjhaa raha tha ke tu itni sharm kyun karta hai? Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne us se

۱۲. باب: تَفَاوُلُ أَهْلِ الْإِيمَانِ فِي الْأَعْمَالِ

۲۱. عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَخْرَجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنَ الْإِيمَانِ. فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا قِدِّ اسْوَدُّوا، فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، أَوِ الْحَيَاةِ. شَكَ مَالِكٌ. فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، أَلَمْ تَرَ أَنَّهَا تَخْرُجُ صَفْرَاءَ مُلْتَوِيَةً) (رواه البخارى: ۲۲)

karke uss shak ko door kardiya jo

۲۲. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمْصٌ، مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدْيَ، وَمِنْهَا مَا دُونَ ذَلِكَ، وَعَرِضٌ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُهُ) قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الَّذِينَ) (رواه البخارى: ۲۳)

۱۳. باب: الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ ۲۳. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَهُوَ يَعْظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ،

farmaya: "Ise apne haal par chod de kyun ke sharm to eemaan ka hissa hai." (Bukhari:24)

Baab 14: Farmaan-e-Elaahi: "Phir agar woh tauba karen, namaaz padhen aur zakaat den to un ka raasta chhod do" ki tafseer

24. Hazrat Abullah bin Umar رضى الله عنها se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "Mujhe hukm mila hai ke main logon se jang jaari rakhun yahaan tak ke woh iss baat ki gawaahi den ke Allah ke siwa koyi ma'bood-e-haqeeqi nahin aur bila shubah Muhammad ﷺ Allah ke Rasool hain. pure aadaab se naamaaz adaa karen aur zakaat den, jab woh yeh karne lagen to unhon ne apne jaan wa maal ko mujh se bacha liya. siwaaye haq-e-islam ke aur un ka hisab Allah ke sopurd hai." (Bukhari:25)

Fawaaid: Kuffaar se jang ladne ka maqsad yeh hota hai ke woh islam qubool kar ke sirf Allah ki ibaadat karen agar che islam mein jizya aur munaasib sharaayet ke saath musaalihat par bhi jang khatm ho jaati hai taa ham jang bandi ki yeh soorat islami jang ki asl ghaayat nahin chunke in ke zariye asl maqsad ke liye ek pur aman raasta khul jaata hai lehaaza in par bhi jang rok di jaati hai. ('Awnul-bari:1/123)

Baab 15: Uss shakhs ki daleel jo kahta hai: "Eemaan amal hi ka naam hai"

Hazrat Abu Hurairah رضى الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ se daryaaft kiya gaya kaunsa amal afzal hai? Aap ne farmaya: "Allah aur uske Rasool par eemaan laana" sawaal kiya gaya: phir kaunsa? Aap ne farmaya: "Allah ki raah men jehaad karna" poochha gaya: "phir kaunsa"? Aap ne farmaya: "woh hajj jo qubool ho" (Bukhari:26)

Fawaaid: Hajj-e-mabroor se muraad woh hajj hai jo riya kaari aur gunaahon ki aalaash se paak ho. iski a'laamat yeh hai ke aadmi apni zindagi pahle se behtar rawish par qaayem kare.

Baab 16: Kabhi Islam se uske haqeeqi (Shara'ye) ma'na muraad nahin hote

26. Hazrat S'ad bin Abi waqqaas رضى الله عنه ka bayaan hai ke Rasoolullah ﷺ ne chand logon ko kuchh maal diya aur s'ad رضى الله عنه khud baithhe huye the. aap ne ek shakhs ko

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (دَعَهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ) (رواه البخارى: ٢٢)

١٣. باب: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ

وَأَتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾

٢٣. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْثَ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ).

(رواه البخارى: ٢٥)

١٥. بَاب: مَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْعَمَلُ

٢٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ

أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ)

قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ

اللَّهِ) قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: (حَجٌّ

مَبْرُورٌ) (رواه البخارى: ٢٦)

١٦ - بَاب: إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِسْلَامُ عَلَى

الْحَقِيقَةِ

٢٦. عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى

chhod diya ya'ni use kuchh na diya halaanke woh tamaam logon mein se mujhe ziyaadah pasand tha. main ne kaha: ya Rasoolullah! aap ne fulaan shakhs ko chhod diya, Allah ki qasam! main to use momin samajhta hoon. aap ne farmaya: "Yaa Musalmaan" main thodi der khamoosh raha phir uske muta'alliq main jo jaanta tha usne mujhe bolne par majboor kiya main ne do baarah arz kiya ke aap ne fulaan shakhs ko kyun nazar andaaz kardiya? Allah ki qasam! main to use momin khayaal karta hoon. aap ne farmaya: "Ya Musalmaan" phir main thodi der chup raha phir uske muta'alliq jo main jaanta tha usne majboor kiya to main ne teesri martabah wahi arz kiya aur Rasoolullah ﷺ ne bhi wahi farmaya: uske ba'd aap goya huye aye Sa'd! main ek shakhs ko kuchh deta hoon halaanke doosre shakhs ko us se behter khayaal karta hoon yeh iss andeshe ke pesh-e-nazar ke mubaadan Allah ta'ala use aundhe munh dozakh mein dhakel de. (Bukhari:27)

Fawaaid: M'aloom huwa ke jis ke andarooni haalaat ka ilm na ho use momin nahin kahna chahiye kyun ke baatin par Allah ke elaawah aur kaun muttala' ho sakta hai? al batta uske zahiree haalaat ke pesh-e-nazar use musalmaan kah sakte hain. ('Awnul-bari:1/127)

Baab17: Khaawind ki na shukri bhi kufr hai lekin kufr, kufr mein farq hota hai

27. Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "Main ne dozakh mein aksar aurton ko dekha (kyun ke) woh kufr karti hain. logon ne kaha: kiya woh Allah ka kufr karti hain? aap ne farmaya: "nahin balke woh apne khaavind ka kufr karti hain y'ani na shukri karti hain aur ehsaan faraamoosh hain, woh yun ke ager tu saari umr aurat se achchha sulook kare phir woh (m'amooli si na gawaar) baat tujh mein dekhe to kahne lagti hai ke muujhe tujh se kabhi aaraam nahin mila. (Bukhari:29)

رَهْطًا وَسَعْدًا جَالِسًا، فَتَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا هُوَ أَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ عَنْ فَلَانٍ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ: (أَوْ مُسْلِمًا) فَسَكَتُ قَلِيلًا، ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ، فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي فَقُلْتُ: مَا لَكَ عَنْ فَلَانٍ؟ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ مُؤْمِنًا، فَقَالَ: (أَوْ مُسْلِمًا) فَسَكَتُ قَلِيلًا ثُمَّ عَلَيْنِي مَا أَعْلَمُ مِنْهُ فَعُدْتُ لِمَقَالَتِي، وَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: (يَا سَعْدُ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ، وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ، خَشِيَةَ أَنْ يَكْبَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ). (رواه البخارى: ٢٧)

١٧. بَابُ: كُفْرُ انْ الْعَشِيرِ وَ كُفْرُ دُونَ كُفْرٍ

٢٧. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أُرَيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ): قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: (يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ).

(رواه البخارى: ٢٩)

Fawaaid: Imam Bukhari ne eemaan aur uske samraat bayaan karne ke ba'd uski zid y'ani kufr aur uske aqsaam ko bayaan karna shuru kiya. kufr ki do qismen hain. ek yeh hai ke iske irtekaab se insaan daaira-e-islam se khaarj ho jaata hai. doosra woh kufr hai jis ka murtakib gunahgaar to zaroor hota hai lekin khaarj az islam nahin hota. is 'unwaan se doosri qism ka kufr muraad hai. yeh bhi m'loom huwa ke ma'asi ke irtekaab se eemaan men kami aajaati hai. ('Awnul-bari:1/129)

Baab 18: Gunaah jaahiliyyat ke kaam hain aur unka murtakib kaafir nahin hota al battah shirk ka murtakib (ya kufr ka m'utaqid) zaroor kaafir hota hai

28. Hazrat Abu Zar Gheffari رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne ek shakhs ko bayeen taur par gaali di ke use maan (ما) ki 'aar dilaayi. Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne (yeh sun kar) farmaya: "kiya toone use uski maan se 'aar dilaayi hai? abhi tak tum mein jaahiliyyat ka asar baaqi hai tumhaare ghulaam tumhaare bhaayi hain inhen Allah Ta'ala ne tumhaare tasarruf mein rakh kha pas jiss shakhs ka bhaayi uske qabze mein ho us ko chaahiye ke use wahi khilaaye jo khud khaata hai aur use wahi libaas pahnaaye jo woh khud pahanta hai aur unse woh kaam na lo jo un par giraan guzre aur agar aise kaam ki unhen zahmat do khud bhi unka haath bataao." (Bukhari:30)

Fawaaid: Doosri rivaayat mein hai ke Hazrat Abu Zar رضی اللہ عنہ ne Hazrat Bilaal رضی اللہ عنہ ko sirf itna kaha tha ke aye siyaah faam aurat ke bete! hamaare mu'aashrah men is qism ki baat gaali shumaar nahin hoti balke sirf mazaq ki ek qism hai lekin sharee'at ne ise daur-e-jaahiliyyat ki yaad gaar se ta'beer kiya hai.

Baab 19: Aur agar Ahl-e-Eemaan mein se do giroh aapas mein jhagad paden to unke darmiyaan sulah karaao

29. Hazrat Abu Bakrah رضی اللہ عنہ ka bayaan hai ke main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se suna aap farma rahe the ke "Jab do musalmaan apni apni talwaaren lekar aapas mein lad paden to qaatil aur maqtool donon jahannami hain" Main ne arz kiya: yaa Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم (yeh qaatil (to zaroor jahannami hai) lekin maqtool kyun jahannami hoga? aap ne farmaya: "uski khahish bhi doosre saathi ko

۱۸. بَابُ: الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ

الْجَاهِلِيَّةِ وَلَا يُكْفِرُ صَاحِبُهَا

بَارِتْكَابَهَا إِلَّا بِالشَّرِكِ

۲۸. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

سَأَيْتُ رَجُلًا فَعَيَّرْتُهُ بِأَمِّهِ، فَقَالَ لِي

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيَّرْتَهُ بِأَمِّهِ؟

إِنَّكَ أَمْرٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ، إِخْوَانُكُمْ

حَوْلَكُمْ، جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ،

فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ

مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا

تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ

فَأَعِينُوهُمْ) (رواه البخارى: ۳۰)

۱۹. بَابُ ﴿وَأَنْ طَافْتَانِ مِنْ

الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا﴾

۲۹. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ: (إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ

بَسِيفَتَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي

النَّارِ). فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا

الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: (إِنَّهُ

qatal karne ki thi." (Bukhari:31)

كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

(رواه البخارى: ٣١)

Fawaaid: M'aloomb huwa ke dili iraadah jab musammam ho jaaye to uss par bhi muaakhzah hoga jab ke doosri rivayat mein hai ke Allah ta'ala ne ummat ke dili khayalaat ko ma'af kar diya hai jab tak un ke mutaabiq a'mal na karen. in donon baaton men tazaar nahin kyun ke aise khayalaat par muaakhzah nahin hoga jo pukhta na hon ya'ni aayen aur guzar jaayen musammam aur pukhta 'azm par muaakhzah zaroor hoga agarche uske mutaabiq amal na kiya jaaye. ('Awnul-bari:1/132)

Baab 20: Ek Zulm doosre Zulm se kamtar hota hai

30. Hazrat Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه se bayaan karte huye farmaate hain: jab yeh aayat utri "jo log eemaan laaye aur unhon ne apne eemaan ko zulm ke saath aaloodah nahin kiya" to Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke sahaaba kiraam رضي الله عنهم ne kaha: Ya Rasoolullah! hum mein se kaun aisa hai jis ne zulm nahin kiya? tab Allah ta'ala ne yeh aayat utaari "yaqeenan shirk zulm-e-azeem hai." (Bukhari:32)

٢٠. بَابُ: ظَلَمٍ دُونَ ظَلَمٍ

٣٠. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا

نَزَلَتْ: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا

إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّنَا لَمْ يَظْلِمْ؟. فَأَنْزَلَ اللَّهُ

تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ

عَظِيمٌ﴾ (رواه البخارى: ٣٢)

Fawaaid: Iss hadees se daur-e-haazir ke mu'tazilah (munkareen-e-hadees) ki tardeed hoti hai jo qur'an fahmi ke liye sirf arbi lughat ko kaafi samajhte hain agar un ka yeh da'wa durst hota to Sahaba kiraam qur'an Majeed ke samajhne mein kisi qsim ke uljhan ka shikaar na hote lehaazah Qur'an ko samajhne ke liye saahib-e-Qur'an صلی اللہ علیہ وسلم ke irshaadaat aur ma'moolaat ko pesh-e-nazar rakh na intehaayi zaroori hai yahi woh bayan hai jis ki hifaazat ka khud Allah ta'ala ne beda (zimma) uthha ya hai. ('Al-qiyamha:19)

Baab 21: Munaafiq ki nishaaniyaan

31. Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya: "Munaafiq ki teen nishaaniyaan hain jab baat kahe to jhoot bole, jab wa'da kare to khilaaf warzi kare, aur jab us ke paas amaanat rakh khi jaaye to khiyaanat kare." (Bukhari:33)

٢١. بَابُ: عَلَامَاتُ الْمُنَافِقِ

٣١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (آيَةُ الْمُنَافِقِ

ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ

أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ)

(رواه البخارى: ٣٣)

32. Hazrat Abullah bin Amr رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya: "chaar baaten jis mein hogi woh to khalis munaafiq hoga aur jiss mein in mein se koyi ek bhi hogi usmein nifaaq ki ek khaslat hogi yahaan tak ke woh use tark karde jab uske

٣٢. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَرْبَعٌ مِنْ

كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ

كَانَتْ فِيهِ حَصَلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ

حَصَلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا

paas amaanat rakhi jaaye to khiyaanat kare, jab baat kare to jhoot bole, jab ahad kare to dagha baazi kare aur jhagde to be hoodah bakwaas kare."(Bukhari:34)

أَوْتُمِينَ حَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ
(رواه البخاری: ۳۴)

Fawaaid: Nifaaq ki do qismen hain ek nifaaq to eemaan wa 'aqeede ka hota hai jo kufr ki bad tareen qism hai jiski nishaandahi sirf wahi se mumkin hai doosra aml nifaaq hai jise seerat wa kirdaar ka nifaaq bhi kahte hain. Hadees ka matlab yeh hai ke jis shakhs mein alaamaat-e-nifaaq mein se koyi ek alaamat hai to use samjhnaa chaahiye ke mujh mein munaafiqana khaslat hai aur jis mein yeh tamaam alaamaten jama hon woh seerat wa kirdaar mein khalis munaafiq hai.

Baab 22: Shab-e-Qadr ka qiyaam juzwe eemaan hai

33. Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya: "Jo shakhs eemaan ka taqaaza samajh kar sawaab ki niyyat se shab-e-qadr ka qiyaam karega uske saabiqah gunaah bakhsh diye jaayenge."(Bukhari:35)

۲۲. باب: قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِنَ

الْإِيمَانِ

۳۳. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ (مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (رواه البخاری: ۳۵)

Baab 23: Jehaad eemaan ka hissa hai

34. Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se hi rivaayat hai woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se bayan karte hain ke aap ne farmaya: "Allah ta'ala uss shakhs ke liye zimme daari leta hai jo uski raah mein (jehaad ke liye) nikle use ghar se sirf iss baat ne nikaala ki woh mujh (Allah) par eemaan rakhta hai aur mere Rasoolon ki tasdeeq karta hai to main use uss sawaab ya maal-ghaneemat ke saath waapas karunga jo usne jehaad mein paaya hai ya use (shaheed banakar) jannat mein daakhil karunga. (Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya:) agar main apni ummat par dushwaar na samajhta to kabhi bhi chhote chhote lashkar ke peechhe na baithha rahta aur meri yeh aarzo hai ke Allah ki raah mein maara jaaoun phir zindah kiya jaaoun phir maara jaaoun phir zindah kiya jaaoun phir maara jaaoun."(Bukhari:36)

۲۳. باب: الْجِهَادُ مِنَ الْإِيمَانِ

۳۴. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِن تَدَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا إِيْمَانًا بِي وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِي، أَنْ أَرْجِعَهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ، أَوْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَلَوْ لَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ، وَلَوْ دِدْتُ أَنْبِيَّ أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أَحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أَحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ)

(رواه البخاری: ۳۶)

Baab 24: Ramzaan mein taraaweeh padhna (bhi) eemaan se hai

35. Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ ne farmaaya: "Jo

۲۴. بَابُ: تَطَوُّعِ قِيَامِ رَمَضَانَ

۳۵. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ رَسُولُ

shakhs ramzaan mein eemaandaar ho kar husool-e-Sawaab ke liye raat ke waqt qiyaam karega to uske saabqah gunaah ma'aaf kar diye jaayenge." (Bukhari:37)

اللَّهُ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).
(رواه البخاری: ۳۷)

Fawaaid:Gunaahon ki ma'aafi men Huqooqul 'e'baad shaamil nahin hai kyun ke iss baat par ummat ka ittefaaq hai ke aise huqooq haqdaaron ki razamandi se hi saaqit ho sakte hain. qiyaamat ke din haqdaaron ki buraaiyan le kar aur apni nekiyaan de kar unki talafi mumkin hai. ('Awnul-bari:1/138) illa yeh ke Allah un ko apni taraf se sawaab de kar raazi karde.

Baab 25: Sawaab ki niyyat se ramzaan ke roze rakhna eemaan ka hissa hai

36. Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi rivaayat hai ke unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "Jo shakhs apne eemaan ke pesh-e-nazar husool-e-Sawaab ke liye maah-e-ramzaan ke roze rakkhega uske tamaam gunaah ma'aaf kardiye jaayenge." (Bukhari:38)

۲۵. بَابُ: صَوْمِ رَمَضَانَ
إِحْتِسَابًا مِنَ الْإِيمَانِ
۳۶. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) (رواه البخاری: ۳۸)

Baab 26: Deen Aasaan hai.

37. Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaaya: "be shak deen islam bahut aasaan hai aur jo shakhs deen mein sakhti karega to deen uss par ghaalib aa jaayega isliye miyaana ravi ekhtiyar karo aur (e'tedaal ke saath) qareeb raho aur khush ho jao (ke tumhen aisa aasaan deen mila hia) Subah , dopahar ke ba'd kuchh raat mein ibaadat karne se madad haasil karo." (Bukhari:39)

۲۶. بَابُ: أَلَدِّينِ يُسْرٌ
۳۷. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدَّلْجَةِ) (رواه البخاری: ۳۹)

Fawaaid:Matlab yeh hai ke ek musalmaan ko rahat wa sukoon ke auqaat mein nehaayat nashaat se fareezah-e-ibaadat ada karna chaahiye taake uska a'mal mustaqil bunyaadon par qaayem rahe kyun ke thoda saa amal isteqlaal wa sabaat se karna uss amal-e-kaseer se kahin badh kar hai jiss mein inqetaa aa jaaye. ('Awnul-bari:1/144)

Baab 27: Namaaz bhi eemaan ka juzw hai

38. Hazrat bara' bin aazib ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ jab (hijrat kar ke) Madinah tashreef laaye to pahle apne dadhyaal ya nanhiyaal jo ansaar se the un ke yahaan utre aur (Madina mein) 16 ya 17 mahine baitul muqaddas ki taraf munh karke namaaz padhte rahe albatta chahte the ke aap ka qiblah ka'ba ki taraf ho jaaye. (chunaanche ho gaya) aur padhi namaaz jo aap ne (ka'ba

۲۷. بَابُ: الصَّلَاةِ مِنَ الْإِيمَانِ
۳۸. عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَوَّلَ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَزَلَ عَلَى أَجْدَادِهِ. أَوْ قَالَ: أَحْوَالِهِ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ صَلَّى قَبْلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ

ki taraf) padhi woh a'sr ki namaaz thi aur aap ke hamraah kuchh aur log bhi the un mein se ek shakhs nikla aur kisi masjid walon ke paas se uska guzar huwa woh (baitul muqaddas ki taraf munh kiye huye) ruk'u ki haalat mein the to usne kaha ke main Allah ko gawah bana kar kahta hoon ke main ne Rasoolullah ke hamraah Makkah ki taraf (munh kakre) namaaz padhi hai. (yeh sunte hi) woh log jis haalat mein the us haalat mein ka'ba ki taraf phir gaye aur jab aap baitul muqaddas ki taraf (munh karke) namaaz padhte the to yahudi aur doosre ahl-e-kitab nasaara bahut khush hote lekin jab aap ne apna munh ka'ba ki taraf pher liya to yeh unhein bahut na gawaar guzra.

(Bukhari: 40)

Fawaaid: Iss hadees mein yeh bhi hai ke tahweel-e-qiblah se pahle jo log faut ho chuke the un ke mutalliq hamen ma'loom na tha ke unhen namaazon ka sawaab milega ya nahin? to Allah ne yeh aayat utaari "Aisa nahin hai ke Allah ta'ala tumhara eemaan ya'ni tumhaari namaazen zaay'e karde." Aayat-e-kareema mein namaaz ki ta'beer eemaan se ki gayi hai ma'loome huwa ke namaaz jo ek amal hai yeh eemaan ka hissa hai aur iss mein kami wa behsi mumkin hai.

Baab 28: Aadmi ke islam ki khoobi

39. Hazrat Abu sayeed Khudri رضي الله عنه se rivayat hai ke unhon ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se suna aap farma rahe the ke jab koyi bandah musalman ho jaata hai aur islam par achchi tarah amal paira rahta hai to Allah ta'ala us ke tamaam gunah ma'aaf kardeta hai jin ka us ne (islam se pahle) irtekaab kiya tha aur us ke ba'd (phir) muaa'vezah (shuru) hota hia ke ek neki ka badla uske dus guno se 700 guno tak aur buraayi ka badla to buraayi ke mu'aafiq hi diya jaata hai magar yeh ke Allah ta'ala usse dar guzar famaye. (Bukhari:41)

Fawaaid: Daaro Qutni ki ek rivayat mein yeh bhi hai ke Allah ta'ala uski har neki ko shumaar karega jo usne islam se pahle ki thi. ma'loom huwa ke kaafir agar musalman ho jaaye to zamana-e-kufr ki nekiyon ka bhi use sawaab milega. ('Awnul- bari:1/150)

Baab 29: Allah Ta'ala ko woh amal bahut pasand hai jo hameesha kiya jaaye

40. Hazrat Aishah رضي الله عنها se rivayat hai ke

تَكُونُ قِبَلْتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ، وَأَنَّهُ صَلَّى
أَوَّلَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا صَلَاةَ الْعَصْرِ،
وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ
صَلَّى مَعَهُ، فَمَرَّ عَلَى أَهْلِ مَسْجِدٍ
وَهُمْ رَاكِعُونَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ
صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ
مَكَّةَ، فَدَارُوا كَمَا هُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ
وَكَانَتِ الْيَهُودُ قَدْ أَعْجَبَهُمْ إِذْ كَانَ
يُصَلِّي قِبَلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَأَهْلُ
الْكِتَابِ، فَلَمَّا وُلَّى وَجْهَهُ قِبَلَ الْبَيْتِ،
انْكُرُوا ذَلِكَ. (رواه البخارى: ٣٠)

٢٨. باب: حُسْنُ إِسْلَامِ الْمَرْءِ
٣٩. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
يَقُولُ: (إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ
إِسْلَامُهُ، يُكْفِرُ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ
رَزَقَهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْفِصَاصُ:
الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَلِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ
ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ
اللَّهُ عَنْهَا) (رواه البخارى: ٣١)

٢٩. باب: أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ
٣٠. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ

Rasoolullah ﷺ ek martabah un ke paas tashreef laaye wahan ek a'urat baithhi thi. aap ne poochha yeh kaun hai? Hazrat Aaisha رضي الله عنها ne kaha ke yeh falaan aurat hai aur uski kasrat-e-namaaz ka haal bayaan karne lagin aap ne farmaya ruk jaao! tum apne zimmaa sirf wahi kaam rakkho jo (hamesha) kar sakte ho. Allah ki qasam! Allah ta'la sawaab dene se nahin uktaata tum hi ibaadat karne se thak jaoge. aur Allah ta'ala ko sab se ziyadah mahboob etaa'at ka woh kaam hai jis ke karne wala uss par hameshgi kare. (Bukhari:43)

Fawaaid: Miyaanah ravi ke saath nek amal par dawaam (Hameshgi) rahna chahiye neez yeh bhi ma'loom huwa ke ibaadat karte waqt bahut sakhti uthhana ek makrooh amal hai. ('At-tahajjud:115)

Baab 30: Eemaan ki kami wa beshi

41. Hazrat Anas رضي الله عنه se rivayaat hai ke woh Rasoolullah ﷺ se bayan karte hain ke aap ne farmaya: "Jis ne 'لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ' kaha aur us ke dil mein ek jau ke baraabar neki ya'ni eemaan ho woh dozakh se (zaroor) niklega aur jis ne "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" kaha aur uske dil mein gandum ke daane ke baraabar bhlaayi (eemaan) ho woh dozakh se zaroor niklega aur jis ne "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" kaha aur uske dil mein ek zarrah barabar neki (eemaan) ho woh bhi dozakh se (zaroor) niklega." (Bukhari:44)

Fawaaid: Sooraj ki sha'aon mein sooyi ki nok ke barabar be shumar zarraat udte nazar aate hain. chaar(4) zarre ek raayi ke daane ke baraber hote hain. aur 100 zarrat ek jau ke daane ke baraabar hote hian hadees ka yeh usloob eemaan ki kami wa beshi par dalaalat karta hai aur yeh bhi ma'loom huwa ke ba'z bad a'mal mowahhideen jahannam mein daakhil honge neez iss baat ka bhi pata chala ke kabeerah gunah ka murtakib kaafir nahin hota aur na hi woh hamesha ke liye jahannam mein rahega. ('Awnul-bari:1/155)

42. Hazrat Umar bin Khattaab رضي الله عنه se rivayat hai ke ek yahoodi ne un se kaha aye Ameerul Momineen! tumhari kitab (Qur'an) mein ek aisi aayat hai jise tum padhte rahte ho agar woh aayat hum yahoodiyon par naazil hoti to ham uss din ko eid ka din thharaalete. Hazrat Umar ne kaha woh kaunsi aayat hai?

النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ: (مَنْ هَذِهِ) قَالَتْ: فَلَانَةٌ، تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا، قَالَ: (مَهْ، عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُ اللَّهُ حَتَّى تَمَلُّوا). وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.

(رواه البخارى: ٢٣)

٣٠. باب: زِيَادَةُ الْإِيمَانِ وَنُقْصَانُهُ

٣١. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ شَعِيرَةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ بُرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ، وَيَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَفِي قَلْبِهِ وَزَنُّ دَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ.) (رواه البخارى: ٢٢)

٣٢. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرُؤُونَهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعَشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا.

yahudi ne bola yeh aayat "Aaj main ne tumhare liye tumhara deen kaamil kardiya aur apna ehsaan bhi tum par tamaam kardiya aur deen-e-islam ko tumhare liye pasand kiya" Hazrat Umar رضي الله عنه ne kaha ke hum uss din aur uss maqaam ko jaante hain jis mein yeh aayat Rasoolullah صلى الله عليه وسلم par naazil huyi yeh aayat juma ke din utri jab Aap صلى الله عليه وسلم arfaat mein khade the. (Bukhari:45)

Fawaaid: Aayat-e-kareema se ma'loom huwa ke iske nuzool se pahle deen (eemaan) poora nahin tha balke naaqis tha lehaazh iss mein kami wa beshi ho sakti hai. "Hawal maqsood" Imam Bukhari رحمته الله عليه farmate hain ke main mukhtalif shahron mein hazaar se ziyadah ahl-e-ilm se mila hun tamaam ka yahi moqif tha ke eemaan qaul aur a'mal ka naam hai aur yeh kam wa besh hota rahta hai. ('Fathul-Bari:1/107)

Baab 31: Zakaat dena islam se hai

43. Hazrat Talha bin Ubaidullah رضي الله عنه ka bayaan hai ke Ahl-e-Najad se ek shakhs paraagandah mu (baal) Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke paas aaya. hum uski aawaaz ki gun gunaahat sun rahe the magar yeh na samajhte the ke kiya kahta hai ta aan ke woh nazdeek aa pahuncha tab maloom huwa ke woh islam ke mutalliq poochh rahaa hai. Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya: "Din raat mein paanch namaazein hain" Usne kahaa inke elaawah (bhi) mujh par koyi namaaz farz hai? aap ne farmaya: "nahin magar yeh ke too apni khushi se padhe" (phir) Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne famaya: "aur ramzaan ke roze rakhna" usne arz kiya: aur to koyi rozah mujh par farz nahin? Aap ne farmaya: nahin magar yeh ke apni khushi se rakkhe. Hazrat Talha رضي الله عنه kahte hain ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne uss se zakaat ka bhi zikr kiya usne kahaa: mujh par iske elaawah (koyi aur sadqah bhi) farz hai? aap ne farmaya: "nahin magar yeh ke too apni khushi se de." Talha رضي الله عنه ne kahaa ke phir woh shakhs yeh kahta huwa peethh pher kar waapas chala gaya ke Allah ki qasam! Main iss se ziyaadah ya kam nahin karunga. Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya: "agar yeh sach kah rahaa hai to kamiyab ho gaya." (Bukhari:46)

قَالَ: أَيُّ آيَةٍ هِيَ؟ قَالَ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ... دِينَنَا﴾ قَالَ: عُمَرُ: قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ.

(رواه البخارى: ٢٥)

٣١. باب: الزَّكَاةُ مِنَ الْإِسْلَامِ

٢٣٣. عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ، نَائِرِ الرَّاسِ، نَسَمِعُ دَوَى صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا، فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ) فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَصِيَامَ رَمَضَانَ). قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ) قَالَ:؟ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الزَّكَاةَ، قَالَ: فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: (لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ) قَالَ: فَادْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَرِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ)

(رواه البخارى: ٢٦)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke witr farz nahin hai balke namaz-e-tahajjud ka hissa hone ki wajah se nafil hai kyun ke iss hadees mein Rasoolullah ﷺ ne sirf paanch namaazon ko farz farmaya hai aur baaqi ko nafil qaraar diya hai. ('Fathul-Bari:1/107)

Baab 32: Janazah ke hamraah jaana eemaan ka hissa hai

44. Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "jo koyi eemaandar ho kar Husool-e-sawaab ki niyat se kisi musalmaan ke janaze ke saath jaaye aur namaaz wa dafan se faraaghat hone tak uske saath rahe to woh do qiraat sawaab le kar waapas aata hai. har qiraat ohud pahad ke baraabar hai. aur jo shakhs janazah padh kar dafan se pahle laut aaye to woh ek qiraat sawaab lekar laut ta hai." Bukhari:47)

۳۲: باب: اتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ مِنَ الْإِيمَانِ
۴۴. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ، إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ). (رواه البخارى: ۴۷)

Fawaaid: Aakhirat ke lehaaz se ek qiraat Ohad pahaad ke baraaber hoga albattha dunya mein ek qiraat 12 dirham ke baraaber hota hai. iss hadees se janaze ke saath chalne, namaaz padhne aur dafan ke ba'd waapas aane ki ahmiyat ka pata chalta hai. ('Aaunl-Bari:1/163)

Baab 33: Momin ko darna chaahiye ke mubaadan uske a'maal be khabri mein zaa'ye ho jaaen.

45. Hazrat Abdullah bim Mas'ood ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "Musalmaan ko gaali dena fisq aur uss se ladna kufr hai". (Bukhri:48)

۳۳: باب: خَوْفُ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَحْبَطَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ
۴۵. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ)
(رواه البخارى: ۴۸)

Fawaaid: Imaam Bukhari ne iss hadees se yeh bhi saabit kiya hai ke aapas mein gaali gulooch aur la'n ta'n ek musalmaan ke shayaan-e-shaan nahin (Al-Adab:6044) neez ek doosre ki naa haq gardanein maarne se eemaan khatre mein pad sakta hai. (Alfitan:7076) neez hadees mein mazkooz kufr se muraad kufr-e-haqeeqi nahin jo insaan ko daayira-e-islam se kharij kardeta hai balke laghvi kufr muraad hai. ('Aaunl-Bari:1/164)

46. Hazrat U'baadah bin Saamit رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ek daf'a shab-e-qadr bataane ke liye (apne hujre se) nikle, itne mein do musalmaan aapas mein jhagad pade. aap ne farmaya: main to isliye baahar nikla tha ke tumhein shab-e-qadr bataaoun magar fulaan fulaan aadmi jhagad pade isliye woh (mere dil se) uthhali gayi aur shaayad yahi tumhaare haq mein mufeed ho. ab tum shab-e-qadr ko ramzaan ki 27,29,

۴۶. عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يُخْبِرُ بِبَلِيَّةِ الْقَدْرِ، فَتَلَاخَى رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: (إِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِبَلِيَّةِ الْقَدْرِ، وَإِنَّهُ تَلَاخَى فَلَانٌ وَفُلَانٌ، فَرُفِعَتْ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرَ الْكُفْرِ، أَلْتَمِسُوهَا فِي السَّعِ وَالسَّعِ)

aur 25 ween raat mein talaash karo.

(Bukhari:49)

وَالْحَمْسِ). (رواه البخارى: ٣٩)

Fawaaid: Iss hadees se ma'loom huwa ke baahami ladna jhagadna etna sangeen jurm hai ke uski nuhoosat se shab-e-qadr jaisi 'azeem daulat se hamein mahroom kardiya gaya. shab-e-qadr ko nahin balke iski ta'ayyun ko utthaya gaya uss mein yeh hikmat thi ke uski talaash mein log ziyaadah ibaadat karein. ('Aaunl-Bari:1/166)

Baab 34: Hazrat Jibrayeel عليه السلام ka Rasoolullah ﷺ se eemaan, islam aur ehsaan ke muta'alliq daryaaft karna

47: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek din Rasoolullah ﷺ logon ke saamne tashreef farmaa the ke achaanak ek shakhs aapki khidmat mein haazir huwa aur poochhne laga ke eemaan kiya hai? Aap ne farmaya: Eemaan yeh hai ke tum Allah par, uske Farishton par aur roz-e-hashr Allah ke huzoor pesh hone par, Allah ke Rasoolon par eemaan laao aur qiyaamat ka yaqeen karo. usne mazeed sawaal kiya ke **Islam kiya hai?** Aap ne farmaya: "Islam yeh hai ke tum mahaz Allah ki ibaadat karo aur uske saath kisi ko shareek na banaao, namaaz ko thheek taur par adaa karo, farz zakaat adaa karo aur ramzaan ke roze rak kho. phir usne poochha ke Ehsaan kiya hai? aap ne farmaya: Ehsaan yeh hai ke tum Allah ki ibaadat iss tarah karo goya tum use dekh rahe ho agar tum use nahin dekh rahe ho wah to tumhein dekh rahaa hai. usne kahaa: **Qiyaamat kab barpa hogi?** Aap ne farmaya: jis se sawaal kiya gaya hai woh sawaal karne waale se ziyaadah nahin jaanta albatta main tumhein Qiyaamat barpa hone ki kuchh nishaaniyan bataaye deta hoon. jab laundi apna aqa janegi aur jab oun ton ke ghair ma'roof siyaah faam charwaah falak bos imaaratein banaane mein ek doosre par baazi le jaayenge (to Qiyaamat qareeb hogi). dar asl Qiyaamat un paanch baaton mein se hai jin ko Allah ke elaawah aur koyi nahin jaanta phir aap ne yeh ayat telaawat farmayi. "Beshak Allah hi ko qiyaamat ka ilm hai"

٣٣. باب: سؤال جبرئيل النبي ﷺ

عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِحْسَانِ
٣٤: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَارِزًا يَوْمًا
لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الْإِيمَانُ؟
قَالَ: (أَلِإِيمَانٌ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ
بِالْبُعْثِ) قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ:
(الْإِسْلَامُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ) وَلَا تُشْرِكَ
بِهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ
الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ) قَالَ: مَا
الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: (أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ
تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)
قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: (مَا الْمَسْئُورُ
عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَسَأُخْبِرُكَ
عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الْأُمَّةُ رَبَّهَا،
وَإِذَا تَطَاوَلَ رُغْلَةُ الْإِبِلِ الْبُهِمِ فِي
الْبَيْنَانِ، فِي خَمْسٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ)
ثُمَّ تَلَا النَّبِيُّ ﷺ (إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ
السَّاعَةِ) الْآيَةَ، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَقَالَ:
(رُدُّوهُ) فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ: (هَذَا
جِبْرِيلُ، جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ)
(رواه البخارى: ٥٠)

(Luqman:34) uske ba'd woh shakhs waapas chala gaya to aap ne farmaya: "use mere paas laao chunancheh logon ne use talaash kiya lekin uska koyi suraagh na mila to aap ne farmaya: "Yeh Jibraeel ﷺ the jo logon ko unka deen sikhaane aaye the. (Bukhari:50)

Fawaaid:Iss hadees mein isharah hai ke Qiyaamat ke qareeb mu'aamlaat naa ahal logeon ke supurd ho jaaenge. ek doosri hadees mein hai ke jab naa laayaq aur razeel loge e'naan-e-iqtedaar sanbhaalein to qiyaamat ka intezaar karna afsos ke aaj hum iss qism ke haalaat se do chaar hain.

Baab35:Apne deen ki khaatir gunaahon se alag ho jaane waale ki fazeelat

48:Hazrat No'maan bin Basheer ؓ se rivaayat hai unhon ne kahaa main ne Rasoolullah ﷺ se suna aap ﷺ farmaa rahe the ke Halaal zaahir hai aur haraam (bhi) zaahir hai aur in donon ke darmiyaan kuchh mushtabeh cheezein hain jinhein aksar log nahin jaante pas jo shakhs in mushtabeh cheezon se bach gaya usne apne deen aur apni aabroo ko bacha liya aur jo koyi un mushtabeh cheezon mein muhtala ho gaya uski misaal us charwaah ke tarah hai jo shaahi charagaah ke aas paas (apne jaanwaron ko) charaaye qareeb hai ke charagaah ke andar uska (jaanwar) ghus jaaye. Aagaah raho ke har baadshah ki ek charagaah hoti hai khabar daar! Allah ki charagaah uski zameen mein haraam kardah cheezen hain. sun lo! badan mein ek tukda hai (gosht ka) jab woh sanwar jaata hai to saara badan sanwar jaata hai aur jab woh bigad jaata hai to saara badan kharaab ho jaata hai. aagaah raho woh tukda dil hai.

(Bukhari:52)

Fawaaid:Imam Bukhari ne iss hadees se yeh bhi saabit kiya hai ke mushtabeh cheezon se parhez karna taqwa ki a'laamat hai (Albuyoo':2051) aur mushtabhaat se muraad woh pecheedah mu'aamlaat hain ke un par yaqeeni taur par koyi hukm na lagaya jaa sakta ho, agarche Ahl-e-ilm kisi had dak inse baa khabar hote hain taa hum shukook wa subhaat se khaali nahin hote. ('Aaunl-Bari:1/166)

۳۵. باب: فَضْلٌ مِّنْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ
عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: (الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ،
وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ
النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي
الشُّبُهَاتِ: كَرَاعَ يَرَعَى حَوْلَ
الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يُوقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ
لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، إِلَّا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ
فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي
الْجَسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ
فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ)

(رواه البخارى: ۵۲)

Baab 36:Khumus ka adaa karna juzw-e-eemaan hai

49: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke wafd Abdul Qais ke log jab Rasool ﷺ ke paas aaye to aap ne farmaya ke yeh kaun log hain yaa kaun se numaaindah hain? unhon ne kaha: hum khaandan Rabee'a ke log hain. aapne farmaya tum aaraam ki jagah aaye ho, zaleel hoge na sharmindah! phir un logon ne arz kiya ya Rasoolullah ﷺ! hum maah-e-haraam ke elaawah doosre dinon mein aap ke paas nahin aa sakte kyun ke hamaare our aap ke darmiyaan kuffar-e- muzar ka qabeelah rahta hai lehaza aap khulaasa ke taur par hamein koyi aisi baat bataa dein ke hum apne pechhe waalon ko iski ittela' kar dein aur hum sab us (par amal karne) se jannat mein daakhil hojaayein aur unhon ne aap se mashroobaat ke muta'alliq bhi poochha to aap ne unhein chaar baaton ka hukm diya aur chaar baaton se mana' kiya. aap ne unhen ek Allah par eemaan laane ka hukm diya phir aap ne farmaya ke tum jaante ho akele Allah par eemaan laana kiya hai? unhone kaha ke Allah aur uska Rasool hi khoob waaqif hain. Aap ne farmaya: Iss baat ki gawaahi dena ke Allah ke elaawah aur koyi laayeq-e-ibaadat nahin aur hazrat Muhammed ﷺ uske Rasool hain, Namaaz thheek tareeqe se adaa karna, zakaat dena, ramzaan ke roze rakhna aur maal-e-ghaneemat se paanchwan hissa adaa karna aur sharaab saazi ke chaar bartanon ya'ni bade matkon, kaddu se tayyaar kardah piyaalon, lakdi se taraashe huye lagan aur taarkol se range huye raoghni bartanon se unhein man'a kiya phir aap ne farmaaya ke in baaton ko yaad rakkho ke aur apne peechhe waalon ko in se baa khabar kardo. (Bukhari:53)

Fawaaid:Hurmat ke maheenon se muraad rajab, Zulq'adah, Zulhijjah, aur Muharram haim. kuffaar inki behad ta'zeem karte the aur in mein kisi doosre par dast daraazi karne se parhez karte the. iss hadees se ma'loom huwa ke aane waale mehmaanon ko khush aamded kahna islami adab hai neez ek musalmaan ke liye zaroori hai ke woh eemaan wa amal ko apne seene mein mahfooz karke use doosron tak pahuchaaye. ('Al-ilm:87)

۳۶. باب: أَداءِ الخُمُسِ مِنَ الْإِيمَانِ
 ۳۹. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ الْقَوْمُ؟ أَوْ مِنْ الْوَفْدِ؟) قَالُوا: رَبِيعَةُ. قَالَ: (مَرَجَبًا بِالْقَوْمِ، أَوْ بِالْوَفْدِ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامَى) فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّارٍ مُضَرٍّ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ فَضَلَّ، نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَأَيْنَا، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرَبَةِ: فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ، وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، أَمَرَهُمْ: بِالْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قَالَ: (اتَذَرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَأَنْ تَعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ) وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ: (الْحَنْتَمِ وَالذُّبَابِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُرْقَتِ، وَرُبَّمَا قَالَ: (الْمُقَيَّرِ) وَقَالَ: (أَحْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَأَيْنَكُمُ).

(رواه البخارى: ۵۳)

Baab 37:(Sawaab ke) tamaam kaam niyyat par mauqoof hone ka bayaan

50 - Hajrate Umar bin Khattaab رضی اللہ عنہ se marvi Hadees ke a'maal ka daaro madaar niyyat par hai. shuru' kitab mein guzar chuki hai alabattah iss maqaam par "har insaan ko wahi mile ga jo woh niyyat karega" ke b'ad kuchh ezaafah hai ki agar koyi apna watan Allah aur uske Rasool ke liye chodega to uski hijrat Allah aur uske Rasool ki taraf hogi phir unhon ne baaqi Hadees ko bayaan kiya jo pahle guzar chuki hai.(Bukhari:54)

51:Hazrat Abu Mas'ood رضی اللہ عنہ se rivaayat hai Rasool صلی اللہ علیہ وسلم se bayaan karte hain keh Aap ne farmaaya: "Jab mard apni beevi par sawaab ki niyyat se kharch karta hai to woh uske haq mein sadqah hota hai" (Bukhari:55)

Fawaaid:Ma'loom huwa ke apne ahl-o-a'yaal par khush dili se kharch karna bhi ba'ise sawaab hai. (An-nafaqaat:5351) bashartaikhe sawaab ki niyyat ho iske baghair zimme daari to adaa ho jaayegi lekin sawaab nahin milega.('Aaunl-Bari:1/184)

Baab 38:Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ka yeh farmaan ke "Deen khair khaahi ka naam hai"

52:Hazrat jareer bin Abdullah Albajali رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se namaaz padhne, zakaat dene aur har musalmaan se khair khaahi karne (ke eqraar) par bai'at ki. (Bukhari:57)

Fawaaid:Yeh hadees Islam ke tamaam sho'bon ko shaamil hai. Imam saahab iss baab ko kitab-ul-eemaan ke aakhir mein laa kar ishaarah kar rahe hain ke main ne kitab ki jam'a wa tadween mein logon ki khair khaahi ki hai. woh hadeesein bayaan ki hain jo bilkul sahih hain taake amal karne mein sahoolat rahe neez yeh hadees itni jaam'e hai ke muhaddiseen ke nazdeek islam ke chauthhayi hissa par mushtamal hai.('Aaunl-Bari:1/185)

53:Hazrat jareer bin Abdullah رضی اللہ عنہ se hi rivaayat hai, unhon ne kaha ke main Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki khidmat mein haazir huwa aur arz kiya ke main Aap se islaam par bai'at karna chahta hoon to Aap ne mujh se har musalmaan ke saath khair khaahi karne ka ahad liya pas isi par main ne Aap se bai'at karli. (Bukhari:58)

Fawaaid:Kaafiron ko bhi naseehat ki jaaye. Unhein islam ki d'aawat di jaaye aur jab woh mashwarah lein to unki sahih rahnumaayi ki jaaye alabattah bai'at ka silsila sirf ahl-e-islam ke liye hai.('Aaunl-Bari:1/186)

۳۷. باب: مَا جَاءَ أَنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّةِ

۵۰. عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثٌ أَنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ، وَزَادَ هُنَا بَعْدَ قَوْلِهِ: (وَأَمَّا لِكُلِّ أَمْرٍ مِمَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِيَ جِرَّتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ) وَسَرَدَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ (رواه البخارى: ۵۴)

۵۱. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ) (رواه البخارى: ۵۵)

۳۸. باب: قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: الدِّينُ النَّصِيحَةُ

۵۲. عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه البخارى: ۵۷)

۵۳. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ: أَبَايَعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَشَرَطَ عَلَيَّ: (وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ) فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا.

(رواه البخارى: ۵۸)

ilm ka bayaan

کتاب العلم

Imam Bukhari kitabul eemaan ke ba'd kitabul ilm laaye hain kyun ke eemaan laane ke ba'd deen ka ilm seekhne ki zimmedaari aa'yid hoti hai.

Baab 1: ilm ki fazeelat

54: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek martabah Rasoolullah صلى الله عليه وسلم majlis mein logon se kuchh bayaan kar rahe the. ke ek dehaati Aap ke paas aaya aur kahne laga, qiyaamat kab aayegi? Rasool صلى الله عليه وسلم (use koyi jawaab diye baghair) apni baaton mein masroof rahe. (haazereen mein se) kuchh log kahne lage Aap ne dehaati ki baat ko sun liya hai lekin use pasand nahin farmaya aur b'az kahne lage aisa nahin balke Aap ne suna hi nahin. jab Aap apni guftagu khatm kar chuke to farmaya : woh qiyaamat ke muta'alliq poochhne waala kahan hai? dehaati ne kahaa haan ya Rasoolullah صلى الله عليه وسلم main haazir hoon. Aap ne farmaya : jab amaanat zaaye' kardi jaaye to qiyaamat ka intazaar karo. usne daryaافت kiya ke amaanat kis tarah zaaye' hogi? Aap ne farmaya: jab (zimme daari ke) kaam na ahal logon ke supurd kiye jaayen to qiyaamat ka intezaar karna. (Bukhari:59)

Fawaaid: Amr se muraad deeni mua'amlaat hain jaise khilaafat, qaza aur ifta waghairah. iss se ma'loom huwa ke deeni zarooriyaat ke liye U'lmaa ki taraf rujoo' karna chaahiye aur U'lmaa ki zimmedari hai ke woh taalibaan-e-haq ki tashaffi karaayen. ('Awnul-Bari:1/188)

Baab 2: Ilmi baaten ba aawaaz buland kahna

55: Hazrat Abdullah bin Amr رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya : "ek safar mein Rasoolullah صلى الله عليه وسلم hum se peechhe rah gaye the phir Aap hamein iss haalat mein mile ke hum se namaaz mein der ho gayi thi aur hum (jaldi jaldi) wazu kar rahe the' hum apne paaun (khoob dhone ki bajaaye un) par masah ki tarah tar haath pherne lage yeh dekh kar Aap ne ba aawaaz buland do ya teen martabah farmaya: dozakh mein jaane

۱. باب: فَضْلُ الْعِلْمِ
۵۴. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟
فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَّرَهُ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: (أَيْنَ - أَرَأَيْتُمُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ) فَقَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (فَإِذَا ضُبِعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ). فَقَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: (إِذَا وَسِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ)
(رواه البخاری: ۵۹)

۲. باب: مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالْعِلْمِ
۵۵. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَخَلَّفَ النَّبِيُّ ﷺ عَنَّا فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَاهَا، فَأَذْرَكْنَا وَقَدْ أَرْهَقْتَنَا الصَّلَاةَ - وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَى أَرْجُلِنَا، فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ).
(مرّتين أو ثلاثاً) (رواه البخاری: ۶۰)

waali ediyon (ایڑیوں) par afsos! (Bukhari:60)

Fawaaid: M'aloomb huwa ke bawaqt zaroorat ba aawaaz buland naseehat karne mein koyi harj nahin hai. muslim ki hadees se ma'loom hota hai ke wa'z ke waqt aisa andaaz sunnat-e-nabvi hai. ('Awnul-Bari:1/189)

Baab 3: M'aloomat aazmaane ke liye ustaad ka shaagirdon ke saamne koyi masalaah pesh karna.

56: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unhon ne kaha: Rasoolullah ﷺ ne farmaya: " darakhton mein ek darakht aisa hai jiske patte nahin jhadte aur woh musalmaan ke mushaabeah hai. mujhe bat laaiye woh kaun sa darakht hai? iss par logon ne sahraayi darakhton ka khayaal kiya. Abdullah bin Umar ne kaha mere dil mein aaya ke woh khujoor ka darakht hai lekin (buzrugon se) mujhe sharm aayi aakhir sahaaba kiraam ne kaha Aap hi bataa dijiye woh kaun sa darakht hai? Aap ne farmaya: woh khujoor ka darakht hai." (Bukhari:61)

Fawaaid: M'aloomb huwa ke deen samajhne ke liye ilm haasil karne mein h'aya nahin karna chaahiye neez yeh bhi ma'loom huwa ke badon ka adab karte huwe unhein guftagu ka pahle moqa diya jaaye. ('Al-Adab:6122,6144)

Baab 4: Shaagird ka ustaad ke saamne padhna aur pesh karna

57: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ek martabah hum masjid mein Rasoolullah ﷺ ke saath baithhe huye the ke itne mein ek oont sawaar aaya aur apne oont ko usne masjid mein bithha kar baandh diya, phir poochhne laga tum mein se Muhammad kaun hain? Rasoolullah ﷺ us waqt Sahaaba kiraam رضي الله عنهم mein takiyah lagaaye baithhe the. hum ne kaha: yeh safed rang waale takiyah lagaaye huye hazrat Muhammad hain tab woh Aap se kah ne laga aye farzand Abdul Muttalib! iss par Aap ne farmaya: kaho! main tujhe jawaab deta hoon phir us shakhs ne Aap se kaha ke main sakhti karunga Aap mujh par naraaz na hon. Aap ne farmaya (koyi baat nahin) jo chahe poochh! tab usne kaha: main Aap ko Aap ke

۳. باب: طَرُحُ الْإِمَامِ الْمَسْئَلَةَ عَلَى أَصْحَابِهِ لِيُخْتَبِرَ مَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
 ۵۶: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإِنَّهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟) فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَمَا سَتَحَيْتُ، ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (هِيَ النَّخْلَةُ)
 (رواه البخارى: ۶۱)

۴. باب: الْقِرَاءَةُ وَالْعُرْضُ عَلَى الْمُحَدِّثِ

۵۷. عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاحَهُ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُتَكِيٌّ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، فَقُلْنَا: هَذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُتَكِيُّ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ (قَدْ أَجَبْتُكَ) فَقَالَ: إِنِّي سَأَلْتُكَ فَمَشِدَّدٌ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلَا تَجِدُ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ. قَالَ: (سَلْ

parwar digaar aur Aap se pahle ke logon ke malik ki qasam dekar poochhta hoon. kiya Allah Ta'ala ne Aap ko din raat mein paanch namaazein padhne ka hukm diya hai? Aap ne farmaya: haan Allah shaahid hai. phir usne kaha: main Aap ko Allah ki qasam deta hoon kiya Allah Ta'ala ne saal bhar mein ramzaan ke roze rakhne ka hukm diya hai? Aap ne farmaya: haan Allah gawah hai. phir kahne laga: main Aap ko Allah ki qasam deta hoon kiya Allah ta'ala ne Aap ko hukm diya hai ke Aap hamaare Umra se sadqah le kar hamaare fuqraa par taqseem karen? Aap ne kaha haan: Allah gawah hai. uske b'ad wo shakhs kahne laga: main iss sharee'at par eemaan laata hoon jo Aap laaye hain. main apni qaum ka numaayindah ban kar haazir-e-khidmat huwa hoon mera naam Zimaam bin S'alabah hai aur qabeelah S'ad bin Abi Bakr se ta'alluq rakhta hoon.(Bukhari:63)

عَمَّا بَدَأَكَ فَقَالَ: أَسَأَلُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ، اللَّهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ) قَالَ: أَنْشُدَكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟ قَالَ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ). قَالَ: أَنْشُدَكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَصُومَ هَذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ) قَالَ: أَنْشُدَكَ بِاللَّهِ، اللَّهُ أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَاءِنَا فَتَقْسِمَهَا عَلَى فَقْرَائِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اللَّهُمَّ نَعَمْ) فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتُ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَأَيْتُ مِنْ قَوْمِي، وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ، أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرِ. (رواه البخارى: ٦٣)

Fawaaid: Iss hadees se khabar-e-waahid par amal karne ka suboot milta hai neez agar daada (دادا) ki shohrat ziyaadah ho to uski taraf nisbat karne mein koyi harj nahin. ('Awnul-Bari:1/163)

58: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne apne khat ek shakhs ke saath bheja aur use farmaya ke yeh khat bahrain (بحرين) ke Governor ko pahuncha de phir Haakim-e-Bahrain ne isko kisraa tak pahuncha diya. kisraa ne ise padh kar chaak kar diya. raavi ne kaha Rasoolullah ﷺ ne un par baddu'a ki ke Allah kare rezah rezah kardiye jaayen. (Bukhari:64)

٥٨. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ رَجُلًا، وَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَرَّقَهُ، قَالَ: قَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَمَزُقُوا كُلَّ مَمَزُقٍ. (رواه البخارى: ٦٣)

Fawaaid: Iss hadees se munaawalah aur ahl-e-ilm ki baaton ko tahreer karke digar mamaalik irsaal karne ka suboot milta hai, neez yeh bhi ma'loom huwa ke ghair muslim hukoomat se e'laan-e-jung se pahle use deen-e-islam ki d'awat di jaaye. ('Awnul-Bari:1/164)

59: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne ek khat likhaya ya likhne ka iraadah farmaya. jab Aap se kahaa gaya ke woh log baghair mohar laga khat nahin padhte to Aap ne chaandi ki ek angoothhi

٥٩. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ كِتَابًا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا

banwaayi jis par "Muhammad Rasoolullah" ke alfaaz kundah the, Hazrat Anas رضي الله عنه ka bayaan hai ke. (uski khoobsoorti meri nazar mein khab gayi) goya ab bhi Aap ke haath mein uski safedi ko dekh rahaa hoon. (Bukhari:65)

يَقْرُؤُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، نَقَشَهُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، كَاتِبِي أَنْظُرِي إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ.

(رواه البخارى: ٦٥)

Fawaaid:Ma'loom huwa ke chaandi ki angoothi iste'maal karna jaayez hai. ('Awnul- Bari:1/166)

60: Hazrat Abu Waaqid Al-laisi رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek martabah Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم Masjid mein logon ke humraah baithhe huye the itne mein teen aadmi aaye. un mein se do to Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas aa gaye aur ek waapas chala gaya . raavi kahta hai ke woh donon kuchh der Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas thhahre rahe. un mein se ek ne halqah mein gunjaayish dekhi to baithh gaya aur doosra sab se peechhe baithh gaya teesra to waapas jaahi chuka tha. jab Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم (w'az se) faarigh huye to farmaya: "kiya main tumhein un teenon aadmiyon ka haal nah bataaun? un mein se ek ne Allah ki taraf rujoo' kiya to Allah ne use jagah de di aur doosra sharmaaya to Allah ne us se sharam ki aur teesre ne ru gardaani ki to Allah ne bhi us se e'raaz farmaya." (Bukhari:66)

٦٠. عَنْ أَبِي وَقِيدِ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ وَاحِدٌ، قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا: فَرَأَى فُرْجَةَ فِي الْحَلَقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ: فَادْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ عَنِ النَّفْرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوَى إِلَى اللَّهِ فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ (فَأَعْرَضَ) فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ).

(رواه البخارى: ٦٦)

Fawaaid:Iss hadees mein Allah ke liye Sifat-e-H'aya ka suboot milta hai ba'z ahl-e-ilm ne iski taaweel ki hai ke iss se muraad raham karna aur kisi ko a'zaab na dena hai lekin muhaqqiqeen aslaaf ne iss andaaz ko pasand nahin kiya balke unke nazdeek Allah ki sifaat ko joon ka toon tasleem kiya jaaye.

Baab 5: Irshaad-e-Nabwi: "Basaa auqaat woh shakhs jise hadees pahunchaayi jaaye (baraahе raast mujh se) sunne waale se ziyaadah yaad rakhne waala hota hai.

61: Hazrat Abu Bakrah رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek daf'a Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم apne ount par baithhe huye the aur ek shakhs uski nakeel ya muhaar thaame huye tha. Aap ne farmaya yeh kaunsa din hai? hum log iss khayaal se khamoosh rahe ke shaayed Aap iske asal

٥. باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبِّ مَبْلَغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ

٦١. عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: قَعَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى بَعِيرِهِ، وَأَمْسَكَ إِنْسَانٌ بِخَطَامِهِ - أَوْ بِرِمَامِهِ ثُمَّ قَالَ: (أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟) فَسَكَتْنَا حَتَّى

naam ke elaawah koyi aur naam bataayeinge. Aap ne farmaya: kiya yeh qurbaani ka din nahin hai? hum ne arz kiya kyun nahin! phir Aapne farmaya yeh kaunsa maheena hai? hum phir iss khayaal se chup rahe ke shaayad Aap iska koyi aur naam rakkhenge. Aap ne farmaya kiya yeh maah zulhijjah nahin hai? hum ne kaha kyun nahin! tab Aap ne farmaya: "tumhaare khoon' tumhaare maal aur tumhaari aabrooyen ek doosre par iss tarah haraam hain jaisa ke tumhaare haan iss shahar aur iss maheenah mein iss din ki hurmat hai. chaahiye ke jo shakhs yahaan haazir hai woh ghaayeb ko yeh khabar pahunchaa de isliye ke shaayad haazir aise shakhs ko khabar karde jo iss baat ko us se ziyaadah yaad rakkhe."

(Bukhari:67)

Fawaaid: Majlis wa'z mein haazireen ko chaahiye ke woh ilmi aur deeni baatein ghair maujood logon tak pahunchaayein ('Al-ilm:105)

Baab 6: Rasoolullah ﷺ ka ilm aur wa'z ke liye khayaal rakhna (ria'ayat karna) taake log ghabra na jaayen.

62: Hazrat Ibne Masood ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ hamaare parishan hone (ukta jaane) ke andesha se hamein wa'z wa naseehat karne ke liye waqt aur moqa' wa mahal ka khayaal rakkhkte the. (Bukhari:68)

Fawaaid: Ma'loom huwa ke muqarrireen ko wa'z wa naseehat ke waqt moqa' wa mahal ka khayaal rakhna chaahiye taake log ukta na jaayen aur na hi un mein nafrat ke jazbaat paida hon.

63: Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "(deen mein) aasaani karo sakhti na karo aur logon ko khushkhabri sunao unhein (dara dara kar) mutanaffir na karo." (Bukhari:69)

Fawaaid: Ma'loom huwa ke deeni mu'aamlaat mein beja sakhti nahin karna chaahiye.

('Al-Adab:6125)

ظَنَّا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: (أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟) قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: (فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟) فَسَكَّتْنَا حَتَّى ظَنْنَا أَنَّهُ سَيَسْمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: (أَلَيْسَ بِذِي الْحِجَّةِ؟) قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: (فَإِنْ دِمَاءُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ، وَأَعْرَاصُكُمْ، بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى أَنْ يُبْلَغَ مِنْهُ هُوَ أَوْ عَى لَهُ مِنْهُ).

(رواه البخارى: ٦٤)

٦٢. باب: مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّنُهُمْ

بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفَرُوا

٦٢. عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّنُنَا

بِالْمَوْعِظَةِ فِي الْأَيَّامِ، كَرَاهِيَةَ السَّامَةِ

عَلَيْنَا. (رواه البخارى: ٦٨)

٦٣. عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

وَبَشِّرُوا وَلَا تُفَرِّقُوا)

(رواه البخارى: ٦٩)

Baab 7: Allah jis ke saath bhalaayi chaahta hai use Faham-e-Deen ataa farmaata hai.

64: Hazrat Mu'awiyah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kahaa ke main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko yeh farmaate suna hai ke Allah Ta'ala jiske saath bhalaayi chaahta hai usko deen ki samajh e'naayat kar deta hai aur main to sirf taqseem karne waala hoon aur dene waala to Allah hi hai aur (Islam ki) yeh jama'at hamesha Allah ke hukm par qaayem rahegi jo unka mukhaalif hoga unko nuqsan nahin pahunchaa sakega yahaan tak Allah ka hukm ya'ni qiyaamat aajaayega. (Bukhari: 71)

Fawaaid: Deen mein (samajh daari) ka taqaazah yeh hai ke qur'an wa hadees ka shauq se mutaala kiya jaaye taake woh deeni umoor mein sahih chhaan been aur asal wa naqaal ke farq ko samajhne ke qaabil ho jaaye. ('Awnul- Bari:1/206)

Baab 8: Ilm mein faham wa baseerat ka bayaan

65: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke hum Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke paas (baithhe huye) the ke Aap ke paas khujoor ka gooda laaya gaya. Aap ne farmaya darakhton mein se ek darakht hai yeh Hadees 56 pahle guzar chuki hai. iss rivaayat mein unhon ne yeh ezaafah bayaan kiya " main ne apne Aap ko dekha ke main hi sab se chhota hoon lihaaza khaamoosh raha. (Bukhari:72)

Baab 9: Ilm wa hikmat mein rashk karna

66: Hazrat Abdullah bin Masuood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya hai rashk jaayez nahin magar do (aadmiyon ki) khaslaton par ek uss shakhs (ki aadat) par jis ko Allah ne maal diya ho woh use raah-e-haq mein nek kaamon par kharch kare aur doosre us shakhs (ki aadat) par jise Allah ne (Qur'an wa hadees ka) ilm de rakkha ho aur woh uske mutaabiq faislah karta ho aur logon ko uski ta'leem deta ho. (Bukhari:73)

٤. باب: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ
(فِي الدِّينِ)

٦٣. عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ). (رواه البخارى: ٨١)

٨. بَابُ: الْفَهْمُ فِي الْعِلْمِ

٦٥. عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَى بِجُمَارٍ، فَقَالَ: (إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً) وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَزَادَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ: فَإِذَا أَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَسَكَتٌ. (رواه البخارى: ٤٢)

٩. (باب: الِاغْتِبَاطُ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ)

٦٦. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلِطَ عَلَى هَلَكَيْهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا). (رواه البخارى: ٤٣)

Fawaaid:Rashk yeh hai ke kisi mein achchhi sifat dekh kar insaan apne liye uski tamanna kare aur agar maqsood yeh ho ke uss se woh ne'mat chhin jaaye aur mujhe haasil ho jaaye to use hasad kahte hain aur yeh qaabil-e-muzammam hai. ('Awnul-Bari:1/207)

Baab 10:(Hazrat ibne Abbaas ke liye) Nabi ﷺ ki du'a! ise qura'n ka ilm de.

67:Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne kaha ke mujhe ek martabah Rasoolullah ﷺ ne apne seene se lagaya aur du'a di ke Aye Allah! ise apni kitab ka ilm ataa farma. (Bukhari:75)

Baab 11:Ladke ka kiss umr mein simaa'-e-hadees durst hai?

68:Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ek din gadhi (گدی) par sawaar ho kar aaya, us waqt main qareebul buloogh tha aur Rasoolullah ﷺ mina mein kisi divaar ko saamne kiye baghair namaaz padhaa rahe the. main ek saff ke aage se guzra aur gadhi (گدی) ko charne ke liye chhoda aur khud saff mein shaamil hogaya to mujh par kisi ne e'teraaz nahin kiya.(Bukhari:76)

69:Hazrat Mahmood bin Rabee' رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mujhe (ab tak) Rasoolullah ﷺ ki ek kulli yaad hai jo Aap ne ek doll se paani lekar mere chehre par ki thi us waqt main paanch baras ka tha.

(Bukhari:77)

Fawaaid:Ma'loom huwa ke samajh daar bachche bhi majlis-e-ilm mein haazir ho sakte hain aur ahl-e-ilm un se khush taba'yi bhi kar sakte hain ('Awnul-Bari:1/166)

Baab 12:Ilm padhne aur padhane waale ki fazeelat.

70:Hazrat Abu Moosa 'Ash'ari رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya ke Allah Ta'ala ne jo hidaayat aur ilm mujhe dekar bhejaa hai uski misaal tezz baarish ki si hai jo zameen par barse phir saaf aur umdah zameen to paani ko jazb karleti hai aur bahut sa ghaas sabzah ugaati hai jabke sakht

۱۰. باب: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: اَللّٰهُمَّ

عَلِّمَهُ الْكِتَابَ

۶۷. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَمِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: (اللّٰهُمَّ عَلِّمَهُ الْكِتَابَ)

(رواه البخارى: ۷۵)

۱۱. باب: متى يصح سماع الصَّغِيرِ

۶۸. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارَاتَانِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْإِحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي بِيَمْنِي إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيَّ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأُرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ. (رواه البخارى: ۷۶)

۶۹. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَقَلْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ مَجَّةً مَجَّهَا فِي وَجْهِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسٍ سِنِينَ، مِنْ دَلْوٍ. (رواه البخارى: ۷۷)

۱۲. باب: فَضْلُ مَنْ عِلْمٍ وَعَلَّمَ

۷۰. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَلِبَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا

zameen paani ko rokhi hai phir Allah Ta'ala usse logon ko faayidah pahunchaata hai log khud bhi peete hain aur jaanwaron ko bhi sairaab karte hain. aur uske zariy'e kheti baadi (باڑی) bhi karte hain. aur kuchh baarish aise hissa par barsi jo saaf cahtiyal maidaan tha woh na to paani ko rokta hai aur na hi sabzah ugaata hai pas yahi misaal us shakhs ki hai jis ne Allah ke deen mein samajh haasil ki aur jo ta'leemaat de kar Allah Ta'ala ne mujhe mabo'os kiya hai un se faayidah huwa. yani usne unhein khud seekha aur doosron ko sikhaaya aur yahi us shakhs ki misaal hai jis ne sar tak na uthhaaya aur Allah ki hidaayat ko jo main de kar bheja gaya hoon qubool na kiya. (Bukhari:79)

Baab 13: Dunya se ilm uthh jaana aur jehaalat ka a'am ho jaana.

71: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne kaha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya: "yeh qiyaamat ki 'alaamatan mein se hai ke ilm uthh jaayega aur jehaalat phail jaayegi. sharaab bakasrat nosh ki jaayegi aur zinakaari A'laaniya hogi." (Bukhari: 80)

72 : Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya: "Main tumhein ek hadees sunaata hoon jo mere b'ad tumhein koyi nahin sunaayega. main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko farmate huye suna ke qiyaamat ki nishaaniyon mein se hai ke ilm-e-deen kam aur jehaalat ghaalib ho jaayegi, zinaakari a'am ho jaayegi. auraten ziyaadah mard kam honge yahaan tak ke ek mard 50 aurton ka kafeel hoga. (Bukhari: 81)

أَجَادِبُ، أَمَسَكِ الْمَاءَ، فَفَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تَمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلًّا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّتِي أُرْسِلَتْ بِهِ (رواه البخارى: ٤٩)

١٣. بَابُ: رَفَعَ الْعِلْمَ وَظَهَرَ الْجَهْلَ ٤٩: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: (إِنَّ مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيُنْبِتَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيُظْهَرَ الزِّنَا) (رواه البخارى: ٨٠)

٤٢. وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا حَدَّثَنَكُمْ حَدِيثًا لَا يَحْدِثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: (مِنْ أَسْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيُظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرَّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقِيمُ الْوَاحِدِ) (رواه البخارى: ٨١)

Fawaaid: Qurb-e-qiyaamat ke waqt mardon ke kam aur a'uraton ke ba kasrat hone ki wajah yeh bayaan ki jaati hai ke aise haalaat mein ladaaiyaan bahut hongy. ek hukoomat doosri par chadaayi karegi, in ladaaiyon mein mard maare jaayenge aur a'uraten ba kasrat baaqi rah jaayengi.

Baab 14: Ilm ki faravaani

73: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ se suna Aap farma rahe the ke main ek martabah so rahaa tha mere saamne doodh ka piyaala laaya gaya main ne use pee liya yahaan tak ke sairaabi mere naakhunon se zaahir hone lagi phir main ne bacha huwa doodh Umar bin Khattaab ؓ ko de diya. sahaaba kiraam ؓ ne arz kiya ya Rasoolallah! iski kiya ta'beer li? Aap ne farmaya ke iski ta'beer "ilm" hai. (Bukhari: 82)

Fawaaid: Ma'loom huwa ke khaab mein doodh (دودھ) peene ki ta'beer ilm ka husool hai neez agar doodh ki sairaabi ko naakhunon mein dekhe to uss se ilm ki sairaabi muraad li jaa sakti hai. (T'abeerur R'oyaa: 7006, 7007)

Baab 15: Sawaari waghairah par sawaar rah kar fatwa dena.

74: Hazrat Abdullah bin Amar bin Al'aas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ hajjatul wida' ke waqt Mina mein un logon ke liye khade (کھڑے) the jo Aap se masaayil poochh rahe the. ek shakhs aaya aur kahne laga mujhe khayaal nahin raha main ne qurbaani se pahle apna sar mund waaliya hai. Aap ne farmaya: ab zabah karlo koyi harj nahin. phir ek shakhs aaya aur arz kiya la ilmi se main ne kankaryaan maarne (rami) se pahle qurbaani karli hai. aap ne farmaya ab rami karlo koyi harj nahin. Abdullah bin Amr رضی اللہ عنہما kahte hain ke uss din aap se jis baat ki baabat poochha gaya jo kisi ne pahle karli ya b'ad mein to Aap ne farmaya: ab karlo kuchh harj nahin. (Bukhari: 83)

Baab 16: Jis ne haath ya sar ke ishaarah se sawaal ka jawaab diya.

75: Hazrat Abu Hurairah ؓ Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aapne farmaya: "Aaindah zamaana mein ilm uthha liya jaayega, jehaalat aur fitne ghaalib hongee aur ziyaadah hoga" a'rz kiya gaya ya Rasoolallah

۱۴- باب: فَضْلُ الْعِلْمِ

۷۳: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ، أُتَيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ حَتَّى لَأَرَى الرَّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي، ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضْلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ). قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْهُ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الْعِلْمُ).

(رواه البخارى: ۸۲)

۱۵- باب: الْفُتْيَا وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى**الدَّابَّةِ وَغَيْرِهَا**

۷۴: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ بِمِنَى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ؟ فَقَالَ: (أَذْبَحْ وَلَا حَرَجَ) فَجَاءَ آخَرَ فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أُرْمِيَ؟ قَالَ: (ارْمِ وَلَا حَرَجَ) فَمَا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ شَيْءٍ قَدِيمٍ وَلَا أُخْرٍ إِلَّا قَالَ: (أَفْعَلْ وَلَا حَرَجَ) (رواه البخارى: ۸۳)

۱۶- باب: مَنْ أَجَابَ الْفُتْيَا بِإِشَارَةٍ**الرَّأْسِ وَالْيَدِ**

۷۵: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (يُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ وَالْفِتْنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرَجُ). قِيلَ:

kiya cheez hai? aap ne apne dast-e-mubarak se iss tarah tirschha ishaarah karke farmaya goya aapki muraad qatl thi. (Bukhari:85)

76: Hazrat Asma binte Abi Bakr رضی اللہ عنہا se rivaayat hai unhon ne kaha main Hazrat Aayishah رضی اللہ عنہا ke paas aayi woh namaaz padh rahi thin. main ne kaha logon ka kiya haal hai ya'ni woh parishaan kuyin hain? unhon ne aasmaan ki taraf ishaarah kiya ya'ni dekho sooraj ko girhan laga huwa hai itne mein log (namaaz-e-kusaoof ke liye) khade huye to Hazrat Aayishah رضی اللہ عنہا ne kaha: **Subhaanalla!** main ne poochha (yeh girhan) kiya koyi (azaab ya qiyaamat ki) a'laamat hai? unhon ne sar se isharah kiya haan, phir main bhi (namaaz ke liye) khadi ho gayi hatta ke mujh par gashi taari hone lagi to main ne apne sar par paani daalna shuru' kardiya. (jab namaaz khatm ho chuki to) Rasoolullah ﷺ ne Allah Ta'ala ki hamd-o-sana ki aur farmaya: "jo cheezen ab tak mujhe na dekhaayi gayi thin un ko main ne apni iss jagah se dekh liya hai hatta ke jannat aur dozakh ko bhi aur meri taraf yeh wahi bheji gayi ke qabron mein tumhaari aazmaayish hogi jaise Maseeh Dajjaal ya uske qareeb qareeb fitne se aazmaaye jaoge (raavi kahta hai mujhe yaad nahin ke hazrat Asmaa ne kaunsa lafz kaha tha) aur kaha jaayega ke mujhe uss shakhs y'ani Rasoolullah ﷺ se kiya waaqifiyat hai? eemaan daar ya yaqeen rakhne waala (raavi kahta hai ke mujhe yaad nahin hazrat Asmaa ne kaunsa lafz kaha tha) kahe ga ke hazrat Muhammad ﷺ Allah ke Rasool hain jo hamaare paas khuli nishaaniyan aur hedaayat le kar aaye the, hum ne unka kaha maana aur unki pairwi ki yeh Muhammad ﷺ hain teen baar aisa hi kahega chunaancheh us se kaha jaayega tu maze se so ja be shak

يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْهَرَجُ؟ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّقَهَا، كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ.

(رواه البخارى: ٨٥)

٤٦: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ تُصَلِّي فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَأَذَا النَّاسُ قِيَامًا، فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا: أَيْ نَعَمْ، فَمُتُّ حَتَّى تَجَلَّأَنِي الْعَشِيُّ، فَجَعَلْتُ أَصْبُ عَلَى رَأْسِي الْمَاءَ، فَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَتَيْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَكُنْ أَرِيئُهُ إِلَّا رَأَيْتُهُ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَأُوجِحِي إِلَيَّ: أَنْتُمْ تَفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ - مِثْلُ أَوْ - قَرِيبٌ - لَا أَدْرِي أَى ذَلِكِ قَالَتْ أَسْمَاءُ - مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، يُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوْ الْمُؤْمِنَةُ - لَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى، فَاجْبَنَاهُ وَاتَّبَعْنَاهُ، هُوَ مُحَمَّدٌ، ثَلَاثًا، فَيُقَالُ: نَمَّ صَالِحًا، قَدْ عَلِمْنَا أَنْ كُنْتَ لِمُؤْمِنًا بِهِ. وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمُرْتَابُ - لَا أَدْرِي أَى ذَلِكِ قَالَتْ أَسْمَاءُ - فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ

hum ne jaan liya ke tu Muhammad ﷺ par eemaan rakhta hai aur munaafiq ya shak karne waala (raavi kahta hai mujhe yaad nahin ke Hazrat Asmaa ne kaunsa lafz kaha tha) kahega main kuchh nahin jaanta haan logon ko jo kahte suna main bhi wahi kahne laga." (Bukhari: 86)

Fawaaid: Iss hadees se a'zaab-e-qabr aur uss mein farishton ka sawaal karna saabit hota hai neez jo insaan Rasoolullah ﷺ ki risaalat par shak karta hai woh daayira-e-islam se khaarij hai aur yeh bhi ma'loom huwa ke halki ghashi padne (پڑنے) se wazoo nahin toot ta ('Awnul-Bari:1/228)

Baab17: Dar Pesh masalah ke liye safar karna aur apne ahal ko ta'leem dena

77: Hazrat Uqbah bin Haaris ﷺ se rivaayat hai ke unhon ne Abu Ehaab bin Azeez ki beti se nikah kiya. phir ek aurat aayi aur kahne lagi ke main ne Uqbah aur uski biwi ko doodh pilaaya hai. hazrat Uqbah ne kaha ke mujhe to ilm nahin hai ke tu ne mujhe doodh pilaya hai aur na pahle tumne iski khabar di phir hazrat Uqbah sawaar ho kar Rasoolullah ﷺ ke paas Madinah Manauwarah aagaye aur Aap se masalah poochha to Rasoolullah ﷺ ne farmaya: (tu uss aurat se) kaise (sohbat karega) jab ke aisi baat kahi gayi hai aakhir Uqbah ﷺ ne uss aurat ko chhod diya aur usne kisi doosre shakhs se nikah karliya. (Bukhari: 88)

Fawaaid: Iss hadees se un shubhaat ki tafseer hoti hai jin se ijtenaab karne ki talqeen ki gayi hai (Al-Boyu':2052)

Baab 18: Husool-e-ilm ke liye baari moqarrar karna.

78: Hazrat Umar bin Khattaab ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main aur mera ek Ansari padosi Banu Umayyah bin Zaid ke gaauon mein rahaa karte the jo Madinah ki bulandi ki taraf tha aur hum Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein baari baari aate the. ek din woh aata aur ek din main. jis din main aata tha uss roz ki wahi (وحي) waghairah ka haal main usko bata deta

(رواه البخارى: ٨٦)

٤٧ - باب: الرَّحْلَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ
وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ

٤٤: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَبِي إِيَّابِ بْنِ عَزِيزٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ بِهَا، فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتِنِي، وَلَا أَخْبَرْتِنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟) فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ.

(رواه البخارى: ٨٨)

١٨ - باب: التَّائِبُ فِي الْعِلْمِ

٤٨: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَيْتِ أُمِّيَّةَ بِنِ زَيْدٍ، وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ، وَكُنَّا تَتَاوَبُ النَّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا، فَإِذَا نَزَلَتْ جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ

tha aur jis din woh aata woh bhi aisa hi karta tha. ek din aisa huwa ke mera Ansaari dost jab waapas aaya to usne mere darwaaze par zor se dastak di aur kahne laga ke woh (Umar) yahaan hain? main ghabra kar baahar nikal aaya to woh bola: aaj ek bahut bada saaneha huwa. (Rasoolullah ﷺ ne apni azwaaj-e-mutahharaat ko talaq de di hai) Hazrat Umar ؓ kahte hain ke main Hafsa رضی اللہ عنہا ke paas gaya to woh ro rahi thin. main ne kaha kiya Rasoolullah ﷺ ne tumhein talaq de di hai? woh bolin mujhe ilm nahin hai. phir main Rasoolullah ﷺ ke paas haazir huwa aur khade khade arz kiya ke aaya aap ne apni biwi ko talaq de di hai? aap ne farmaya: "nahin" to main ne (maare khushi ke) Allahu Akbar kaha. (Bukhari:89)

Fawaaid: M'aloom huwa ke agar hamsaayon ko takleef na ho to chhat par baala khaana banaane mein koyi harj nahin (Almazaalim:2468) neez baap ko chaahiye ke woh apni beti ko khaawind ki eta'at aur farmaanbardaari ke muta'alliq naseehat karta rahe. ('An-Nikah:5191)

Baab 19: Wa'z ya t'aleem ke waqt kisi naa pasandeedah baat par izhaar-e-naaraazi karna.

79: Hazrat Abu Masood Ansari ؓ se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke ek shakhs ne Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein haazir ho kar arz kiya ya Rasoolullah! mere liya namaaz ba jamaa'at padhna mushkil hogaya hai kyun ke falaan shakhs namaaz bahut lambi padhaate hain. Abu Masood Ansaari ؓ kahte hain ke main ne Rasoolullah ﷺ ko naseehat ke waqt uss din se ziyaadah kabhi ghussa mein nahin dekha. aap ne farmaya logo! tum deen se nafrat dilaane waale ho. dekho jo koyi logon ko namaaz padhaaye use chaahiye ke takhfeef kare kyun ke muqtadiyon mein beemar, na kamzor aur saahib-e-haajat bhi hote hai.

(Bukhari:90)

Fawaaid: M'aloom huwa ke masaajid ke aimma-e-kiraam ko apne muqtadiyon ka khayaal rakhna chaahiye neez bahaalat-e-ghussa faisla ya fatwa dena Rasoolullah ﷺ ka khaassah hai doosron ko iski ijaazat nahin (Al-Ahkaam:7159) illa yeh ke insaan ghussa se muta'assir na ho.

Free downloading facility for DAWAH purpose only

الْيَوْمَ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ
فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَنَزَلَ صَاحِبِي
الْأَنْصَارِيَّ يَوْمَ نَوْبِهِ، فَضْرَبَ بَابِي
ضَرْبًا شَدِيدًا، فَقَالَ: أَنْتُمْ هُوَ؟ فَفَزَعْتُ
فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: حَدَّثَ أَمْرٌ
عَظِيمٌ. قَالَ: فَمَا خَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ
فَإِذَا هِيَ تَبْكِي، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَنَّ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي. ثُمَّ
دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ وَأَنَا
قَائِمٌ: أَطَلَّقْتَ نِسَاءَ كَ؟ قَالَ: (لَا).
فَقُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ. (رواه البخاری: ۸۹)

۱۹ - باب: الْعُصْبُ فِي الْمَوْعِظَةِ

وَالتَّعْلِيمِ إِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ

۷۹: عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، لَا أَكَادُ أُدْرِكُ الصَّلَاةَ مِمَّا
يُطَوَّلُ بِهَا فُلَانٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ
فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْ يَوْمِئِذٍ،
فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مُنْفَرُونَ،
فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ
فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا
الْحَاجَةِ) (رواه البخاری: ۹۰)

80: Hazrat Zaid bin Khalid Al-johani رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se giri huwi cheez ke muta'alliq daryaaft kiya gaya to aapne farmaya: "**Uske bandhan ya bartan aur thaili ki pahchaan rakh aur ek saal tak (logon mein) uska e'laan karta rah, phir uss se faayidah uttha, iss dauraan agar uska malik aa jaaye to uske hawaale karde**" phir us shakhs ne poochha ke gumshudah oont ka kiya hukm hai? yeh sun kar aap رضی اللہ عنہ iss qadar ghusse huye ke aap ke rukhsaar surkh ho gaye ya aap ka chehra mubarak surkh ho gaya (**raavi ko shak hai**) aur farmaya ke tujhe oont se kiya gharz hai? uski mashk aur uska moozah uske saath hai jab paani par pahunchega paani pee lega aur darakht se charega, use chhod de yahaan tak ke uska malik usko paa le. phir uss shakhs ne kaha achchha gumshudah bakri? aap ne farmaya: "**woh tumhaari ya tumhaare bhai (asal malik) ya bhediye ki hai.**" (Bukhari:91)

Fawaaid: Aaj kal kisi aabaadi mein aawaarah oont mile to use pakad lena chaahiye taake muslamaan ka maal mahfooz rahe aur kisi shar pasand ki bhent na chadh sake. (Awnul Bari:1/235)

81: Hazrat Abu Moosa Asha'ri رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke ek dafa Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se chand aisi baatein poochhi gayeen jo aap ke mizaaj ke khilaaf thin. jab iss qism ke sawalaat ki aap ke saamne takraar ki gayi to aap ko ghussa aagaya aur farmaya achchha jo chaaho mujh se poochho. iss par ek shakhs ne arz kiya mera baap kaun hai? aap ne farmaya tera baap Huzafah hai phir doosre shakhs ne khade ho kar kaha ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم! mera baap kaun hai? aap ne farmaya tera baap Saalim jo Shaibah ka ghulaam hai. phir jab hazrat Umar رضی اللہ عنہ ne aap ke chehra mubarak par aasaar ghazab dekhe to kahne lage ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم! hum Allah Azzah wajaal ki baargaah mein toba karte hain. (Bukhari:92)

Fawaaid: M'aloome huwa ke kasrat-e-sawalaat aur laa ya'ni takallufaat makrooh amal hai. (Al-E'tesaam:7291)

۸۰: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اللَّقْطَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَعْرِفَ وَكَأَنَّهَا أَوْ قَالَ: وَعَاءٌ هَذَا وَعِفَاصُهَا، ثُمَّ عَرَفَهَا سَنَةً، ثُمَّ اسْتَمْتَعَ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ). قَالَ: فَضَالَةٌ الْإِبِلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتَ وَجْنَتَاهُ، أَوْ قَالَ احْمَرَّ وَجْهَهُ، فَقَالَ: (مَالِكٌ وَلَهَا، مَعَهَا سِقَاؤُهَا، وَحِذَاؤُهَا تَرُدُّ الْمَاءَ وَتَرَعَى الشَّجَرَ، فَذَرَهَا حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا). قَالَ: فَضَالَةٌ الْغَنَمِ؟ قَالَ: (لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّنْبِ).

(رواه البخارى: 91)

۸۱: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَشْيَاءَ كَرِهَهَا، فَلَمَّا أَكْثَرَ عَلَيْهِ غَضَبٌ، قَالَ رَجُلٌ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: (أَبُوكَ حُدَافَةُ). فَقَامَ آخِرُ فَقَالَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: (أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةَ) فَلَمَّا رَأَى عَمْرُ مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

(رواه البخارى: 92)

Baab 20:Khoob samjhaane ke liye ek baat ko teen martabah dohraana.

82: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم jab koyi aham baat farmaate to use teen baar dohraate taake use achchhi tarah samajh liya jaaye aur jab kisi qaum ke paas tashreef le jaate to unhein teen dafa salaam bhi farmate.(Bukhari:94)

Fawaaid:Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ka khaas auqaat mein teen dafa' salaam karne ka ma'mool tha masalan kisi ke ghar mein aane ki ijaazat talab karte waqt aisa hota tha ya ek martabah salaam ejaazat keliye doosra jab unke paas jaate aur teesra jab unse rukhsat hote. a'am haalaat mein teen martabah salaam karna aap ke m'amool se saabit nahin. ('Awnul-Bari:1/238)

Baab 21:Apni laundi aur Ahl-e-khana ko ta'leem dena.

83: Hazrat Abu Moosa Asha'ri رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya: Teen shakhs aise hain jinko do guna sawab milega. ek woh shakhs jo ahl-e-kitab mein se apne nabi par aur phir Muhammad صلى الله عليه وسلم par eemaan laaye aur doosra woh ghulaam jo Allah aur apne maalikaan ka haq adaa karta rahe aur teesra woh jis ke paas uski laundi ho jis se ta'alluqaat qaayem karta ho phir use achchhi tarah ta'leem wa adab se aaraastah karke azad karde ba'd azaan uss se nikah karle to usko dohra sawaab milega.(Bukhari:97)

Baab 22:Imam ka Auraton ko naseehat karna.

84: Hazrat Ibne Abbas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم (Eid ke din mardon ke saff se auraton ki jaanib) nikle aur aap ke hamraah hazrat Bilaal رضي الله عنه the. aap ko khayaal huwa ke shaayad auraton tak meri aawaaz nahin pahunchi isliye aap ne unko naseehat farmaayi aur sadqah wa khairaat dene ka hukm diya to koyi aurat apni baali aur angoothi daalne lagi aur hazrat Bilaal رضي الله عنه (un zewraat ko)

۲۰- باب: مَنْ أَعَادَ الْحَدِيثَ ثَلَاثًا

لِيُفْهِمَ عَنْهُ

۸۲: عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهِمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ ثَلَاثًا.

(رواه البخارى: ۹۴)

۲۱- باب: تَعْلِيمُ الرَّجُلِ أُمَّتَهُ وَأَهْلَهُ

۸۳: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمَّةٌ يَطْوُهَا، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ).

(رواه البخارى: ۹۷)

۲۲- باب: عِظَةُ الْإِمَامِ النِّسَاءِ

۸۴: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلقِي الْقُرْطُ وَالْخَاتَمَ، وَبِلَالٌ يَأْخُذُ فِي طَرْفِ ثَوْبِهِ. (رواه البخارى: ۹۸)

apne kapde mein jama karne lage. (Bukhari:98)

Fawaaid:Ma'loom huwa ke sadqah wa khairaat ke liye shauq dilaana aur safaarish karna bada sawaab ka kaam hai. (Az-zakaat:1431) neez auraton ko angoothi, chhalla, haar, galoband, aur baaliyan pahanna jaayez hai ('Al-Libaas:5880 ta 5883)

Baab 23:Hadees-e-Nabwi ﷺ ke husool ke liye hirs karna.

85:Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai farmate hain main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! Qiyaamat ke din aap ki sifarish se kaun ziyaadah hissa paayega to aap ne farmaya: Abu Hurairah! mera khayaal tha ke tum se pahle koyi mujh se yeh baat nahin poochhega kyun ke main dekhta hoon ke tujhe hadees ki intehaayi hirs hai. Qiyaamat ke din meri shifaa'at se sab se ziyaadah bahra war woh shakhs hoga jis ne apne dil ya khuloos-e-niyat se “لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ” kaha ho.

(Bukhari:99)

۲۳-باب: الْحِرْصُ عَلَى الْحَدِيثِ
۸۵: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ
أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَقَدْ ظَنَنْتُ - يَا
أَبَا هُرَيْرَةَ - أَنْ لَا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا
الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوْلُ مِنْكَ، لِمَا رَأَيْتُ
مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ،
أَسْعَدَ النَّاسَ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ
قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ، أَوْ
نَفْسِهِ. (رواه البخارى: ۹۹)

Fawaaid:Dil se kalma ekhlaas se kahne ka matlab yeh hai ke Allah ke saath kisi ko shareek na kare kyun ke jo shakhs shirk karta hai uska mahaz zabani da'wa hai dil se uska eqraar nahin karta. ('Awnul-Bari:1/242)

Baab 24: Ilm kis tarah uthha liya jaayega?

86 : Hazrat Abdullah bin Amr bin Al A'as رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmaate huye suna ke Allah Ta'ala ilm-e-deen ko aise nahin uthhaayega. ke bandon ke seenon se nikaal le balke ahle ilm ko maut de kar ilm ko uthhaayega. jab koyi aalim baaqi nahin rahe ga to log jaahilon ko peshwaa bana lenge aur un se masaayel poochhe jaayenge to woh baghair ilm ke fatwe dekar khud bhi gumraah honge aur doosron ko bhi gumraah karenge. (Bukhari: 100)

۲۴-باب: كَيْفَ يَقْبِضُ الْعِلْمُ
۸۶: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ
اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْزَاعًا يَنْزِعُهُ مِنَ
الْعِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ
الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا، اتَّخَذَ
النَّاسُ رُؤَسَاءَ جَهْلًا، فَسُئِلُوا، فَافْتَوُوا
بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا).

(رواه البخارى: ۱۰۰)

Fawaaid:Iss hadees se yeh bhi ma'loom huwa ke deeni mua'amlaat mein fuzool raaye zani aur khaah makhah qiyaas karna qaabile muzammat hai. ('Al-E'tesaam:7307)

Baab 25:Kiya Auraton ki ta'leem keliye alag din muqarrar kiya jaa sakta hai?

۲۵-بَابُ: هَلْ يُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ يَوْمًا
فِي الْعِلْمِ

87: Hazrat Abu Sa'yeed Khudri رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke chand auraton ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se arz kiya ke mard Aap se faayedah uthhaane mein hum se aage badh gaye hain isliye Aap apni taraf se hamaare liye koyi din muqarrar farmaaden. Aap ne unki mulaqaat ke liye ek din ka wa'dah karliya chunaancheh uss din Aap ne naseehat farmayi aur sharee'at ke ahkaam bataaye. Aapne unhen jo baatein talqeen farmaayin un mein se ek yeh bhi thi ke tum mein se jo aurat apne teen bachche aage bhej degi to woh uske liye dozakh ki aag se hijaab ban jaayenge. ek aurat ne arz kiya agar do bheje to? Aap ne farmaya ke do ka bhi yahi hukm hai aur hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ ki rivaayat mein yeh ezaafah hai ke woh teen bachche jo gunaah ki umr ya'ni buloogh tak na pahunchen hon.

(Bukhari: 101-2)

Fawaaid: Matlab yeh hai ke agar kisi aurat ke teen bachche mar jaayen aur woh sabr ka muzaahirah kare to woh qiyaamat ke din jahannam se ot (ادب) ban jaayenge. doosri rivaayat mein hai ke ek bachcha balke kachcha bachcha bhi jahannam se rukaawat ka baal'is hai.

Baab 26: Ek baat sunne ke ba'd samajhne ke liye dobaraah poochhna.

88: Hazrat Aayishah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya: "qiyaamat ke din jis ka muhaasbah huwa use azaab diya jaayega. iss par Hazrate Aayishah رضی اللہ عنہا ne arz kiya Allah Ta'ala to farmata hai uska hisaab asaani se liya jaayega. Aap ne farmaya (yeh hisaab nahin hai) balke iss se muraad a'amaal ki peshi hai lekin jis se hisaab mein jaanch padtaal ki gayi woh yaqeenan halaak ho jaayega. (Bukhari: 103)

Fawaaid: Ma'loom huwa ke agar deeni masalah men kisi ko ishkaal ho to sawaal ke zariye us ka hal talaash karna chaahiye.

Baab 27: Chaahiye ke haazir ghaayib ko ilm pahunchaa de.

89: Hazrat Abu Shuraih رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se

۸۷: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتِ النِّسَاءُ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم: غَلَبْنَا عَلَيْكَ الرِّجَالَ، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ فِيهِ، فَوَعَظَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ، فَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُنَّ: (مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تَقْدِمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا، إِلَّا كَانَ لَهَا حِجَابٌ مِنَ النَّارِ) فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَائْتَيْنِ؟ فَقَالَ: (وَائْتَيْنِ).

(رواه البخارى: ۱۰۱)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (لَمْ يَلْغُوا الْحِنْتُ).

(رواه البخارى: ۱۰۲)

۲۶-باب: مَنْ سَمِعَ شَيْئًا فَرَأَى حَتَّى يَعْرِفَهُ

۸۸: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: (مَنْ حُوسِبَ عَذِبَ) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَوْ لَيْسَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا﴾ فَقَالَ: (إِنَّمَا ذَلِكَ الْعَرَضُ، وَلَكِنْ: مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَهْلِكُ). (رواه البخارى: ۱۰۳)

۲۷-باب: لِيُبْلَغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

۸۹: عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَلْعَدَّ

fat-he Makkah ke din aisi baat mahfooz ki jise mere kaanon ne suna, dil se use yaad rakkha aur meri donon ankhon ne apko dekha jab Aap ne yeh hadees bayaan farmayi. Aap ne Allah ki hamdo sana bayaan karne ke ba'd farmaya ke Makkah (**mein jang wa jidaal karna**) Allah ne haraam kiya hai, logon ne haraam nahin kiya lehaza agar koyi shakhs Allah aur aakhirat par eemaan rakhta hai to uske liye jaayez nahin ke Makkah mein khoonrezi kare ya wahaan se koyi darakht kaate. agar koyi shakhs Rasoolullah ﷺ ke qitaal (**ladaayi karne**) se jawaaz paida kare to usse kah dena ke Allah ne apne Rasool ﷺ ko to ejaazat di thi lekin tumhein nahin di, aur mujhe bhi din mein kuchh waqt ke liye ejaazat thi aur aaj iski hurmat phir waisi hi hogayi jaise kal thi. jo shakhs yahaan haazir hai use chaahiye ke gaayeb ko yeh khabar pahuncha de.

(Bukhari: 104)

Baab 28: Rasoolullah ﷺ par jhoot bolne ka gunaah

90 : Hazrat Ali ﷺ se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ se suna Aap farma rahe the: "(dekho) mujh par jhoot na baandhna kyun ke jo shakhs mujh par jhoot baandhega woh yaqeenan dozakh mein jaayega (Bukhari: 107)

Fawaaid: Yeh wa'ieed har tarah ke jhoot ko shaamil hai jo log targheeb wa tarheeb ke muta'alliq be asl ahaadees bayaan karte hain woh isi zad mein aate hain.

91: Hazrat Salamah bin Akwa' ﷺ se rivaayat hai unhone ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmaate huwe suna jo shakhs mujh par woh baat lagaaye jo main ne nahin kahi to woh apna thhekaana aag mein banaa le. (Bukhari: 109)

92 : Hazrat Abu Huraira ﷺ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke mere naam (Muhammad aur Ahmed) par naam rakkho

مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ، يَقُولُ قَوْلًا، سَمِعْتَهُ
أَدْنَىٰ وَوَعَاةَ قَلْبِي، وَأَبْصَرْتُهُ عَيْنَايَ
حِينَ تَكَلَّمْتُ بِهِ: حَمْدُ اللَّهِ وَأَتَىٰ عَلَيْهِ
ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللَّهُ، وَلَمْ
تُحَرِّمْهَا النَّاسُ، فَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِي
يَوْمَ مِنَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَشْفِكَ
فِيهَا دَمًا، وَلَا يَعْصِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ
أَخَذَ تَرَخَّصَ لِقِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
فِيهَا، فَقُولُوا: إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لِرَسُولِهِ
وَلَمْ يَأْذُنْ لَكُمْ، وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةً
مِنْ نَهَارٍ، ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ
كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلِيَبْلُغِ الشَّاهِدُ
الْغَائِبَ). (رواه البخارى: ١٠٢)

٢٨- باب: إثم من كذب على النبي ﷺ

٩٠: عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا
تَكْذِبُوا عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ
فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)
(رواه البخارى: ١٠٤)

٩١: عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: (مَنْ يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). (رواه البخارى: ١٠٩)

٩٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (تَسْمُوا بِاسْمِي

magar meri kunniyat (Abul Qasim) na rakkho aur yaqeen karo jisne mujhe khaab mein dekha usne yaqeenan" mujh hi ko dekha hai kyun ke shaytaan meri soorat mein nahin aa sakta aur jo daanistah mujh par jhoot baandhe woh apna thhekaana jahannam mein banale. (Bukhari: 110)

Fawaaid: Khaab mein Rasoolullah ﷺ ko dekhne ki sa'aadat aisi soorat mein baa'is-e-barakat hai jab ke khaab mein dekha huwa hulyah kutb-e-hadees mein maujood aap ke huliya mubaarak ke mutaabiq ho. aap ke huliya mubaarak ke muta'alliq mustanad kitab "Ar-Rasool ﷺ Ka'annaka taraahu" bahut mufeed hai jiska urdu tarjumah "Aainah jamaal-e-Nabuwat" ke naam se Maktabah Darussalam ne shaay'e kiya hai.

Baab 29: Ilm ki baaten likhna

93 : Hazrat Abu Hurairahؓ se hi rivaayhat hai be shak Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke Allah ne Makkah se qatl ya Feel (haathi) ko rok diya hai aur Rasoolullah ﷺ aur Ahl-e-eemaan ko un (kaafiron) par gaalib kardiya khabar daar! Makkah mujh se pahle kisi ke liye halaal nahin huwa aur na mere b'ad kisi ke liye halaal hoga khabar daar! yeh mere liye bhi din mein ek ghadi (گھڑی) ke liye halaal huwa tha. khabar daar! woh iss waqt bhi haraam hai. wahaan ke kaante na kaate jaayen na uske darakht qata' kiye jaayen e'laan karne waale ke elaawah wahaan ki giri huyi cheez koyi na uthhaaye aur jiska koyi a'zeed maara jaaye usko do mein se ek ka ikhtiyaar hai diyat (دیت) qubool karle ya qesaas lele itne mein ek yamni shakhs aaya aur usne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ (yeh masaayel) mujhe likh dijiye! Aap ne farmaya: achchha! Abu fulaan ko likhdo. Quraish ke ek shakhs ne arz kiya ya Rasoolallah! magar Azkhar (khushbu daar ghaas) ke kaatne ki ejaazat dijiye isliye ke hum ise apne gharon aur qabron mein iste'maal karte hain. to Aap ne farmaya haan magar Azkhar magar Azkhar ya'ni woh kaat sakte ho.

(Bukhari: 112)

وَلَا تَكْتُمُوا بُكُنْيَتِي وَمَنْ رَأَى فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ).

(رواه البخارى: 110)

۲۹- باب: كِتَابَةُ الْعِلْمِ

۹۳: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْقَتْلَ، أَوِ الْفَيْلَ، وَسَلَطَ عَلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ، لَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا، وَلَا يُعْضَدُ شَجْرُهَا، وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، فَمَنْ قُبِلَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: أَمَا أَنْ يُعْقَلَ، وَأَمَا أَنْ يُقَادَ أَهْلُ الْقَيْلِ) فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اكْتُبْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: (اكَتُبُوا لِأَبِي فَلَانَ) فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ فُرَيْشٍ: أَلَا الْإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَلَا الْإِذْخِرَ إِلَّا الْإِذْخِرَ).

(رواه البخارى: 112)

94: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhone ne farmaya jab Rasoolullah ﷺ bahut bimaar hogaye to Aap ne farmaya ke likhne ka saamaan laao taake main tumhaare liye ek tahreer likhdun jiske b'ad tum gumraah nahin hoge Hazrat Umar رضي الله عنه ne kaha ke Rasoolullah ﷺ par bimaari ka ghalbah hai aur hamaare paas Allah ki kitab maujood hai woh hamein kaafi hai logon ne ikhtelaaf shuru' kar diya shoro ghul mach gaya tab Aap ne farmaya: mere paas se uthh jaao mere yahaan ladaayi jhagde ka kiya kaam hai?. (Bukhari: 114)

Fawaaid: Hazrat Umar رضي الله عنه ka maqsad aapke hukm se sar a'dooli na tha balki aap ne aisa az raah-e-muhabbat farmaya wrana Rasoolullah ﷺ iske ba'd chaar roz tak zindah rahe aur doosre ahkaam naafiz farmaate rahe jabke tahreer ke muta'alliq aap ne sukoot ikhtiyaar farmaya ma'loom huwa ke Hazrat Umar رضي الله عنه ki raaye se aap ko ittefaaq tha ('Awnul-Bari:1/257) waazeh rahe ke saamaan nosht laane ka yeh hukm aap ne hazrat Ali رضي الله عنه ko diya tha.

Baab 30: Raat ko ilm wa naseehat ki baaten karna

95: Hazrat Ummeh Salamah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ek raat bedaar huye to farmaya: Subhaanallah! aaj raat kitne fitne naazil kiye gaye aur kitne khazaane khole gaye. in hujron mein sone waaliyon ko jagao kyun ke duniya mein bahut si kapde pahanne waaliyan aisi hain jo aakhirat mein barhana hongy. (Bukhari: 115)

Baab 31: Raat ko ilm ki baaten karna.

96: Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne apni aakhri umr mein hamein namaaz-e-Isha padhaayi jab salaam ke b'ad khade ho gaye to farmaya tum iss raat ki ahmiyat ko jaante ho aaj ki raat se 100 baras ba'd koyi shakhs jo ab zameen par maujood hai zindah nahin rahega. (Bukhari: 116)

٩٤: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَجَعُهُ قَالَ: (أَتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوْا بَعْدَهُ) قَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَلَيْهِ الْوَجْعُ، وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا. فَاحْتَلَفُوا وَكَثُرَ اللَّعْطُ، قَالَ: (قُومُوا عَنِّي، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدِي التَّزَاوُعُ). (رواه البخارى: ١١٤)

٣٠ باب: الْعِلْمُ وَالْعِظَةُ بِاللَّيْلِ

٩٥: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: اسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ، مَاذَا أَنْزَلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ، أَيَقِظُوا صَوَاحِبَ الْحَجَرِ، قَرُبَ كَاسِيَةٌ فِي الدُّنْيَا غَارِيَةٌ الْآخِرَةِ). (رواه البخارى: ١١٥)

٣١ باب: السَّمَرُ فِي الْعِلْمِ

٩٦: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ ﷺ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ، فَقَالَ: (أَرَأَيْتُمْ كَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا، لَا يَبْقَى مِنْهُ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ). (رواه البخارى: ١١٦)

Fawaaid: Iss hadees se yeh bhi ma'loom hota hai ke Hazrat Khizar عليه السلام ab zindah nahin hain kyun ke iss hadees ke mutaabiq 100 saal b'ad Rasoolullah ﷺ ko dekhne waala koyi bhi zindah nahin raha, lekin nawaab Siddeeqe Hasan رضي الله عليه ko iss se ittefaaq nahin. ('Awnul-Bari:1/261)

97: Hazrat Abdullah bin Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne ek raat Rasoolullah ﷺ ki zaujah mohtarmah aur apni khaala Hazrat Maimoonah binte Haaris رضي الله عنها ke haan basar ki iss raat Rasoolullah ﷺ bhi inhi ke paas the Aap ne isha Masjid mein adaa ki phir apne ghar tashreef laaye aur chaar rak'at padh kar so rahe phir bedaar huye aur Aapne farmaya kiya bachcha sogaya hai? ya kuchh aisa hi farmaya aur phir namaaz padhne lage main bhi Aap ki baayen jaanib khada ho gaya Aap ne mujhe apni daayen jaanib khada karliya aur paanch rak'at namaaz padhin uske ba'd do rak'at (sunnat-e-fajr) ada keen phir so gaye yahaan tak ke main ne Aap ke kharraate bharne ki aawaaz suni phir (subah ki) namaaz ke liye baaher tashreef le gaye.

(Bukhari: 117)

٩٧: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَثُّ فِي بَيْتِ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا، فَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، ثُمَّ قَالَ: (نَامَ الْغَلِيمُ). أَوْ كَلِمَةً تُشْبِهُهَا، ثُمَّ قَامَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى خَمْسَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ أَوْ حَطِيطَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

(رواه البخارى: ١١٧)

Fawaaid: Yeh aapki khusoosiyat thi ke sone se wazoo aapka nahin toot ta tha kyun ke hadees mein hai ke Rasoolullah ki aankhein soti hain dil nahin sota. ('Awnul-Bari:1/267)

Baab 32: Ilm ko yaad rakhna.

98 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke log kahte hain. Abu Hurairah رضي الله عنه ne bahut ahaadees bayaan ki hain haalaan ke agar kitabullah mein do aayat na hotin to main ek bhi hadees bayaan na karta phir unhon ne in aayaat ko telaawat kiya. "Jo log chhupaate hain un khuli huyi nishaaniyon aur hidaayat ki baaton ko jo hum ne naazil keen..... Ar-Raheem tak be shak hamaare muhaajir bhaaiyon ko baazaar mein khareed-wa-farokht ka shughl rahta tha aur hamaare Ansaari bhaayi amwaal (wa zara'at) ke shughl mein lage rahte the lekin Abu Hurairah رضي الله عنه to apna pet bharne ke liye Rasoolullah ﷺ ke paas maujood rahta tha aur aise moqa' par haazir rahta jahaan log haazir na rahte aur woh

٣٢-باب: حِفْظُ الْعِلْمِ

٩٨: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ أَكْثَرُ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَلَوْ لَا آيَاتِنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُ حَدِيثًا، ثُمَّ يَتْلُو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿الرَّحِيمِ﴾. إِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يَشْغَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالسُّوْقِ، وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا يَشْغَلُهُمُ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزِمُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِشَبَعِ بَطْنِهِ، وَيَحْضُرُ

baatein yaad kar leta jo doosre log na yaad kar sakte the. (Bukhari: 118)

99 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne farmaya main ne arz kiya ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم! main Aap se bahut si hadeesen sunta hoon lekin bhool jata hoon Aap ne farmaya apni chaadar phailao chunaancheh main ne chaadar phailaayi to Aap ne apne donon haathon se chullu sa banaya aur chaadar mein daal diya phir farmaya ke ise apne upar lapet lo. main ne use lapet liya uske b'ad main koyi cheez na bhoola. (Bukhari: 119)

Fawaaid: Yeh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ka m'ojazah tha ke Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se nisyaan (Bhool) ko khatm kardiya gaya jo insaan ko laazim hai. ('Awnul-Bari:1/267)

100: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne farmaya: main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se (ilm ke) do zarf yaad kiye un mein se ek to main ne zaahir kardiya agar doosre ko bhi zaahir kardoon to mera yeh gala kaat diya jaaye. (Bukhari: 120)

Fawaaid: Doosre zarf ka ta'alluq ghalat kaar hukmaraanon ke naamon se tha. chunaancheh ba'z rivayaat iski saraahat hai.

Baab 33: Ahl-e-Ilm ki baat sunne ke liye khaamoosh rahne ka bayaan.

101: Hazrat Jareer bin Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne hajjatul wida' ke moqa' par un se farmaya: logon ko khaamoosh karao uske b'ad Aap ne farmaya Aye logo! mere b'ad ek doosre ke gardanein maar kar kaafir na ban jana.

(Bukhari: 121)

Fawaaid: Iss se muraad kufr-e-haqeeqi nahin balke kaafiron ka sa f'el muraad hai warna Musalmaan ko qatal karne waala kaafir nahin hota haan! agar iss qatl ko halaal samajhta hai to aisa insaan daayira-e-islam se kharij hai.

Baab 34: Jab Aalim se poochha jaaye ke logon mein kaun ziyadah jaanne waala hai to use kiya kahna chaahiye?

102: Hazrat Obai bin K'ab رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya: Moosa عليه السلام ek

مَا لَا يَحْضُرُونَ، وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ. (رواه البخارى: 118)

99 : وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أُنْسَاهُ؟ قَالَ: فَعَرَفَ بِيَدِيهِ، ثُمَّ قَالَ: (ضَمَّهُ) فَصَمَّمْتُهُ، فَمَا نَسِيتُ شَيْئًا بَعْدَهُ.

(رواه البخارى: 119)

100 : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَاءَيْنِ: فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَيَّنْتُهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَوْ بَشَّنْتُهُ قُطِعَ هَذَا الْبَلْعُومُ.

(رواه البخارى: 120)

33 باب: الإِضْطَاتُ لِلْعُلَمَاءِ
101 : عَنْ جَرِيرِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَهُ فِي حَجَّةِ الْوِدَاعِ: (اسْتَنْصِتِ النَّاسَ) فَقَالَ: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ). (رواه البخارى: 121)

34 باب: مَا يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟

102 : عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، عَنْ

din bani Israayeel mein khutbah dene ke liye khade huye to unse poochha gaya ke sab logon mein bada aalim kaun hai? unhon ne kaha: main hoon Allah ne unpar e'taab farmaya kyun ke unhon ne ilm ko Allah ke hawaale na kiya phir Allah ne un par wahi bheji ke mere bandon mein ek bandah jahaan do darya milte hain aisa hai jo tujh se ziyaadah ilm rakhta hai. Moosa عليه السلام ne kaha: Aye Parwardigaar! meri unse kyun kar mullaqaat hogi? hukm huwa ke ek machli ko thaile mein rakkho. jahaan woh gum ho jaaye wahi uska thhekaana hai phir Moosa عليه السلام rawaana huye aur unka khaadim Yoosha' bin Noon bhi saath tha un donon ne ek machli ko thaile mein rakh liya. jab ek patthar ke paas pahunche to donon apne sar uss par rakh kar so gaye iss dauraan machli thaile mein se nikal kar darya mein chali gayi jis se Hazrat Moosa عليه السلام aur unke khaadim ko ta'ajjub huwa phir donon baqiyah raat aur ek din chalte rahe subah ko Hazrat Moosa عليه السلام ne apne khaadim se kaha ke naashta laao hum to iss safar se thak gaye hain. Moosa عليه السلام jab tak uss jagah se aage nahin nikal gaye jiska unhein hukm diya gaya tha uss waqt tak unhon ne kuchh thakaawat mahsoos na ki. uss waqt unke khaadim ne kaha: kiya Aap ne dekha ke jab hum patthar ke paas baithhe the to machli (nikal bhaagi thi aur main uska zikr karna) bhool gaya Moosa عليه السلام ne kaha hum to uski talaash mein the aakhir woh donon khoj lagaate huye apne paaun ke nishaanon par waapas laute. jab uss patthar ke paas pahunche to dekha ke ek aadmi kapda lapete huye ya apne kapde mein lipta huwa hai Moosa عليه السلام ne use salaam kiya. Hazrat Khizr عليه السلام ne kaha tere mulk mein salaam kahaan se aaya hai Hazrat Moosa عليه السلام ne kaha (main yahaan ka rahne waala nahin

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قَامَ مُوسَى النَّبِيُّ حَاطِبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَسُئِلَ: أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا أَعْلَمُ، فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: إِنَّ عَبْدًا مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: يَا رَبِّ، وَكَيْفَ بِهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: إِحْمِلْ حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، فَإِذَا فَقَدْتَهُ فَهُوَ تَمُّ، فَاذْطَلِقْ وَانْطَلِقْ بِفَتَاهُ يُوشِعَ ابْنَ نُونٍ، وَحَمَلًا حُوتًا فِي مِكْتَلٍ، حَتَّى كَانَا عِنْدَ الصَّخْرَةِ وَضَعَا رُؤُوسَهُمَا وَنَامَا، فَاذْطَلِقْ الْحُوتَ مِنَ الْمِكْتَلِ فَاتَّخِذْ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا، فَاذْطَلِقَا بِقِيَّةِ لَيْلَتِهِمَا وَيَوْمَهُمَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَاءَنَا، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. وَلَمْ يَجِدْ مُوسَى مَسًّا مِنَ النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أُمِرَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْينَا إِلَى الصَّخْرَةِ؟ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ، قَالَ مُوسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا، فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ، إِذَا رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبٍ، أَوْ قَالَ تَسَجَّى بِثَوْبِهِ، فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الْخَضِرُّ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ؟ فَقَالَ: أَنَا مُوسَى، فَقَالَ: مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:

hoon balke) main Moosa hoon Hazrat khizr عليه السلام ne kaha bani Israayeel ke Moosa ho? unhon ne kaha! haan phir Hazrat Moosa عليه السلام ne kaha. kiya main iss ummeed par tumhaare hamraah ho jaauon ke jo kuchh hedaayat ki tumhen ta'leem di gayi hai woh mujhe bhi sikhaadoge. Khizr عليه السلام ne kaha tum mere saath rah kar sabr nahin kar sakoge. Moosa baat dar asl yeh hai ke Allah Ta'ala ne ek (qism ka) ilm mujhe diya hai jo tumhaare paas nahin hai aur Aap ko ek qism ka ilm diya hai jo mere paas nahin hai Hazrat Moosa عليه السلام ne kaha: Inshaa Allah tum mujhe saabir paaoge aur main kisi kaam mein Aapki naafarmaani nahin karunga phir woh donon samundar ke kinaare chale unke paas koyi kashti na thi itne mein ek kashti guzri unhon ne kashti waalon se kaha ke hamein sawaar karlo. Hazrat Khizr عليه السلام pahchaan liye gaye isliye kashti waalon ne baghair ujrath bithha liya itne mein ek chidya aayi aur kashti ke kinaare baithh kar usne samundar mein ek do chonchein maarin Hazrat Khizr عليه السلام goya huye: Aye Moosa! mere aur tumhaare ilm ne Allah ke ilm se sirf chidya ki chonch ki baqadr hissa liya hai phir Hazrat Khizr عليه السلام ne kashti ke takhton mein se ek takhtah ukhaad daala Hazrat Moosa عليه السلام kahne lage in logon ne to hamein baghair kiraayah ke sawaar kiya aur Aap ne yeh kaam kiya ke inki kashti mein ched kar daala taake ahle kashti ko gharq kar do. Hazrat Khizr عليه السلام ne farmaya kiya main ne na kaha tha ke tum mere saath rah kar sabr nahin kar sakoge. Moosa عليه السلام ne jawaab diya: meri bhool chook par muaakhizah karke mere kaam mein mujh par tangi na karo. Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke Moosa عليه السلام ka pahla e'teraaz bhool ki wajah se tha. phir donon (kashti se utar kar) chale ek ladka mila jo doosre ladkon se khel raha tha Khizr عليه السلام ne uska sar pakad kar alag kar

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا
عَلَّمْتَ رُشْدًا؟ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا، يَا مُوسَىٰ، إِنِّي عَلَىٰ عِلْمٍ
مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمَنِيهِ لَا تَعْلَمُهُ
أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَّمَكُهُ لَا
أَعْلَمُهُ. قَالَ: سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
صَابِرًا، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا. فَانْطَلَقَا
يَمْشِيَانِ عَلَىٰ سَاحِلِ الْبَحْرِ، لَيْسَ
لَهُمَا سَفِينَةٌ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةٌ،
فَكَلَّمُوهُمْ أَنْ يَحْمِلُوهُمَا، فَعَرَفَ
الْخَضِرُ، فَحَمَلُوهُمَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ
عُضْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَىٰ حَرْفِ السَّفِينَةِ،
فَنَقَرَ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ
الْخَضِرُ: يَا مُوسَىٰ مَا نَقَصَ عَلَيَّ
وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا كَنَقْرَةِ هَذَا
الْعُضْفُورِ فِي الْبَحْرِ، فَعَمَدَ الْخَضِرُ
إِلَىٰ لَوْحٍ مِنَ الْوَاحِ السَّفِينَةِ فَنَزَعَهُ،
فَقَالَ مُوسَىٰ: قَوْمٌ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ،
عَمَدْتَ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ فَحَرَقْتَهَا لِتَغْرِقَ
أَهْلَهَا؟ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ
تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ: لَا
تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ
أَمْرِي عُسْرًا— فَكَانَتِ الْأُولَىٰ مِنْ
مُوسَىٰ نَسْيَانًا— فَانْطَلَقَا. فَإِذَا غُلَامٌ
يَلْعَبُ مَعَ الْغُلْمَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ
بِرَأْسِهِ مِنْ أَعْلَاهُ فَاقْتَلَعَ رَأْسَهُ بِيَدِهِ،
فَقَالَ مُوسَىٰ: أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ
نَفْسٍ؟ قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ

diya Moosa عليه السلام ne kaha: Aap ne ek ma'soom jaan ko na haq qatl kiya Khizr عليه السلام ne kaha: main ne Aap se nahin kaha tha ke Aap se mere saath sabr nahin ho sake ga (Ibne O'ainah kahte hain ke pahle jawaab ki nisbat iss men ziyadah takeed thi) phir donon chalte chalte ek gaauon ke paas pahunche wahaan ke baashindon se unhon ne khana maanga unhon ne unki mehmani karne se saaf inkaar kar diya usi dauraan donon ne ek diwaar dekhi jo girne ke qareeb thi Hazrat Khizr عليه السلام ne use apne haath se sahara de kar seedha kar diya Hazrat Moosa عليه السلام ne kaha agar tum chahte to us par ujrath lele to Hazrat Khizr عليه السلام bole bas yahaan se hamaare tumhaare darmiyaan judaayi ki ghadi aa pahunchi hai. Rasoolullah ﷺ ne irshaad farmaya Allah Ta'ala Moosa عليه السلام par raham farmaye. hum chahte the ke kaash Moosa عليه السلام sabr karte to unke mazeed haalaat bhi hum se bayaan kiye jaate.

(Bukhari: 122)

Fawaaid: Hazrat Khizr عليه السلام Hazrat Moosa عليه السلام se afzal na the lekin aap ka yeh kahna ke main sab se ziyadah ilm rakhta hoon Allah Ta'ala ko pasand na aaya unhein chaahiye tha ke iss baat ko Allah ke hawaale kar dete chunaancheh unka moqaablah aise insaan se karaya gaya jo un se darjah mein kahin kam tha taake phir kabhi iss qism ka da'wa na karein.

Baab 35: Jo Aalim baithha ho usse khade khade sawaal karna.

103: Hazrat Abu Moosa Ash'ari رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein ek shakhs aaya aur poochhne laga ya Rasoolallah ﷺ! Allah ki raah mein ladna kise kahte hain? kyun ke hum mein se koyi ghussa ki wajah se ladta hai aur koyi hamiyyat ke sabab jang karta hai Aap ne farmaya jo shakhs isliye lade ke Allah ka bol bala ho to aisi ladaayi Allah ki raah mein hai. (Bukhari: 123)

Fawaaid: Matlab yeh hai ke agar taalib-e-ilm khada hai aur ustaad baithhe baithhe usko jawaab de de to iss mein koyi qabaahat nahin basharteke khud pasandi aur takabbur ki bina par aisa na kare. isi tarah khade khade sawaal karna bhi dursut hai. aur yahaan sawaal khade khade kiya gaya tha. ('Awnul-Bari: 1/267)

تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا؟ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَهَذَا أَوْ كَدُ - فَانْطَلَقَا، حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا، فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا، فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُصَ، قَالَ الْخَضِرُ بِيَدِهِ فَأَقَامَهُ، فَقَالَ مُوسَى: لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ) قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَرْحَمُ اللَّهُ مُوسَى، لَوَدِدْنَا لَوْ صَبَرَ حَتَّى يُقْصَ عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِمَا). (رواه البخارى: ١٢٢)

باب ٣٥: مَنْ سَأَلَ وَهُوَ قَائِمٌ عَالِمًا

جَالِسًا

١٠٣: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْقِتَالُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَإِنْ أَحَدْنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، فَقَالَ: (مَنْ قَاتَلَ لِيَتَكُونَ كَلِمَةً اللَّهُ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ). (رواه البخارى: ١٢٣)

Baab 36: Irshaad-e-ilaahi (ki tafseer):**"Tumhein thoda saa hi ilm diya gaya hai".**

104: Hazrat Abdullah bin Mas'uood رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ek daf'a Rasoolullah ﷺ ke saath Madinah ke khandraat mein chal rahaa tha aur Aap khujoor ki chhadi ke sahaare chal rahe the raaste mein chand yahudiyon par guzar huwa. unhon ne aapas mein kaha ke inse rooh ke muta'alliq sawaal karo. un mein se ek ne kaha hum aisa sawaal na karein ke jis ke jawaab mein woh aisi baat kahen jo tumhen nagawaar guzre. ba'z ne kaha: hum to zaroor poochenge. aakhir unmein se ek shakhs khada huwa aur kahne laga Aye Abul Qasim رضی اللہ عنہ! rooh kiya cheez hai? Aap khaamoosh rahe, main ne dil mein kaha ke Aap par wahi aarahi hai aur khud khada ho gaya jab wahi ki haalat jaati rahi to Aap ne yeh aayat telaawat ki "Aye paighambar ﷺ! yeh log Aap se rooh ke muta'alliq poochhte hain kah do ke rooh mere malik ka hukm hai. (aur iski haqeeqat yeh nahin jaan sakte kyun ke) tumhein bahut kam ilm ataa kiya gaya hai". (Bukhari: 125)

Fawaaid: Imam A'amash ki qira'at mein yeh aayat basegha ghaayib padhi gayi hai jo shaaz hai mutawaatir qira'at ba seghe khitaab hai.

Baab 37: Andesha naa fahmi ki wajah se ek qaum ko chhod kar doosron ko ta'leem dena

105: Hazrat Anas رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek daf'a Hazrat Muaaz رضی اللہ عنہ Rasoolullah ﷺ ke hamraah sawaari par peechhe baithhe the Aap ne farmaya Aye Mua'az! unhon ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! sa'aadat mandi ke saath haazir hoon phir Aap ne farmaya Aye Mua'az! unhon ne phir arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! main haazir hoon teen martabah aisa huwa phir Aap ne farmaya ke jo koyi sachche dil se yeh gawaahi de ke Allah ke elaawah koyi ma'boode haqeeqi nahin aur Muhammad ﷺ

۳۶ باب: قول الله - تعالى:-

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

۱۰۴: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَرَبِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ، فَمَرَّ بِنَفْرٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: سَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا تَسْأَلُوهُ، لَا يَجِيءُ فِيهِ شَيْءٌ تَكْرَهُونَهُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لِنَسْأَلَنَّهُ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، مَا الرُّوحُ؟ فَسَكَتَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقُمْتُ، فَلَمَّا انْجَلَى عَنْهُ، فَقَالَ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. (رواه البخارى: ۱۲۵)

۳۷ باب: مَنْ خَصَّ بِالْعِلْمِ قَوْمًا

دُونَ قَوْمٍ كَرَاهِيَةً أَنْ لَا يَفْهَمُوا

۱۰۵: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ، وَمُعَاذَ رَدِيفَهُ عَلَى

الرِّحْلِ، قَالَ: (يَا مُعَاذُ) قَالَ: لَبَّيْكَ يَا

رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: (يَا

مُعَاذُ) قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَسَعْدَيْكَ، ثَلَاثًا، قَالَ: (مَا مِنْ أَحَدٍ

يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، إِلَّا حَرَّمَهُ

uske Rasool ﷺ hain to Allah uss par dozakh ki aag haraam kardeta hai. Hazrat Mua'az ﷺ ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ kiya main logon mein iski tashheer na karoon taake woh khush ho jaaye. Aap ne farmaya aisa kare ga to un ko isi par bharosa ho jaayega phir Hazrat Mua'az ne (apni wafaat ke qareeb) yeh hadees bakhaufe gunah logon ko bayaan ki.) (Bukhari: 128)

Fawaaid: B'az auqaat maslehat ke mutaabiq kaam karna qareen-e-qiyaas hota hai masalan namaaz joote samet padhna sunnat hai lekin agar kisi jagah log jaahil hon aur aisa kaam karne se ihtelaaf aur fasaad ka andesha ho to aisi sunnat par amal karne ko aaindah ke liye moakhhkar kar dene mein koyi harj nehin lekin hakeemaana andaaz se unhein iski ahmiyat bataate rahna ek daa'yi ka aham fareezah hai.

Baab 38 ilm poochhne mein sharm karna

106: Hazrat Umme Salamah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Umme Sulaim Rasoolallah ﷺ ke paas aayin aur arz kiya yaa Rasoolallah ﷺ! Allah Ta'ala haq baat bayaan karne se nahin sharmaata, kiya aurat ko ehtalaam hoto use ghysl karna chaahiye Rasoolallah ﷺ ne farmaya haan jabke (apne kapde par) paani dekhe Umme Salamah رضي الله عنها (sharam se) apna moonh chhupaliya aur arz kiya aurat ko bhi ehtalaam hota hai? Aap ne farmaya haan tera haath khaak aalood ho, phir bachchah ki soorat maan se kuyn milti hai? (Bukhari:130)

Fawaaid: Agar kisi ko koyi masalah darpesh ho to use Ulmaa se daryaافت karna chaahiye sharm aur h'aya se kaam na liya jaaye. ('Awnul-Bari:1/285)

Baab 39: Sharm ki bena par doosron ke zariye masalah poochhna.

107: Hazrat Ali رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke meri mazi bahut nikla karti thi main ne Hazrat Miqdaad رضي الله عنه se kaha ke woh Rasoolallah ﷺ se iska hukm poochhen chunaankeh unhon ne daryaافت kiya to Aap ne farmaya ke mazi ke liye wazoo karna chaahiye. (Bukhari: 132)

Fawaaid: Doosri rivaayat mein hai ke Hazrat Ali رضي الله عنه baraah-e-raast Rasoolallah ﷺ se yeh masalah daryaافت na karsake kyun ke Rasoolallah ﷺ ki Saahabzaadi aap ke nikah mein thi isliye H'aya maan'e tha aisi sharm mein koyi qabaahat nahin jab ke kisi doosre zariye se masalah daryaافت kar liya jaaye, ba'z rivayaat se ma'loom hota hai ke Hazrat Ali رضي الله عنه ki maujoodgi mein yeh masalah poochha gaya. ('Awnul-Bari:1/285)

Free downloading facility for DAWAH purpose only

اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُخْبِرُ بِهِ النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُونَ؟ قَالَ: (إِذَا يَتَكَلَّمُوا) وَأَخْبِرُ بِهَا مَعَاذَ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأْتِمًا. (رواه البخارى: ١٢٨)

٣٨- باب: الْحَيَاءُ فِي الْعِلْمِ
١٠٦: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ). فَعَطَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ، يَعْنِي وَجْهَهَا، وَقَالَتْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَتَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: (نَعَمْ تَرَبَّتْ يَمِينُكَ، فِيمَ يُشَبِّهُهَا وَلَدُهَا). (رواه البخارى: ١٣٠)

٩- باب: مَنْ اسْتَحْيَا فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ
١٠٧: عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَدَاءً، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (فِيهِ الْوَضُوءُ). (رواه البخارى: ١٣٢)

Baab 40: Masjid mein ilm ki baaten karna aur fatwa dena

108: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke ek shakhs Masjid mein khada huwa aur kahne laga ya Rasoolallah ﷺ! Aap hamein ehraam baandhne ka kis maqaam se hukm dete hain? Aap ne farmaya: Ahle Madinah Zulholaifah se, Shaam ke log Johfa se aur Najd ke baashinde Qarn se ehraam baandhen Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما ne kaha: log kahte hain ke Rasoolullah ﷺ ne yeh bhi farmaya ke Yaman waale yalamlam se ehraam baandhe lekin mujhe Rasoolullah ﷺ se yeh baat yaad nahin hai. (Bukhari: 133)

باب ٤٠: ذِكْرُ الْعِلْمِ وَالْفَتْيَا فِي

الْمَسْجِدِ

١٠٨: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا قَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهْلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يُهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحَلِيفَةِ، وَيُهْلُ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجَحْفَةِ، وَيُهْلُ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ). قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (وَيُهْلُ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يَلْمَمَ). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: وَلَمْ أَفْقَهُ هَذِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (رواه البخارى: ١٣٣)

Fawaaid: M'aloomb huwa ke Masjid mein ilm-e-deen padhna, padhaana, fatwa dena, moqaddamaat ka faislah karna aur deeni mubaahesah karna jaayez hai agarcheh aawaaz ouchi hi kyun na ho jaaye kyun ke yeh sab deeni kaam hain jo Masjid mein sar anjaam diye jaa sakte hain.

Baab 41: Sawaal se ziyaadah jawaab dene ka bayaan.

109: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ se ek shakhs ne poochha ke jo shakhs ehraam baandhe to woh kiya pahne? Aap ne farmaya na kurta na pagdee, na paayejama, na topi aur na woh kapda jis mein wars ya za'faraan lagi ho aur agar jooti na hoto mooze pahan le aur unhein oupar se kaat le taake takhne khul jaayen. (Bukhari: 134)

باب ٤١: مَنْ أَجَابَ السَّائِلَ بِأَكْثَرِ

مِمَّا سَأَلَهُ

١٠٩: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فَقَالَ: (لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرَسُ أَوْ الرَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخَفَيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ).

(رواه البخارى: ١٣٤)



Wazoo ka bayaan

كتاب الوضوء

Baab 1: Wazoo ke baghair namaaz qubool nahin hoti.

110: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha, Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya: jis shakhs ka wazoo toot jaaye uski namaaz qubool nahin hoti jab tak wazoo na kare." ek Hazrami ne poochha: "Aye Abu Hurairah! Hadas (be wazoo hona) kiya hai?" unhon ne kaha fusa ya zuraat ya'ni woh hawa jo pakhaana ke maqaam se khaarj ho".

(Bukhari: 135)

Fawaaid: Iss Hadees se iss heela giri ki bhi tardeed hoti hai jis ki wajah se yeh mouqif ikhtiyaar kiya gaya hai ke aakhree tashahhud mein hawa nikalne ka khatrah ho to slam pherne ke bajaaye agar qasadan hawa khaarj kardi jaaye to namaaz sahih hai yeh baat iss liye ghalat hai ke namaaz salam se hi mukammal hoti hai aur ba zor hawa khaarj karna kisi soorat mein bhi salam ka badal nahin ho sakta iss qism ki heela giri islam mein na jaayez aur haraam hai. (Heel: 6953)

Baab 2: Wazoo ki fazeelat

111: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai, unhon ne kaha main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko yeh farmate suna hai ke meri ummat ke log qiyaamat ke din bolaaye jaayenge jabke wazoo ke nishanaat ki wajah se unki peshaniyan aur haath paaun chamakte honge. ab jo koyi tum mein se apni chamak bhadhana chaahne to use badhaa lena chaahiye. (Bukhari: 136)

Baab 3: Shak se wazoo na kare taa waqte ke (Hadas ka) yaqeen na ho jaaye.

112: Hazrat Abdullah bin Zaid Ansari رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saamne ek shakhs ka haal bayaan kiya jis ko yeh khayaal ho jaata tha ke namaaz mein koyi cheez (hawa ka nikalna) mahsoos kar rha hai Aap ne farmaya: woh namaaz se uss waqt tak na phire jab tak hawa nikalne ki aawaaz ya boo na paaye. (Bukhari: 137)

۱- باب: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ
۱۱۰: عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تُقْبَلُ
صَلَاةٌ مَنْ أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ). قَالَ
رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتٍ: مَا الْأَحَدْتُ يَا
أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضَرَاطٌ.
(رواه البخارى: ۱۳۵)

۲- باب: فَضْلِ الْوُضُوءِ

۱۱۱: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ
أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا
مُحَجَّجِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ
فَلْيَفْعَلْ). (رواه البخارى: ۱۳۶)

۳- باب: لَا يَتَوَضَّأُ مِنَ الشَّكِّ حَتَّى
يَسْتَيْقِنَ

۱۱۲: عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ
الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَكَأَ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الرَّجُلُ الَّذِي
يُحْيِلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي
الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (لَا يَنْفِتِلُ - أَوْ: لَا
يَنْصَرِفُ - حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ

رِيْحًا). (رواه البخارى: ۱۳۷)

Fawaaid:Maqsad yeh hai ke namaazi ko jab tak apne be wazoo hone ka yaqeen na ho jaaye namaaz ko tark na kare iss hadees se yeh qaayidah bhi ma'loom huwa ke koyi yaqeeni mua'amlah sirf shak ki wajah se mashkook nahin hota aur kisi cheez ko bila wajah shak wa shubah ki nazar se dekhna jaayez nahin. ('Al-Buyoo':2056)

Baab 4: Halka wazoo karna

113:Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما ka bayaan hai ke ek martabah Rasoolullah ﷺ soye yahaan tak ke kharraate bharne lage phir Aap ne (bedaar ho kar) namaaz padhi aur wazoo na kiya kabhi raavi ne yoon kaha ke Rasoolullah ﷺ karwat par lete yahaan tak ke saans ki aawaaz aane lagi phir bedaar ho kar Aap ne namaaz padhi. (Bukhari: 138)

۴- باب: التَّخْفِيفِ فِي الْوُضُوءِ
۱۱۳: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَامَ حَتَّى نَفَخَ،
ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَرُبَّمَا قَالَ:
إِضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى.
(رواه البخارى: ۱۳۸)

Fawaaid:Doosri hadees mein Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما ka bayaan hai ke aap ne bedaar ho kar paani se bhare huye ek puraane mashkeez se halka sa wazoo kiya ya'ni a'zaa par ziyaadah paani nahin daala apne a'zaa ko sirf ek ek martabah dhoya. ('Al-Azaan:859)

Baab 5: Mukammal wazoo karna

114:Hazrat Usamah bin Zaid رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek daf'a Rasoolullah ﷺ arfaat se laute jab ghhaati mein pahunche to utar kar peshaab kiya phir wazoo farmaya lekin wazoo pura na kiya, main ne arz kiya ya Rasoolallah! namaaz ka waqt qareeb hai? Aap ne farmaya: namaaz aage chal kar padhenge, phir Aap sawaar huye jab Muzdalfah aaya to utre aur puora wazoo kiya phir namaaz ki takbeer kahi gayi aur Aap ne maghrib ki namaaz adaa ki uske b'ad har shakhs ne apna ount apne maqaam par baithhaya phir isha ki takbeer huyi aur Aap ne namaaz padhi aur donon ke darmiyaan nafil waghairah nahin padhe. (Bukhari: 139)

۵- (بَابُ: إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ)
۱۱۴: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ
عَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالشَّعْبِ نَزَلَ
فَقَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسَبِّغِ الْوُضُوءَ،
فَقَالَ: (الصَّلَاةُ أَمَامَكَ). فَرَكِبَ،
فَلَمَّا جَاءَ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ،
فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ،
فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ
بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَقِيَمَتِ الْعِشَاءُ
فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا.
(رواه البخارى: ۱۳۹)

Fawaaid:Mokammal wazoo se muraad apne a'zaa-e-wazoo ko khoob mal kar dhona hai aur iss hadees se ma'loom huwa wazoo karte waqt kisi doosre se ta'aun (تعاون) lena jaayez hai.(Al-wazoo:181) aur dauraan-e-hajj Muzdalfah mein maghrib aur isha ko jama karke padhna chaahiye. (Al-haj:1672)

Baab 6: Chullu bhar kar donon haathon se munh dhona.

115: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne wazoo kiya aur apna munh dhoya iss tarah ke paani ka ek chullu lekar usse kulli ki aur naak mein paani daala phir ek aur chullu paani liya haath mila kar us se apna daayan haath dhoya phir ek aur chullu paani liya aur usse apna baayan haath dhoya phir apne sar ka masah kiya uske b'ad ek chullu paani apne daayen paaun par daala aur use dholiya phir doosra chullu paani lekar apna baayan paaun dhoya uske b'ad kahne lage ke main ne Rasoolullah ﷺ ko iss tarah wazoo karte huye dekha hai.

(Bukhari: 140)

٢-باب: غَسَلَ الْوَجْهَ بِالْيَدَيْنِ مِنْ

غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ

١١٥: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ تَوَضَّأَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ، أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَتَمَضَّمَصَ بِهَا وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا، أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ عَلَى رَجْلَيْهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا، ثُمَّ أَخَذَ غُرْفَةً أُخْرَى، فَغَسَلَ بِهَا يِعْنَى رَجْلَيْهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ. (رواه البخارى: ١٤٠)

Fawaaid: Matlab yeh hai ke wazoo ke liye donon haathon se chullu bharna zaroori nahin neez un rivayaat ke zu'af ki taraf ishaarah hai jin mein hai ke Rasoolullah ﷺ ek hi haath se apne chehre ko dhote the. iss se yeh m'aloom huwa ke ek chullu lekar aadhe se kulli ki jaaye aur aadhe se naak saaf kare.

Baab 7: Baitul Khala jaane ki du'a

116: Hazrat Anas رضي الله عنهما se rivaayat hai, unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab baitul khala jaate to farmate "Aye Allah main naapaak cheezon aur naapaakiyon se teri panaah chahta hoon. (Bukhari: 142)

٣-باب: مَا يَقُولُ عِنْدَ الْخَلَاءِ
١١٦: عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ). (رواه البخارى: ١٤٢)

Fawaaid: Iss du'a ka doosra tarjuma yeh hai ke "Aye Allah! main khabees jinon aur jinniyon se teri panaah chahta hoon" yeh du'a qazaay-e-haajat ke waqt apna kapda uthhane se pahle padhni chaahiye.

Baab 8: Baitul Khala ke paas paani rakhna

117: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke ek daf'a Rasoolullah ﷺ baitul khala gaye to main ne Aap ke liye wazoo ka paani

٨-باب: وَضَعَ الْمَاءِ عِنْدَ الْخَلَاءِ
١١٧: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ الْخَلَاءَ،

rakh diya. Aap ne (baahar nikalkar poochha yeh paani kisne rakkha hai? Aap ko bata diya gaya to Aap ne farmaya "Aye Allah ise deen ki samajh a'ta farma" (Bukhari: 143)

قَالَ: فَوَضَعْتُ لَهُ وُضُوءًا، فَقَالَ: (مَنْ وَضَعَ هَذَا؟) فَأَخْبِرَ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ فَقِّهْهُ فِي الدِّينِ). (رواه البخارى: 143)

Fawaaid: Hazrat Ibne Abbas رضى الله عنهما ne yeh khidmat bajaa laakar aqalmandi ka suboot diya tha Rasoolullah ﷺ ne unke liye waisi hi du'a farmaayi chunaancheh Allah ta'ala ne use sharf-e-qubooliyat se nawaaza aur Hazrat Ibne Abbas "Habrul Ummah" (Ummat ke aalim) ke laaqab se mashhoor huye. (Al-Manaaqib:3756)

Baab 9: Qazaa-e-haajat ke waqt qiblah rukh na baithhna.

118: Hazrat Abu Ayyub Ansaari رضى الله عنه se rivaayat hai, unhon ne kaha, Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jab koyi qazaa-e-haajat ke liye jaaye to qiblah ki taraf munh na kiya karo. (Bukhari: 144)

۹-باب: لَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةُ بِيَوْمٍ

وَلَا غَائِطٍ

۱۱۸: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يُوَلِّئُهَا ظَهْرَهُ، شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا).

(رواه البخارى: 144)

Fawaaid: Qazaa-e-haajat ke waqt mashriq ya maghrib ki taraf munh na karne ka khitaab ahl-e-Madinah se hai kyun ke unka qiblah junooob ki taraf tha barre sagheer mein rahne waalon ke liye qiblah maghrib ki taraf hai le hazah hamaare liye junooob aur shimaal ki taraf munh karne ka hukm hai. (As-salaat:394)

Baab 10: Einton par baithh kar qazaaye haajat karna.

119: Hazrat Abdullah bin Umar رضى الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya kuchh log kahte hain ke jab tum qazaaye haajat ke liye baithho to na qiblah ki taraf munh karo aur na baitul maqdis ki taraf haalaanke main ek din apne ghar ki chhat par chadha to dekha ke Rasoolullah ﷺ qazaaye haajat ke liye do kachchi einton par baitul maqdis ki taraf munh karke baithhe the. (Bukhari: 145)

۱۰-باب: مَنْ تَبَرَّزَ عَلَى لَبْتَيْنِ

۱۱۹: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تُسْتَقْبَلُ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ، لَقَدْ ارْتَقَيْتُ يَوْمًا عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى لَبْتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ لِحَاجَتِهِ.

(رواه البخارى: 145)

Fawaaid: Ek rivaayat mein hai ke aap qiblah ki taraf pusht kiye huye baithhe the (Al-khums:3102) Imam Bukhari ka mauqif hai ke baitul khala mein qazaaye haajat ke waqt qiblah ki taraf munh ya pusht karne ki ejaazat hai yeh paa bandi bairon aabaadi ke liye hai. (Al-wazoo:144)

Baab 11: Auraton ka qazaaye haajat keliye baahar jaana

120: Hazrat Ayishah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ki azwaaj-e-mutahharaat raat ko qazaaye haajat ke liye manase' ki taraf jaati thin, jo ek khuli jagah thi, Hazrat Umar رضي الله عنه Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein arz kiya karte the ke Aap apni biwiyon ko parde ka hukm den lekin Rasoolullah ﷺ aisa na karte the ek raat isha ke waqt Hazrat Saudah binte Zam'a رضي الله عنها (qazaaye haajat ke liye) baahar nikleen woh qad aawar khaatoon theen Umar رضي الله عنه ne unhein pukara: "aagaah raho Sauda! hum ne tumhein pahchaan liya hai" iss se Hazrat Umar ki khaahish yeh thi ke parde ka hukm utre aakhir Allah Ta'ala ne pardah ki aayat naazil farmadi. (Bukhari: 146)

Fawaaid:Ma'loom huwa ke hawaayij-e-zaroori yeh hai ke 'aurat ka baa pardah ho kar ghar se baahar nikalna jaayez hai. (An-Nikah:523)

Baab 12: Paani se istinja karna

121: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat' unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab qazaaye haajat ke liye nikalte to main aur ek ladka apne saath paani ka ek bartan le jaate (Aap us se istinja karte) (Bukhari: 150)

Fawaaid:Sirf Dhele ka iste'maal bhi jaayez hai iss se a'yn najaasat door ho jaati hai al battah paani ke istemaal se najaasat aur uske nishanaat aur asraat bhi zaayel ho jaate hain.

Baab 13: Istinja ke liye paani ke saath barchhi le jaana.

122: Hazrat Anas رضي الله عنه hi ki ek doosri rivaayat hai ke paani ke bartan ke saath barchhi bhi hoti Aap paani se istinja farmate the.

(Bukhari: 152)

Fawaaid:Barchhi iss liye saath le jaate taake sakht jagah ko narm karke peshaab ki chhinton se ijtenaab kiya jaaye aur ba waqt-e-zaroorat aad (آؤ) ke taur par bhi ist'emaal kiya jaa sake neez use bataur sutrah bhi ist'emaal kiya jaata tha. (As-Salaat:500)

Baab 14: Daayen haath se istinja karne ki mumaani'at

۱- باب: خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْبَرَازِ
۱۲۰: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:
أَنَّ أَرْوَاحَ النَّبِيِّ ﷺ كُنَّ يَخْرُجْنَ
بِاللَّيْلِ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ
صَعِيدٌ أَفِيحٌ، فَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ
لِلنَّبِيِّ ﷺ: أُحْجِبْ نِسَاءَكَ، فَلَمْ
يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ
سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ،
لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي عِشَاءً، وَكَانَتْ امْرَأَةً
طَوِيلَةً، فَأَدَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ
يَا سَوْدَةُ، حِرْصًا عَلَيَّ أَنْ يَنْزَلَ
الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ
الْحِجَابُ. (رواه البخارى: ۱۴۶)

۱۲- أَبَابُ: الْإِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ
۱۲۱: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ
لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلَامٌ، مَعَنَا إِدْوَةٌ
مِنْ مَاءٍ. (رواه البخارى: ۱۵۰)

۱۳- باب: حَمَلِ الْعَنْزَةِ مَعَ الْمَاءِ فِي
الْإِسْتِنْجَاءِ
۱۲۲: وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ مَاءٍ وَعَنْزَةٍ،
يُسْتَنْجَى بِالْمَاءِ. (رواه البخارى: ۱۵۲)

۱۴- باب: النَّهْيُ عَنِ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ

123:Hazrat Qataadah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai, unhon ne kaha ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya jab tum se koyi kisi cheez ko nosh kare to bartan mein saans na le aur jab baitul khala aaye to daayen haath se apni sharam gaah ko na chhooye aur na usse istinja kare.

(Bukhari: 153)

Baab 15: Dhelon se istinja karna

124:Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke ek din Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم qazaaye haajat ke liye bahar gaye to main bhi Aap ke peechhe ho liya Aap ki a'adat mubarkah thi ke chalte waqt daayen baayen na dekhte the jab main Aap ke qareeb gaya to farmaya ke mujhe patthar talaash kardo main unse istinja karunga (ya iski misl koyi lafz farmaya) lekin haddi aur gobar na lana chunaancheh main apne kapde ke kinaare mein kayi patthar le kar aaya aur unhein Aap ke paas rakh diya aur khud ek taraf hat gaya phir jab Aap qazaaye haajat se faarigh huye to pattharon se istinja farmaya. (Bukhari: 155)

Fawaaid:Haddi jinon ki khoraak hai aur gobar unke jaanwaron ka chaarah hai isliye inse istinja karna man'a hai.(Al-Manaaqib:3860)

Baab 16: Gobar se istinja na karna

125:Hazrat Abdullah bin Masood رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ek daf'a qazaaye haazrat ke liye tashreef le gaye aur mujhe teen patthar laane ka hukm diya do patthar to mil gaye lekin talaash ke baawajood teesra na mil saka, main ne gobar ka ek khushk tukda uthha liya aur woh Aap ke paas laaya, Aap ne donon patthar to le liye gobar ko phenk diya aur farmaya yeh paleed hai.

(Bukhari: 156)

Fawaaid:Gobar ka tukda dar asl gadhe (گدھے) ki leed thi jise aap ne najis qaraar diya phir aap ne teesra patthar talab farmaya: (Fathul Baari:1/257)

۱۲۳: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَسُ فِي الْإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَمَسَّحُ بِيَمِينِهِ).

(رواه البخارى: ۱۵۳)

۱۵ باب: الْأَسْتِجَاءُ بِالْحِجَارَةِ
۱۲۴: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اتَّبَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ، فَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ، فَذَنُوتُ مِنْهُ، فَقَالَ: (ابْغِي، أَحْجَارًا أَسْتَفِضُّ بِهَا أَوْ نَحْوَهُ— وَلَا تَأْتِي بِعَظْمٍ، وَلَا رَوْثٍ) فَاتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ بِطَرَفِ ثِيَابِي، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ، وَأَعْرَضْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا قَضَى اتَّبَعَهُ بِهِنَّ.

(رواه البخارى: ۱۵۵)

۱۶- باب: لَا يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ
۱۲۵: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ الْغَائِطُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَّمَسْتُ الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَاتَيْتُهُ بِهَا، وَقَالَ: (هَذَا رِكْسٌ).

(رواه البخارى: ۱۵۶)

Baab 17: Wazoo mein a'aza ko ek ek baar dhona.

126: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ wazoo ke a'zaa ko ek ek baar dhoya.

(Bukhari: 157)

Fawaaid: M'aloom huwa ke a'zaa ko ek ek baar dhona se bhi farz adaa ho jaata hai.

Baab 18: Wazoo mein a'aza ko do do baar dhona

127: Hazrat Abdullah bin Zaid Ansaari رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne wazoo ke a'zaa ko do do baar dhoya. (Bukhari: 158)

Fawaaid: Yeh Abdullah bin Zaid bin A'asim Ansaari maazani hain, aur azaan ka khaab deekhne waale Abdullah bin Zaid bin Abde Rabbi hain jo doosre Sahaabi hain.

Baab 19: Wazoo mein a'aza ko teen teen baar dhona

128: Hazrat Usmaan bin Affaan رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke unhon ne ek martabah paani ka bartan mangwaaya aur apne haathon par teen martabah paani daal kar dhoya, phir daayen haath ko bartan mein daal kar paani liya, kulli ki, naak mein paani daala aur use saaf kiya phir apne munh aur donon haathon ko kohniyon samet teen daf'a dhoya uske b'ad sar ka masah kiya phir apne paaun takhnon samet teen baar dhoye phir kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: jo bhi mere iss wazoo ki tarah wazoo aur uske b'ad do rak'at adaa kare aur unki adaayegi ke waqt koyi khayaal dil mein na laaye to uske saabqah tamaam gunah bakhsh diye jaayenge. (Bukhari: 159)

Fawaaid: Bukhari ki ek rivaayat mein hai ke iss bakhshish par maghroor bhi nahin hona chaayie ke ab digar a'amaal ki kiya zaroorat hai? (Ar-Reqayeq: 6433)

129: Hazrat Usmaan bin Affaan رضی اللہ عنہ se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke main tumhein ek hadees sunaau agar qur'an mein ek aayat na hoti to hadees tumhein na sunaata main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmaate huye suna hai jo shakhs ahchchhi

٤٠١ - بَابُ: الْوُضُوءِ مَرَّةً مَرَّةً

١٢٦: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ مَرَّةً مَرَّةً. (رواه البخاری: ١٥٧)

٤٠٢ - بَابُ: الْوُضُوءِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ

١٢٧: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. (رواه البخاری: ١٥٨)

٤٠٣ - بَابُ: الْوُضُوءِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا

١٢٨: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ: دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَّ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ). (رواه البخاری: ١٥٩)

١٢٩: وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَوْلَا آيَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَا حَدَّثْتُكُمْوَهُ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَتَوَضَّأُ

tarah wazoo kare aur namaaz padhe to jitne gunah uss namaaz se doosri namaaz tak honge woh bakhsh diye jaayenge aur woh aayat yeh hai. ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ "Be shak woh log jo hamaari naazil kardah aayaat ko chhupaate hain.....(Bukhari: 160)

Baab 20: Wazoo mein naak saaf karna

130: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jo koyi wazoo kare to apni naak saaf kare aur jo patthar se istinja kare to taaq pattharon se kare. (Bukhari: 161)

Fawaaid: Iss se m'aloomee huwa ke naak mein paani daal kar use saaf karna wazoo ke liye sirf sunnat hi nahin balke farz hai kyun ke aap ka hukm hai.

Baab 21: Istinja mein taaq dhele lena

131: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jab koyi tum mein se wazoo kare to apni naak mein paani daale aur use saaf kare aur jo shakhs patthar se istinja kare to taaq pattharon se kare aur tum mein jab koyi sokar uthhe to wazoo ke paani mein apna haath daalne se pahle unhen dhole kyun ke tum mein se kisi ko khabar nahin ke raat ko uska haath kahaan phirta raha hai. (Bukhari: 162)

Fawaaid: Naak jhaadne se shaytaan bhaag jaata hai jo iss naak par shab baashi karta hai. (Badaul Khalq: 3295)

Baab 22: Jooton par masah karne ki bajaaye donon paaun ko dhona

132: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke ek martabah un par kisi ne e'teraaz karte huye kaha ke main dekhta hoon Aap Hajre Aswad aur Rukne Yamaani ke elaawah Baitullah ke kisi kone ko haath nahin lagaate aur Aap sabti jooto pahante hain aur zard khizaab iste'maal karte hain neez Makkah mein doosre log to zilhiija ka

رَجُلٌ فَيَحْسِنُ وُضُوءَهُ، وَيُصَلِّي الصَّلَاةَ، إِلَّا غَفَرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ حَتَّى يُصَلِّيَهَا). قَالَ غُرُوقُ: وَالآيَةُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾. (رواه البخارى: ١٦٠)

٢٠- بَابُ: الْإِسْتِنَاةِ فِي الْوُضُوءِ
١٣٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ).
(رواه البخارى: ١٦١)

٢١- بَابُ: الْإِسْتِجْمَارِ وَتُرَا
١٣١: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَشْرُ، وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ، لَا يَدْرِي أَيُّنَ بَاتَتْ يَدُهُ).
(رواه البخارى: ١٦٢)

٢٢- بَابُ: (عَسَلَ الرَّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ وَلَا يُمَسَّحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ)
١٣٢: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ قِيلَ لَهُ: رَأَيْتَكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِينَ، وَرَأَيْتَكَ تَلْبَسُ النَّعَالَ السَّيْتِيَّةَ، وَرَأَيْتَكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتَكَ

chaand dekhte hi ehraam bandh lete hain magar aap 8 win taareekh tak ehraam nahin baandhte Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما ne jawaab diya ke Baitullah ke konon ko chhoone ki baat to yeh hai ke main ne Rasoolullah ﷺ ko donon Yamaani Ruknon ke elaawah kisi doosre Rukn ko haath lagaate nahin dekha aur sabti jootiyon ke muta'alliq yeh hai ke main ne Rasoolullah ﷺ ko woh jootiyaan pahne huye dekha jin par baal na the aur Aap un mein wazoo farmate the lehaaza main un jootiyon ko pahanna pasand karta hoon' raha zard rang ka mu'aamlah to main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh khizaab lagaate huye dekha hai isliye main bhi iss rang ko pasand karta hoon aur ehraam baandhne ki baat yeh hai ke main ne Rasoolullah ﷺ ko uss waqt tak ehraam baandhte nahin dekha jab tak Aapki sawaari Aapko lekar na uthhti ya'ni 8win taareekh ko. (Bukhari: 166)

Fawaaid: Jooton par masah karne ki rivayaat za'eef hain isliye paun dhone chaahiyeen istedlaal ki buniyaad yah hai ke wazoo men asal ghushl a'azaa hai neez agar masah kiya hota to yata wazza feeha ke bajaaye yata wazza alayhaa hona chaahiye tha. (Fatahul Baari:1/269)

Baab 23: Wazoo aur ghushl mein daayen jaanib se shuru karna

133: Hazrat Aishah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ko joota pahanna kanghi (كُمِي) karna aur tahaarat karna algharz har zee shaan kaam ki ibtedaa daayen jaanib se karna achchha ma'loom hota tha. (Bukhari: 168)

Fawaaid: Baitul Khala mein daakhil hona, masjid se nikalna, naak saaf karna aur istinja karna iss hukm se mustasna hain.

Baab 24: Jab namaaz ka waqt aa jaaye to paani talaash karna.

134: Hazrat Anas رضی اللہ عنہ se rivaayat hai' unhon ne bayaan kiya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko iss haalat mein dekha ke namaaz-e-Asr ka waqt ho chuka tha logon ne wazoo ke liye paani talaash kiya magar na mila aakhir Rasoolullah ﷺ ke paas ek bartan mein

إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهْلَ النَّاسِ إِذَا رَأَوُا
الْهَيْلَالَ وَلَمْ تَهَلِّ أَنْتَ حَتَّى كَانَ يَوْمُ
التَّرْوِيَةِ. قَالَ أَمَا الْأَرْكَانُ: فَإِنِّي لَمْ أَرِ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ،
وَأَمَّا النَّعَالُ السَّبِيَّةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْبَسُ النَّعْلَ الَّتِي
لَيْسَ بِهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ
أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ: فَإِنِّي رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصُغُّ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ
أَنْ أَصْبُغُ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ: فَإِنِّي لَمْ
أَرِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ حَتَّى تَنْبَعَتْ
بِهِ رَأِحَتُهُ. (رواه البخارى: ١٦٦)

٢٣-بَابُ: التَّيْمُنُ فِي الْوُضُوءِ

وَالْغُسْلِ

١٣٣: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي
تَنْعَلِهِ وَتَرَجُلِهِ، وَطُهُورِهِ، وَفِي شَأْنِهِ
كُلِّهِ. (رواه البخارى: ١٦٨)

٢٤-بَابُ: التَّمَاسِ الْوُضُوءِ إِذَا

حَانَتِ الصَّلَاةُ

٣٣: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، وَحَانَتِ
صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوُضُوءَ

wazoo ke liye paani laya gaya to Aap ne apna haath mubarak uss bartan mein rakh diya aur logon ko hukm diya ke iss se wazoo karen Hazrat Anas رضي الله عنه kahte hain ke main ne dekha ke paani Aap ki ungliyon ke neeche se phoot raha tha yahaan tak ke sab logon ne wazoo kar liya. (Bukhari:169)

فَلَمْ يَجِدُوهُ، فَاتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَوْضُوءٍ، فَوَضَعَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا مِنْهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.
(رواه البخارى: ١٦٩)

Fawaaid:Wazoo karne waalon ki ta'daad 300 ke lag bhag thi iss mein aap ka ek bahut bada mo'jezah tha (Al-Manaaqib:3572)

Baab 25: Jis paani se aadmi ke baal dhoye jaayen (uska paak hona)

135: Hazrat Anas رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne jab (hajj mein) apna sar mund waaya to sab se pahle Abu Talha رضي الله عنه ne Aap ke baal liye the. (Bukhari: 171)

٢٥-بَاب: الْمَاءِ الَّذِي يُغَسَّلُ بِهِ شَعْرُ الْإِنْسَانِ
١٣٥: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ، كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَوَّلَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ.
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ: ١٧١)

Fawaaid:Iss se m'aloom huwa ke aadmi ke baal paak hain aur unhein dhone ke liye ist'emaal hone waala paani bhi paak rahta hai.

Baab 26: Jab kutta bartan mein (munh daal kar) pee le (to use saat martabah dhona)

136: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jab kutta tumhaare kisi ke bartan mein se peele to chaahiye ke uss bartan ko saat martabah dhoye. (Bukhari: 172)

٢٦-بَاب: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ
١٣٦: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا). (رواه البخارى: ١٧٢)

Fawaaid:Tibb-e-jadeed ne bhi iss baat ki tasdeeq ki hai ke kutte ke loa'ab-e-dahan mein aise zahreele jaraaseem hote hain jinhein sirf mitti hi khatm karti hai. iss liye aap ne paani ke saath mitti se saaf karne ka bhi hukm diya hai.

137: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke mubaarak zamaanah mein kutte Masjid mein aate jaate the aur sahaabah kiraam wahaan kisi jagah par paani nahin chidakte the. (Bukhari: 174)

١٣٧: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتَقْبِلُ وَتَدْبُرُ فِي الْمَسْجِدِ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرْتَشُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. (رواه البخارى: ١٧٤)

Fawaaid:Yeh Islam ke ibtedaayi daur ka waqia' hai ba'd azaan Masjid ke taqaddus aur ehteraam ko barqaraar rakhne ke liye darwaaze lagaadiye gaye. (Fatahul Baari:1/279)

Baab 27: Jo hadas makhrajain (qubul ya dubur) se nikle uska naaqiz-e-wazoo hona

138: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai' unhon ne kaha' Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya ke bandah baraabar namaaz mein hai jab tak Masjid mein namaaz ka muntazir rahe taa waqte ke be wazoo na ho jaaye.

(Bukhari: 176)

Fawaaid: Iss hadees ke aakhir mein hai ke kisi A'jmi ne Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hadas ke muta'alliq sawaal kiya to aap ne farmaya halki ya ba aawaaz hawa ka khaarij hona hadas hai, agar cheh iske elaawah digar cheezon se bhi wazoo toot jaata hai lekin namaazi ko Masjid mein baithhe a'am taur par iss qism ke hadas se waastah padta hai hadees mein yeh bhi hai ke Masjid mein namaaz ka intezaar karne waale ke lye farishte rahmat wa mghfirat ki du'a karte rahte hain. (Badaul Khalq:3229)

139: Hazrat Zaid bin Khalid رضي الله عنه se rivaayat hai' unhon ne farmaya ke main ne Hazrat Usmaan رضي الله عنه se poochha agar koyi shakhs jema' kare lekin inzaal na ho (to ghusl hai ya nahin?) unhon ne jawaab diya ke woh namaaz ke wazoo ki tarah wazoo kare aur apne sharam gaah ko dho daale phir Hazrat Usmaan رضي الله عنه ne farmaya ke main ne yeh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se suna hai (Zaid kahte hain) chunaancheh main ne yeh masa'lah Hazrat Ali Hazrat Talha Hazrat Zubair aur Hazrat Obai bin K'ab رضي الله عنه se poochha unhon ne bhi yahi jawaab diya. (Bukhari: 179)

Fawaaid: A'dme' inzaal ki soorat mein ghusl na karne ka hukm mansookh ho chukha hai kyun ke aakhri hukm yeh hai ke mujarrad dukhool se ghusl waajib ho jaata hai aaimma-e-A'rba aur aksar Ulmaa-e-Kiraam ka yahi mauqif hai albatta Imam Bukhari ka rujhaan yeh hai ke aisi haalat mein ehtiyaatan ghusl kar liya jaaye.

140: Hazrat Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne ek Ansaari Aadmi ko bula bheja woh iss haalat mein haazir huwa ke uske sar se paani tapak raha tha Aap ne farmaya shaayad hum ne tujhe jaldi mein daal diya hai usne kaha "jee haan" tab Aap ne farmaya ke jab tu jaldi mein pad jaaye ya teri paani ruk jaaye ya teri mani ruk

۲۷-باب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَّا مِنْ

الْمَخْرَجَيْنِ

۱۳۸: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ، مَا كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، مَا لَمْ يُحَدِّثْ).

(رواه البخارى: ۱۷۶)

۱۳۹: عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَمَعَ فَلَمْ يُمْنِ؟ قَالَ عُثْمَانُ: يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، وَيَغْسِلُ ذِكْرَهُ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيًّا، وَالزُّبَيْرِ، وَطَلْحَةَ، وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَأَمَرُونِي بِذَلِكَ.

(رواه البخارى: ۱۷۹)

۱۴۰: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْسَلَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَعَنَّا أَعْجَلْنَاكَ) فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ

jaaye (inzaal na ho) to wazoo karliya kar (ghusl zaroori nahin) (Bukhari:180)

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَعْجَلْتَ أَوْ قُحِطَتْ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ). (رواه البخارى: ١٨٠)

Fawaaid: Aisi haalat mein ghusl zaroori na hone ke hukm ab mansookh ho chukha hai jaisa ke hazrat Aayishah رضي الله عنها wa hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se marvi ahaadees mein iski wazaahat maujood hai.

Baab 28: Doosre ko wazoo karaana

141: Hazrat Mugheerah bin Sh'oba رضي الله عنه se rivaayat hai ke woh ek safar mein Rasoolullah ﷺ ke saath the Aap raf'e haajat ke liye tashreef legaye (jab waapas aaye to) Hazrat Mugheerah رضي الله عنه Aap ke (a'zaa) par paani daalne lage aur donon Aap wazoo kar rahe the Aap ne apna munh aur haath dhoye' sar aur moozon ka masah farmaya.

(Bukhari: 182)

Baab 29: Baghiar wazoo Qur'an padhna

142: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke woh ek raat apni khaala aur Rasoolullah ﷺ ki ahliya Hazrat Maimoonah رضي الله عنها ke ghar mein the unhon ne kaha ke main to bistar ke a'rz mein leta jabke Rasoolullah ﷺ aur unki ahliyah uske tool mein lete the phir Rasoolullah ﷺ ne aaram farmaya jab aadhi raat huyi ya us se kam-o-besh to Aap bedaar ho gaye aur baithh kar apni aankhen haath se malne lage phir surah Al-e-Imran ki aakhiri 10 aayaat telaawat kin us ke b'ad ek latki huyi puraani mashk ki taraf khade huye us mein achchhi tarah wazoo kiya phir main khade hokar namaaz padhne lage Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما ne farmaya main bhi uthha aur jaise Aap ne kiya tha main ne bhi kiya phir Aap ke pahloo mein khada huwa Aap ne apna daayan haath mere sar par rakkha aur mera daayan kaan pakad kar use madod ne lage uske b'ad Aap ne (tahajjud ki) do rak'aten padhin, phir do rak'aten, phir

٢٨-بَاب: الرَّجُلُ يُوضِيءُ صَاحِبَهُ

١٣١: عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَإِنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ وَإِنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(رواه البخارى: ١٨٢)

٢٩-بَاب: قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدِيثِ

١٣٢: عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ خَالَتُهُ، فَاضْطَجَعَتْ فِي عَرْضِ الْوَسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْحَوَاتِمِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ. ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقَةٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وَضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي. قَالَ: فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى

do rak'aten, phir do rak'aten phir do rak'aten phir do rak'aten (kull barah rak'aat) adaa kin-phir vitr padha b'ad azaan let gaye yahaan tak ke mua'zzin Aap ke paas aaya' uss waqt Aap khade huye aur halki phulki do rak'aten (fajr ki sunnaten) padheen phir baahar tashreef le gaye aur namaaz-e-fajr padhaayi. (Bukhari: 183)

Yah hadees (97) mein guzar chuki hai lekin har ek tareeq ki afaadiyat doosre tareeq se kuchh mukhtalif hai.

عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي الْيَمْنِي
يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ،
ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ
رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى
أَتَاهُ الْمُوَدِّنُ، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ
خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا الْحَدِيثُ وَفِي كُلِّ
مَنْهُمَا مَا لَيْسَ فِي الْآخَرِ.

(رواه البخارى: ١٨٣)

Fawaaid: Imam Bukhari ka istedlaal Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما ke fe'l se hai kyun ke unhon ne qur'ani aayaat be wazoo telaawat ki thin Rasoolullah ﷺ ke liye neend naaqiz-e-wazoo nahin mumkin hai ke aap ka wazoo karna kisi wajah se huwa aise aalaat mein Rasoolullah ﷺ ke fe'l se bhi istadlaal ho sakta hai.

Baab 30: Tamaam sar ka masah karna

143: Hazrat Abdullah bin Zaid رضي الله عنه se rivaayat hai ke unse ek shakhs ne poochha kiya tum mujhe dikha sakte ho ke Rasoolullah ﷺ kaise wazoo karte the? unonh ne kaha haan' phir unhon ne paani mangwaaya aur apne haathon par paani daala unhein do martabah dhoya phir teen martabah kulli ki aur naak mein paani daala phir apne munh ko teen martabah dhoya phir donon haath kohniyon tak do, do martabah dhoye b'ad azaan donon haathon se sar ka masah kiya ya'ni unko aage aur peechhe le gaye (masah ka) aaghaaz sar ke ibtedaayi hisse se kiya aur donon haath guddi tak le gaye phir donon ko waheen tak waapas laaye jahaan se shuru' kiya tha uske b'ad apne donon paanun dhoye. (Bukhari: 185)

• ٣٠- بَابُ: مَسْحُ الرَّأْسِ كُلِّهِ
١٨٣: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ
تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَافْرَغَ
عَلَى يَدَيْهِ فَعَسَلَ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضَمَضَ
وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا،
ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى
الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ،
فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ
حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا
إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ
رِجْلَيْهِ. (رواه البخارى: ١٨٥)

Fawaaid: Ma'loom huwa ke ek hi chullu se kulli karna aur naak mein paani daala jaa sakta hai. (Al-wazoo:191) neez sar ka masah sirf ek martabah karna hai aur poore sar ka masah kiya jaayega. (Al-wazoo:192)

Baab 31: Logon ke wazoo se baaqi maandah paani ko istemaal karna.

٣١- بَابُ: اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ
النَّاسِ

144: Hazrat Abu Juhaifah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek din Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم dopahar ke waqt hamaare haan tashreef laaye wazoo ka paani Aap ke paas laaya gaya. Aap ne wazoo farmaya phir log Aap ke wazoo ka baaqi maandah paani lene lage aur badan par malne lage. phir Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne Zuhar aur Asr ki do rak'at padhin aur (duraan-e-namaaz) Aap ke saamne ek barchhi gaadi gayi thi. (Bukhari: 187)

۱۴۴: عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْهَاجِرَةِ، فَاتَى بِوُضُوءٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةٌ.

(رواه البخارى: ۱۸۷)

Fawaaid: Iss baab mein maa-e-musta'mal ka hukm bayaan kiya gaya hai ba'z log ise do baarah istemaal ke qaabil nahin samajhte qata'-e-nazar ke woh paani jo wazoo ke ba'd bartan mein bache rahe ya woh paani jo wazoo karne wale ke d'azaa se tapke ma'loom huwa ke iss qism ke paani ko dobaraah istemaal kiya jaa sakta hai neez yeh Makkah Mukarramah ka waaqia hai iss hadees se yeh bhi ma'loom huwa ke wahaan bhi Imam aur munfarid ko namaaz ke liye apne aage sutrah rakhna zaroori hai. (As-Slaat:501)

145: Hazrat Saayib bin Yazeed رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke meri khaala mujhe Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas le gayeen aur arz kiya ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم mera bhaanja beemaar hai to Aap ne mere sar par haath phera aur mere liye barkat ki du'a farmayi phir Aap ne wazoo farmaya aur main ne Aap ke wazoo ka bacha huwa paani pee liya phir main Aap ke pas-e-pusht khada huwa aur mohre nabuwwat ko dekha jo Aap ke donon kandhon ke darmiyaan chappar kat ki gundi ki tarah thi. (Bukhari: 190)

۱۴۵: عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي بِالْبُرْكََةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوءِهِ، فَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَظَنَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَفْيَيْهِ، سَثَلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ. (رواه البخارى: ۱۹۰)

Fawaaid: Maloom huwa ke bimaar bachche ko kisi buzurg ke paas bagharz du'a le jaana taqwa ke khelaaf nahin (Al-Marzi:5670) Neez bachchon se piyar aur unke liye khair wa barkat ki du'a karna sunnat-e-nabwi hai. (Ad-da'waat:6352) Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki du'a ka nateeja tha ke Hazrat Saayib 94 saal ki umr mein bhi tandurust wa tawaana the. (Manaaqib:3540)

Baab 32: Mard ka apni biwi ke saath wazoo karna.

146: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke zamaana mein mard aur a'urat sab milkar (ek hi bartan se) wazoo kiya karte the. (Bukhari: 193)

۳۲ باب: وَضُوءُ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ
۱۴۶: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيعًا. (رواه البخارى: ۱۹۳)

Fawaaid: Mumkin hai ke mard aur auraton ka kaamil wazoo karna pardah utarne se peshtar ho ya isse woh mard, auraton muraad hon jo ek doosre ke mohrim hon ya isse muraad miyaan biwi hon. Iss hadees ka yah bhi matlab bayaan kiya jaata hai ke mard ek jagah mil kar wazoo karte aur auraton in se alaahidah ek jagah mil kar wazoo kartin. (Fatahul Baari: 1/300)

Baab 33: Rasoolullah ﷺ ka apne wazoo se baaqi maandah paani be hosh par chhidakna.

147: Hazrat Jaabir رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ meri i'yaadat ke liye tashreef laaye main aisa sakht bimaar tha ke koyi baat na samajh sakta tha Aap ne wazoo farmaya aur wazoo se bacha huwa paani mujh par chhidka to main hosh mein aagaya main ne arz kiya ya Rasoolallah! mera waaris kaun hoga? main to kalaalah hoon tab aayate wiraasat naazil huyi. (Bukhari: 194)

Fawaaid: Kalaalah usko kahte hain jiska na baap dada ho aur na hi uski aulaad ho, maloom huwa ke bimaar ki teemaardaari karna chaahiye khaah bada ho ya chhota. (Al-Marzi: 5651, 5664)

Baab 34: Tab (ط) yaa lagan se ghusl aur wazoo karna

148: Hazrat Anas رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek daf'a namaaz ka waqt ho gaya to jis shakhs ka ghar qareeb tha woh to apne ghar (wazoo karne ke liye) chala gaya sirf chand log rah gaye phir Rasoolullah ﷺ ke paas ek bartan laaya gaya jis mein paani tha woh itna chhota tha ke Aap apni hatheli uss mein na phailaa sake lekin (uske baa wajood) sab logon ne uss se wazoo kar liya Hazrat Anas se poochha gaya tum uss waqt kitne log the? unhon ne kaha 80 se kuchh ziyaadah the. (Bukhari: 195)

149: Hazrat Abu Moosa Ash'ari رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne ek daf'a piyaalah mang waaya jis mein paani tha Aap ne usse haath dhoya aur kulli kiya. (Bukhari: 196)

Fawaaid: Agerche iss hadees mein wazoo ka zikr nahin taaham haath munh dhona wazoo ke a'amaal hain mumkin hai ke aap ne mukammal wazoo kiya ho lekin raavi ne uska zikr nahin kiya.

150: Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah ﷺ bimaar huye aur takleef badh gayi to Aap ne

۳۳ باب: صَبَّ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

۱۴۷: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوءِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَتَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ.

(رواه البخارى: ۱۹۴)

۳۴ باب: الْغُسْلُ وَالْوَضُوءُ فِي الْمَخْضَبِ

۱۴۸: عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَصَغَرَ الْمَخْضَبُ أَنْ يَسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ، قُلْنَا: (كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً.

(رواه البخارى: ۱۹۵)

۱۴۹: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ، وَمَجَّ فِيهِ.

(رواه البخارى: ۱۹۶)

۱۵۰: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ بِهِ

apni biwiyon se ejaazat chaahi ke mere ghar mein Aap ki timaar daari ki jaaye sabne Aap ko ejaazat dedi tab Rasoolullah ﷺ do aadmiyon ka sahara lekar nikle Aap ke donon qadam zameen par ghisat te jaate the Hazrat Abbaas ؓ aur doosre aadmi (Hazrat Ali ؓ) ke saath Aap nikle the Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ka bayaan hai jab Rasoolullah ﷺ apne ghar tashreef le aaye aur Aapki bimaari ziyadah ho gayi to Aap ne farmaya ke mere oupar aisi saat mashken bahaao jinke munh na khole gaye hon taake main logon ko kuchh wasiyat karun phir Aap ko Ummul mo'mineen Hazrat Hafsa رضي الله عنها ke tab mein baithha diya gaya uske b'ad hum sab Aapke oupar paani bahaane lage yahaan tak ke Aap hamaari taraf isharah karne lage "bas' bas" ke tum apna kaam poora kar chuki ho. phir Aap logon ke paas tashreef le gaye. (Bukhari:198)

وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ اَرْوَاجَهُ فِي اَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَاذِنَ لَهُ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، تَحَطُّ رِجْلَاهُ فِي الْاَرْضِ، بَيْنَ عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ. وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُحَدِّثُ: اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: بَعْدَمَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، (هَرِيْقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرْبٍ، لَمْ تُحَلَّلْ اَوْ كَيْتِهِنَّ، لَعَلِّي اُعْهَدُ اِلَى النَّاسِ) وَاَجْلِسَ فِي مِحْضَبٍ لِحَفْصَةَ، رَوْحَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ طَفِقْنَا نَضُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ، حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ اِلَيْنَا: (اَنْ قَدْ فَعَلْتَن). ثُمَّ خَرَجَ اِلَى النَّاسِ.

(رواه البخارى: ١٩٨)

Fawaaid: Ba haalat-e-Bukhaar thhande paani se nahaana khusoosan jab safraavi Bukhar ho intehaayi mufeed hai jis ka tibbe jadeed ne bhi e'teraaf kiya hai.

151: Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne paani ka ek bartan mang waaya to Aap ke paas ek khule munh waala chauda piyaalah laaya gaya. uss mein thoda sa paani tha Aap ne uss mein apni ungliyaan rakh din Hazrat Anas ؓ ne farmaya ke main paani ko dekhne laga woh Aap ki mubaarak ungliyon se bade josh se phoot raha tha Hazrat Anas ؓ ka bayaan hai ke main ne un logon ka andaazah kiya jinhon ne usse wazoo kiya tha woh 70,80 ke qareeb the.

(Bukhari: 200)

١٥١: عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا بِاِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ، فَاتَى بِقَدْحٍ رَحْرَاحٍ، فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَوَضَعَ اَصَابِعَهُ فِيهِ، قَالَ اَنَسٌ: فَجَعَلْتُ اَنْظُرُ اِلَى الْمَاءِ يُبْعُ مِنْ بَيْنِ اَصَابِعِهِ، قَالَ اَنَسٌ: فَحَزْرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ، مَا بَيْنَ السَّبْعَيْنِ اِلَى الثَّمَانَيْنِ.

(رواه البخارى: ٢٠٠)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ se iss qsim ke mo'jezat ka muta'addid martabah zuhoor huwa wazoo karne waalon ki ta'daad mein kami beshi isi benaa par hai.

Baab 35: Ek mudd se wazoo karna.

152 : Hazrat Anas ؓ se hi rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ jab ghust farmate to ek s'aa se lekar paanch mudd tak

٣٥: بَابُ: الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

١٥٢: عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَغْتَسِلُ، اَوْ كَانَ يَغْتَسِلُ، بِالصَّاعِ اِلَى خَمْسَةِ اَمْدَادٍ،

paani iste'maal karte aur ek mudd paani se wazoo kar lete. (Bukhari: 201)

وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ. (رواه البخارى: ٢٠١)

Fawaaid: Jadeed tahqeeq ke mutaabiq s'aa ka wazan 2kilo 100gm hai wazoo aur ghusl ke liye ashkhaas wa haalaat ke pesh-e-nazar paani ki miqdaar mein kami beshi ho sakti hai bahar soorat iss silsila mein israaf karna aur bila zaroorat paani bahana jaayez nahin (Fatahul Bari:1/305) **Note:** Allaamah Qarzaavi ne iska wazan 2kilo 176 gm aur 275 liter likkha hai.

Baab 36: Moozon par masah karna.

153: Hazrat Sa'd bin Abi Waqqaas ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne moozon par masah kiya Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما ne Hazrat Umar ؓ se yeh masalah poochha to unhon ne kaha haan Aap ne moozon par masah kiya hai aur jab Hazrat Sa'd ؓ Rasoolullah ﷺ ki koyi hadees tujh se bayaan karen to kisi doosre se iske muta'alliq mat poochha karo. (Bukhari: 202)

٣٦-بَابُ: الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ
١٥٣: عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ.

(رواه البخارى: ٢٠٢)

154: Hazrat Amr bin Umayyah Zamri ؓ se rivaayat hai ke unhon ne Rasoolullah ﷺ ko moozon par masah karte huye dekha hai.

١٥٤: عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(Bukhari: 204)

(رواه البخارى: ٢٠٤)

155: Hazrat Amr bin Umaiyya Zamri ؓ se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko apni pagdi aur donon moozon par masah karte huye dekha hai.

١٥٥: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَّيهِ. (رواه البخارى: ٢٠٥)

(Bukhari: 205)

Fawaaid: Moozon par masah ke liye shart yeh hai ke inhen pahle wazoo ki haalat men pahna ho lekin pagdi par masah ke liye koyi shart nahin hai masah ki muddat musaafir ke liye 3din aur 3raat aur muqem keliye 1din aur 1raat hai neez iss muddat ka aaghaaz wazoo tootne ke ba'd hoga.

Baab 37: Moozon ko baa wazoo pahanne ka bayaan

156: Hazrat Mugheera bin Sh'oba ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ek safar mein Rasoolullah ﷺ ke saath tha (Aap wazoo kar rahe the) main jhuka taake Aap ke donon moozon ko utaarun to Aap ne farmaya: unhen rahne do main inko baa wazoo pahna tha phir Aap ne un par masah kiya. (Bukhari: 206)

٣٧-بَابُ: إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ
١٥٦: عَنِ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزَعِ خُفَّيهِ، فَقَالَ: دَعُهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. (رواه البخارى: ٢٠٦)

Baab 38: Bakri ke gosht aur sattu khaane ke b'ad wazoo na karna.

157: Hazrat Amr bin Zamri رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne Rasoolullah ﷺ ko dekha ke Aap bakri ke shaana ka gosht kaat kar khaa rahe the itne mein Aap ko namaaz ke liye bulaya gaya ya'ni azaan ho gayi to Aap ne chhuri rakh di phir namaaz padhaayi aur naya wazoo na kiya. (Bukhari: 208)

Fawaaid: M'loom huwa ke chhuri se gosht kaat kar khaana sunnat hai (Al-at'amah:4508) Hadees mein agarcheh sattu ka zikr nahin chunke yeh bhi gosht ki tarah aag par pakaaye jaate hain isliye donon ka hukm ek hi hai ke in ke ist'emaal se wazoo nahin toot ta. (Fatahul Baari:1/311)

Baab 39: Sattu khaane ke b'ad sirf kulli karna aur wazoo na karna

158: Hazrat sowaid bin No'maan رضي الله عنه se rivaayat hai ke woh fat, he khaibar ke saal Rasoolullah ﷺ ke saath gaye the jab maqaam-e-sahba par pahunche jo khaibar ke qareeb tha to Aap ne namaaz-e-Asr padhi phir zaad-e-safar talab farmaya to sirf sattu laaye gaye Aap ne unhen tayyaar karne ka hukm diya chunaankeh woh Rasoolullah ﷺ aur hum sab ne khaaye uske b'ad namaaz-e-maghrib ke liye khade huye Aap ne sirf kulli farmaayi aur hum ne bhi kulli ki phir Aap ne namaaz padhaayi aur naya wazoo nahin kiya. (Bukhari: 209)

159: Hazrat Maimoonah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne unke haan shaana (ka gosht) tanaawul farmaaya phir namaaz adaa ki aur naya wazoo nahin farmaya.

(Bukhari: 210)

Fawaaid: Iss Hadees mein gosht khaane ke ba'd kulli karne ka zikr nahin ma'loom huwa ke kulli karna mustahab hai zaroori nahin. (Fatahul Baari:1/313)

Baab 40: Doodh peene ke b'ad kulli karna

160: Hazrat Abdullah bin Abbaas رضي الله عنهما se

٣٨-بَابُ: مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ

الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ .

١٥٧ : عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَحْتَزُّ مِنْ

كَيْفِ شَاةٍ ، فُدِعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَلْقَى

السِّكِّينَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

(رواه البخارى: ٢٠٨)

٣٩-بَابُ: مَنْ مَضَمَّصَ مِنَ السَّوِيقِ

وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

١٥٨ : عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ النُّعْمَانَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ

ﷺ عَامَ خَيْبَرَ ، حَتَّى إِذَا كَانُوا

بِالصَّهْبَاءِ ، وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ ، فَصَلَّى

الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَادِ ، فَلَمْ يَأْتِ إِلَّا

بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فُتْرَى ، فَأَكَلَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى

الْمَغْرِبِ ، فَمَضَمَّصَ وَمَضَمَّصْنَا ، ثُمَّ

صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . (رواه البخارى: ٢٠٩)

١٥٩ : عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ عِنْدَهَا كَيْفًا ، ثُمَّ

صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

(رواه البخارى: ٢١٠)

٤٠-بَابُ: هَلْ يُمَضَّمُ مِنَ اللَّبَنِ

١٦٠ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne ek martabah doodh nosh farmaya to kulli ki aur kaha doodh mein chiknaayi hoti hai.

(Bukhari: 211)

*Fawaaid:*M'aloomb huwa ke chiknaayi waali cheez kha kar kulli karna chaahiye. (A'ivi)

Baab 41: Neend se wazoo karna neez ek ya dobaar ounghne ya jhonka lene se wazoo zaroori nahin

161:Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jab tum mein se koyi namaaz padh raha ho uss dauraan agar oungh aajaaye to woh so jaaye taake uski neend poori ho jaaye kyun ke ounghte huye agar koyi namaaz padhega to woh nahin jaanta ke apne liye istaghfaar kar rahaa hai ya khud ko bad du'a de raha hai.

(Bukhari: 212)

*Fawaaid:*Neend bazaat-e-naaqiz-e-wazoo nahin balke be wazoo hone ka zaria zaroor hai basharteke insaan ke aql wa show'oor par ghaalib aajaaye.

162: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jab koyi tum mein se namaaz ke dauraan ounghne lage to use so rahna chaahiye taake neend jaati rahe aur jo padh raha hai usko samajhne ke qaabil hona chaahiye.(Bukhari:213)

*Fawaaid:*Oungh yeh hai ke Insaan apne paas waale ki baat to sune lekin samajh na sake aisi haalat mein namaazi ko chaahiye ke woh salam pher kar so jaaye chunke aisi haalat mein adaa shudah namaaz ko dohraane ka aap ne hukm nahin diya to m'aloomb huwa ke Ounghne se wazoo nahian toot ta.

Baab 42: Hadas ke baghair wazoo karne ka bayaan.

163: Hazrat Anas رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ har namaaz ke liye wazoo kiya karte the phir hazrat Anas رضي الله عنه ne farmaya ke hamen to ek hi wazoo kaafi hota hai jab tak hadas na ho.(Bukhari:214)

*Fawaaid:*Har namaaz ke liye taazah wazoo karna mustahab hai zaroori nahin kyun ke Rasoolullah ﷺ ne fath-e-Makkah ke moqa par paanchon namaazein ek hi wazoo se padhi thi. Wazoo par wazoo karna pasadneedah amal hai. Kyun ke yeh noorun alaa noor hai.

عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ شَرِبَ لَبَنًا، فَمَضَمَضَ وَقَالَ: (إِنَّ لَهُ دَسْمًا).

(رواه البخارى: ٢١١)

٢١- بَابُ: الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرِ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوْ الْخَفِيقَةِ وَضُوءًا

١٦١: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ، حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ، لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسِبُ نَفْسَهُ).

(رواه البخارى: ٢١٢)

١٦٢: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْمِ، حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرَأُ).

(رواه البخارى: ٢١٣)

٢٢- بَابُ: الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

١٦٣: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ، قَالَ: وَكَانَ يُجْزِيءُ أَحَدَنَا الْوُضُوءَ مَا لَمْ يُحَدِّثْ.

(رواه البخارى: ٢١٤)

Baab 43: Apne peshaab se ehtiyaat na karna kabeerah gunah hai.

164: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ Madinah ya Makkah ke kisi baagh se guzre to wahaan do aadmiyon ki aawaaz suni jin ko qabr mein a'zaab ho raha tha uss waqt aap ne farmaya ke inn donon ko a'zaab ho raha hai lekin yeh kisi badi baat par nahin diya jaa raha hai phir farmaya haan (badi hi hai) inn mein se ek to apne peshaab se ehtiyaat nahin karta tha aur doosra chughal khori karta tha. phir aap ne khujoor ki ek tar shaakh mangwaayi, uske do tukde karke har qabr par ek tukda rakh diya, aap se arz kiya gaya ya Rasoolallah ﷺ! Aap ne aisa kyun kiya? farmaya ummeed hai ke jab tak yeh khushk na hojaayengi inn doonon par a'zaab kam rahega. (Bukhari:216)

Fawaaid: Yeh hadees nass-e-sareeh hai ke azaab zameeni qabr mein hota hai aur jin logon ko yeh qabr nahin mili unke liye wahi qabr hai jahaan unke zarraat pade hain Qura'n wa hadees mein iske elaawah kisi barzakhi qabr ka wajood saabit nahin hota jaisa ke ba'z fitna parwar logon ka khayaal hai.

Baab 44: Peshaab ko dhona.

165: Hazrat Anas رضی اللہ عنہ se rivaayat hai un hone ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab rafa'-e-haajat keliye baahar tashreef le jaate to main aap keliye paani laata tha jis se aap istinja karta the. (Bukhari:217)

Fawaaid: Rafa' haajat mein peshaab bhi aa jaata hai iss tarah peshaab ka dhona saabit huwa, halaal jaanwaron ka peshaab iss hukm se mustasna hai.

Baab 45: Rasoolullah ﷺ aur Sahaaba kiraam رضی اللہ عنہم ne dehaati ko kuchh na kaha yahaan tak ke woh Masjid mein peshaab se faarigh ho gaya.

166: Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke ek dehaati khada hokar Masjid mein peshaab karne laga to logon ne use pakadna chaaha Rasoolullah ﷺ

۴۳۔ بَابُ: مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

۱۶۴: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِحَائِطٍ مِنْ حَيْطَانِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَكَّةَ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْنِ يُعَدَّبانِ، وَمَا يُعَدَّبانِ فِي كَبِيرٍ. ثُمَّ قَالَ: (بَلَى، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ). ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ، فَكَسَرَهَا كِسْرَتَيْنِ، فَوَضَعَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ مِنْهُمَا كِسْرَةً، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: (لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسِئَا).

(رواه البخارى: ۲۱۶)

۴۴۔ بَابُ: مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الْبَوْلِ

۱۶۵: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ، أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ بِهِ.

(رواه البخارى: ۲۱۷)

۴۵۔ بَابُ: تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَالنَّاسُ الْأَعْرَابِيَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِي الْمَسْجِدِ

۱۶۶: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ،

ne farmaya ke use chhod do aur uske pashaab par paani se bhara huwa ek dol bahaa do kyun ke tum log aasaani keliye paida kiye gaye ho tumhin sakhti karne keliye nahin bheja gaya. (Bukhari:220)

فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ: دَعُوهُ وَهَرِّبُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجَلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذُنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مِيَسْرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسْرِينَ).

(رواه البخارى: ٢٢٠)

Fawaaid: Doosri rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ne use apni haajat se faraaghat ke b'ad bulaaya aur farmaya ke Masjiden Allah ki yaad aur namaaz ke liye banaayi jaati hain in mein pashaab nahin karna chaahiye iss usloob se woh muta'assir huwa aur musalmaan ho gaya.

Baab 46: Bachchon ka pashaab

167: Hazrat Umme Qais binte Mehsan رضي الله عنها se rivaayat hai ke woh Rasoolullah ﷺ ke paas apna chhota bachcha le kar aayin jo abhi khaana nahin khaata tha Rasoolullah ﷺ use apni god mein baithha liya to usne aap ke kapde par pashaab kardiya aap ne paani mangawaa kar uss par chhidak diya lekin use dhoya nahin. (Bukhari:223)

٢٢٦. بَابُ: بَوْلِ الصِّبْيَانِ

١٦٧: عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصِنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: إِنَّهَا أَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ، لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَجْلَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَضَحَّهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

(رواه البخارى: ٢٢٣)

Fawaaid: Maloom huwa ke ladke ke pashaab par paani chhidak dena kaafi hai al batta ladki ke pashaab ko dhona zaroori hai.

Baab 47: Khade ho kar pashaab karna

168: Hazrat Huzaifah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ek qaum ke kude kurkut ke dher par tashreef laaye wahaan khade khade pashaab kiya phir paani maanga to main aap ke paas paani laaya aur aap ne wazoo farmaya: (Bukhari:224)

٢٢٧. بَابُ: الْبَوْلِ قَائِمًا وَقَاعِدًا

١٦٨: عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ قَوْمٍ، فَبَالَ قَائِمًا، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. (رواه البخارى: ٢٢٤)

Fawaaid: Agar pashaab ki chhintein badan par padne ka andeshah na ho to khade ho kar pashaab karne mein koyi harj nahin hai kyun ke mumaania't ki koyi hadees nahin hai. (Fatahul Bari:1/330) **Note:** Rasoolullah ﷺ a'am taur par baithh kar pashaab karte the. (A'ivi)

Baab 48: Diwaar ki vot mein aur apne saathi ke nazdeek hi pashaab karna

169: Hazrat Huzaifah رضي الله عنه se hi doosri rivaayat mein hai unhon ne kaha (ke jab aap pashaab karne lage) to main aap se alag ho gaya aur jab aap ne meri taraf ishaarah kiya to main haazir ho kar aap ki ediyon ke

٢٢٨. بَابُ: الْبَوْلِ عِنْدَ صَاحِبِهِ

وَالتَّسْتُرِ بِالْحَائِطِ

١٦٩: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: فَانْتَبَذْتُ مِنْهُ، فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُهُ، فَقُمْتُ عِنْدَ عَقْبِهِ حَتَّى فَرَعْتُ. (رواه البخارى: ٢٢٥)

qareeb khda ho gaya taa aanke aap pashaab ki haajat se faarigh ho gaye. (Bukhari:225)

Fawaaid: Jab insaan ki vot li jaa sakti hai to diwaar ki vot bilwoola kaafi hogi. (A'Ivi)

Baab 49: Khoon ka dhona:

170: Hazrat Asmaa binte Abi Bakr رضي الله عنها se rivaayat hai ke unhon ne kaha ke ek aurat Rasoolullah ﷺ ke paas aayi aur arz kiya ke bataaiye hum mein se agar kisi aurat ko kapde mein haiz aa jaaye to kiya kare? aap ne farmaya ke use khurach daale phir paani daal kar ragde aur saaf karke uss mein namaaz padhe. (Bukari:227)

Fawaaid: Iss Hadees se yeh bhi maloom huwa ke najaasat door karne ke liye paani ko hi istemaal kiya jaa sakta hai doosri maye cheezen ya'ni sirka waghairah se dhona durust nahin.

171: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Faatimah binte Abi Hubaish رضي الله عنها Rasoolullah ﷺ ke paas aayi aur kahne lagi ya Rasoolallah ﷺ! Main aisi aurat hoon ke aksar mustahaazah rahti hoon aur kayi dinon tak paak nahin hoti, kiya namaaz chhod doon? aap ne farmaya namaaz mat chhodo, yeh ek rag ka khoon hai jo haiz nahin phir jab tere haiz ka waqt aa jaaye to namaaz chhod do aur jab waqt guzar jaaye to apne badan (aur kapdon) se khoon dho kar uske b'ad namaaz padho albattah har namaaz ke liye naya wazoo karti raho taa aanke phir haiz ka waqt aa jaaye. (Bukhari:228)

Fawaaid: Istehaazah ek bimaari hai jis mein aurat ka khoon jaari rahta hai band nahin hota iss hadees se yeh bhi ma'loom huwa ke jise hawa ya pashaab ke qatre aane ki bimaari ho woh bhi har namaaz ke liye taazah wazoo karke use adaa karta rahe.

Baab 50: Mani ka dhona aur use khurach daalna.

172: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke main Rasoolullah ﷺ ke (kapde se) janaabat ke asraat ko dho daalti thi phir aap namaaz keliye baahar tashreef le jaate agarche aap ke kapde mein

٢٢٩- بَابُ: غَسْلِ الدَّمِ

١٤٠: عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةً إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثُّوبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: (تَحْتَهُ، ثُمَّ تَقْرُضُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ). (رواه البخارى: ٢٢٤)

١٤١: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ، أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا، إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ حَيْضَتِكَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي) وَقَالَ: (ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ، حَتَّى يَجِيءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ). (رواه البخارى: ٢٢٨)

٥٠- بَابُ: غَسْلِ الْمَيْمِيِّ وَفَرْكِهِ

١٤٢: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْجَنَابَةَ مِنْ ثَوْبِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَجْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، وَإِنْ بَقِيَ الْمَاءُ فِي ثَوْبِهِ.

paani ke dhabbe baaqi hote the.(Bukhari:229)

(رواه البخارى: ٢٢٩)

Fawaaid: Janaabat ke asraat agar khushk ho chuke hon to unhen khurch dena hi kaafi hai dhone ki zaroorat hain.

Baab 51: Ount Bakriyon aur digar chaupaaiyon ke peshaab neez Bakriyon ke baade ka hukm

173: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai, unhon ne bayaan kiya ke Ukl aur A'rinah ke chand log Madinah Munawwarah aaye yahaan ki aab-o-hawa unke muaafiq na aayi Rasoolullah ﷺ ne unhein hukm diya ke woh (jangal mein sadqah ki) ountniyon ke paas chale jaayein aur wahaan unka peshaab aur doodh peeyen chunancheh woh chale gaye aur jab sehat mand hogaye to unhon ne Rasoolullah ﷺ ke charwaahe ko qatl kar daala aur jaanwar haank kar le gaye subah ke waqt Rasoolullah ﷺ ko jab yeh khbar pahunchi to aap ne unke ta'aaqub mein aadmi rawaana kiye. sooraj buland hone tak sab ko giraftaar karliya gaya. chunaancheh aapke hukm par unke haath paaun kaate gaye aankhon mein garm salaaiyan pheri gaayen aur garm sanglaakh jagah par unhein daal diya gaya woh paani maangte lekin unhein paani na diya jaata.(Bukhari:233)

Fawaaid: Iss hadees se m'aloom huwa ke halaal jaanwaron ka gobar aur peshaab naapaak nahin hai tabhi to Rasoolullah ﷺ ne unhen ounton ka peshaab peene ka hukm diya. Aur aunhon ne jo sulook charwaahe ke saath kiya tha wahi sulook un ke saath kiya gaya.

174: Hazrat Anas رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ Masjid-e-Nabwi banne se pahle Bakriyon ke baadon mein namaaz padh liya kart the.(Bukhari:234)

Fawaaid: Zaahir hai ke Bakriyan wahaan peshaab waghairah karti hain iske ba wajood aap ne wahaan namaaz padhi m'aloom huwa ke unka peshaab waghairah paleed nahin albattah ounton ke baadon mein namaaz padhna man'a hai kyun ke unke masti mein aane se nuqsan ka andesha hai.

Baab 52: Ghee aur paani mein najaasaton ka pad jaana

175: Hazrat Maimoonah رضي الله عنها se rivaayat

٥١- بَابُ: أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَالذَّوَابِ

وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

١٤٣: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

قَدِمَ نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عَرِينَةَ، فَاجْتَوَوْا

الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ بِلِقَاحِ

وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِيهَا،

فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُوا، قَتَلُوا رَاعِي

النَّبِيِّ ﷺ، وَاسْتَأْفُوا النَّعَمَ، فَجَاءَ

الْخَبْرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ، فَبَعَثَ فِي

آثَارِهِمْ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِئَ بِهِمْ،

فَأَمَرَ فِقْطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ،

وَسُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ،

يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

(رواه البخارى: ٢٣٣)

١٤٣: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ

النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، قَبْلَ أَنْ يُنَى

الْمَسْجِدُ، فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

(رواه البخارى: ٢٣٣)

٥٢- بَابُ: مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي

السَّمَنِ وَالْمَاءِ

hai ke Rasoolullah ﷺ se ek chuhiya ke muta'alliq poochha gaya jo ghee mein gir gayi thi? aap ne farmaya ke use nikaal do aur uske qareeb jis qadar ghee ho use phenk do phir apne baaqi ghee ko istemaal karlo. (Bukhari:235)

١٤٥: عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ قَارَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: (الْقَوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ).

(رواه البخارى: ٢٣٥)

Fawaaid: Ba'z rivayaat mein "Jaamid" ke alfaaz hain maloom huwa ke agar pighla huwa ho to istemaal ke qaabil nahin aur na hi use farokht karna jaayez hai, shahad waghairah ka bhi yahi hukm hai. Chunke paani bahne waala hota hai. isliye woh bhi paleed (ناپاک) hoga.

176: Hazrat Abu Hurairah ﷺ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya Allah ki raah mein Musalmaan ko jo zakhm lagta hai qiyaamat ke din woh apni asal haalat mein hoga jaise zakhm lagte waqt tha khoon bah raha hoga uska rang to khoon jaisa hoga mager khushbu kastoori ki tarah hogi.

(Bukhari:237)

١٤٦: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كُلُّ كَلِمٍ يُكَلِّمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا، إِذْ طُعِنَتْ، تَفْجَرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالْعَرَفُ عَرَفُ الْمُسْكِ).

(رواه البخارى: ٢٣٧)

Fawaaid: Mushk Hiran ki naaf se bar aamad hota hai jo dar asl khoon hai mager jab uss mein khushbu paida ho gayi to uska hukm khoon ka na raha isi tarah paani mein najaasat girne se agar uska koyi wasf badal jaaye to woh bhi tahaarat par nahin rahega balke na paak ho jaayega.

Baab 53: Khade paani mein pashaab karna.

177: Hazrat Abu Hurairah ﷺ se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya tum mein se koyi thahre huye paani mein pashaab na kare kyun ke mumkin hai uss mein phir ghust karne ki haajat ho jaaye. (Bukhari:239)

٥٣-بَابُ: الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ
١٤٧: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ).

(رواه البخارى: ٢٣٩)

Fawaaid: Yeh mumaania't adab wa tanziyah ke taur par hai kyun ke khade paani mein pashaab karne ke b'ad agar use nahaane ki zaroorat padi to aadmi ko us se nafrat hogi.

Baab 54: Jab namaazi ki pusht par gandagi ya murdaar daal diya jaaye to uski namaaz kharaab nahin hogi.

178: Hazrat Abdullah bin Masood ﷺ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ek daf'a ka'ba ke paas namaaz padh rahe the, Abu Jahal aur uske saathi wahaan baithhe huye the woh aapas mein kahne lage tum mein se kaun jaanta hai ke fulaan qabeelah ki oontni

٥٤-بَابُ: إِذَا أُتِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمَصَلِيِّ قَدْرٌ وَجِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ
١٤٨: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابُ لَهُ جُلُوسٌ إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: أَيُّكُمْ

ki bachch daani le aaye jise woh sajdah ki haalat mein Muhammad ﷺ ki pusht par rakh de? chunaancheh ek badbakht uthha aur use uthha laaya phir dekhta raha jab Rasoolullah ﷺ sajdah mein gaye to usne use Aap ke donon shaanon ke darmiyaan pusht par rakh diya main yeh sab dekh to raha tha lekin kuchh na kar sakta tha kaash ke mujhe tahaffuz haasil hota' phir woh hanste hanste ek doosre par girne lage Rasoolullah ﷺ

sajdah hi mein pade rahe apna sar nahin uthhaaya taa aanke Hazrat Faatimah رضي الله عنها aayin aur Aap ki pusht se use uthha kar penkh diya tab Aap ne apna sar mubaarak uthhaya aur teen martabah yoon bad du'a ki ya Allah Quraish se badlah le' Rasoolulla ﷺ ka yoon bad du'a karna un par bada giraan guzra kyun ke woh jaante the ke iss shahar mein du'a qubool hoti hai phir Aap ne naam ba naam farmaya ya Allah! Abu Jahal se inteqaam le' Utba bin Rabe'e'a, Shaibah bin Rabe'e'a, Waleed bin U'tbah, Umayyah bin Khalf aur U'qbah bin Abi Mo'yeet ki halaakat ko apne oupar laazim kar, saatwin shakhs ka bhi naam liya lekin raavi bhool gaya, Hazrat Abdullah bin Mas'ood ne farmaya qasam hai uski jiske haath mein meri jaan hai main ne un logon ko dekha jin ka naam Rasoolullah ﷺ ne liya tha badr ke kunyen (كنوس) mein mare pade the. (Bukhari: 240)

يَجِيءُ بِسَلَى جَزْوِرِ بَنِي فَلَانٍ، فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فِجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى إِذَا سَجَدَ النَّبِيُّ ﷺ، وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ، قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيَحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدًا لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ، فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِقُرَيْشٍ). ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ، قَالَ: وَكَأَنُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةٌ، ثُمَّ سَمَى: (اللَّهُمَّ عَلَيكَ بِأَبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأُمِّيَةَ بْنِ خَلْفٍ، وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ). وَعَدَّ السَّابِعَ فَنَسِيَهُ الرَّاؤِي. قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَرَغِي، فِي الْقَلْبِ قَلْبِي بَدْرٍ. (رواه البخارى: ٢٤٠)

Fawaaid: Imam Bukhari ka yahi mazhab hai ke dauraan-e-namaaz najaasat lagne se namaaz mein khalal nahin aata albattah namaaz ke aaghaaz mein har qism ki tahaarat ka ehtemaam zaroori hai.

Baab55: Kapde mein thookna aur naak waghairah saaf karna.

179: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai' unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne ek martabah (bahaalat-e-namaaz) apne kapde

٥٥-بَابُ: الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ

وَنَحْوَهُ فِي الثَّوْبِ

١٧٩: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَرَّقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ثَوْبِهِ.

mein thooka.(Bukhari:241)

(رواه البخاری: ۲۴۱)

Fawaaid: Agar munh mein koyi najaasat ho to aadmi ka thook paak hai aur us se paani naa paak nahin hota aise paani se wazoo kiya jaa sakta hai.

Baab 56: Aurat ka apne baap ke chehre se khoon dhona

۵۶-بَابُ: غَسَلِ الْمَرْأَةِ الدَّمَ عَنْ وَجْهِ أَبِيهَا

180: Hazrat Sahal bin Sa'd رضي الله عنه se rivaayat hai logon ne unse sawaal kiya ke Rasoolullah ﷺ ke (ghazwah Ohad ke waqt) zakhm par kaunsi dawa iste'maal ki gayi thi unhon ne farmaya iske muta'alliq mujh se ziyaadah jaanne waala koyi shakhs nahin raha Hazrat Ali رضي الله عنه apni dhaal mein paani laate aur Faatimah رضي الله عنها Aap ke chehre mubaarak se khoon dhoti thin phir ek chataayi jalaayi gayi aur Aap ke zakhm mein use bhar diya gaya.

۱۸۰: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّاسَ: بِأَيِّ شَيْءٍ دُورِيَ جُرْحُ النَّبِيِّ ﷺ? فَقَالَ: مَا بَقِيَ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَ عَلَيَّ يَجِيءُ بِتُرْسِهِ فِيهِ مَاءٌ، وَفَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، وَأُخِذَ حَصِيرٌ فَأُحْرِقَ، فَحَشِيَ بِهِ جُرْحَهُ.

(Bukhari: 243)

(رواه البخاری: ۲۴۳)

Fawaaid: Ma'loom huwa ke khoon ki bandish ke liye chataayi ki raakh behtareen dawa hai (Attib: 5722) neez dawa karna tawakkul ke khilaaf nahin.

Baab 57: Miswaak karna

۵۷-بَابُ: السِّوَاكِ

181: Hazrat Abu Moosa Ash'ari رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ek daf'a Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein haazir huwa to Aap ko miswaak karte dekha, jo Aap ke munh mein thi Aap a' a' ki aawaaz nikaal rahe the goya qay kar rahe hain.(Bukhari: 244)

۱۸۱: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَوَجَدْتُهُ يَسْتَنْ بِسِوَاكٍ بِيَدِهِ، يَقُولُ أَعْ أَعْ، وَالسِّوَاكُ فِي فِيهِ، كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ.

(رواه البخاری: ۲۴۴)

Fawaaid: Wazoo 'namaaz' telaawat' Qur'an, bedaari' munh ki kharaabi balke har waqt miswaak karna masnoon amal hai' nazr ki tezi' masoodon ki mazbooti aur quwwate haafizah ke liye to bahut mufeed hai jis ka tib-e-jadeed ne bhi e'teraaf kiya hai.

182: Hazrat Huzaifah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab raat ko uthhte to pahle apne munh ko miswaak se saaf karte the. (Bukhari: 245)

۱۸۲: عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُورُ فَاةً بِالسِّوَاكِ.

(رواه البخاری: ۲۴۵)

Baab 58: Bade shakhs ko pahle miswaak dena

۵۸-بَابُ: دَفْعُ السِّوَاكِ إِلَى الْأَكْبَرِ

183: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya main ne

۱۸۳: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

khaab mein apne Aap ko miswaak karte dekha phir mere paas do shakhs aaye un mein se ek umr mein doosre se bada tha main ne un mein se chhote ko miswaak de di to mujh se kaha gaya ke bade ko dijiye tab main ne woh miswaak bade ko de di.

(Bukhari: 246)

Fawaaid:Ma'loom huwa ke khaane, peene aur guftagu karne mein badon ko pahle moqa' diya jaaye agar tarteeb se baithhe hon to daayen jaanib se aaghaaz kiya jaaye, iss se yeh bhi ma'loom huwa ke doosre ki miswaak iste'maal ki jaa sakti hai lekin use dhokar saaf kar lena mustahab hai.

Baab 59 :Baa wazoo sone ki fazeelat

184:Hazrat Bara bin Aazib رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne mujh se farmaya jab tum apni khaabgaah mein jao to pahle namaaz ki tarah wazoo karo aur daayen pahu par let kar yeh du'a padho

"Aye Allah tere sawaab ke shauq mein aur tere azaab se darte huye main ne apne Aap ko tere supurd kardiya aur tujhe apna pusht panaah bana liya tujh se bhaag kar kahin panaah nahin magar tere hi paas, Aye Allah! main uss kitab par eemaan laya jo tune utaari aur tere uss nabi par yaqeen kiya jise tune bheja. Ab agar tu iss raat mar jaaye to fitrat-e- Islam par maroge neez yeh du'ayiyah kalimaat sab baaton se faarigh ho kar padho, Hazrat Bara' رضي الله عنه kahte hain ke main ne yeh kalimaat Aap ke saamne dohraaye jab main us jagah pahuncha **آمَنْتُ** kah diya Aap ne farmaya nahin balke yoon kaho (وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ) (Bukhari: 247)

Fawaaid:Ma'loom huwa ke adi'yah masnoonah aur azkaar masoorah mein jo alfaaz Rasoolullah ﷺ se manqool hain un mein tasarruf nahin karna chaahiye hadees mein mazkoorah fazeelat uss shakhs ko milti hai jo bedaar rahte huye aakhir mein wazoo karta aur aakhri guftagu ke taur par yeh du'a padhta hai neez daayen jaanib letne se ziyaadah gafat nahin hoti aur shab khezi ke liye aankh khul jaati hai neez iss se Imam Bukhari ka ishaarah hai ke yeh Hadees Kitabul Wazoo ka khaatmah hai.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَرَأَيْتُمْ أَتَسَوَّكَ بِسِوَاكِ، فَجَاءَ نَبِيَّ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ، فَتَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقِيلَ لِي: كَبِيرٌ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا). (رواه البخارى: ٢٤٦)

٥٩-بَابُ: فَضْلُ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

١٨٤: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ، فَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَفَوَضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْحَاثُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَى مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتَ. فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمُ بِهِ) قَالَ: فَرَدَدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا بَلَغْتُ: اللَّهُمَّ أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، قُلْتُ: وَرَسُولِكَ، قَالَ: (لَا، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أُرْسِلْتُ).

(رواه البخارى: ٢٤٧)

Ghusl (nahaane) ka bayaan

Baab1:Ghusl se pahle wazoo karna

185:Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا Zauja-e-Rasoolullah ﷺ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ jab ghusl-e-janaabat farmate to pahle donon haath dhote phir namaaz ke wazoo ki tarah wazoo karte b'ad azaan apni ungliyaan paani mein daal kar baalon ki jadon ka khilaal karte phir donon haathon se teen chullu paani le kar sar par daalte uske b'ad apne tamaam jism par paani bahaate.

(Bukhari: 248)

Fawaaid:Ghusl mein badan par paani bahaane se farz adaa ho jaata hai lekin masnoonah tareeqah yeh hai ke pahle wazoo kiya jaaye.

186:Hazrat Maimoonah رضی اللہ عنہا Zaujah Rasoolullah ﷺ se rivaayat hai' unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne (ghusl ke waqt) pahle namaaz ke wazoo ki tarah wazoo kiya lekin paaun nahin dhoye albattah apni sharmgaah aur jism par lagne waali aalaayish ko dhoya phir apne oupar paani bahaya uske b'ad jaaye ghusl se alag ho kar apne donon paaun dhoye Aap ka ghusl-e-janaabat yahi tha. (Bukhari: 249)

Fawaaid:Ghusl ke liye zaroori hai ke pahle parde ka ehtemaam kare phir donon haath dhoye jaayen b'ad azaan daayen se paani daal kar sharamghaah ko dhoya jaaye aur uss par lagi huyi aalaayish ko door kiya jaaye phir wazoo ka ehtemaam ho lekin paaun na dhoye jaayen phir baalon ki jadon tak paani pahuncha kar unhein achchhi tarah tar kiya jaaye phir tamaam badan par paani bahaaya jaaye aakhir mein jaaye ghusl se alag ho kar paaun dhoye jaayen (Al-ghusl:272.281)**Note:**Ghusl khana saaf ho to paaun wahaan bhi dhoye jaa sakte hain. (A'ivi)

Baab2:Mard ka Apni biwi ke saath ghusl karna

187:Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main aur Rasoolullah ﷺ (donon mil kar) ek bartan se ghusl karte the woh bartan kiya tha ek qadah ya'ni bada piyaalah jise farq kaha jata tha.(Bukhari: 250)

کتاب الغسل

۱-باب: الوُضوءُ قَبْلَ الغُسلِ

۱۸۵: عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعُهُ فِي الْمَاءِ، فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرْفٍ بِيَدِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ.

(رواه البخاری: ۲۴۸)

۱۸۶: عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، غَيْرَ رِجْلَيْهِ، وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الْأَذَى، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، ثُمَّ نَحَى رِجْلَيْهِ، فَغَسَلَهُمَا، هَذِهِ غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ. (رواه البخاری: ۲۴۹)

۲-باب: غُسلُ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ

۱۸۷: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ اغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنْسَاءٍ وَاحِدٍ، مِنْ قَدَحٍ يُقَالُ لَهُ: الْفَرْقُ. (رواه البخاری: ۲۵۰)

Baab 3: Ek saa' ya uske qareeb (paani) se ghusl karna

188: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai ke unse jab Rasoolullah ﷺ ke ghusl-e-janaabat ki kaifiyat poochhi gayi to unhon ne ek saa' ke barabar (paani ka) bartan mangwaaya' usse ghusl kiya aur apne sar par paani bahaaya dauraan-e-ghusl Hazrat Aayeshah رضي الله عنها aur saayil ke darmiyaan pardah haayil tha. (Bukhari: 251)

Fawaaid: Agar aadmi israaf na kare to ek saa' paani se bakhoobi ghusl ho sakta hai iss hadees par munkareen-e-hadees bahut e'teraaz karte hain ke iss mein logon ke saamne ghusl karne ka bayaan hai lehaazh ahaadees ki sadaaqat majrooh hai haa laanke ghusl pas pardah kiya gaya hai aur jinke saamne aap ne ghusl kiya woh aap ke mohrim the kyun ke ek razaayi bhaanja doosra razaayi bhaayi tha. (Fatahul Baari:1/365)

189: Hazrat Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unse kisi shakhs ne ghusl ke muta'alliq poochha to unhon ne kaha tujhe ek saa' paani kaafi hai ek doosra shakhs bola mujhe to kaafi nahin hai Hazrat Jaabir رضي الله عنه ne farmaya ke yeh miqdaar uss shakhs ko kaafi ho jaati hai jiske baal bhi tujh se ziyaadah the aur woh khud bhi tujh se behtar tha ya'ni Rasoolullah ﷺ phir Hazrat Jabir رضي الله عنه ne ek kapde mein hamaari imamat karaayi.

(Bukhari: 252)

Fawaaid: Maloom huwa ke hadees ke khilaaf jhagadne waale ko sakhti se samjhaane mein koyi harj nahin jaisa ke hazrat Jabir رضي الله عنه ne Hasan bin Muhammad bin Al-hanfiyah ko samjhaaya. (Fatahul Baari:1/366)

Baab 4: Sar par teen baar paani bahaane ka bayaan

190: Hazrat Jubair bin Mut'im رضي الله عنه se rivaayat hai, unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya main to apne sar par teen daf'a paani bahaata hoon, yeh kah kar Aap ne apne donon haathon se ishaarah farmaya.

(Bukhari: 254)

Baab 5: Nahaate waqt helaab (dahi waghairah ka iste'maal) ya khushbu se ibteda karna

191: Hazrat Aayesha رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab

سَبَابُ: الْغُسْلُ بِالصَّاعِ وَنَحْوِهِ
١٨٨: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا
سُئِلَتْ عَنْ غُسْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فَدَعَتْ
بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاعْتَسَلَتْ
وَأَفَاضَتْ عَلَى رَأْسِهَا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا
حِجَابٌ. (رواه البخارى: ٢٥١)

١٨٩: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْغُسْلِ؟
فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا
يَكْفِينِي، فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ
هُوَ أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا وَخَيْرًا
مِنْكَ، ثُمَّ أَمَّا فِي تَوْبٍ.
(رواه البخارى: ٢٥٢)

سَبَابُ: مَنْ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا
١٩٠: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمَّا أَنَا
فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا) وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ
كَلْتَيْهِمَا. (رواه البخارى: ٢٥٣)

سَبَابُ: مَنْ بَدَأَ بِالْحِلَابِ أَوْ الطَّيِّبِ
عِنْدَ الْغُسْلِ
١٩١: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ

ghusl-e-janaabat karne ka iraadah farmate to koyi cheez misle helaab waghairah ke manqwaate aur use apne haath mein le kar pahle sar ke daayen hissa se ibteda karte phir baayen jaanib (lagaate the)uske b'ad apne donon haathon se taalu par maalish karte. (Bukhari: 258)

Baab 6:Hambistar hone ke b'ad dobaarrah biwi ke paas jaana

192:Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai, unhon ne farmaya ke main Rasoolullah ﷺ ko khushbu lagaya karti thi b'ad mein aap apni sab biwiyon ke paas daurah farmaate phir doosre din ehraam baandhte baa wajood yeke aap ke jism mubaarak se khushbu ki mahak nikal rahi hoti thi.

(Bukhari:267)

Fawaaid:Muslim mein hai ke jab aadmi hambistar hone ke b'ad dobaarrah biwi ke paas jaaye to wazoo kar le lekin wazoo karne ka hukm wajoob ke liye nahin hai. (Fatahul Baari:1/377)

193:Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhone ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne apni biwiyon ka raat din ki ek ghadi mein daurah kar lete baa wajood ke aap ki giyaarah biwiyon thin ek doosri rivaayat mein 9 auraton ka zikr hai Hazrat Anas رضي الله عنه se poochha gaya kiya aap mein iss qadar taaqat thi? unhon ne jawaab diya, hum to kahaa karte the aap ko 30 mardon ki quwwat mili hai.(Bukhari:268)

Fawaaid:11 se muraad 9 biwiyon aur do aapki kaneez hain ek ka naam maariyah aur doosri ka Rehanah tha. رضي الله عنهن

Baab 7:Khusbu lagaa kar nahana

194:Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya: goya main Rasoolullah ﷺ ki maang mein khushbu ki chamak ko dekh rahi hoon jab aap ehraam baandh rahe hote.(Bukhari:271)

Fawaaid:Baab se mutaabiqat iss tarah hai ke Rasoolullah ﷺ ne ehraam ka ghusl kiya tha maloom huwa ke pahle khusbu laggaayi phir ghusl farmaya.

الْجَنَابَةِ، دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ الْحَلَابِ، فَأَخَذَ بِكَفِّهِ، فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ الْأَيْسَرِ، فَقَالَ بِهِمَا عَلَى وَسَطِ رَأْسِهِ. (رواه البخارى: ٢٥٨)

٦-باب: إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ

١٩٢: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَطِيبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَيَطُوفُ عَلَيَّ نِسَائِهِ، ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا يَنْصَحُ طَيِّبًا. (رواه البخارى: ٢٦٤)

١٩٣: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدُورُ عَلَيَّ نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَّاحِدَةِ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: تَسْعُ نِسْوَةً. قِيلَ لِأَنَسٍ: أَوْ كَانَ يُطِيقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ. (رواه البخارى: ٢٦٨)

٧-باب: مَنْ تَطَيَّبَ وَاعْتَسَلَ

١٩٤: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِضِ الطَّيِّبِ، فِي مَفْرَقِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ. (رواه البخارى: ٢٧١)

Baab 8: Dauraan-e-ghusl baalon mein khilaal karna

195: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها hi se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab ghusl-e-janaabat farmaate to pahle apne donon haath dhote aur namaaz ke wazoo jaisa wazoo farmate phir apne donon haathon se baalon ka kihlaal karte jab aap samajh lete ke khaal tar ho chuki hai to uss par teen baar paani bahaate phir apna baaqi jism dhote. (Bukhari:272)

Baab 9: Masjid mein aane ke b'ad janaabat ka ilm ho to fauran nikal jaaye aur tayammum na kare.

196: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke ek dafa namaaz ke liye takbeer kahi gayi jab saffen baraabar ho gayeen to Rasoolullah ﷺ tashreef laaye mosalle par khade hote hi aap ko yaad aaya ke janaabat se hain chunaancheh aap ne hum se farmaya apni jagah par raho, phir aap laut gaye aur jaldi se ghusl karke waapas tashreef laaye aur aapke sar mubarak se paani tapak rahaa tha. aap ne (namaaz) ke liye Allahu Akbar kaha aur hum sab ne aap ke saath namaaz adaa ki. (Bukhari:275)

Fawaaid: Iss hadees se yeh m'aloome huwa ke agar ghusl-e-janaabat mein dar ho jaaye to chand aan harj nahin hai neez yeh bhi m'aloome huwa ke azaan ya takbeer ke b'ad kisi m'aaqool uzr ki benaa par Masjid se nikalne mein koyi muzaaiqah nahin. (Al-Azaan: 639)

Baab 10: Ghoshah tanhaayi mein nange nahana.

197: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Bani Israaayeel ek doosre ke saamne barhanah ghusl kiya karte the jab ke Moosa عليه السلام tanha nahaate bani Israaayeel ne kaha Allah ki qasam! Hazrat Moosa عليه السلام hamaare saath isliye ghusl nahin karte ke aap marz mein muhtalaa hain, ittefaaq se ek din Moosa عليه السلام ne nahaate

۸-باب: تَخْلِيلُ الشَّعْرِ اثناءَ الغُسلِ
 ۱۹۵: وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ، غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدَيْهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بِشَرَّتِهِ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ، غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.

(رواه البخارى: ۲۷۲)

۹-باب: إِذَا ذَكَرَ فِي الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَّمَّمُ
 ۱۹۶: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَعُدِلَتِ الصُّفُوفُ قِيَامًا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ، ذَكَرَ أَنَّهُ جُنُبٌ، فَقَالَ لَنَا: (مَكَانَكُمْ) ثُمَّ رَجَعَ فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَكَبَّرَ فَصَلَّيْنَا مَعَهُ.

(رواه البخارى: ۲۷۵)

۱۰-باب: مَنْ اغْتَسَلَ عُرْيَانًا وَحَدَهُ

فِي خَلْوَةٍ

۱۹۷: وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاءَةً، يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِلُ وَحَدَهُ، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ

waqt apna lebaas ek patthar par rkh diya, huwa yoon ke woh patthar unka lebaas le bhaaga, Hazrat Moosa عليه السلام uske t'aaqub mein yeh kahte huye daude, Aye patthar! mere kapde de de, Aye patthar! mere kapde de de, yahaan tak ke Bani Israa'yeel ne Hazrat Moosa عليه السلام ko dekh liya aur kahne lage Wallah Moosa عليه السلام ko koyi bimaari nahin, Moosa عليه السلام ne apne kapde liye aur patthar ko maarne lage. Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه ne farmaya Allah ki qasam! Moosa عليه السلام ki maar ke 6 ya 7 nishaan uss patthar par ab bhi maujood hain.

(Bukhari:278)

Fawaaid: Bani Israa'yeel ka khayaal tha ke Hazrat Moosa عليه السلام ke khosye bade huye hain isliye sharm ke maare hamaare saath nahin nahaate mabaadan aib zaahir hojaaye iss hadees se maloom huwa ke kisi zaroorat ke pesh-e-nazar doosron ke saamne satr kholna jaayez hai. (Fatahul Baari.1/386)

198: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi marvi yeh doosri rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ek martabah Hazrat Ayyub عليه السلام nange nahaa rahe the ke un par sone ki makdiyan barasne lagin. Hazrat Ayyub عليه السلام unhen apne kapde mein sametne lage iss moqa par Allah Ta'ala ne aawaaz di, Aye Ayyub! jo tum dekh rahe ho kiya main ne tumhein un se be niyaaz nahin kiya Hazrat Ayyub عليه السلام ne kaha! Mujhe teri izzat ki qasam! kyun nahin magar main tere karam se be niyaaz nahin ho sakta hoon. (Bukhari: 279)

Fawaaid: Iss hadees se Allah Ta'ala ki sifat kalaam bhi saabit hoti hai (At-tauheed: 7493) neez yeh bhi m'aloom huwa ke iss sifat mein aawaaz bhi hai.

Baab 11: Logon ke saamne nahaate waqt pardah karna.

199: Hazrat Umme Haani bint-e-Abi Taalib رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main fath-e-Makkah ke saal Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke paas gayi to main ne aap ko ghul karte huye paaya aur Hazrat Faatimah رضي الله عنها aap par pardah kiye huye thin, aap ne farmaya yeh kaun hai? main ne arz kiya janaab main hoon Umme haani رضي الله عنها. (Bukhari:280)

يَغْتَسِلَ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ، فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ، فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ، فَفَرَاحَ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ، فَخَرَجَ مُوسَى فِي إِثْرِهِ، يَقُولُ: تُوْبِي يَا حَجَرُ. تُوْبِي يَا حَجَرُ، حَتَّى نَظَرْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِلَى مُوسَى، فَقَالُوا: وَاللَّهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ، وَأَخَذَ ثَوْبَهُ، فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَدَبَ بِالْحَجَرِ، سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ، ضَرْبًا بِالْحَجَرِ. (رواه البخارى: ٢٤٨)

١٩٨: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَبِي فِي ثَوْبِهِ، فَنادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّوبُ، أَلَمْ أَكُنْ أَغْنِيكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ).

(رواه البخارى: ٢٤٩)

١٩٩: عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَقَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ: (مَنْ هَذِهِ؟) فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيَةَ.

(رواه البخارى: ٢٨٠)

Baab12:Junbi ka paseena aur Musalmaan ka naapaak na hona.

200:Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم unhein Madinah ke kisi raasta men mile aur khud Abu Hurairah رضي الله عنه janaabat se the woh kahte hain ke main aap se alag hogaya jab ghusl karke wapas aaya to aap ne daryaft farmaya, Abu Hurairah رضي الله عنه! tum kahaan chale gaye the Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه .ne arz kiya ke mujhe nahaane ki haajat thi to main ne tahaarat ke baghair aapke paas baithhna bura khayaal kiya aap ne farmaya Subhanallah! Momin kisi haal mein najis nahin hota.(Bukhari:283)

Fawaaid:Iss hadees se paseene ke paak hone ka bayin taur par suboot milta hai jab badan paak hai to jo badan se bar aamad ho use bhi paak hona chaahiye, waazeh rahe ke junbi ki najaasat hukmi hai aur kaafir ki e'teqaadi jab tak badan par koyi haqeeqi najaasat na ho najis nahin hota.

Baab13:Janaabat ke b'ad sirf wazoo karke sona.

201:Hazrat Umar bin Khattab رضي الله عنه se rivaayat hai, Unhon ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se poochha ke kiya hum main se koyi bahaalat-e-janaabat so sakta hai? aap ne farmaya "haan" jab tum mein koyi janaabat ki haalat mein ho to wazoo karle aur so jaaye.(Bukhari:287)

Fawaaid:Doosri hadees mein hai ke woh pahle sharmgaah se alaayish ko dhoye phir namaaz ki tarah wazoo kare lekin iss wazoo se namaaz nahin padh sakta kyun ke janaabat ki haalat mein ghusl ke baghair namaaz adaa karne ki ejaazat nahin.

Baab14:Jab (Biwi khaawind ke) khitaan mil jaayein (to ghusl zaroori hona)

202:Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya jab mard (apni) aurat ke chaaron hisson ke darmiyaan baithh gaya phir uske saath koshish ki ya'ni dukhool kiya to yaqeenan ghusl waajib hogaya.

(Bukhari:291)

Fawaaid:Ba'z hazraat ne yeh mauqif ikhtiyaar kiya hai ke sirf dukhool se ghusl waajib nahin hota jab tak inzaal na ho shaayad unhein yeh hadees na pahunchi ho.

١٢- باب: عَرَقِ الْجُنْبِ وَأَنَّ

الْمُؤْمِنِ لَا يَنْجُسُ

٢٠٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنْبٌ، قَالَ: فَأَنْخَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبْتُ فَأَعْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ، فَقَالَ: (أَيْنَ كُنْتِ يَا أبا هُرَيْرَةَ؟) قَالَ: كُنْتُ جُنْبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ). (رواه البخارى: ٢٨٣)

١٣- باب: مَبِيَّتِ الْجُنْبِ إِذَا

تَوَضَّأَ.....

٢٠١: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيْرِقُدُّ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ: (نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلَيْرِقُدُّ وَهُوَ جُنْبٌ). (رواه البخارى: ٢٨٤)

١٤- باب: إِذَا التَّقَى الْخِتَاتَانِ

٢٠٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ). (رواه البخارى: ٢٩١)

Haiz ka bayaan

Baab1: Haayizah ko (dauraan-e-hajj) kiya karna chaahiye.

203: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum sab Madinah munawwarah se sirf hajj ke iraadah se nikle aur jab maqaam-e-sarf par pahunche to mujhe haiz aagaya Rasoolullah ﷺ mere paas tashreef laaye to main ro rahi thi Aap ne farmaya tumhaara kiya haal hai kiya tujhe haiz aagaya hai? main ne arz kiya jee haan! Aap ne farmaya ke yeh amr to Allah Ta'ala ne Hazrate Adam عليه السلام ki betiyon par likh diya hai isliye haajiyon ke sab kaam karti raho albattah ka'ba ka tawaaf na karna Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne farmaya Rasoolullah ﷺ ne apni biwiyon ki taraf se ek gaaye ki qurbaani di. (Bukhari: 294)

Fawaaid: M'aloom huwa ke haayizah aurat baitullah ke tawaaf ke elaawah digar manaasik-e-hajj adaa karne ki paaband hai. (Al-hajj:1650)

Baab2: Haayizah aurat ka apne shauhar ke sar ko dhona aur us mein kanghi karna

204: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke main bahaalate haiz Rasoolullah ﷺ ke sar-e-mubaarak ko kanghi kiya karti thi. (Bukhari: 295)

Fawaaid: Maloom huwa ke haayizah aurat ghar ka kaam kaaj aur khaawind ki digar khidmaat sar anjaam de sakti hai.

205: Hazrate Aayeshah رضي الله عنها se hi ek doosri rivaayat mein yoon hai ke Rasoolullah ﷺ Masjid mein tashreef farma hote aur apna sar mubaarak uske qareeb kar dete aur woh khud bahaalat-e-haiz apne hujrah mein rahte huye unhein kanghi kar diya karti thin.

(Bukhari: 296)

Baab 3: Mard ka apni haayizah biwi ki god mein takyah laga kar qur'an padhna

كِتَابُ الْحَيْضِ

1-باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن ٢٠٣: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا كُنْتُ بِسَرَفٍ حِضْتُ، فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي، قَالَ: (مَا لَكَ أَنْفُسْتِ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) قَالَتْ: وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ. (رواه البخارى: ٢٩٤)

٢-باب: غَسَلُ الْحَائِضِ رَأْسَ

رُؤُوسِهَا وَتَرْجِيلِهِ

٢٠٣: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أُرْجِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا حَائِضٌ. (رواه البخارى: ٢٩٥)

٢٠٥: وَفِي رِوَايَةٍ: وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، فَتَرْجِلُهُ وَهِيَ حَائِضٌ.

(رواه البخارى: ٢٩٦)

٣-باب: قِرَاءَةُ الرَّجُلِ فِي حِجْرٍ

أَمْرَاتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ

206: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai, unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ meri god mein takyah laga lete the jabke main haiz se hoti phir Aap qur'an majeed ki telaawat farmaate the. (Bukhari: 297)

Fawaaid: Haayizah aurat aur junbi mard qur'an majeed ko haath nahin laga sakta albatta unki god mein takiya laga kar qur'an padhna cheez-e-diger ast.

Baab 4: Haiz ko nefaas kahna

207: Hazrat Umme Salmah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek martabah main Rasoolullah ﷺ ke saath ek hi chaadar mein lati huyi thi ke achanak mujhe haiz aagaya main aahista se sadak gayi aur apne haiz ke kapde pahan liye to Aap ne farmaya kiya tumhein nefaas aa gaya hai. main ne arz kiya ji haan phir Aap ne mujhe bulaya aur main usi caadar mein Aap ke saath let gayi. (Bukhari: 298)

Baab5: Haayizah aurat ke saath letna

208: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai farmaati hain ke main aur Rasoolullah ﷺ donon janaabat ki haalat mein ek bartan se ghusl karte isi tarah main haiz se hoti aur Aap hukm dete to main azaar pahan leti phir Aap mere saath let jaate neez Aap bahaalate e'tekaaf apna sar mubaarak meri taraf kar dete to main usko dho deti baawajood ke khud haiz se hoti. (Bukhari: 299.301)

209: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai farmaati hain hum mein se jab kisi aurat ko haiz aata aur Rasoolullah ﷺ uss se ikhtalaat chaahte to use hukm dete ke apne haiz ke galbah ke waqt azaar pahan le phir uske saath let jaate uske b'ad Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne farmaya tum mein se kaun hai jo apni khahish par iss qadar qaabu rakhta ho jis

٢٠٦: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَكِي فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

(رواه البخارى: ٢٩٧)

٢- باب: مَنْ سَمِيَ الْبِفَاسِ حَيْضًا
٢٠٧: عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، مُضْطَجِعَةً فِي حَمِيصَةٍ، إِذْ حِضْتُ، فَأَنْسَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي، قَالَ: (أَنْفِسْتِ؟) قُلْتُ: نَعَمْ، فَدَعَانِي، فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيصَةِ. (رواه البخارى: ٢٩٨)

٥- باب: مَبَاشَرَةُ الْحَائِضِ
٢٠٨: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ، وَكَانَ بِأَمْرِي فَأَتَرَرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

(رواه البخارى: ٢٩٩، ٣٠١)

٢٠٩: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَزَرَّ فِي قَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيْكُم يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ. (رواه البخارى: ٣٠٢)

qadar Rasoolullah ﷺ apni khahish par qaabu yaafta the.(Bukhari: 302)

Fawaaid: Maloom huwa ke jis ka apne jazbaat par Control na ho woh aise ikhtelaat se ijtenaab kare mabaadan kisi haraam ka murtakib ho jaaye.

Baab 6: Haayizah ka rozah chhodhna

210: Hazrat Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne bayaan kiya ke Rasoolullah ﷺ Eidul Azha ya Eidul Fitr mein nikle aur eid gaah mein auraton ki jama'at par guzre to Aap ne farmaya aurato! Khairaat karo kyun ke main ne tumhaari aksariyat ko dozakhi dekha hai woh bolin ya Rasoolallah ﷺ kyun? Aap ne farmaya tum la'nat bahut karti ho aur khaawind ki naa shukri karti ho main ne tum se ziyaadah kisi ko deen aur aqal mein nuqs rakhne ke baawajood pukhtah raaye mard ki aql ko le jaane waala nahin paaya unhon ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! hamaari aql aur deen mein kiya nuqsaan hai? Aap ne farmaya. kiya aurat ki gawaahi shar'an mard ki aadhi gawaahi ke barabar nahin? unhon ne kaha be shak hai Aap ne farmaya yahi uski aql ka nuqsaan hai phir Aap ne farmaya yeh amr waqi'a nahin hai ke jab aurat ko haiz aata hai to na namaaz padhti hai aur na rozah rakhti hai unhon ne kaha haan yeh to hai Aap ne farmaya bas yahi uske deen ka nuqsaan. hai.

(Bukhari: 304)

Baab 7: Mustahaaza ka e'takaaf baithhna

211: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ke hamraah Aap ki ek ahliya ne e'tekaaf kiya haalaanke use istahazah ki bimaari thi ke woh aksar khoon dekhti rahti aur a'am taur par woh apne neechे khoon ki wajah se tasht rakh liya karti thin.

(Bukari: 309)

٦-باب: تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمِ
٢١٠: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَى، أَوْ فِطْرٍ، إِلَى
الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: يَا
مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ
أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ
اللَّهِ؟ قَالَ: (تُكْفِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ
وَدِينٍ أَذْهَبَ لِبَلِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ
إِحْدَاكُنَّ). قُلْنَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا
وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (الْيَسَ
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ
الرَّجُلِ؟). قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: (فَذَلِكَ
مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ
لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تُصُمْ؟) قُلْنَ: بَلَى، قَالَ:
(فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا).

(رواه البخارى: ٣٠٤)

٤-باب: اغْتِكَافِ الْمُسْتَحَاضَةِ
٢١١: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ اغْتَكَفَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ،
وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ، فَرُبَّمَا
وَضَعَتِ الطُّسْتَ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ.

(رواه البخارى: ٣٠٩)

Fawaaid: Jo shakhs daaimul hadas ho ya jis ke zakhmon se khoon bahta rahe uska bhi yahi hukm hai.

Baab 8:Ghush-e-haiz se faraaghat ke ba'd aurat ka khushbu lagana

212:Hazrat Umm-e-Atiyah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hamein kisi faut shudah par teen din se ziyaadah sog karne ki momaniy'at ki jaati thi magar shauhar (ke marne) par chaar maheene das din tak (sog ka hukm tha) neez yeh bhi hukm tha ke uss dauraan na hum surmah lagaayein na khushbu aur na hi koyi rangeen kapda pahnen magar jis kapde ka dhaagah bunaawat se ranga huwa ho albatta haiz se paak hote waqt yeh ejaazat thi ke jab haiz ka ghushl kare to thoda sa kast azfaar (khushbu ki ek qism) iste''maal karle uske elaawah janaazon ke saath jaane ki bhi momaniy'at kardi gayi thi. (Bukhari: 313)

باب ٨: الطَّيِّبُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُضُلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ
٢١٢: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلُ، وَلَا نَتَّطِيبُ، وَلَا نَلْبَسُ ثَوْبًا مَضْبُوعًا إِلَّا تَوْبَ عَصَبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ، إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا، فِي بُدْءِ مَنْ كُسِتِ أَظْفَارُ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

(رواه البخارى: ٣١٣)

Fawaaid:Hamaare barr-e-sagheer ki beshtar auraten iss amr-e-nabwi ko nazr andaaaz kar deti hain haiz se faraaghat ke ba'd karaahat wa nafrat ko door karne ke liye khusbu ko zaroor istemaal karna chaahiye.

Baab 9:Ghush-e-haiz ke waqt badan malne ka bayaan

213:Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke ek aurat Rasoolullah ﷺ se apne ghushl-e-haiz ke muta'alliq poochha? Aap ne uske saamne ghushl ki kaifiyat bayaan ki (aur) farmaya ke kastoori laga huwa ruyi ka ek tukda le kar uss se taharat kar' woh kahne lagi kaise tahaarat karun? Aap ne farmaya (Subhaanallah) paakeezgi haasil kar. Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmaati hain ke main uss aurat ko apni taraf kheencha aur use samjhaya ke use maqaam-e-khoon ya'ni sharmgaah par lagaale. (Bukhari: 314)

٩-باب: ذَلِكَ الْمَرْأَةُ نَفْسِهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ
٢١٣: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُضُلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ، قَالَ: (خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ، فَتَطَهَّرِي بِهَا). قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ: (تَطَهَّرِي بِهَا) قَالَتْ: كَيْفَ؟ قَالَ: (سُبْحَانَ اللَّهِ، تَطَهَّرِي) فَاجْتَبِذْتُهَا إِلَيَّ، فَقُلْتُ: تَتَّبِعِي بِهَا أُنْزَلُ الدَّمِ. (رواه البخارى: ٣١٤)

Fawaaid:Sahih Muslim mein hai ke aurat ko apne sar par paani Daal kar khoob malna chaahiye taake paani baalon ki jadon tak pahunch jaaye phir apne tamaam badan par paani bahaaye.

Baab10:Ghusl-e-haiz ke waqt baalon mein kanghi karna

214:Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا hi se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ke saath hajjatul wida' mein ehraam baandha to main un logon mein shaamil thi jinhon ne hajj-e-tamatt'o ki niyyat ki thi aur apne saath qurbaani nahin laaye the (ittefaaq se) mujhe haiz aagaya aur shabe arfa' tak paak na huyi tab main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! yeh to arfa' ki raat aagayi aur main ne to umre ka ehraam baandha tha (ab kiya karun?) Rasoolullah ﷺ ne farmaya tum apna sar khol kar kanghi karo aur apne umre ke a'amaal ko mauqoof kardo chunaancheh main ne aisa hi kiya aur jab main hajj se farigh ho gayi to Aap ne shab-e-Mohsib (mere bhai) Abdur Rahmaan ﷺ ko hukm diya to woh mere, iss umre ke badle jis mein main ne ehraam baandha tha mujhe maqaame tan'yeem se doosra umrah kara laaye. (Bukhari: 316)

Baab11:Ghusl-e-haiz ke waqt aurat ka apne baal kholna

215 :Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا hi se rivaayat hai ke hum zilhijjah ke chaand ke qareeb hajj ko nikle to Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jo shakhs U'mrah ka ehraam baandhna chaahе woh Umrah ka ehraam baandh le aur khud main agar hadi (jaanwar) na laya hota to Umrah ka ehraam baandhta iss par kuchh logon ne Umrah ka ehraam baandha aur kuchh ne hajj ka- iske b'ad Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا ne poori hadees bayaan ki aur apne haiz ka bhi tazkirah kiya aur farmaya ke Aap ne mere bhaayi Abdur Rahmaan ﷺ ko maqaam-e-tan'yeem tak bheja wahaan se main ne Umre ka ehraam baandha aur in sab baaton mein na qurbaani laazim huyi, na rozah rakhna pada aur na hi sadqah dena

• اِیَاب: امِتِشَاطِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ

غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ

۲۱۴: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَهْلَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ، فَكُنْتُ مِمَّنْ تَمَتَّعَ وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حَاصَتْ، وَلَمْ تَطْهُرْ حَتَّى دَخَلْتُ لَيْلَةَ عَرَفَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ لَيْلَةُ عَرَفَةَ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ، بِعُمْرَةٍ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَنْقِضِي رَأْسَكَ، وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكَ) فَفَعَلْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ، أَمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، لَيْلَةَ الْحَضْبَةِ، فَأَعْمَرَنِي مِنَ التَّنْعِيمِ، مَكَانَ عُمْرَتِي الَّتِي نَسَكْتُ.

(رواه البخارى: ۳۱۶)

اِیَاب: نَقْضُ الْمَرْأَةِ شَعْرَهَا عِنْدَ

غُسْلِ الْمَحِيضِ

۲۱۵: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مُؤَافِقِينَ لَهْلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهْلَلَ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهْلَلْ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لِأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ). فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ وَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِحَجٍّ، وَسَاقَتِ الْحَدِيثَ، وَذَكَرْتُ حَيْضَتَهَا قَالَتْ: أُرْسَلُ مَعِيَ أَحْيَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، هَدْيٌ وَلَا صَوْمٌ

pada. (Bukhari: 317)

وَأَصْدَقَةٌ. (رواه البخارى: ٣١٧)

Fawaaid: Iss hadees mein ghusl-e-haiz ke waqt apne baal kholne ka bhi zikr hai jise matan mein ikhtesaar ke pesh-e-nazar hafz kardiya gaya hai. kyun ke iska oupar tazkirah ho chuka hai.

Baab 12: Haayizah ka namaaz ki qaza na dena

216: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi doosri rivaayat hai ke ek aurat ne un se poochha ke kiya hamein ayyaam-e-tahaarat ki namaazen kaafi hain haiz ki namaazon ki qaza zaroori nahin? Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne farmaya tu Harooriyah (khaarji) ma'lloom hoti hai hamen Rasoolullah ﷺ ke zamaanah mein haiz aata to Aap hamein namaaz ki qaza ka hukm nahin dete the ya farmaya ke hum qaza nahin padhti thin (Bukhari: 321)

٢١٦-باب: لَا تَقْضَى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ
وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ
امْرَأَةً قَالَتْ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا
إِذَا طَهَّرَتْ؟ فَقَالَتْ: أْحُرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟
كُنَّا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَا يَأْمُرُنَا
بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.

(رواه البخارى: ٣٢١)

Fawaaid: Iss masala par ijma' hai albatth chand khawaarij ka moqif hai ke haayizah ko faraaghat ke b'ad faut shudah namaazon ki qaza dena chaahiye ghaaliban isi liye Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne saayilah ko Harooriyah kaha hai kyun ke yeh ek aise maqaam ki nisbat hai jahan khaarji ekkhatththe huye the.

Baab 13: Haiz ke kapde pahanne ke bawajood haayizah aurat ke saath letna

217: Hazrat Umme Salmah رضي الله عنها se haiz ke muta'alliq hadees Number 207 pahle guzar chuki hai jis mein hai ke woh bahaalat-e-haiz Rasoolullah ﷺ ke saath ek chaadar mein leti hoti thin aur uss mein yeh bhi bayaan kiya gay hai Rasoolullah ﷺ rozah ki haalat mein unke saath bos-o-kinaar karte the.

(R:207) (Bukhari: 322)

Baab 14: Haayizah aurat ka eidain mein shamuliyat karna

218: Hazrat Umme Atiyah رضي الله عنها se rivaayat hai ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate suna hai ke woh do sheezah auraten' pardah nasheen khawaateen aur haayizah auraten (sab eid ke liye) bahar niklen aur musalmaanon ki majalis-e-khair wa du'a mein shaamil hon magar haayizah auraten namaaz ki jagah se alag rahein kisi ne poochha ke haayizah auratein bhi shareek hon? to Umme Atiyah رضي الله عنها ne jawaab diya ke kiya haiz waali auraten arfaat aur fulan fulan maqamaat par haazir nahin hotin? (Bukhari: 324)

٢١٧-باب: النَّوْمُ مَعَ الْحَائِضِ فِي نِيَابِهَا
عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حَدِيثٌ حَيْضُهَا وَهِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
فِي الْحَمِيلَةِ، ثُمَّ قَالَتْ فِي هَذِهِ
الرِّوَايَةِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْبَلُهَا
وَهُوَ صَائِمٌ. [ر: ٢٠٧]

(رواه البخارى: ٣٢٢)

٢١٨-باب: شُهُودُ الْحَائِضِ الْعِيدَيْنِ
عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: (تَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ
الْخُدُورِ، أَوْ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ،
وَالْحَيْضُ، وَلْيَشْهَدَنَّ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ
الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلْنَ الْحَيْضُ
الْمُصَلِّي). قِيلَ لَهَا: الْحَيْضُ؟ فَقَالَتْ:
أَلَيْسَ يَشْهَدَنَّ عَرَفَةَ، وَكَذَا وَكَذَا.

(رواه البخارى: ٣٢٣)

Baab15:Ayyaame haiz ke elaawah khakistari aur zard rang dekhna

219 : Hazrat Umme Atiyah رضي الله عنها se rivaaya hai ke unhon ne farmaya ke hum mattyaala pan aur zardi ko kuchh na samajhte the ya'ni use haiz khayaal na karte the. (Bukhari: 326)

Fawaaid: Agar makshoos ayyaam iss rangat ka khoon bar aamad ho to use haiz hi samjha jaayega agar digar ayyaam mein dekha jaaye to use haiz na khayaal kiya jaaye.

Baab16:Tawaaf-e-efaazah ke b'ad haiz ka aana

220: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها Rasoolullah ﷺ ki zauja-e-mohtarma se rivaayat hai unhon ne Rasoolullah ﷺ se arz kiya ya Rasoolallah ﷺ (Aapki ahliya) Safiyah ko haiz aa gaya hai Aap ne farmaya shaayad woh hamein rok rakkhegi? kiya usne tumhaare saath tawaafe (efaazah) nahin kiya? unhon ne kaha tawaaf to kar chuki hain Aap ne farmaya chalo (kyun ke tawaaf-e-wida' haayizah ke liye zaroori nahin)(Bukhari:328)

Fawaaid: Tawaaf-e-efaazah zulhijah ki dasween tareekh ko kiya jaata hai yeh farz aur hajj ka rukn hai albattah tawaaf-e-wida' jo ka'ba se rukhsat hote waqt kiya jaata hai woh haayizah ke liye zaroori nahin hai.

Baab 17:Nefaas waali aurat ka janaazah padhna aur uska tareeqah

221: Hazrat Samurah bin Jundub رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek aurat dauraan-e-zachgi faut ho gayi to Rasoolullah ﷺ ne uski namaaz-e-janaazah ada ki aur janaazah padhte waqt uske darmiyaan (kamar ke saamne) khade huye. (Bukhari: 332)

Baab 18:

221: Hazrat Maimoonah رضي الله عنها Rasoolullah ﷺ ki zaujah mohtarmah se rivaayat hai ke jab wo haayizah hotin aur namaaz na padhtin to bhi Rasoolullah ﷺ ki sajdah gaah ke paas leti rahtin Rasoolullah ﷺ apni chaadar par namaaz padhte jab sajdah karte to Aap ka kuchh kapda unse mas ho jaata tha. (Bukhari: 333)

Fawaaid: Maloom huwa ke dauraan-e-namaaz haayizah aurat se kapde chhu jaane ya uske bistar ki taraf munh karke namaaz padhne mein koyi harj nahin. (As-salaat: 517)

١٥ باب: الصُّفْرَةُ وَالْكُدْرَةُ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْحَيْضِ

٢١٩: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.

(رواه البخارى: ٣٢٦)

٦ اباب: الْمَرْأَةُ تَحِيضُ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ

٢٢٠: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ

اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ

بِنْتِ حَيْبِي قَدْ حَاضَتْ؟ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ: لَعَلَّهَا تَحِيضُنَا أَلَمْ تَكُنْ

طَافَتْ مَعَكُنْ؟ فَقَالُوا: بَلَى، قَالَ:

(فَأَخْرَجِي) (رواه البخارى: ٣٢٨)

٤ اباب: الصَّلَاةُ عَلَى النَّفْسَاءِ وَسُنَّتُهَا

٢٢١: عَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ،

فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وَسَطَهَا.

(رواه البخارى: ٣٣٢)

٨ اباب

٢٢٢: عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ

بِحِذَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَهُوَ

يُصَلِّي عَلَى خُمُرَتِهِ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَهَا

بَعْضُ ثَوْبِهِ. (رواه البخارى: ٣٣٣)

Tayammum Ka Bayaan

Baab1: Tayammum ki aayaat فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
ka shaane nuzool

223: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها Rasoolullah ﷺ ki zaujah mohtarmah se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ek safar mein Rasoolullah ﷺ ke saath nikle jab hum baydaa ya zaatul jaish pahunche to mera haar toot kar gir gaya to Rasoolullah ne uski talaash ke liye qiyaam farmaya to doosre log bhi Aap ke hamraah thhahar gaye magar wahaan kahin paani na tha log Hazrate Abu Bakr Siddeeq ﷺ ke paas aaye aur kahne lage, Aap nahin dekhte ke Aayeshah رضي الله عنها ne kiya kiya? Rasoolullah ﷺ aur sab logon ko thhahraaliya aur yahaan paani bhi nahin milta aur na hi unke paas paani hai yeh sun kar Hazrat Abu Bakr Siddeeq ﷺ aaye uss waqt Rasoolullah ﷺ mere raan par sar rakkhe mahw-e-isteraahat the. Siddeeq-e-Akbar ﷺ kahne lage tum ne Rasoolullah ﷺ aur sab logon ko yahaan thhahraa liya halaanke unke paas paani nahin hai aur na hi iss jagah dastiyaab hota hai Hazrate Aayeshah رضي الله عنها farmaati hain ke Abu Bakr Siddeeq ﷺ mujh par naraaz huye aur jo Allah ko manzoor tha (bura bahla) kaha neez meri kokh mein haath se kachoka lagaane lage lekin main ne harkat isliye na ki ke mere raan par Rasoolullah ﷺ ka sar mubaarak tha subah ke waqt jab iss be aab-o-maqaam par Rasoolullah ﷺ bedaar huye to Allah ne aayaate tayammum naazil farmayi chunaancheh logon ne tayammum kar liya uss waqt Hazrat Usaid bin Huzair ﷺ bole Aye aale Abu Bakr! yeh koyi tumhaari pahli barkat nahin hai, Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmaati hain ke jis oont par main sawaar thi hum ne use uthhaya to uske neechे se haar mil gaya. (Bukhari: 334)

كِتَابُ التَّيْمَمِ

۱- بَابُ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾

۲۲۳: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أَوْ بَدَاتِ الْجَيْشِ، انْقَطَعَ عَقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ التَّمَاثِيمَ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، وَلَيْسُوا عَلَيَّ مَاءً، فَأَتَى النَّاسُ إِلَيَّ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقَالُوا: أَلَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَيَّ مَاءً، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَاضَعَ رَأْسَهُ عَلَيَّ فَخَذَى قَدَّ نَامٍ، فَقَالَ: حَبَسْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالنَّاسِ، وَلَيْسُوا عَلَيَّ مَاءً، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وَجَعَلَ يَطْعُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلَا يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحْرُكِ إِلَّا مَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ فَخَذَى، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَيَّ غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيْمَمِ فَنَيْمَمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحَضِيرِ: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَعَنَّا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا الْعُقْدَ تَحْتَهُ.

(رواه البخارى: ۳۳۴)

Fawaaid: Maloom huwa ke baap apni beti ki shaadi ke b'ad bhi use kisi baat par daant dapat kar sakta hai chunke iss hadees mein hai ke ba'z Sahaba kiraam ﷺ ne wazoo aur tayammum ke baghair namaaz padh li maloom huwa ke agar wazoo ke liye paani aur taymmum ke liye mitti na mile to yoon hi namaaz padh li jaaye. (At-tayammum:336)

224: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضى الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya mujhe paanch cheezen aisi a'taa ki gayi jo mujh se pahle kisi paighambar ko nahin di gayi ek yeh hai ke mujhe ek maheena ki masaafat par bazariya' r'ob madad di gayi hai doosri yeh ke tamaam zameen mere liye Masjid aur paak karne waali banaayi gayi ab meri ummat mein jis shakhs par namaaz ka waqt aajaaye chaahe ke namaaz padh le (agarcheh wahaan masjid aur paani na ho) teesri yeh ke mere liye maal-e-ghaneemat halaal kardiya gaya hai halaan ke pahle kisi ke liye halaal na tha chauthhi yeh ke mujhe shafaa'at ki ejaazat di gayi paanchwin yeh ke pahle Nabi khaas apni hi qaum ki taraf mab'oos huwa karta tha magar main sab logon ki taraf bheja gaya hoon. (Bukhari: 335)

Baab 2: Paani na mile aur namaaz ke qaza hone ka andesha ho to hazar mein tayammum karna

225: Hazrat Abu Juhaim bin Haaris Ansaari رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ek daf'a jamal naami kunwa ki taraf se aarahe the ke raaste mein ek shakhs mila usne Aap ko salaam kiya lekin Rasoolullah ﷺ ne uska jawaab na diya yahaan tak ke Aap ek diwaar ke paas aaye aur us se apne munh aur haathon ka masah kiya ya'ni tayammum farmaya phir uske salaam ka jawaab diya. (Bukhari: 337)

Fawaaid: Jab salaam ka jawaab dene ke liye tayammum jaayiz hai to hazar mein namaaz ke liye batareeq woola jaayiz hoga. jabke paani dastiyaab na ho aur namaaz ka waqt khatam ho raha ho.

Baab 3: Tayammum karne waale ka haathon par phoonk maarna

226: Hazrat Ammaar bin Yasir رضى الله عنه se rivaayat

۲۲۴: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (أُعْطِيتُ خُمْسًا، لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نَصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكْتُهُ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّ، وَأَحَلَّتْ لِي الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَيُبْعَثُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

(رواه البخارى: ۳۳۵)

۲- بَابُ: التَّيْمُمِ فِي الْحَضَرِ إِذَا لَمْ

يَجِدَ الْمَاءَ وَخَافَ فَوَتْ الصَّلَاةَ

۲۲۵: عَنْ أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ

الْأَنْصَارِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: أَقْبَلَ

النَّبِيُّ ﷺ مِنْ نَحْوِ بئرِ جَمَلٍ، فَلَقِيَهُ

رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ

النَّبِيُّ ﷺ السَّلَامَ، حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى

الْجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ

رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

(رواه البخارى: ۳۳۷)

۳- بَابُ: الْمُتَيَّمِ هَلْ يَنْفُخُ فِيهِمَا

۲۲۶: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ

hai unhon ne ek dafa Hazrat Umar bin Khattaab رضی اللہ عنہ se kaha kiya aap ko yaad hai ke main aur aap donon safar mein the aur junbi ho gaye the. aap ne to namaaz nahin padhi thi aur main ne mittee mein lot pot ho kar namaaz padh li thi phir main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se yeh bayaan kiya to aap ne farmaya ke tere liye itna hi kaafi tha phir aap ne apne donon haath zameen par maare aur un mein phoonk maari phir usse munh aur donon haathon ka masah kiya. (Bukhari:338)

Fawaaid: Iss hadees mein tayammum ka tareeqa bhi bayaan huwa hai ke hadas ya janaabat door karne ki niyat se paak mitti se haathon aur munh ka masah karna chaahiye neez tayammum ke liye sirf ek dafa' mitti par haath maarna kaafi hai (At-tayammum:347) yeh bhi maloom huwa ke agar paani ke istemaal se bimaari ka andesha ho ya peene ke liye paani na bachta ho to bhi tayammum kiya jaa sakta hai. (At-tayammum:345,346)

Baab 4: Paak mitti Musalmaan ka wazoo hai aur use paani ke badle kaafi hai.

227: Hazrat Imran bin Hussain Khuzaay'i رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ek martabah Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke hamraah safar mein the aur raat bhar chalte rahe jab aakhir shab huyi to hum kuchh der ke liye so gaye aur musaafir ke nazdeek uss waqt se ziyaadah koyi neend meethhi nahin hoti aise soye ke aaftaab ki garmi se hi bedaar huye sab se pahle jiski aankh khuli woh fulan shakhs tha phir fulan shakhs aur phir falan shakhs phir chauthe hazrat Umar bin Khattaab رضی اللہ عنہ jaage aur (hamaara qaayidah yeh tha ke) jab Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم isteraahat farmate to koyi aapko bedaar na karta tha ta aanke aap khud bedaar ho jaate kyun ke hum nahin jaante the ke Aap ko khaab mein kiya pesh aaraha hai? jab Hazrate Umar رضی اللہ عنہ ne bedaar ho kar woh haalat dekhi jo logon par taari thi aur woh diler aadmi the unhon ne ba aawaaz buland takbeer kahna shuru ki so woh baraabar Allahu Akbar buland aawaaz se kahte rahe yahaan tak ke unki aawaaz se Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم bedaar ho gaye jab Aap jaag uthhe to logon ne Aap se iss museebat ka shikwa kiya jo un par padi thi.

بِنِ الْحَطَّابِ: أَمَا تَذَكَّرُ أَنَّا كُنَّا فِي سَفَرٍ
أَنَا وَأَنْتَ، فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تَصَلِّ، وَأَمَّا أَنَا
فَتَمَعَّكَتْ فَصَلَّيْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا كَانَ
يَكْفِيكَ هَكَذَا). فَصَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِكَفْيِهِ الْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ
وَجْهَهُ وَكَفْيَهُ. (رواه البخارى: ٣٣٨)

بَابُ: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضَوْءُ

المُسْلِمِ يَكْفِيهِ عَنِ الْمَاءِ

٢٢٧: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ
الْحِزْرَاعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا
فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا،
حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقَعَةً،
وَلَا وَقَعَةَ أَحَلَّى عِنْدَ الْمَسَافِرِ مِنْهَا،
فَمَا أَيْقَظُنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ
مَنْ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقِظْهُ حَتَّى
يَكُونَ هُوَ اسْتَيْقَظَ، لِأَنَّا لَا نَذَرِي مَا
يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ
عُمَرُ وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ
رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ
بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ
بِالتَّكْبِيرِ، حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَرُوا إِلَيْهِ الَّذِي

Aap ne farmaya kuchh harj nahin ya usse kuchh nuqsan na hoga chalo ab kooch karo phir log rawaanah huye thodi si masaafat ke b'ad Aap utre wazoo ke liye paani mang waaya aur wazoo kiya namaaz ke liye azaan di gayi uske b'ad Aap ne logon ko namaaz padhaayi jab aap namaaz se faarigh huye to achaanak ek shakhs ko gosha tanhaayi mein baithhe dekha jis ne hum logon ke saath namaaz na padhi thi. Aap ne farmaya aye fulan shakhs! tere liye logon ke saath namaaz padhne se kounsi cheez maan'e huyi? usne arz kiya ke main junbi hoon aur paani maujood na tha Aap ne farmaya tujhe paak mitti se tayammum karna chaahiye tha. woh tujhe kaafi hai phir Rasoolullah ﷺ chale to logon ne Aap se piyaas ki shikaayat ki Aap utre aur Hazrat Ali ؑ aur ek doosre shakhs ko bulaaya aur farmaya tum donon jaao aur paani talaash karo iss par woh donon rawaanah huye to raaste mein unhein ek aurat mili jo apne oont par paani ki do mashkon ke darmiyaan baithhi huyi thi unhon ne us se daryaaft kiya ke paani kahan hai? uss ne jawaab diya ke paani mujhe guzishta kal isi waqt mila tha aur hamaare mard peechhe hain un donon ne usse kaha ke hamaare hamraah chal, uss ne kaha kahan jana hai? unhon ne kaha Allah ke Rasool ﷺ ke paas woh boli wahi jise be deen kaha jata hai unhon ne kaha haan wahi hai jinhen tu aisa kahti hai. chal to sahih aakhir woh donon use Rasoolullah ﷺ ke paas le aaye aur aap se saara qissa bayaan kiya hazrat Imran ؑ ne kaha ke logon ne use oont se utaar liya aur Rasoolullah ﷺ ne ek bartan mangwaaya aur donon pakhaalon ya mashkon ke munh uss mein khol diye phir oupar ka munh band karke neeche ka munh khol diya aur logon ko ittela' kardi gayi ke khud bhi paani piyen aur jaanwaron ko bhi pilaaayen to jis ne chaaha jaanwaron ko pilaya bil aakhir aap ne yeh kiya ke jis shakhs

أَصَابَهُمْ، قَالَ: (لَا ضَيْرَ أَوْ لَا يَضِيرُ، ارْتَحِلُوا). فَأَرْتَحِلُوا فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوُضُوءِ فَتَوَضَّأَ، وَنُودِيَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْقَلَبَ مِنْ صَلَاتِهِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، قَالَ: (مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟) قَالَ: أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ: (عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ). ثُمَّ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ، فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَلَ فَدَعَا فُلَانًا وَدَعَا عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ ﷺ: (أَذْهَبَا فَابْتِغِيَا الْمَاءَ). فَانطَلَقَا، فَلَقِيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَرَاتَيْنِ، أَوْ سَطِيحَتَيْنِ مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ قَالَتْ: عَهْدِي بِالْمَاءِ أُمْسِ هَذِهِ السَّاعَةِ، وَنَفَرْنَا خُلُوفَ، قَالَا لَهَا: انطَلِقِي إِذَا، قَالَتْ: إِلَى أَيْنَ؟ قَالَا: إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِي؟ قَالَا هُوَ الَّذِي تَعِينَنَ فَانطَلِقِي فَجَاءَ بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَاسْتَنْزَلُوها عَنْ بَعِيرِهَا، وَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَقْوَاهِ الْمَرَاتَيْنِ، أَوْ السَّطِيحَتَيْنِ، وَأَوْكَأَ أَقْوَاهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعِزَالِي، وَنُودِيَ فِي النَّاسِ: اسْقُوا وَاسْتَقُوا، فَسَقَى مَنْ سَقَى، وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أُعْطِيَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً

ko nahaane ki zaroorat thi use bhi paani ka ek bartan bhar ker diya aur use kaha ke jaao iss se ghusl karo woh aurat khadi yeh manzar dekhti rahi ke uske paani ke saath kiya ho raha hai? Allah ki qasam! jab paani lena band kiya gaya to hamaare khayaal ke mutaabiq woh ab uss waqt se bhi ziyaadah bahri huyi thin jab aap ne un se paani lena shuru kiya tha phir Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke uss aurat ke liye kuchh jama karo logon ne khujoor aata aur sattu ekatthe karne shuru kardiye yahaan tak ke ek achchhi miqdaar uske paas jama ho gayi jama shudh samaan unhon ne ek kapde mein baandh diya aur use ount par sawaar karke woh kapda uske aage rakh diya phir aap ne usse farmaya tum jaanti ho ke humne tumhaare paani mein kuchh kami nahin ki balke hamen to Allah ne pilaya hai phir woh a'urat apne ghar waalon ke paas waapas aayi chunke woh der se pahunchi thi isliye unhon ne poochha Aye fulaan aurat! tujhe kis ne rok liya tha? usne kaha mujhe to ek ajeeb waqia' pesh aaya. aur woh yeh ke (raaste mein) mujhe do aadmi mile jo mujhe uss shakhs ke paas le gaye jis ko be deen kaha jaata hai usne aisa aisa kiya, Allah ki qasam! jitne log iss (Aasmaan) ke aur iss (zameen) ke darmyaan hain aur usne apni darmyaan waali aur shahaadat waali ungli uthakar aasmaan aur zameen ki taraf ishaarah kiya. un sab mein se woh bada jaadu gar hai ya woh Allah ka haqeeqi Rasool hai phir musalmaanon ne yeh karna shuru kardiya ke uss aurat ke ird gird jo mushrik aabaad the un par to woh hamla aawar huye aur jin logon mein woh aurat rahti thi unko chhod dete aakhir uss ne ek din apni qaum se kaha ke mere khayaal mein musalmaan tumhen daanistah chhod dete hain kiya tumhen islam se kuchh raghat hai? tab unhon ne uski baat qubool ki aur musalmaan ho gaye.

مِنْ مَاءٍ، قَالَ: (أَذْهَبَ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ). وَهِيَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَإِيْمُ اللَّهِ، لَقَدْ أَقْلَعَ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ لَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مَلَأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَاءِ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اجْمَعُوا لَهَا). فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا: (تَعْلَمِينَ، مَا رَزَيْتَنَا مِنْ مَا نَبِكَ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا) فَآتَتْ أَهْلَهَا وَقَدْ اخْتَسَبَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَسْبُكَ يَا فُلَانَةُ؟ قَالَتْ: الْعَجَبُ، لَقَيْتَنِي رَجُلَانِ، فَذَهَبَ بِي إِلَى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: الصَّابِيُّ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ، إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسَ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ - وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَابَةَ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ تَعْنِي: السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ - أَوْ إِنَّهُ لَرُسُولُ اللَّهِ حَقًّا. فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ، يُغَيِّرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا أَرَى أَنَّ هَوْلَاءِ الْقَوْمِ يَدْعُونَكُمْ عَمْدًا، فَهَلْ لَكُمْ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَطَاعُوهَا فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ. (رواه البخاري: ٣٣٣)

Namaaz Ka Bayaan

كِتَابُ الصَّلَاةِ

Baab1:Shab-e-Me'raaj mein namaaz kis tarah farz ki gayi?

١-بَابُ: كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فِي

الْأَسْرَاءِ

228:Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Hazrat Abu Zar رضي الله عنه bayaan karte the ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya jab main Makkah mein tha to ek shab mere ghar ki chat phati. Hazrat Jibrayeel عليه السلام utre unhon ne pahle mere seene ko chaak karke use aabe Zam Zam se dhoya phir eemaan wa hikmat se bhara huwa sone ka ek tasht laaye aur use mere seene mein daal diya b'ad mein seena band kar diya phir unhon ne mera haath pakda aur mujhe aasmaan ki taraf le chadhe jab main aasmaan-e-duniya par pahuncha to Jibrayeel عليه السلام ne daaroghaye aasmaan se kaha darwaazah khol' usne kaha kaun hai? bole main Jibrayeel عليه السلام hoon phir usne poochha yeh tumhaare hamraah kaun hai? Hazrat Jibrayeel عليه السلام ne kaha mere saath Hazrat Muhammad صلى الله عليه وسلم hain, usne daryaaft kiya ke inhen d'awat di gayi hai? Hazrat Jibrayeel عليه السلام ne kaha haan! usne jab darwaazah khol diya to hum aasmaan-e-duniya par chadhe wahaan hum ne ek aise shakhs ko baithhe dekha jiski daayen jaanib jamme ghafeer aur baayen jaanib ambooye kaseer tha jab woh apni daayen jaanib dekhta to hansta aur jab baayen jaanib dekhta to ro deta usne (mujhe dekh kar) farmaya ke nek paighambar achchhe bete khush aamdeed! main ne Jibrayeel عليه السلام se poochha yeh kaun hai? unhon ne jawaab diya ke yeh Hazrat Adam عليه السلام hain aur inke daayen baayen anmoohे kaseer inki aulad ki arwaah hain daayen jaanib waali jannati aur baayen jaanib waali dozakhi hain isliye daayen taraf nazar karke

٢٢٨: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (فُرِجَ عَنِّي سَقْفُ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءٍ زَمْزَمٍ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ، مُمْتَلِيَةٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَعَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَعِيَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ، عَلَى يَمِينِهِ أَسْوَدَةٌ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوَدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قَبْلَ يَمِينِهِ ضَحِكٌ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكْيٌ، فَقَالَ: مَرَجَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِنِّ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وَهَذِهِ الْأَسْوَدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكٌ، وَإِذَا نَظَرَ قَبْلَ شِمَالِهِ بَكْيٌ، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى

hans dete hain aur baayein taraf dekh kar ro dete hain phir Hazrat Jibrayeel عليه السلام mujhe lekar doosre aasmaan ki taraf chadhe aur uske daaroghah se kaha darwaazah khol do, usne bhi wahi guftagu ki jo pahle ne ki thi chunaancheh usne darwaazah khol diya. Hazrat Anas رضي الله عنه ne farmaya ke Hazrate Abu Zar رضي الله عنه ke bayaan ke mutaabiq Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne aasmaanon mein Hazrat Adam'Idrees, Moosa, Eesa, aur Hazrat Ibraahim عليهم السلام se mulaqaat ki lekin unke muqamaat ko bayaan nahin kiya sirf itna kaha ke aasmaan auwwal par Hazrat Aadm عليه السلام aur chhatte aasmaan par Hazrat Ibraheem عليه السلام ko paaya.

Hazrat Anas رضي الله عنه ne farmaya ke jab Hazrat Jibrayeel عليه السلام Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko lekar Hazrat Idrees عليه السلام ke paas se guzre to unhon ne farmaya ke nek paighambar aur achchhe bhaayi khush aamdeed! main ne poochha yeh kaun hai? Hazrat Jibrayeel عليه السلام ne jawaab diya yeh Hazrat Idrees عليه السلام hain phir main Hazrat Moosa عليه السلام ke paas se guzra to unhon ne bhi kaha nek paighambar aur achchhe bhai khush aamdeed! main ne poochha yeh kaun hai Hazrat Jibrayeel عليه السلام ne jawaab diya yeh Hazrat Moosa عليه السلام hain. phir main Hazrat Eesa عليه السلام ke paas se guzra to unhon ne kaha nek paighambar aur achchhe bhaayi khush aamdeed! main ne Hazrat Jibrayeel عليه السلام se poochha yeh kaun hain? to unhon ne jawaab diya yeh Hazrat Eesa عليه السلام hain phir main Hazrat Ibraheem عليه السلام ke paas se guzra to unho ne bhi kaha Aye saaleh nabi aur achchhe bete khush aamdeed! main ne Hazrat Jibrayeel عليه السلام se poochha yeh kaun hain? to unhone kaha yeh Hazrat Ibraheem عليه السلام hain.

Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما aur hazrat Abu Habbaa Ansaari رضي الله عنه ka bayaan hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya phir mujhe oupar le jaya gaya hatta ke main ek aise buland

السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِحَازِنِهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ حَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ، فَفَتَحَ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ: أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَاوَاتِ: آدَمَ، وَادْرِيْسَ، وَمُوسَى، وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ، صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُبَيِّنْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ: أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِادْرِيْسَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. (فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟) قَالَ: هَذَا اِدْرِيْسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: (مَنْ هَذَا؟) قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قُلْتُ: (مَنْ هَذَا؟) قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: (مَنْ هَذَا؟) قَالَ: هَذَا اِبْرَاهِيمَ صلى الله عليه وسلم.

humwaar maqaam par pahuncha jahaan main (farishton ke) qalmon ki aawaazein sunta tha.

Hazrat Anas رضي الله عنه ka bayaan hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya phir Allah Ta'ala ne meri ummat par 50 namaazen farz kin main yeh hukm lekar waapas aaya jab Moosa عليه السلام ke paas se guzra to unhon ne poochha ke Allah Ta'ala ne aapki ummat par kiya farz kiya hai? main ne kaha (shab-o-roz mein) 50 namaaz farz ki hain (iss par) Hazrat Moosa عليه السلام ne kaha apne parwar digaar ki taraf laut jaayiye kyun ke Aap ki ummat inki mutahammil nahin ho sakegi- chunaancheh main waapas gaya to Allah Ta'ala ne kuchh namaazen m'aaf kardein main phir Moosa عليه السلام ke paas aaya aur kaha Allah t'aala ne kuchh namaazen m'aaf kardi hain. unhon ne kaha apne rab ke paas dobarah jaao Aap ki ummat inki bhi mutahammil nahin hai. main lauta Allah ne kuchh aur namaazen m'aaf kardin main phir Moosa عليه السلام ke paas aaya to unhon ne kaha apne parwar digaar ke paas wapas jaayen kyun ke Aap ki ummat in (namaazon) ki bhi mutahammil nahin ho sake gi. phir main lauta (aur aisa kayi baar huwa) bil aakhir Allah Ta'ala ne farmaya ke woh namaazen paanch hain aur dar haqeeqat (sawaab ke lehaaz se) 50 hain mere haan faisle badalne ka dastoor nahin main phir Moosa عليه السلام ke paas laut kar aaya to unhon ne kaha apne rab ke paas (mazeed takhfeef ke liye) laut jaao main ne kaha ab mujhe apne maalik se sharm aati hai phir mujhe jibrayeel عليه السلام lekar rawaana hogaye yahaan tak ke Sidratul Muntaha tak pahuncha diya jise kayi tarah ke rangon ne dhaanp rakkha tha. jin ki haqeeqat ka mujhe ilm nahin phir main jannat mein daakhil kiya gaya wahaan kiya dekhta hoon ke uss mein motiyon ki (jagmagaati) ladyaan hain aur

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَأَبُو حَبَّةَ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولَانِ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (ثُمَّ عَرَجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ). قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَيَّ أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلَاةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ رَاجِعْ رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ، فَارْجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَارْجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، فَارْجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وَهِيَ خَمْسُونَ، لَا يَبْدُلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، فَارْجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: ارْجِعْ رَبِّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي، حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَعَشِيهَا، أَلُوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَائِلُ اللَّوْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ). (رواه البخارى: ٣٣٩)

uski mitti kastoori hai. (Bukhari:349)

Fawaaid: Salf-e-Ummat ka iss par ittefaaq hai ke Rasoolullah ﷺ ko me'raaj aalam-e-bedaari mein badan aur rooh har do ke saath huwa aur iss moqe par namaazen farz huyin neez 9 baar apne rab ke huzoor aamad-o-raft se 50 namaazon mein se 5 rah gayin chunke qur'ani zaabtah ke mutaabiq ek neki ka ajr 10 guna hai isliye paanch namaazen adaa karne se pachaas hi ka sawab likkha jaata hai. (Awnul-Bari:1/480) (At-tayammum:345,346)

229 :Hazrat Ummul Mo'mineen Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke Allah Ta'ala ne jab namaaz farz ki thi to hazar wa safar mein (har namaaz ki) do do rakaten farz ki thin phir namaaz-e-safar apni haalat mein qaayim rakkhi gayi aur hazar ki namaaz mein ezaafah kiya gaya. (Bukhari: 350)

٢٢٩ : عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأَقْرَبْتُ صَلَاةَ السَّفَرِ، وَزَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.
(رواه البخارى: ٣٥٠)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke dauraan-e-safar namaaz-e-qasr karna a'zeemat ke baab se hai ise rukhsat par mahmool karna sahih nahin. (Awnul-Bari:1/483)

Baab 2: Namaaz ke liye libaas ki farziyat

230 : Hazrat Umar bin Abi Salmah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne ek daf'a ek hi kapde mein namaaz padhi lekin uske donon kinaaron ko ulat kar (apne kandhon par) daal liya tha. (Bukhari: 354)

٢٣٠ : عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
(رواه البخارى: ٣٥٣)

Fawaaid: Imam Bukhari iss hadees ko agle baab mein laaye hain neez mukhaalifat, iltehaaf, tausheeh aur ishtamaal in tamaam ka ek hi mafhoom hai ke kapde ka woh kinarah jo daayen kandhe par hai use baayen baghal se aur jo baayen kandhe par hai use daayen baghal se nikaal kar donon kinaaron ko seena par baandh liya jaaye iska faayidah yeh hai ke ruku' aur sajdah ke waqt kapda jism se girne na paaye neez ruku ke waqt namaazi ki nazar sharamgaah par na pade. (Awnul-Bari:1/485)

Baab 3: ek hi kapde ko lapet kar uss mein namaaz padhna

231 :Hazrat Umme Haani binte abi Taalib رضي الله عنها ki woh hadees jis mein fath-e-Makkah ke din Rasoolullah ﷺ ki namaaz ka bayaan hai. (No.199) guzar chuki hai. (Bukhari: 353)

٢٣١ : عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: حَدِيثُ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ تَقَدَّمَ.
(رواه البخارى: ٣٥٣)

232 :Hazrat Umme Haani ki iss rivaayat mein yeh ezaafah hai ke unhon ne farmaya: Rasoolullah ﷺ ne ek hi kapda apne gird lapet kar aathh rak'at namaaz padhi jab Aap

٢٣٢ : وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَتْ: فَصَلَّى ثَمَانِي رَكَعَاتٍ، مُلتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا

(namaaz se) faarigh huye to main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! mere maadar zaad (Ali Murtaza ؑ) ek aadmi Habeerah ke fulan bete ko qatl karne ka iraadah rakhte hain-halaanke main ne use panaah di huyi hai to Rasoolullah ﷺ ne farmaya Aye Umme Haani رضي الله عنها! jise tum ne panaah di use humne bhi panaah di Hazrat Umme Haani رضي الله عنها farmati hain ke yeh chaasht ki namaaz thi.

(Bukhari: 357)

233 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai ke ek saathi ne Rasoolullah ﷺ se ek kapde mein namaaz padhne ka hukm poochha to Rasoolullah ﷺ ne farmaya kiya tum mein se har ek ke paas do kapde hote hain? (Bukhari: 358)

Baab 4: Jab koyi ek hi kapde mein namaaz padhe to apne kandhon par kuchh (kapda) daal le

234 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya tum mein se koyi ek kapde mein namaaz na padhe jabke uske kandhe par koyi cheez na ho ya'ni shaane nange hon.

(Bukhari: 359)

Fawaaid:Yeh iss soorat mein hai jab kapda iss qadar wasee' ho ke satr poshi ke b'ad uss se kandhe bhi dhaanp liye jaayen iske bar a'ks agar kapda itna tang ho ke kandhon ko chhupaane ke b'ad satr khulne ka andesha ho to aisi haalat mein satr poshi ke b'ad kandhon ko khula rakhte huye namaaz padh lena bil ittefaaq jaayiz hai. (Awnul-Bari:1/489)

235 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi doosri rivaayat hai unhon ne farmaya main gawaahi deta hoon ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate suna hai jo shakhs ek kapde mein namaaz padhe use chaahiye ke uske donon kinaaron ko ulat le.(Bukhari:360)

Baab 5: Jab kapda tang ho (to uss mein kaise namaaz padhe?)

236 : Hazrat Jaabir ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main Rasoolullah ﷺ ke

رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا قَدْ أَجْرْتُهُ، فَلَانَ بِنَ هُمَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجْرْتَ يَا أُمَّ هَانِيَةَ). قَالَتْ أُمُّ هَانِيَةَ: وَذَاكَ ضَحَى.

(رواه البخارى: ٣٥٧)

٢٣٣: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَوْلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ).

(رواه البخارى: ٣٥٨)

٣- بَابُ: إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ

الْوَّاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقِيهِ

٢٣٤: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ

النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي

الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِيهِ

شَيْءٌ). (رواه البخارى: ٣٥٩)

٢٣٥: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ: (مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ،

فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ).

(رواه البخارى: ٣٦٠)

٥- بَابُ: إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

٢٣٦: عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

hamraah ek safar mein tha raat ko kisi zaroori kaam ke liye (Aap ke paas) aaya to dekha ke Aap namaaz padh rahe hain (uss waqt) mere upar ek hi kapda tha main ne use apne badan mein lapeta aur Aap ke pahu mein khade ho kar namaaz padhne laga. jab Aap faarigh huye to farmaya' Aye Jaabir! Raat ke waqt kaise aaya? main ne apni zaroorat bataayi jab main apne kaam se faarigh huwa to Aap ne farmaya yeh kapda lapetna kaisa tha jo main ne dekha hai? main ne arz kiya mere paas ek hi kapda tha Aap ne farmaya agar kushaadah ho to use lapet le aur agar tang ho to sirf tahband banaale.

(Bukhari: 361)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein hai ke kapda intehaayi tang tha aur Hazrat Jaabir se pahan kar isliye aage ko jhuke huye the ke mabaadan satar khul jaaye Rasoolullah ﷺ ne jab unhen iss haalat dekha to farmaya ke kinaaron ko ulat kar pahanna uss waqt jab kapda kushaadah ho, tang hone ki soorat mein use tahband ke taur par pahanna hi kaafi hai. (Awnul-Bari:1/491)

237: Hazrat Sahal bin Sa'd S'adi ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke log Rasoolullah ﷺ ke saath apni chaadaren bachchon ki tarah gardanon par baandhe namaaz padhte the aur auraton ko hidaayat ki haati ke jab tak mard seedhe ho kar baithh na jaayein to apne sar sajdah se na uthaayein. (Bukhari: 362)

Fawaaid: Yeh ehtemaam isliye kiya jaata tha ke auraton ki nazar mardon ke satar par na pade. (Awnul-Bari:1/492)

Baab 6: Shaami jubbah mein namaaz padhna

238: Hazrat Mugheerah bin Sh'obah ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ek dafa' Rasoolullah ﷺ ke hamraah kisi safar mein tha. aap ne farmaya Aye Mugheerah! ؓ Paani ka bartan uthhalo main ne uathhaliya to phir aap chale gaye hatta ke meri nazron se ojhal hogaye aap ne apni haajat ko poora kiya uss waqt aap shaami jubbah pahne huye the, aap ne uski aasteen

خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ
أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي،
فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وَعَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ،
فَاشْتَمَلْتُ بِهِ، وَصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (مَا السَّرَى يَا
جَابِرُ؟). فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا
فَرَعْتُ قَالَ: (مَا هَذَا الْاِشْتِمَالُ الَّذِي
رَأَيْتُ) قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ، قَالَ: (فَإِنْ
كَانَ وَاسِعًا فَالتَّحِفُ بِهِ، وَإِنْ كَانَ
ضَيْقًا فَانْزِرْ بِهِ). (رواه البخارى: ٣٦١)

٢٣٧: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ سَعْدِي ؓ
كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ
عَاقِدِي أَرْزِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ
الصَّبِيَّانِ، وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: (لَا تَرْفَعْنَ
رُؤُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرَّجَالُ
جُلُوسًا). (رواه البخارى: ٣٦٢)

٦- بَابُ: الصَّلَاةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

٢٣٨: عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي
سَفَرٍ، فَقَالَ: (يَا مُغِيرَةُ، خُذِ الْاِدَاوَةَ).
فَأَخَذْتُهَا، فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ،
وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ، فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ

se haath nikaalna chaaha chunke woh tang tha isliye aap ne apna haath uske neeche se nikaala phir main ne aapke a'zaa shareefah par paani daala aap ne namaaz ke liye wazoo farmaya aur apne moozon par masah kiya phir namaaz padhi.(Bukhari:363)

Fawaaid:Shaam mein un dinon kuffaar ki hukoomat thi maqsad yeh hai ke kaafiron ke tayyaar kardah kapdon mein namaaz padhna dursut hai bashar te iss baat ka yaqeen ho ke yeh najaasat aalood nahin hain. (Awnul-Bari:1/493)

Baab 7:Namaaz mein barhanah hone ki mumaani'at

239:Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai woh bayaan karte hain ke Rasoolullah ﷺ Quraish ke hamraah ka'ba ki t'ameer ke liye patthar uthhate the aap ne sirf tahband baandha huwa tha aap ke chacha hazrat Abbas رضي الله عنه ne kaha Aye mere bhateej! tum apna tahband utaar kar use apne shaanon par patthar se bachaao ke liye rakh lo (taake tumhen aa saani rahe) Hazrat Jaabir رضي الله عنه kahte hain ke aap ne apna tahband utaar kar apne kandhon par rakh liya to aap usi waqt be hosh ho kar gir pade uske ba'd aap kabhi barhana nahin dekhe gaye. (Bukhari:364)

مِنْ كُمِّهَا فَصَاقَتْ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا، فَصَبَّتْ عَلَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ هُ لِلصَّلَاةِ، وَمَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ، ثُمَّ صَلَّى. (رواه البخارى: ٣٦٣)

٤- بَابُ: كَرَاهِيَةِ التَّعَرَّى فِي الصَّلَاةِ
٢٣٩: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ، وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ: يَا ابْنَ أَخِي، لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ، فَجَعَلْتَهُ عَلَى مَنْكَبِيكَ دُونَ الْحِجَارَةِ، قَالَ: فَحَلَلْتُهُ فَجَعَلْتُهُ عَلَى مَنْكَبِي، فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، فَمَا رَأَيْتُ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا عَلَيْهِ. ﷺ

(رواه البخارى: ٣٦٣)

Fawaaid:Doosri rivaayat mein hai ke phir ek farishta utra usne dobaraah aap ke tahband baandh diya isse yeh bhi maloom huwa ke aap be'sat se pahle bhi bure kaamon aur be sharmi ki baaton se mahfooz the. (Awnul-Bari:1/493) **Note:**Jab aam haalat mein barhangi durust nahin hai, to namaaz nange kaise padhi jaa sakti hai?. (Alvi.)

Baab 8:Jism mein qaabil-e-satar hisse

240:Hazrat Abu Sy'eed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya Rasoolullah ﷺ ne sakht bukl se mana farmaya neez aap ne gothh maar kar ek kapde mein baithhne se bhi roka jab ke uski sharmgaah par kuchh na ho. (Bukhari:367)

٨-بَابُ: مَا يُسْتَرُ مِنَ الْعَوْرَةِ
٢٤٠: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي تَوْبٍ وَاحِدٍ، لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. (رواه البخارى: ٣٦٤)

Fawaaid:Sakht bukl yeh hai ke kapda iss tarah lapet liya jaaye ke haath waghairah band ho jaayen aur gothh maar kar baithhna yeh hai ke donon sureen zameen par rakh kar apni pindilyan khadi karke baithhna yeh iss liye mana hai ke iss mein satar kholne ka andesha hai.

241: Hazrat Aabu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne do qism ki khareed wa farokht se mana' farmaya ek chhoone se aur doosri jo mahaz phenkne se phukta ho jaaye neez istemaal sammaa aur ek kapde mein gothh maar kar baithhne se bhi mana farmaya. (Bukhari:368)

242: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne kaha ke mujhe Abu Bakr Siddeeq رضي الله عنه ne hajj mein qurbaani ke din munaadi karne waalon ke saath rawaanah kiya taake hum Mina mein yeh e'laan karen ke iss saal ke b'ad koyi mushrik hajj na kare aur koyi shakhs barhana ho kar k'aba ka tawaaf na kare phir Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne Hazrat Ali رضي الله عنه ko yeh hukm de kar bheja ke woh soorah bara'at ka elaan karden (jis mein mushrikeen se e'laan-e-laa ta'alluqi hai) Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه ka bayaan hai ke Hazrat Ali رضي الله عنه ne qurbaani ke din hamaare saath Mina ke logon mein yeh e'laan kiya ke aaj ke b'ad na to koyi mushrik hajj kare aur na hi koyi barhana ho kar Baitullah ka tawaaf kare. (Bukhari:369)

Fawaaid: Jab dauraan-e-tawaaf satar aurat zaroori hai to namaaz mein batareeq oola waajib hoga.

Baab 9: Raan ke baare mein kiya aaya hai?

243: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke jab Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne khaibar ka rukh kiya to hum ne namaaz-e-fajr khaibar ke nazdeek awwal waqt ada ki phir Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم aur Hazrat Abu Talha رضي الله عنه sawaar huye main Hazrat Abu Talha رضي الله عنه ke pechhe sawaar tha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne khaibar ki galiyon mein apni sawaari ko yedi lagaayi (daudte waqt) mera ghutna Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki raan mubaarak se chhoo jaata tha phir Aap ne apni raan se chaadar hataadi yahaan tak ke mujhe raan mubaarak ki safedi nazar aane

۲۴۱: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَتَيْنِ: عَنْ اللَّيْمِ وَالنَّبَاذِ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. (رواه البخارى: ۳۶۸)

۲۴۲: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ، فِي مُؤَدِّينَ يَوْمَ النَّحْرِ، تُؤَدِّنُ بَيْنِي: أَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرَبِيًّا. ثُمَّ أُرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَدِّنَ «بَرَاءَةَ»، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذِنَ مَعَنَا عَلَى فِي أَهْلِ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَذِنَ مَعَنَا عَلَى فِي أَهْلِ مِنَى يَوْمَ النَّحْرِ: لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَرَبِيًّا. (رواه البخارى: ۳۶۹)

۹- بَابُ مَا يُذَكَّرُ فِي الْفَخْدِ

۲۴۳: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ، فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةَ الْعَدَاةِ بَعْلَسَ، فَرَكِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَا رَدِيفُ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَجْرَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ فِي زُقَاقِ خَيْبَرَ، وَإِنْ رُكِبْتِي لَتَمَسُّ فَخْدَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْإِرْزَارَ عَنْ فَخْدِهِ، حَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى

lagi aur jab Aap basti ke andar daakhil ho gaye to Aap ne teen daf'a yeh kalimaat farmaaye.

Allahu Akbar khaibar wiraan huwa so jab hum kisi qaum ke aangan mein padaau karte hain to un logon ki subah badi haulnaak hoti hai jo qabl azeen mutanabbah kiye gaye hon.

Hazrat Anas رضي الله عنه kahte hain basti ke log apne kaam kaaj ke liye nikle to kahne lage yeh Muhammad ﷺ aur unka lashkar aa pahuncha Hazrat Anas رضي الله عنه kahte hain ke hum ne khaibar ko bazore shamsheer fatah kiya phir qaidi jama' kiye gaye to Hazrate Dahyah رضي الله عنه aaye aur arz kiya ya Rasoolallah ﷺ mujhe in qaidiyon mein se ek laundi ataa farmaayen Aap ne farmaya jao koyi laundi lelo unhon ne Safiyah binte Huy رضي الله عنها ko le liya phir ek shakhs Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein haazir ho kar, arz karne laga ya Rasoolallah ﷺ! Aap ne Qabeela Quraizah aur Nazeer ki sardaar Safiyah binte Huy رضي الله عنها Hazrate Dahya رضي الله عنه ko dedi hai halaanke Aap ke elaawah koyi uske munaasib nahin hai Aap ne farmaya achchha Dahya رضي الله عنه ko bolao chunaancheh woh Safiyah رضي الله عنها samet aapki khidmat mein haazir huye Rasoolallah ﷺ ne jab Safiyah رضي الله عنها ko dekha Dahya se farmaya tum iske elaawah qaidiyon mein se koyi aur laundi le lo Hazrat Aanas رضي الله عنه kahte hain ke phir Rasoolullah ﷺ ne Safiyah رضي الله عنها ko aazaad kardiya aur uski aazaadi ko haqq-e-mahar qaraar de kar us se nikah karliya jab rawaanah huye to Hazrat Umme Sulaim رضي الله عنها ne Safiyah رضي الله عنها ko Aap ke liye aaraasta karke raat ko Aap ke paas bheja aur subah ko Rasoolullah ﷺ ne bahaisiyate dulha farmaya jiske paas jo kuchh hai woh yahaan le aaye aur Aap ne chamde ka ek dastarkhaan bichhadiya to koyi khujooren laaya aur koyi ghi laaya aur raaviy-e-hadees

يَا ض فَخِذْ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ: (اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرَبْتُ خَيْرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ) قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: وَخَرَجَ الْقَوْمُ إِلَى أَعْمَالِهِمْ، فَقَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيسُ - يَعْنِي الْجَيْشُ - قَالَ: فَأَصْبَنَاهَا عَوْنَةً، فَجُمِعَ السَّبِيُّ، فَجَاءَ دِحْيَةَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أُعْطِنِي جَارِيَةً مِنَ السَّبِيِّ قَالَ: (أَذْهَبُ فَخُذُ جَارِيَةً) فَأَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُبَيْبٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أُعْطِيتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتُ حُبَيْبٍ، سَيِّدَةَ قَرِيظَةَ وَالنَّضِيرِ، لَا تَصْلُحُ إِلَّا لَكَ، قَالَ: (أَدْعُوهُ بِهَا). فَجَاءَ بِهَا، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبِيِّ غَيْرَهَا). قَالَ: فَأَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا. وَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِنَقَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ، جَهَزْتَهَا لَهُ أُمُّ سَلِيمٍ، فَأَهْدَتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوسًا، فَقَالَ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيَجِئْ بِهِ) وَبَسَطَ نِطْعًا، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمَنِ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيقَ، قَالَ: فَحَاسُوا حَيْسًا، فَكَانَتْ وَلِيمَةً رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(رواه البخارى: ٣٢١)

kahte hain ke mera khayaal hai ke Hazrat Anas ؓ ne sattu ka bhi zikr kiya phir unhon ne maleeda tayyaar kiya aur yahi Rasoolullah ﷺ ki da'wate waalema thi. (Bukhari: 371)

Fawaaid: Imam Bukhari ka moqif hai ke raan qaabil-e-satar hissa nahin jaisa ke hadees se maloom hota hai taa hum ehtiyaat isi mein hai ke ise chhupaya jaaye.

Baab 10: Aurat kitne kapdon mein namaaz padhe?

244: Hazrat Aayeshah رضى الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ subah ki namaaz padhte to Aap ke hamraah kuchh musalmaan khawaateen apni chaadaron mein lipti huyi haazir hoti thin b'ad mein apne gharon ko aise laut jaatin ke andhere ki wajah se unhen koyi na pahchaan sakta tha. (Bukhari: 372)

Fawaaid: Isse maloom huwa ke agar aurat ek hi kapde mein tamaam jism chhupa le to namaaz durust hai

Baab 11: Jab koyi monaqqash kapde mein namaaz padhe.

245: Hazrat Aayeshah رضى الله عنها se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne ek da'fa monaqqash chaadar mein namaaz padhi Aap ki nazar uski nuqoosh par padi to Aap ne namaaz se faarigh ho kar farmaya meri iss chaadar ko Abu Jaham ؓ ke paas waapas le jao aur usse iski anbaajaani saadah chaadar le aao kyun ke iss (monaqqash chaadar) ne mujhe abhi apni namaaz se ghaafil kar diya tha. (Bukhari: 373)

Fawaaid: Maloom huwa ke jo ashya bhi khusya' mein khalal andaaz hon namaazi ko un se ijtenaab karna chaahiye monaqqash jaaye namaaz ka bhi yahi hukm hai.

Baab 12: Agar saleeb ya tasweer bane kapde mein namaaz padhe to kiya faasid ho jaayegi?

246: Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Hazrat Aayeshah رضى الله عنها ke paas ek pardah tha jise unhon ne ghar ke goshah mein daal rakkha tha Rasoolullah ﷺ

۱۰- بَابُ: فِي كَيْفِ تَصَلِّيِ الْمَرْأَةِ

مِنَ الثِّيَابِ

۲۴۴: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَيَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، مُتَلَفِّعَاتٍ فِي مِرْوِطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ، مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ.

(رواه البخارى: ۳۸۲)

۱۱- بَابُ: إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ لَهُ أَعْلَامٌ

۲۴۵: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَى أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (أَذْهَبُوا بِخَمِيصِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَأَتُونِي بِأَنْبَجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آتِفًا عَنْ صَلَاتِي). (رواه البخارى: ۳۷۳)

۱۲- بَابُ إِنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ مُصَلَّبٍ أَوْ تَصَاوِيرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلَاتُهُ؟

۲۴۶: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ، سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمِيطِي عَنَّا

ne (use dekh kar) farmaya hamaare saamne se apna yeh pardah hataado kyun ke iski tasweeren musalsal meri namaaz mein saamne aati rahti hain. (Bukhari: 374)

Fawaaid: Agarcheh hadees mein saleeb ka zikr nahin hai mager tasweer ke hukm mein daakhil hai jab aise kapde ka latkana mana hai to pahanna batareeq oola mana hoga shaayad Imam Bukhari ne iss hadees ki taraf ishaarah kiya hai ke Rasoolullah ﷺ ghar mein koyi cheez na chhodte jis par saleeb bani hoti thi use tod daalte the.

Baab 13: Reshmi kot mein namaaz padhna aur phir use utaar dena

247 : Hazrat U'qbah bin Aamir ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein ek reshmi kot bataure hadiyah laya gaya Aap ne use zeb tan farma kar namaaz padhi magar jab namaaz se faarigh huye to use sakhti se utaar phenka goya Aap ko woh sakht nagawaar guzra neez Aap ne farmaya ke taqwa she'aar logon ke liye ghair munaasib hai. (Bukhari: 375)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein hai ke mujhe hazrat Jibrayel ne yeh reshmi kot pahanne se rok diya tha mumkin hai ke aap ne ise reshmi libaas ki hurmat se pahle pahna ho.

Baab 14: Surkh kapde mein namaaz padhna

248: Hazrat Abu Juhaifa ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko chamde ke surkh kheeme mein dekha aur main ne (yeh bhi bachashm-e-khud) molaahiza kiya ke jab Hazrat Bilaal ؓ Aap ke wazoo se bacha huwa paani laate to log use dast badast lene lagte jisko us mein kuchh mil jaata woh use apne chehre par mal leta aur jise kuchh na milta woh apne paas waale ke haath se tari le leta phir main ne Hazrat Bilaal ؓ ko dekha ke unhon ne ek chhota nezah uthha kar gaad diya aur Rasoolullah ﷺ ek surkh joda zeb tan kiye daaman uthhaaye bar aamad huye aur chhote neze ki taraf rukh karke logon ko do rak'at namaaz padhaayi main ne dekha ke log aur

قِرَامِكْ هَذَا، فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِرُهُ
تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي).

(رواه البخارى: ٣٤٢)

١٣ - مَنْ صَلَّى فِي فُرُوجِ حَرِيرٍ ثُمَّ
نَزَعَهُ

٢٣٤ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: أَهْدَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فُرُوجَ
حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ،
فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا، كَأَنَّكَارَهُ لَهُ،
وَقَالَ: (لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَّقِينَ)

(رواه البخارى: ٣٤٥)

١٤ - بَابُ: الصَّلَاةِ فِي الثُّوبِ

الْأَحْمَرِ

٢٣٨ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي قُبَّةِ
حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ
يَتَدَرُونَ ذَلِكَ الْوُضُوءَ، فَمَنْ أَصَابَ
مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ مِنْهُ، وَمَنْ لَمْ يَصِبْ مِنْهُ
شَيْئًا أَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ، ثُمَّ
رَأَيْتُ بِلَالًا أَخَذَ عَنزَةً فَرَكَّزَهَا،
وَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حُلَّةِ حَمْرَاءَ
مُشَمَّرًا، صَلَّى إِلَى الْعَنزَةِ بِالنَّاسِ
رَكَعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالِدَوَابَّ،
يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْ الْعَنزَةِ.

jaanwar namaaz ke aage se guzar rahe the.

(Bukhari: 376)

(رواه البخارى: ٣٧٦)

Fawaaid: Imam Ibne Qayyim ne likkha hai ke aap ka yeh joda surkh na tha balke iss mein siyaah dhaariyan thin isse mardon ko surkh libaas pahanne ka jawaaz milta hai bashar teke auraton aur kuffaar se mushaabihat aur shohrat ki hawas na ho. (Awnul-Bari:1/508)

Baab 15: Chhat mimbar aur lakdi par namaaz padhna

249 : Hazrat Sahal bin S'ad ؓ se rivaayat hai unse poochha gaya ke mimbar kis cheez ka tha? woh bole ke ab logon mein iske muta'alliq jaanne waala mujh se ziyaadah koyi nahin hai woh maqaam ghaabah ke jhaau se bana tha jise Rasoolullah ﷺ ke liye fulaan aurat ke fulaan ghulaam ne tayyaar kiya tha jab woh tayyaar ho chuka aur (Masjid mein) rakkha gaya to Rasoolullah ﷺ uss par khade huye aur qiblah roo hokar takbeer kahi aur log bhi aapke peechhe khade huye aur Aap ne qira'at farmaayi aur rukoo' kiya aur logon ne bhi Aap ke peechhe rukoo' kiya. phir Aap ne apna sar uthaya aur peechhe hatt kar zameen par sajdah kiya (donon sajde ada karne ke ba'd) phir mimbar par laut aaye, aur qira'at ki aur rukoo' farmaya phir Aap ne (rukoo') se sar uthaya aur peechhe hate hatta ke zameen par sajdah kiya mimbar-e-nabwi ka yahi qissa hai. (Bukhari: 277)

Fawaaid: Maloom huwa ke Imam Muqtadiyon se ouchi jagah par khada ho sakta hai jaisa ke Imam bukhari ne khud iss hadees ke aakhir mein saraahat ki hai nawaab Siddeeq Hasan Khan ne iss mauzu' par ek mustaqil resaalah taleef kiya hia. (Awnul-Bari:1/508)

Baab 16: Chataayi par namaaz padhne ka bayaan

250 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai ke unki daadi Mulaika رضي الله عنها ne Rasoolullah ﷺ ko khaane ke liye da'wat di jo unhon ne Aap ke liye tayyaar kiya tha Aap ne usse kuchh tanaawul farmaya phir farmaane lage ke khade ho jao main tumhen namaaz padhaaoun Hazrat Anas ؓ kahte hain ke

١٥ - بَابُ: الصَّلَاةِ فِي السُّطُوحِ

وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

٢٣٩: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَقَدْ سُئِلَ: مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ؟ فَقَالَ: مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمَ مِنِّي، هُوَ مِنْ أَثْلِ الْعَابَةِ، عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى فُلَانَةٍ، لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ عَمِلَ وَوَضِعَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَكَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى، فَسَجَدَ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ، فَهَذَا شَأْنُهُ.

(رواه البخارى: ٣٧٤)

١٦ - بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى حَصِيرٍ

٢٥٠: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِبَطْنِهَا صَنَعْتُهُ لَهَا، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: (فَوُومُوا فَلِأَصْلِي لَكُمْ). قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا، قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا

main ne ek chataayi ko uthhaya jo kasrat-iste'maal se siyah ho gayi thi main ne use paani se dhoya phir Rasoolullah ﷺ us par khade ho gaye main ne aur ek yateem ladke ne Aap ke peechhe saff banaayi aur budhiya hamaare peechhe khadi huyi to Rasoolullah ﷺ ne hamen do rak'at namaaz padhaayi faraaghat ke ba'd Aap waapas tashreef le gaye. (Bukhari: 380)

Fawaaid: Maloom huwa ke dauraan-e-jama'at aurat akeli khadi ho sakti hai jab ke mardon ke liya aisa karna kisi soorat mein jaayez nahin hai (Awnul-Bari:1/514)

Babb 17: Bistar par namaaz padhna

251: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها Rasoolullah ﷺ ki zaujah mohtarmah se rivaayat hai ke unhon ne farmaya, main Rasoolullah ﷺ ke saamne soyi huyi thi aur mere donon paaun aap ke munh ki taraf hote jab aap sajdah karte to mujhe daba dete aur main apna paaun samet leti aur jab aap khade ho jaate to phir unhein phaila deti Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmati hain ke un dinon gharon mein chiragh nahin hote the. (Bukhari:382)

Fawaaid: Imam Bukhari ne un logon ka rad kiya hai jo mitti ke siwa digar cheezon par sajdah jaayez nahin samajhte neez yeh bhi maloom huwa ke aurat ko haath lagaane se wazoo nahin toot ta. (Awnul- Bari:1/515)

252: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ apne ghar ke bistar par namaaz padhte aur woh khud aap ke aur qiblah ke darmiyaan janaaze ki tarah leti hoti thin. (Bukhari:383)

Fawaaid: Iss hadees se wazaahat ho gayi ke aap ne bistar par namaaz padhi thi kyun ke pahli hadees mein iski saraahat na thi agarcheh Ummul M'omineen رضي الله عنها ke aage letne mein ishaarah maujood hai ke aap sone ke bistar par namaaz padh rahe the, neez yeh bhi maloom huwa ke soye huye aadmi ki taraf namaaz padhna makrooh nahin hai.

Baab 18: Sahkt garmi mein kapde par sajdah karna

253: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke saath namaaz padha karte the to hum mein

لُبْسٍ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعُجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ.
(رواه البخارى: ٣٨٠)

١٤ - بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى الْفِرَاشِ
٢٥١: عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَايَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ عَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا، قَالَتْ: وَالْبَيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ.
(رواه البخارى: ٣٨٢)

٢٥٢: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي، وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ، اغْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ. (رواه البخارى: ٣٨٣)

١٨ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى التُّرَابِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
٢٥٣: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ،

se koyi sakht garmi ki wajah se sajdah ki jagah apne kapde ka kinaarah bichhadeta tha. (Bukhari:385)

فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ، مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

(رواه البخارى: ٣٨٥)

Fawaaid: Maloom huwa ke dauraan-e-namaaz amal-e-qaleel se namaaz faasid nahin hoti.

Baab 19: Jooton samet namaaz padhna

254: Hazrat Anas ؓ se hi rivaayat hai un se poochha gaya ke kiya Rasoolullah ﷺ jooton samet namaaz padhlete the? unhon ne jawaab diya haan! (Bukhari:386)

١٩- بَابُ: الصَّلَاةِ فِي النَّعَالِ

٢٠٣: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ:

أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ؟

قَالَ: نَعَمْ. (رواه البخارى: ٣٨٦)

Fawaaid: Maloom huwa ke jooton samet namaaz padhne mein koyi harj nahin hai bashar teke woh najaasat aalood na hon waazeh rahe ke iss qisme ke jooto zameen par ragadne se paak ho jaate hain khaah najaasat kisi qism ki ho.

Baab 20: Mooze pahan kar namaaz padhna

255: Hazrat Jareer bin Abdullah ؓ se rivaayat hai ke unhon ne ek dafa peshaab kiya phir wazoo kiya to apne moozon par masah kiya us ke b'ad khade ho kar (moozon samet) namaaz adaa ki un se iski baabat poochha gaya to unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko aisa karte dekha hai. logon ke yeh hadees bahut pasand thi kyun ke Hazrat Jareer bin Abdullah ؓ aakhir mein islam laaye the. (Bukhari:387)

٢٠- بَابُ: الصَّلَاةِ فِي الْخِفَافِ

٢٥٥: عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ

عَلَى خَفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى، فَسُئِلَ

فَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ

هَذَا. فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ، لِأَنَّ جَرِيرًا كَانَ

مِنْ آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ.

(رواه البخارى: ٣٨٧)

Fawaaid: Hazrat Jareer ؓ ke amal se wazaahat ho gayi ke surah maayidah mein wazoo ke waqt paaun dhone ka jo zikr hai isse moozon par masah karne ka amal mansookh nahin huwa balke yeh hukm aakhir waqt tak baaqi raha. (Awnul-Bari:1/519)

Baab 21: Dauraan-e-Sajdah Donon baazu kushaadah aur pahu se door rakhna

256: Hazrat Abdullah bin Maalik ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ jab namaaz padhte to apne donon pahu ke darmiyaan kushaadgi rakhte yahaan tak ke aap ki baghlon ki safed nomaayan ho jaati.

(Bukhari:390)

٢١- بَابُ: يُبْدِي ضَبْعَيْهِ وَيَجَافِي

السُّجُودِ

٢٥٦: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ

بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ:

كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى

يَبْدُو بَيَاضَ إِبْطَيْهِ.

(رواه البخارى: ٣٩٠)

Fawaaid: Auraton ke liye bhi usi anadaaz se sajdah karne ka hukm hai jin rivaayat mein auraton ke liye apna wajood samet ne ka zikr hai woh sahih nahin hain.

Baab 22:(Namaaz mein) Qiblah ru khade hone ki fazeelat

257: Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo hamaari namaaz ki tarah namaaz padhe aur hamaare qiblah ki taraf munh kare aur hamaara zabiha khaaye to woh aisa Musalmaan hai jise Allah aur uske Rasool ﷺ ki panaah haasil hai. (Bukhari: 391)

Fawaaid: Dauraan-e-namaaz qible ki taraf munh karna zaroori hai albattah uzr yaa khauf ki haalat mein iski farziyyat saaqit ho jaati hai isi tarah nafli namaaz mein bhi iske muta'alliq kuchh takhfeef hai jab ke sawaari par adaa ki jaa rahi hai ho. (Awnul- Bari:1/522)

Baab 23: Farmaan-e-ilaahi: "Maqaam-e-Ibraheem ko jaaye namaaz banaao"

258: Hazrat Ibn-e-Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unse ek shakhs ke muta'alliq sawaal kiya gaya jis ne Baitullah ka tawaaf kiya aur Safa wa Marwah ke darmiyaan Say'i nahin ki to kiya woh apni biwi ke paas aa sakta hai? unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ek dafa (Madinah se) tashreef laaye saat martabah Baitullah ka tawaaf kiya aur maqaam-e-Ibraheem ke peechhe do rak'at namaaz padhi phir aap ne Safa aur Marwah ke darmiyaan sa'yi farmayi yaqeenan Rasoolullah (ki seerat) mein tumhaare liye behtareen namoona hai. (Bukhari:395)

259: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah ﷺ ka'ba mein daakhil huye to aap ne uske sab goshon mein du'a farmayi baahar nikalne tak koyi namaaz nahin padhi jab aap ka'ba se baahar tashreef laaye to uske saamne do rak'at padh kar farmaya yahi qiblah hai.

(Bukhari:398)

Fawaaid: Sahih aur M'otabar baat yeh hai ke Rasoolullah ﷺ ne baitullah ke andar namaaz adaa ki thi jaisa ke hazrat Bilaal رضي الله عنه ka bayaan hai. (Awnul- Bari:1/524)

۲۲- بَابُ: فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
۲۵۷: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبَلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَيْبِحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ، الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفَرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ). (رواه البخاری: ۳۹۱)

۲۳- بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾
۲۵۸: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ لِلْعُمْرَةِ، وَلَمْ يَطْفِ بِبَيْنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَّتِي أَمْرَأَتُهُ؟ فَقَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
(رواه البخاری: ۳۹۵)

۲۵۹: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ، دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى حَرَجَ مِنْهُ، فَلَمَّا حَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قِبَلِ الْكُعْبَةِ، وَقَالَ: (هَذِهِ الْقِبْلَةُ). (رواه البخاری: ۳۹۸)

**Baab 24:Aadmi jahaan kaheen ho
(namaaz ke liye) qiblah ki taraf rukh kare.**

260:Hazrat bara' bin A'azib رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne 16 ya 17 meheene Baitul Muqaddas ki taraf munh karke namaaz padhi (phir Bitullah ki taraf munh karke namaaz padhne ka hukm naazil huwa) yeh hadees (raqam 38) pahle guzar chuki hai lekin donon ke alfaaz mein farq hai isliye phir darj ki gayi hai.

(Bukhari:399)

361:Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم apni sawaari par nafil padhte rahte woh jidhar munh karti aapko le jaati lekin jab farz namaaz padhne ka iraadah farmate to utar kar qiblah ki taraf munh karte aur namaaz padhte. (Bukhari:400)

Fawaaid:Ek rivaayat mein hai ke oountni par nafil namaaz shuru karte waqt aap qiblah ki taraf munh karke takbeer-e-tahreema kaha karte the

262:Hazrat Abdullah bin Masood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne namaaz padhi. Ibraheem yeh hadees Hazrat A'Iqamah se aur woh Ibn-e-Masood se bayaan karte hain ke mujhe maloom nahin ke aap ne namaaz mein kuchh ezaafah kardiya tha ya kami jab aap ne salaam phera to arz kiya gaya ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم kiya namaaz mein koyi naya hukm aa gaya hai? aap ne farmaya ke bataao asal baat kiya hai? logon ne arz kiya ke aap ne itni itni raka'at padhi hain yeh sun kar aap ne apne donon paaun samete aur qiblah ru ho kar do sajde kiye phir salaam phera aur hamen mokhaatib ho kar farmaya agar namaaz mein koyi naya hukm aata to main tumhen zaroor aagaah karta lekin main bhi tumhaari tarah ek insaan hoon jis tarah tum bhool jaate ho main bhi bhool jaata hoon. isliye jab main kabhi bhool ka shikaar ho

۲۴- بَابُ: التَّوَجُّهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ

حَيْثُ كَانَ

۲۶۰: عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا. تَقَدَّمَ وَيَبْتَهُمَا مُخَالَفَةً فِي اللَّفْظِ.

(رواه البخارى: ۳۹۹)

۲۶۱: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ فَرِيضَةً، نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

(رواه البخارى: ۴۰۰)

۲۶۲: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ إِبْرَاهِيمُ الرَّاَوِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ الرَّاَوِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَا أَدْرِي: زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَمَّا سَلَّمَ قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحَدَتْ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ؟ قَالَ: (وَمَا ذَاكَ) قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا، فَحَسِنَى رَجُلِيهِ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ. فَلَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْنَا بَوَجْهِهِ قَالَ: (إِنَّهُ لَوْ حَدَّثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَنَبَأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنَسَى كَمَا تَنْسُونَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ

jaaoun to mujhe yaad dila diya karo aur tum mein se jab koyi apni namaaz mein shak kare to apne zan ghaalib par amal karna chaahiye aur us par apni namaaz poori karke salam pherde uske b'ad do sajde kare.(Bukhari:401)

Fawaaid:Doosri rivaayat mein hai ke aap ne zohar ki chaar rakaat ki bajaaye paanch rakaat padh li thi, zann-e-ghalib par amal karne ka matlab hai ke teen ya chaar ke shak mein teen par buniyaad qaayim karke namaaz mokammal kare yeh bhi saabit huwa ke hazraat-e-Anmbiyaa عليهم السلام se bhool chook mumkin hai.**Note:** Doosri hadees ka ta'alluq iss tarah hai ke aap ne namaaz se faraaghat ke b'ad munh qiblah se pher liya tha aur bataane par naye sire se qiblah ki taraf munh karke namaaz ki takmeel ki.Alvi)

Baab 25: Qiblah ke muta'alliq kiya aaya hai? aur jis shakhs ne ghair qiblah ki taraf sahan namaaz padhli uske liye namaaz ka e'aadah zaroori nahin.

263:Hazrat Umar bin Khatthaab رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mujhe apne parwardigaar se teen baaton mein muwaafiqat ka sharf haasil huwa hai ek martabah main ne kaha ya Rasoolallah ﷺ! kaash ke maqaam-e-Ibraheem hamara mosalla hota to yeh aayat naazil huyi: "Maqaam-e-Ibraheem عليه السلام ko jaaye namaaz banaa lo" aur aayat-e-hijaab bhi isi tarah naazil huyi ke main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! kaash aap apni auraton ko parde ka hukm de den kyun ke un se har nek wa bad guftagu karta hai to aayat- e-hijaab naazil huyi aur (ek dafa aisa huwa ke) Rasoolullah ﷺ ki biwiyon ne baahami rashk wa reqaabat ki wajah se aap ke khilaaf ittefaaq karliya to main ne un se kaha ke bay'eed nahin agar Rasoolullah ﷺ tumhein talaq de den to uss par parwardigaar tum se behter biwiyaan tumhaare badle mein ataa farma de. phir yahi aayat (jo surah tahreem mein hai) naazil huyi. (Bukhari:402)

Fawaaid:Unwaan ke doosre hissa ko hazaf kardena munaasib hai kyun ke maujoodah hadees se iska koyi ta'alluq nahin hai.

Baab 26: Thook ko bazariya' haath Masjid se saaf karna.

أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ
فَلْيَتَمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمِ، ثُمَّ يُسْجُدُ
(رواه البخارى: ٣٠١)

٢٥-بَابُ: مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ
لَمْ يَرِ الْإِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهَا فَصَلَّى
إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ
٢٦٣: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
وَأَفَقْتُ رَبِّي فِي ثَلَاثٍ: فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَوْ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ
إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، فَنَزَلَتْ: ﴿وَاتَّخَذُوا
مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى﴾ وَآيَةُ
الْحِجَابِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ
أَمَرْتَ نِسَاءَ كَأَنْ يَحْتَجِبْنَ، فَإِنَّهُ
يُكَلِّمُهُنَّ الْبُرِّ وَالْفَاجِرُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ
الْحِجَابِ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ
فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُنَّ: ﴿عَسَى
رُبُّهُ إِنْ طَلَّقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ،
أَرْوَاجًا خَيْرًا﴾ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.

(رواه البخارى: ٣٠٢)

٢٦-بَابُ: حَكِّ الْبُرَاقِ بِالْيَدِ مِنَ
الْمَسْجِدِ

264: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne ek dafa qiblah ki jaanib kuchh thook dekha to sakht na gawaar guzra hatta ke uska asar aap ke chehra mubaarak par dekha gaya aap khud khade huye aur apne dast-e-mubaarak se saaf karke farmaay ke tum mein se jab koyi apni namaaz mein khada hota hai to goya woh apne rab se munajaat karta hai aur uska rab uske aur qible ke darmiyaan hota hai lehaazah tum mein se koyi bhi (bahaalat-e-namaaz) apne qible ki taraf na thooke balke baayen jaanib ya apne qadam ke neeche (thook sakta hai) phir aap ne apni chaadar ke ek kinaare mein thooka aur use ulat palat kiya phir aap ne farmaya ke ya iss tarah karle. (Bukhari:405)

٢٦٤: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يَنَاجِي رَبَّهُ، وَإِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قَبْلَ قِبَلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ) ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: (أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا).
(رواه البخارى: ٤٠٥)

Fawaaid: Musnad Imam Ahmed ki rivaayat mein saamne na thookne ki wajah yoon baayn ki gayi hai ke Allah ki rahmat uske saamne hoti hai isse un logon ki tardeed hoti hai jo kahte hain ke Allah har jagah haazir wa naazir hai kyun agar aisa hota to baayen taraf aur paaun tale thookna bhi mana hota tamaam aimma sunnat ka ittefaaq hai ke Allah Ta'ala Arsh-e-Mo'allah par mustawi hai aur har jagah uski may'iyat se muraad uski qudrat aur wasee' ilm hai. (Awnul- Bari:1/532)

Baab 27: Namaazi apni daayen jaanib na thooke

265: Hazrat Abu Hurairah aur Hazrat Abu Sa'yeed رضي الله عنهما se bhi mazkooah baala hadees nukhamah marvi hai magar uss mein yeh alfaaz zaayid hain ke (dauraan-e-namaaz) apni daayein jaanib na thooke. (Bukhari:410)

٢٦٥: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدِيثُ النَّخَامَةِ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ: (وَلَا عَلَى عَنْ يَمِينِهِ).
(رواه البخارى: ٤١٠)

Fawaaid: Ek rivaayat mein daayen jaanib na thookne ki wajah yeh bataayi gayi hai ke iss taraf nekiyaan likhne waala farishta hota hai. (Awnul- Bari:1/534)

Baab 28: Masjid mein thookne ka (kiya) kaffarah (hai)

266: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya Masjid mein thookna gunah hai aur uska kaffarah use dafan kardena hai. (Bukhari:415)

٢٦٦: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْبُرَاقُ فِي الْمَسْجِدِ حَطِئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا).
(رواه البخارى: ٤١٥)

Fawaaid: Agar masjid ke sehan mein mitti waghairah ho to use dafan kardiya jaaye basoorat digar use kapde ya patther se saaf karke baahar phenk diya jaaye. (Awnul- Bari:1/535)

Baab 29: Imam ka logon ko naseehat karna ke namaaz ko (achchhi tarah) poora karen aur qible ka tazkirah

267: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya tum mera munh us taraf samajhte ho, Allah ki qasam! mujh par na tumhara khushu' posheedah aur na tumhaara ruku aur main tumhen apni peethh ke peechhe se bhi dekhta hoon.

(Bukhari:418)

Fawaaid: Yeh aap ka mo'jzah tha ke aap ko peechhe se bhi usi tarah nazar aata tha jaise koyi saamne se dekhta hai.

Baab 30: Masjid bani fulaan kaha jaa sakta hai.

268: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke ek dafa Rasoolullah ﷺ ne tayyaar shudah ghodon ke (moqaablah ke liye) faaslah maqaam Hafyaa se saniyyatul wada' tak aur ghair tayyaar shudah ghodon ki daud saniyyatul wada se Masjid bani zuraiq tak moqarrar ki aur Abdullah bin Umar bhi un logon mein shaamil the jinhon ne ghod daud mein hissah liya. (Bukhari:420)

Fawaaid: Maloom huwa ke masjid fulaan kahne mein koyi harj nahin kyun ke aisa kahne se kis ki zaati milkiyat muraad nahin balke masjid ki shanaakht maqsood hoti hai.

Baab 31: Masjid mein maal taqseem karna aur khosha-e-khujoor latkaana.

269: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ke paas bahrain se kuchh maal laaya gaya to aap ne farmaya ke ise masjid mein dher kardo yeh maal kaafi miqdaar mein tha lekin Rasoolullah ﷺ jab namaaz ke liye masjid mein tashreef laaye to aap ne uski taraf iltefaat bhi nahin kiya jab namaaz se faarigh huye to aakar uske paas baithh gaye phir jis ko dekha use dete chale gaye itne mein Hazrat Abbaas رضي الله عنه aap ke paas aaye aur kaha ya Rasoolallah ﷺ mujhe

٢٦٧- بَابُ: عِظَةُ الْإِمَامِ النَّاسِ فِي
إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ
٢٦٧: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (هَلْ تَرَوْنَ
قِبْلَتِي هُنَا؟ فَوَاللَّهِ مَا يَخْفَى عَلَيَّ
خُشُوعُكُمْ وَلَا رُكُوعُكُمْ، إِنِّي لَأَرَاكُمْ
مِنْ وَّرَاءِ ظَهْرِي).

(رواه البخارى: ٢١٨)

٣٠- بَابُ: هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِي فَلَانٍ؟
٢٦٨: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَأَلَ بَيْنَ الْخَيْلِ
الَّتِي أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَأَمَدَهَا
ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، وَسَأَلَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي
لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي
زُرَيْقٍ، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ
فِيْمَنْ سَأَلَ. (رواه البخارى: ٢٢٠)

٣١- بَابُ: الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيْقِ الْقِنُورِ

فِي الْمَسْجِدِ

٢٦٩: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ،
فَقَالَ ﷺ: (أَنْشُرُوهُ فِي الْمَسْجِدِ).
وَكَانَ أَكْثَرَ مَا أَتَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى
الصَّلَاةِ وَلَمْ يَنْهَيْتْ إِلَيْهِ، فَلَمَّا قَضَى
الصَّلَاةَ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَمَا كَانَ

bhi dijiye kyun ke main ne (Badr ki ladaayi mein) apna aur Aqeel ka fidyah diya tha. aap ne farmaya uthhaalo unhon ne apne kapde mein donon haath se itna maal bhar liya ke uthha na sake kahne lage ya Rasoolallah ﷺ in mein se kisi ko kah dijiye ke yeh maal uthhane mein meri madad kare aap ne farmaya nahin unhon ne kaha phir aap hi ise uthha kar mere oupar rakh dein aap ne farmaya nahin (Iss par Hazrat Abbaas ؓ ne uss mein se kuchh kam kiya uar phir uthhane lage lekin ab bhi na uthha sake to arz kiya ya Rasoolallah ﷺ in mein se kisi ko kah den ke mujhe uthhwade aap ne farmaya nahin unhon ne kaha phir aap khud uthhakar mere oupar rakh den aap ne farmaya nahin tab hazrat Abbaas ؓ ne uss mein se kuchh mazeed kami ki b'ad mein use uthha kar apne kandhe par rakh liya aur chal diye Rasoolullah ﷺ unki hirs wa laalach par ta'ajjub karke unko barabar dekhte rahe hatta ke woh hamaari aankhon se ojhla ho gaye alagharz Rasoolullah ﷺ wahaan se uss waqt uthhe ke ek dirham bhi baaqi na raha.

(Bukhari:421)

Fawaaid: Masjid mein khosha latkaane ka iss hadees mein zikr nahin jabke doosri rivaayat mein iski saraahat maujood hai.

Baab 32: Gharon mein Masaajid banaana

270 :Hazrat Mahmood bin Rabee' Ansari ؓ se rivaayat hai ke Hazrat Itbaan bin Maalik ؓ Rasoolullah ﷺ ke un Ansaari ashaab mein se hain jo shareek-e-badr the woh Rasoolullah ﷺ ke paas haazir huye aur arz kiya ya Rasoolallah ﷺ !meri binaayi kharaab ho gayi hai aur main apni qaum ko namaaz padhaata hoon lekin baarish ki wajah se jab woh naalah bahne lagta hai jo mere aur un ke darmiyaan hai to main namaaz padhaane ke liye Masjid mein nahin aasakta iss liye main chaahta hoon ke Aap mere haan

يَرَى أَحَدًا إِلَّا أَعْطَاهُ، إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِنِي، فَإِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيلًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (خُذْ) فَحَثَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقْلُهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعُهُ إِلَيَّ، قَالَ: (لَا) فَتَشَّرَ مِنْهُ، ثُمَّ احْتَمَلَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ، ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتْبَعُهُ بَصْرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا، عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ.

(رواه البخارى: ٢٢١)

٣٢-بَابُ: الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوتِ

٢٤٠: عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ عِثْبَانَ ابْنَ مَالِكٍ، وَهُوَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْأَنْصَارِ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصْرِي، وَأَنَا أَصْلِي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ، سَأَلَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ

tashreef laayen aur mere ghar mein kisi jagah namaaz padhen taake main uss jagah ko jaaye namaaz qaraar de loon raavi kahta hai ke un se Rasoolullah ﷺ ne farmaya main Inshaallah jald hi aisa karunga Hazrat Itbaan ؓ kahte hain ke Rasoolullah ﷺ aur Hazrat Abu Bakr ؓ mere ghar tashreef laaye aur Rasoolullah ﷺ ne andar aane ki ejaazat talab ki to mere ejaazat dene par Aap ghar mein daakhil huye aur baithhne se pahle farmaya tum apne ghar mein kis jagah namaaz padhna chaahte ho taake main wahaan namaaz padhoon Hazrat Itbaan ؓ kahte hain ke main ne ghar ke ek gosha ki nishaandahi ki to Aap ne wahaan khade ho kar takbeer-e-tahreema kahi hum bhi saff bastah ho kar Aap ke peechhe khade ho gaye to Aap ne do raka't namaaz padhi aur uske b'ad salaam pher diya, phir humne Aap ke liye kuchh haleem tayyaar karke Aap ko rok liya uske b'ad ahle mahallah mein kayi aadmi ghar mein aakar jama' ho gaye. un mein se ek shakhs kahne laga ke Malik bin Dukhshun ya Dukhshun kahaan hai? kisi ne kaha woh to munaafiq hai Allah aur uske Rasool se muhabbat nahin rakhta tab Rasoolullah ﷺ ne farmaya aisa mat kaho kiya tujhe ma'loom nahin ke woh khaalish Allah ki khushnoodi ke liye لا إله إلا الله kahta hai woh shakhs bola Allah aur uska Rasool hi khoob jaante hain bazaahir to hum uska rukh aur uski khair khaahi munaafiqeen ke haq mein dekhte hain uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke Allah Ta'ala ne uss shakhs par aag ko haraam kardiya hai jo لا إله إلا الله kah de bashar teke uss se Allah ki razaa mandi hi maqsood ho. (Bukhari: 425)

Baab 33: Zamaanah Jaahiliyat mein bani huyi mushrikon ki qabron ko ukhaad kar unki jagah Masaajid ko banaaya jaa sakta hai

لَهُمْ، وَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَكَ سَأْتِيَنِي فَتُصَلِّيَ فِي بَيْتِي، فَاتَّخَذَهُ مُصَلِّي، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ). قَالَ عِيبَانُ: فَغَدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَاذَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَذِنَتْ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ: (أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ). قَالَ: فَأَشْرَفْتُ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَكَبَّرَ، فَقُمْنَا فَصَفَقْنَا، فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، قَالَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ، قَالَ: فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذُوو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا، فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِيِّنِ أَوْ ابْنِ الدُّخَيْشِيِّنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَقُلْ ذَلِكَ، أَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ). قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنُصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَتَّبِعِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ). (رواه البخارى: ٣٢٥)

٣٣-بَابُ: هَلْ تُنْبَسُ قُبُورُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيَتَّخَذُ مَكَانَهَا مَسَاجِدَ

271 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Hazrat Ummeh Habeebah رضي الله عنها aur Salmah رضي الله عنها ne habshah mein ek girja dekha tha jis mein tasweeren thin jab unhon ne Rasoolullah ﷺ se uska zikr kiya to Aap ne farmaya un logon ki aadat thi ke un mein agar koyi nek mard marta to uski qabr par Masjid aur tasweeren bana dete qiyaamat ke din yeh log Allah ke nazdeek badtareen makhloq hain. (Bukhari:427)

٢٧١ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَكَرْنَا كَنِيْسَةَ رَأَيْنَاهَا بِالْحَبْشَةِ ، فِيهَا تَصَاوِيرٌ ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : (إِنَّ أَوْلَيْكَ ، إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ ، بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا ، وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَ ، فَأَوْلَيْكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) .

(رواه البخارى: ٢٧١)

Fawaaid: Aaj kal to log qabron ko sajdah karte hain aur barmala inka tawaaf kiya jaata hai jo khula shirk hai iss hadees se maloom huwa ke buzrugon ki qabron par masjid banaana yahood-o-nasaara ki aadat hai Rasoolullah ﷺ ne ise haraam qaraar diya hai neez aap ne tasweer kashi ko haraam farma kar but parasti ki jad kaat di hai.

272 : Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab hijrat karke Madinah tashreef laaye to Amar bin A'uof naami qabeelah mein padaau kiya jo Madinah ke buland maqaam par waaqe' tha Rasoolullah ﷺ ne un logon mein chaudah shab qiyaam farmaya phir Aap ne banu najjaar ko bulaaya to woh talwaaren latkaaye huye aa pahunche (Hazrat Anas رضي الله عنه kahte hain) goya main Rasoolullah ﷺ ko dekh raha hoon ke Aap apni ountni par sawaar hain Abu Bakr Siddeeq رضي الله عنه Aap ke radeef aur bani najjaar ke log Aap ke gird hain yahaan tak ke Aap ne Hazrat Abu Ayyub Ansaari رضي الله عنه ke ghar ke saamne apna palaan daal diya Aap iss baat ko pasand karte the ke jis jagah namaaz ka waqt ho jaaye wahin padh len hatta ke Aap bakriyon ke baade mein bhi namaaz padh lete the phir Aap ne ne Masjid banaane ka hukm diya aur bani Najjaar ke logon ko bula kar farmaya Aye Bani Najjaar! tum apna yeh baagh hamaare haath bech daalo unhon ne kaha kiya aisa nahin ho sakta Allah ki qasam! hum to iski

٢٧٢ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَنَزَلَ أَعْلَى الْمَدِينَةِ فِي حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُو عَمْرٍو بَنِ عَوْفٍ ، فَأَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أُرْسِلَ إِلَى بَنِي النَّجَّارِ ، فَجَاؤُوا مُتَقَلِّدِينَ السُّيُوفِ ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، وَ أَبُو بَكْرٍ رَدْفُهُ ، وَمَلَأَ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهُ ، حَتَّى أَلْقَى رَحْلَهُ بَفَنَاءِ أَبِي أَيُّوبَ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ حَيْثُ أَدْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ ، وَ يُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْعُغَمِ ، وَ أَنَّهُ أَمَرَ بَيْنَاءَ الْمَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَأَمِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ : (يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَانِطِكُمْ هَذَا) . قَالُوا : لَا وَاللَّهِ ، لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ ، فَقَالَ أَنَسٌ : فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ ، وَ فِيهِ حَرْبٌ ،

geemat Allah hi se lenge. Hazrat Anas رضي الله عنه farmate hain main tumhein bataaun ke uss baagh mein kiya tha wahaan mushrikon ki qabrein, puraane khandaraat aur kuchh khujooron ke darakht the Aap ke hukm ke mutaabiq mushrikeen ki qabrein ukhaad di gayin, khandaraat hamwaar kar diye gaye aur khujooron ke darakht kaat kar unki lakdiyon ko Masjid ke saamne nasab kardiya gaya (uss waqt qiblah Baitul Maqdis tha) aur uski bandish pattharon se ki gayi chunaancheh Sahaba kiraam رضي الله عنهم rajz padhte huye patthar laane lage Rasoolullah صلى الله عليه وسلم bhi unke hamraah the yeh farmaate the.

"Aye Allah zindagi to bas aakhirat ki zindagi hai, pas tu Ansaar-o-Muhaajireen ko bakhsh de". (Bukhari:428)

Baab 34: Ounton ki jagah par namaaz padhna

273 : Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke woh khud apne oont ki taraf namaaz padhte aur farmate ke main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko aisa karte dekha.

(Bukhari: 430)

Fawaaid: Haq yeh hai ke ounton ki jagah par namaaz padhna haraam hai aur iss mumaniyat par bakasrat ahaadees waarid hain. iss hadees ka maqsad yeh hai ke jab oont saamne baithha ho aur iss se kisi qism ka khatah na ho aur jahaan mumaniyat aayi hai wahaan yeh maqsood hai ke oont khade hon aur unki taraf se laaht maarne ka khatah ho, iss liye koyi taa'ruz nahin hai.

Baab 35: Agar koyi namaaz padhe aur uske saamne tannoor ya aag ya koyi aisi cheez ho jis ki ebaadat ki jaati hai lekin namaaz ki niyyat Allah ki raza joy'i ho (to uski namaaz durust hai)

274 : Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya: dozakh ko mere roobaru pesh kiya gaya jabke main namaaz padh raha tha.

(Bukhari: 431)

وَفِيهِ حَرْبٌ، وَفِيهِ نَخْلٌ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنَبِثَتْ، ثُمَّ بِالْحَرْبِ فَسَوَّيْتُ، وَبِالنَّخْلِ فَفُطِعَ، فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ، وَجَعَلُوا عِضَادَتِيهِ الْحِجَارَةَ، وَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِرُونَ وَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَهُمْ، وَهُوَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرَ الْآخِرَةِ
فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةِ
(رواه البخارى: ٢٢٨)

٣٢٢ - بَابُ: الصَّلَاةِ فِي مَوَاضِعِ الْإِبِلِ

٢٤٣ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى بَعِيرِهِ . وَقَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ .

(رواه البخارى: ٢٣٠)

٣٥٥ - بَابُ : مَنْ صَلَّى وَقَدَّامَهُ تَنْوُرٌ أَوْ نَارٌ أَوْ شَيْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَأَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى

٢٤٢ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم (عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي)

(رواه البخارى: ٢٣١)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke masjid mein gas heatar lagaane mein koyi harz nahin hai agerchey woh bajaanib qiblah hi kyun na hoon.

Baab 36: Qabrstaan mein namaaz padhne ki hurmat

275 :Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya kuchh namaaz (nafil) apne gharon mein adaa karo aur unhein qabrstaan na banaao.
(Bukhari: 432)

Baab 37:

276 : Hazrat Aayeshah رضى الله عنها aur Hazrat Ibne Abbaas رضى الله عنهما se rivaayat hai un donon ne farmaya ke jab Rasoolullah ﷺ par aakhri waqt aaya to ek chaadar apne oupar daalne lage phir joon hi ghabraahat hoti to use chehere se hataadete usi haalat mein Aap ne farmaya Yahood-o-Nasara par Allah ki la'nat ho unhon ne apne Anbiyaa kiraam عليهم السلام ki qabron ko ebaadat gaah banaliya goya Aap unke af'aal se (ummat ko) khabar daar karte the. (Bukhari: 435,436)

٣٦- بَابُ : كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ
٢٤٥ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (اجْعَلُوا فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوا هِيَ قُبُورًا)
(رواه البخارى : ٤٣٢)

٣٧- بَابُ :

٢٤٦ : عَنْ عَسَائِشَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا : لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ : (لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). يُحَدِّثُ مَا صَنَعُوا.
(رواه البخارى: ٤٣٥، ٤٣٦)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein hai ke Yahood-o-Nasara ne apne ambiya aur sulha ki qabron ko sajdah gaah bana liya iss andaaz-e-guftagu se Rasoolullah ﷺ ne apni ummat ko mutanabbah kiya hai ke mabaadan meri qabr ke saath aisa sulook karen lekin naam nehaad musalmaanon par afsos hai ke woh iski khilaaf warzi karte hain Allah Ta'ala hukoomat-e-saoudiya ko jazaaye khair de ke woh Rasoolullah ﷺ ki qabr-e-mubaarak par logon ko ghair sharayi kaamon se baaz rakhti hai.

Baab 38: Masjid mein Aurat ka sona

277 :Hazrat Aayeshah رضى الله عنها se rivaayat hai ke a'rab ke kisi qabeelah ke paas ek siyaah faam baandi thi jise unhon ne azaad kar diya magar woh unke saath hi raha karti thi uska bayaan hai ke ek daf'a uss qabeelah ki koyi ladki baahar nikli uspar surkh tasmon ka ek kamar band tha jise usne utaar kar rakh diya ya woh az khud gir gaya ek cheel udhar se guzri to usne use gosht khayaal kiya aur jhapat kar le gayi woh kahti hai ke ahle qabeelah ne kamar band ko talaash kiya magar kahin se na mila unhon ne mujh par chori ka ilzaam laga diya aur meri talaashi

٣٨- بَابُ : نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ
٢٤٤ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ وَلِيدَةَ كَانَتْ سَوْدَاءَ، لِحْيٍ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقَهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ، قَالَتْ : فَخَرَجْتُ صَبِيَّةً لَهُمْ، عَلَيْهَا وَشَاحٌ أَحْمَرٌ مِنْ شُيُورٍ، قَالَتْ : فَوَضَعْتُهُ، أَوْ وَقَعَ مِنْهَا، فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيْبَةَ وَهُوَ مُلْقَى، فَحَسِبْتُهُ لَحْمًا فَخَطَفْتُهُ، قَالَتْ : فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ

lene lage yahaan tak ke unhon ne meri sharamgaah ko bhi na chhoda woh kahti hai Allah ki qasam! main unke paas khadi hi thi ke itne mein wahi cheel aayi usne woh kamarband phenk diya to woh unke darmiyaan aa gira main ne kaha tum iski chori ka ilzaam mujh par lagaate the haalaanke main iss se bari thi ab apna kamar band sanmbhaal lo, Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmati hain ke phir woh laundi Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein chali aayi aur musalmaan ho gayi uska kheemah ya jhonpda Masjid mein tha Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmati hain ke woh mere paas aakar baatein kiya karti thi aur jab bhi mere paas baithhti to yeh sh'er zaroor padhti.

"kamar band ka din Allah Ta'ala ki ajeeb qudraton se hai usne mujhe kufr ke mulk se nijaat di" Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmati hain main ne usse kaha kiya baat hai? jab tum mere paas baithhti ho to yeh sh'er zaroor kahti ho tab usne mujh se apni daastan bayaan ki. (Bukhari: 439)

يَجِدُوهُ، قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ، قَالَتْ: فَطَفِقُوا يُفْتَشُونَ، حَتَّى فَتَشُوا قُبُلَهَا، قَالَتْ: وَاللَّهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَاةَ فَأَلْقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُونِي بِهِ، زَعَمْتُمْ وَأَنَا مِنْهُ بِرَبِيَّةٍ، وَهُوَ ذَا هُوَ، قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٍ، قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِينِي فَتَحَدَّثُ عِنْدِي، قَالَتْ: فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِسًا، إِلَّا قَالَتْ:

وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِبِ رَبِّي أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلَدَةِ الْكُفْرِ أَنَّنِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا شَأْنُكَ، لَا تَقْعُدِينَ مَعِيَ مَقْعَدًا إِلَّا قُلْتَ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثْتَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ. (رواه البخارى: ٣٣٩)

Fawaaid: Iss mein daarul kufr se hijrat karne ki fazeelat ka bayaan hai neez mazloom insaan ki dua' zaroor qubool hoti hai agarcheh woh kaafir hi kyun na ho. (Awnul- Bari:1/558)

Baab 39: Masjid mein mardon ka sona

278 :Hazrat Sahal Bin S'ad رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ Hazrat Faatimah رضي الله عنها ke ghar tashreef laaye to Hazrat Ali رضي الله عنه ko ghar mein na paakar unse poochha tumhaare chacha zaad kahan gaye? unhon ne arz kiya hamaare darmiyaan kuchh jhagda ho gaya tha woh mujh par naaraaz ho kar kahin baahar chale gaye hain yahaan nahin soye tab Rasoolullah ﷺ ne ek shakhs se farmaya dekho woh kahaan hain? woh dekh kar aaya aur kahne laga ya Rasoolallah ﷺ woh masjid mein so

٣٩- بَابُ: نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ ٢٤٨: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ، فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ: (أَيْنَ ابْنُ عَمِّكَ) قَالَتْ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ شَيْءٌ، فَوَاعَصَيْتَنِي فَخَرَجَ، فَلَمْ يَقُلْ عِنْدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ: (انظُرْ أَيْنَ هُوَ) فَجَاءَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُوَ فِي الْمَسْجِدِ

rahe hain yeh sun kar Aap tashreef le gaye jahaan hazrat Ali lete huye the unke ek pahlu se chaadar girne ki wajah se wahaan mitti lag gayi thi Rasoolullah ﷺ ne unke jism se mitti saaf karte huye farmane lage 'Abu Turaab uthho! Abu Turaab uthho.

(Bukhari: 441)

رَاقِدًا، فَجَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُصْطَجِعًا، قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ، وَأَصَابَهُ تَرَابٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُولُ: (قُمْ أَبَا تَرَابٍ، قُمْ أَبَا تَرَابٍ).

(رواه البخارى: ٢٢١)

Fawaaid: Hazrat Ali رضي الله عنها Hazrat Faatimah رضي الله عنها ke chacha zaad nahin the balke arab ke mohaawrah ke mutaabiq baap ke azeer ko chacha zaad kaha gaya hai.

Baab 40: Jab koyi Masjid mein aaye to chaahiye ke do rak'at namaaz padhe

279 : Hazrat Abu Qataadah Salami رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jab tum mein se koyi Masjid mein daakhil ho to baithh ne se qabl do rak'at namaaz zaroor padhe. (Bukhari: 444)

٢٠ - بَابُ: إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ

فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ

٢٤٩ : عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ)

(رواه البخارى: ٢٢٢)

Fawaaid: Agar do rak'at padhe baghair baithh jaaye to usse tahiyyatul masjid saaqit nahin ho jaayega balke uthh kar unhen adaa karna hoga. (Awnul- Bari:1/561)

Baab 41: Masjid ta'meer karna

280 : Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne bataaya ke Rasoolullah ﷺ ke ah'd-e-mubaarak mein Masjid-e-Nabwi kachchi einton se bani huyi thi chhat par khujoor ki daaliyan thin aur sutoon bhi khujoor ki lakdi ke the Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه ne uss mein koyi ezaafah na kiya Hazrat Umar رضي الله عنه ne iss mein tausee' zaroor ki lekin emaarat usi tarah ki rakkhi jaise Rasoolullah ﷺ ke zamaana mein thi ya'ni kachchi einten, daaliyaan aur sutoon usi khujoor ki lakdiyon ke banaaye gaye phir Hazrat Usmaan رضي الله عنه ne iss mein tabdeeli karke bahut tausee' farmayi y'ani uski diwaarein manqqash pattharon aur choone se banaaye aur uski chhat saagwaan se tayyaar ki. (Bukhari: 446)

٢١ - بَابُ: بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ

٢٨٠ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبْنِ، وَسَقْفُهُ بِالْجَرِيدِ، وَعُمْدُهُ خَشْبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا، وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِاللَّبْنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمْدَهُ خَشْبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَرَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ، وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ. (رواه البخارى: ٢٢٦)

Baab 42: Masjid banaane mein ta'awun karna

281 :Hazrat Abu Sa'yeed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai ke woh ek din Hadees bayaan karte huye zikr karne lage ke hum ek eint uthhaate jabke Hazrat Ammaar رضي الله عنه do do einten uthaate the Rasoolullah صلى الله عليه وسلم Hazrat Ammaar رضي الله عنه ko dekha to unke jism se mitti jhaadte huye farmane lage Ammaar رضي الله عنه ko ek baaghi girowh shaaheed karega. yeh unko jannat ki taraf bulayenge aur woh use dozakh ki da'wat denge Hazrat Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه ne kaha ke Hazrat Ammaar رضي الله عنه aksar kaha karte the main fitnon se Allah ki panaah maangta hoon. (Bukhari: 447)

Baab 43: Jo shakhs Masjid banaaye (uski fazeelat ka bayaan)

282 :Hazrat Usmaan Bin Affaan رضي الله عنه se rivaayat hai ke jab unhon ne (munaqqash patthar aur choone se) Masjid banwaayi to log iske muta'alliq baaten karne lage tab unhon ne farmaya ke main ne to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko yeh farmate huye suna hai ke jo shakhs Masjid banaaye aur usse mahaz Allah ki raza maqsood ho to uske liye uss jaisa ghar jannat mein bana deta hai. (Bukhari: 450)

Fawaaid: Allaamah Ibne Jauzi ne likkha hai ke jo shakhs masjid banwaakar uss par apna naam kundah karaadeta hai woh mukhlis nahin balke namood wa numaayish ka khoogar hai.

Baab 44: Masjid se guzre to teer ka phal (nok) pakadle

283 :Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek shakhs Masjid Nabwi se teer liye guzar raha tha to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne use farmaya ke inke phal thaame rakkho. (Bukhari: 451)

٢٢- بَابُ: التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ

الْمَسْجِدِ

٢٨١ : عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمًا حَتَّى أَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ : كُنَّا نَحْمِلُ لَبْنَةً لَبْنَةً، وَعَمَّارٌ لَبْنَتَيْنِ لَبْنَتَيْنِ، فَسَرَّاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ، وَيَقُولُ : (وَيْحَ عَمَّارٍ، تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَّةُ، يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ) قَالَ : يَقُولُ عَمَّارٌ : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ.

[رواه البخارى: ٢٢٤]

٢٣- بَابُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا

٢٨٢ : عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيهِ حِينَ بَنَى مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِنَّكُمْ أَكْثَرْتُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ)

[رواه البخارى: ٢٥٠]

٢٢- بَابُ: الْأَخِذِ بِنُصُولِي النَّبْلِ إِذَا

مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

(أَمْسِكْ بِنَصَالِهَا) [رواه البخارى: ٢٥١]

Baab 45: Masjid se guzarna

284 :Hazrat Abu Moosa Ash'ari رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs hamaari Masjidon ya bazaaron se teer liye huye guzre to chaahiye ke woh unke phal (noken) thaame rakkhe taake apne haath se kisi musalmaan ko zakhmi na karde. (Bukhari: 452)

Baab 46: Masjid mein sh'er padhna

285 :Hazrat Hassaan Bin Saabit رضي الله عنه se rivaayat hai ke woh Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se gawaahi talab kar rahe the ke tumhen Allah ki qasam! bataao kiya tum ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate nahin suna ke Aye Allah tu Hassaan رضي الله عنه ki roohulqudus se taayeed farma Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه bole ke"haan" ya'ni suna hai. (Bukhari: 453)

Fawaaid:Ba'z rivayaat se maloom hota hai ke masjid mein sh'er padhna mana hai to isse muraad ishqiyah aur laghw qism ke asha'ar hain. (Awnul-Bari:1/571)

Baab 47: Barchhe waalon ka Masjid mein daakhil hona

286 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne ek din Rasoolullah ﷺ ko apne hujre ke darwaaze par khade dekha aur Habsha ke kuchh log Masjid mein (jehaadi mashqen karte huye)khel rahe the aur Rasoolullah ﷺ apni chaadar se mujhe chhupa rahe the aur main unka khel dekh rahi thi ek aur rivaayat mein hai ke woh apne hathyaaron se khel rahe the. (Bukhari: 454)

Fawaaid:Maloom huwa ke agar nuqsaan ka andeshah na ho to hathiyaar masjid mein le jaana jaayiz hai.

Baab 48: Masjid mein qarz daar se qarz ka taqaaza karna aur uske peechhe padna.

٢٨٥- بَابُ: الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ
٢٨٤: عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(مَنْ مَرَّ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا، أَوْ
أَسْوَاقِنَا، بِنَيْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا،
لَا يَغْفِرُ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا
(رواه البخارى: ٢٨٥٢)

٢٨٦- بَابُ: الشَّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ
٢٨٥: عَنْ حَسَّانِ بْنِ ثَابِتِ
الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ
اسْتَشْهَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أَنْشُدَكَ اللَّهَ، هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ
ﷺ يَقُولُ: (يَا حَسَّانُ، أَجِبْ عَن
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ
الْقُدْسِ؟) قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: نَعَمْ
(رواه البخارى: ٢٨٥٣)

٢٨٧- بَابُ: أَصْحَابِ الْجِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ
٢٨٦: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِي وَالْحَبَشَةُ
يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَسُولُ اللَّهِ
ﷺ يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، أَنْظُرُ إِلَى
لَعِبِهِمْ. فِي رِوَايَةٍ: يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ.
(رواه البخارى: ٢٨٥٢)

٢٨٨- بَابُ: التَّقَاضِي وَالْمُلَازِمَةِ فِي
الْمَسْجِدِ

287 :Hazrat Ka'b Bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne Masjid mein Abdullah Bin Abi Hadrat رضي الله عنه se apne qarz ka taqaaza kiya uspar donon ki aawaazen buland ho gayin yahaan tak ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne bhi sun liya Aap apne ghar se baahar tashreef laaye aur hujre ka parda uthhaa kar aawaaz di aye Ka'b رضي الله عنه ! unhon ne arz kiya labbaik ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم ! Aap ne farmaya tum apne qarz mein kuchh kami kardo aur ishaarah farmaya nisf kardo Hazrat Ka'b رضي الله عنه ne kaha ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم ! Aap ka hukm sar aankhon par, tab Aap ne Ibne Hadrat رضي الله عنه se farmaya uthho iska qarz adaa kardo. (Bukhari: 457)

٢٨٧: عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا، حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى: (يَا كَعْبُ) قَالَ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَيُّ الشُّطْرِ قَالَ: لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (قُمْ فَأَقْضِهِ). (رواه البخارى: ٤٥٧)

Fawaaid: Maloom huwa ke kisi zaroorat ke pesh-e-nazar masjid mein ba aawaaz buland guftagu karna jaayiz hai alhattah bilawajah masjid mein aawaaz buland karne ki mumaania't hai. (Awnul-Bari:1/574)

Baab 49: Masjid se chethde, kooda karkat aur lakdiyaan uthhana aur uski safaayi karna

288 :Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek siyaah faam mard ya au'rat Masjid mein jhaadu diya karti thi woh faut ho gayi to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne logon se uski baabat poochha, unhon ne kaha, woh to faut ho gayi."Aap ne farmaya: "bhala tumne mujhe ittela' kyun na di, achchha ab mujhe uski qabr bataao." phir uski qabr par tashreef le gaye aur namaaz-e-janaazah adaa ki.

(Bukhari: 458)

٢٨٨- بَابُ: كُنُسِ الْمَسْجِدِ وَالتَّقَاطِ الْخِرْقِ وَالْقَدَى وَالْعِيدَانَ
٢٨٨: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ، أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ، كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ، فَمَاتَ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْهُ، فَقَالُوا: مَاتَ، قَالَ: (أَفَلَا كُنْتُمْ أَذْتَمُونِي بِهِ، دُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ، أَوْ قَالَ قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا). فَاتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا.
(رواه البخارى: ٤٥٨)

Fawaaid: Baihaqi ki rivaayat mein hai ke Umme Mahjan naami aurat thi jo masjid se chetde aur tinke waghairah chuna karti thi neez maloom huwa ke qabr par namaaz-e-janaazah adaa ki jaa sakti hai.

Baab 50: Masjid mein sharaab ki tijaarat ko haraam kahna

289 :Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab sood ke muta'alliq suratul baqrah ki aayaat naazil huyin to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم Masjid mein tashreef laaye aur logon ko woh aayaat padh kar sunaayin

٥٠- بَابُ: تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ
٢٨٩: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَنْزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَا، خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى

phir farmaya ke sharaab ki tijaarat bhi haraam hai. (Bukhari: 459)

الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْحَمْرِ. (رواه البخارى: ٢٥٩)

Fawaaid: Iss baab ka maqsad yeh hai ke mumaani'at ki gharz se bure kaamon aur fahash baaton ka tazkirah kiya jaa sakta hai.

Baab 51: Qaidi ya qarzdaar ko Masjid mein baandhna

290 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke guzishta raat achaanak ek sarkash jinn mujh se takda gaya ya aisa hi koyi aur kalimah irshaad farmaya taake mere namaaz mein khalal daale magar Allah ne mujhe uss par qaabu de diya main ne chaaha ke use Masjid mein kisi sutoon se baandh doon taake subah ke waqt tum bhi usko dekh lo phir mujhe apne bhaayi Hazrat Sulemaan عليه السلام ki yeh du'a yaad aayi.

"Aye mere rab! mujhe m'aaf kar aur mujhe aisi saltanat ataa kar jo mere ba'd kisi aur ke liye sazawaar na ho" (Bukhari: 461)

٥١-بَابُ: الْأَسِيرِ أَوْ الْغَرِيمِ يُرْبَطُ

فِي الْمَسْجِدِ

٢٩٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِنَّ عِفْرِيئًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتْ عَلَى الْبَارِحَةِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لَيَقْطَعَنَّ عَلَى الصَّلَاةِ، فَأَمَكَّنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾. (رواه البخارى: ٢٦١)

Fawaaid: Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne uss shareer jin ko bad mein qaid karne ka iraadah farmaya Imam Bukhari ne qarzdaar ko isi par qiyaas kiya hai. (Awnul- Bari:1/577)

Baab 52: Masjid mein bimaaron aur doosron ke liye kheema lagaana

291 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jung-e-khandaq ke moqa' par Hazrat S'ad Bin Mu'aaz رضي الله عنه ko hafte indaam ki rag mein (teer ka) zakhm laga to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne unke liye Masjid mein ek kheemah laga diya taake nazdeek se unki iyaadat kar liya karein aur Masjid mein banu Ghaffaar ka kheema bhi tha' achaanak unki taraf se khoon bah kar aane laga to log usse khauf zadah huye kahne lage. aye kheemah waalon! yeh kiya hai jo tumhaari taraf se hamaare paas aaraha hai dekha to Hazrat S'ad رضي الله عنه ke zakhm se khoon bah raha tha aakhir woh usi zakhm se faut ho gaye.

(Bukhari: 463)

٥٢-بَابُ: الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

٢٩١: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأُكْحَلِ، فَضْرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ، لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ، فَلَمْ يَرْعُهُمْ، وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةً مِنْ بَنِي غِفَّارٍ، إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ، مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَأَذَا سَعْدٌ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ فِيهَا. (رواه البخارى: ٢٦٣)

Baab 53:Zaroorat ke waqt ount ko Masjid men laana.

292: Hazrat Umme Salamah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ se apni beemari ka shikwah kiya to aap ne farmaya ke tu logon ke peechhe peechhe sawaari per baithh kar tawaaf karle chunaanche main ne sawaar ho kar tawaaf kiya aur Rasoolullah ﷺ ka'ba ke pahloo mein khade namaaz mein surah Toor tilaawat farma rahe the.(Bukhari:464)

Fawaaid:Maloom huwa ke Halaal jaanwar laaya jaa sakta hai basharteke masjid ki aaloodgi ka andeshah na ho. (Awnul-Bari:1/579)

Baab 54:

293:Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ke do sahaba aap ke paas se andheri raat mein nikle un donon ke saath do chiraagh jaise raushan the jo un ke saamne raushni de rahe the jab woh donon alaahidah ho gaye to har ek ke saath un mein se ek ek ho gaya hatta ke woh apne ghar pahunch gaye.(Bukhari:465)

Fawaaid:Iss hadees se andheri raat mein masjid ki taraf aane ki fazeelat saabit hoti hai.

(Awnul-Bari:1/580)

Baab 55:Masjid mein khidki aur guzar gaah rakhna.

294:Hazrat Abu Sayeed Khudri رضي الله عنه se rivaayt hai ke unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne ek din khutbah dete huwe farmaya ke be shak Allah ta'ala ne apne ek bande ko ikhtiyaar diya hai ke duniya mein rahe ya jo Allah ke paas hai use ikhtiyaar kare to uss ne uss cheez ko ikhtiyaar kiya jo Allah ke paas hai. yeh sun kar Hazrat Abu Bakr Siddeeq رضي الله عنه rone lage main ne apne dil mein kaha yeh boodha kisliye rota hai? baat

٥٣- بَابُ: اِذْ خَالَ الْبُعَيْرِ فِي

الْمَسْجِدِ لِلْعَلَّةِ

٢٩٢ : عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي، قَالَ: (طُوفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ) فَطُفْتُ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ، يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورٍ.

(رواه البخارى: ٢٦٣)

٥٣- بَابُ:

٢٩٣ : عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَمَعَهُمَا، مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيئَانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا، فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ، حَتَّى أَتَى أَهْلَهُ. (رواه البخارى: ٢٦٥)

٥٥- بَابُ: الْخَوْخَةُ وَالْمَمْرُ فِي

الْمَسْجِدِ

٢٩٤ : عَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ). فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: مَا يُبْكِي هَذَا الشَّيْخَ؟ إِنْ يَكُنِ اللَّهُ خَيْرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ، فَكَانَ

to sirf yeh hai ke Allah ne apne bande ko dunya ya aakhirat donon mein se jise chaahe pasand karne ka ikhtiyaar diya hai pas us ne aakhirat ko pasand kiya hai (to iss mein rone ki kiya baat hai? Magar b'ad mein yeh raaz khula ke) bande se muraad khud Rasoolullah ﷺ the aur Hazrat Abu Bakr Siddeeq ﷺ hum sab se ziyaadah samajhne waale the phir Rasoolullah ﷺ ne farmaya Abu Bakr Siddeeq ﷺ tum mat rowo main logon mein se kisi ke maal aur sohbat ka itna zer baar nahin jetna Abu Bakr Siddeeq ﷺ ka hoon agar main apni ummat se kisi ko khaleel banaata to Abu Bakr Siddeeq ﷺ ko banaata lekin Islami Ukhuwat wa muhabbat zaroor hai dekho Masjid mein Abu Bakr Siddeeq ﷺ ke darwaaze ke siwa sab ke darwaaze band kardiye jaayen. (Bukhari:466)

Fawaaid: Iss hadees mein aap ki khilafat ki taraf ishaarah tha ke khilafat ke zamaana mein namaaz padhane ke liye aane jaane se sahoolat rahe gi.

295: Hazrat Ibne Abbas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ apni marz-e-wafaat mein ek patti se apne sar ko baandhe huye baahar tashreef laaye aur mimbar par farokash huye Allah ki Hamd-w-sana ke baad farmaya apni jaan aur maal ko mujh par Abu Bakr Siddeeq ﷺ se ziyadah aur koyi kharch karne waala nahin aur main logon men se agar kisi ko dili dost banaata to yaqeenan Abu Bakr Siddeeq ﷺ ke banaata lekin islami dosti sab se badh kar hai dekho! meri taraf se har woh khidki jo iss masjid mein khulti hai band kardo sirf Abu Bakr Siddeeq ﷺ ki khidki ko rahne do.

(Bukhari:467)

Baab56:K'aba aur digar Masaajid keliye darwaaze chatkhani aur taala lagaana.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ أَعْلَمَنَا، قَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ لَا تَبْكُ، إِنَّ أَمَّنَ النَّاسَ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَا تَخَذُتُ أَبَا بَكْرٍ، وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ لَا يَتَّقِينَ فِي الْمَسْجِدِ بَابَ الْأَسَدِ، إِلَّا بَابَ أَبِي بَكْرٍ).

(رواه البخارى: ٢٦٦)

٢٩٥ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ، فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَاتَّئَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَّنَ. عَلَيَّ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بِنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا، وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ، سُئِلُوا عَنِّي كُلَّ خَوْخَةٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ).

(رواه البخارى: ٢٦٤)

٥٦ - بَابُ: الْأَبْوَابِ وَالْعَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسَاجِدِ

296: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ Makkah tashreef laaye to aap ne (chaabi bardaar) Hazrat Usmaan bin Talha ؓ ko bulaaya unhnon ne baitullah ka darwaazah khol diya phir Rasoolullah ﷺ, Hazrat Bilaal, Usaamah aur Usmaan bin Talha ؓ ander gaye b'ad azeen darwaazah band karliya gaya. aap wahaan thodi der rahe phir sab baahar nikle khud ibne Umar رضي الله عنهما ne kaha main jald uthha aur Hazrat Bilaal ؓ se jaakar poochha to usne bataaya ke Rasoolullah ﷺ ne ka'ba ke andar namaaz padhi main ne poochha kis maqaam par to unhon ne kaha donon sutoonon ke dermiyaan mein hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما kahte hain ke yeh baat poochhne se rah gayi ke aap ne kitni rak'at padhi thin? (Bukhari:468)

Baab 57: Masjid mein Halqe banaana aur baithhna.

297: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se hi rivaayat hai nhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ek dafa mimbar per tashreef farmaa the ke ek shakhs ne aap se poochha: raat ki namaaz ke muta'alliq aap ka kiya hukm hai? aap ne farmaya do do rak'at adaa ki jaayen. agar kisi ko subah hojaane ka andeshah ho to ek raka't aur padhe woh saabiqah saari namaaz ko witr kardegi Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما farmaya karte the ke raat ki namaaz ke aakhir mein witr padha karo kyun ke Rasoolullah ﷺ ne iska hukm farmaya hai.

(Bukhari:472)

Fawaaid: Iss hadees se witr ki ek raka't padhne ka suboot milta hai.

Baab 58: Masjid mein chit letna

298: Hazrat Adbullah bin Zaid Ansaari se rivaayat hai ke unhon ne Rasoolullah ﷺ ko masjid mein chit lete aur paun par paun rakkhe huye dekha hai. (Bukhari:475)

٢٩٦ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ، فَفَتَحَ الْبَابَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، وَبِلَالٌ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، ثُمَّ أُغْلِقَ الْبَابَ، فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً، ثُمَّ خَرَجُوا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلَالَ، فَقَالَ: صَلَّى فِيهِ، فَقُلْتُ: فِي أَيِّ؟ قَالَ: بَيْنَ الْأُسْطُوَاتَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَذَهَبَ عَلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى.

(رواه البخارى: ٢٩٨)

٥٧- بَابُ: الْحَلْقِ وَالْجُلُوسِ فِي

الْمَسْجِدِ

٢٩٧ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَا تَرَى فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ قَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْ تَرْتُّ لَهُ مَا صَلَّى). وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتَرَاءَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِهِ.

(رواه البخارى: ٢٩٧)

٥٨- بَابُ: الْإِسْتِقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ

٢٩٨ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى.

(رواه البخارى: ۴۷۵)

Fawaaid: Agar iss tarah letne se satar khulne ka andesha ho to phir iski mumania't hai jaisa ke doosri hadees mein hai. (Awnul-Bari:1/586) agar paaun ko paaun par rakkha jaaye to satar khulne ka andeshah nahin. haan agar paaun ko ghutne par rakhne se khulne ka andesha hai. (Alvi)

Baab:59 Baazaar ki Masjid mein namaaz padhna

299:Hazrat Abu Hurairah ؓ Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya namaaz ba jamaa'at ghar aur baazaar ki namaaz se 25 darje ziyaadah fazeelat rakhti hai iss liye ke jab koyi shakhs achchhi tarah wazoo kare aur Masjid mein namaaz hi ke iraaade se aaye to Masjid mein pahunchne tak jo qadam bhi uthhaata hai uss par Allah ek darja buland karta hai aur uska ek gunah mita deta hai aur jab woh Masjid mein pahunch jaata hai to jab tak namaaz ke liye wahaan rahe to use namaaz ka sawaab milta rahta hai aur jab tak woh apne uss maqaam mein rahe jahaan namaaz padhta hai farishte uske liye yun du'a karte hain, Allah ise m'aaf karde Allah iss par raham farma yah uss waqt tak jaari rahti hai jab tak woh be wazoo na ho.(Bukhari:477)

Baab 60: Masjid waghairah mein (haathon ki) Ungliyon ko ek doosri mein daakhil karna.

300:Hazrat Abu Moosa ؓ Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya ek musalmaan doosre musalmaan ke liye imaarat ki tarah hai uske ek hissa se doosre hisse ko taqwiyyat milti hai aur aap ne apni ungliyon ko ek doosri mein dakhil farmaya. (Bukhari:481)

۵۹-بَابُ: الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ
۲۹۹: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمِيعِ
تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ، وَصَلَاتِهِ
فِي سُوقِهِ، خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً،
فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ
الْوُضُوءَ، وَاتَى الْمَسْجِدَ، لَا يُرِيدُ إِلَّا
الصَّلَاةَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ
بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةٌ، حَتَّى
يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ
الْمَسْجِدَ، كَانَ فِي صَلَاةٍ مَا كَانَتْ
تَحْسِبُهُ، وَتُصَلَّى - يَعْنِي - عَلَيْهِ
الْمَلَائِكَةُ، مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي
يُصَلَّى فِيهِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ
ارْحَمْهُ، مَا لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِ).

(رواه البخارى: ۴۷۷)

۶۰-بَابُ: تَشْبِيْكَ الْأَصَابِعِ فِي

الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

۳۰۰: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ
لِلْمُؤْمِنِ كَالْبَيْتَانِ، يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا)
وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

(رواه البخارى: ۴۸۱)

Fawaaid:Ba'z Ahaadees mein aisa karne ki mumania't hai Imam Bukhari ke nazdeek unki sehat mahalle nazar hai ya woh dauraan-e-namaaz aisa karne par mahmool hain. aap ne zaroorat ke tehat tamseel ke liye aisa kiya.

301: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne hamen zawaal ke ba'd ki namaazon mein se koyi namaaz padhayi aur aap ne do raka't padha kar salaam pher diya uske ba'd Masjid mein gaadi huyi ek lakdi ki taraf gaye uss par aapne tek laga liya goya aap naaraaz the aur apna daayan haath baayen haath par rakh liya aur apni ungliyon ko ek doosri mein daakhil farmaya aur apna daayan rukhsaar baayen hatheli ki pusht par rakh liya jald baaz to masjid ke darwaazon se nikal gaye aur masjid mein haazir logon ne kahna shuru kardiya kiya namaaz kam kardi gayi? uss waqt logon mein hazrat Abu Bakr Siddeeq رضي الله عنه aur hazrat Umar Farooq رضي الله عنه bhi maujood the magar un donon ne aap se guftagu karne se haibat mhasoos ki ek shakhs jiske haath kuchh lambe the aur use zulyadain bhi kaha jaata tha kahne laga ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم! kiya aap bhool gaye hain ya namaaz kam kardi gaayi hai aap ne farmaya na main bhoola hoon aur na hi namaaz kam ki gayi hai phir aap ne farmaya kiya zulyadain sahih kahta hai? logon ne arz kiya "ji haan" yeh sun kar aap aage badhe aur jitni namaaz rah gayi thi use adaa kiya phir salam phera uske ba'd aapne takbeer kahi aur sajdah (sahw) kiya jo aam sajdon ki tarah ya usse kuchh lamba tha phir aap ne sar uthhaya aur Allahu Akbar kah kar doosra sajdah kiya jo aam sajdon ki tarah ya usse kuchh lanba tha phir sar uhtta kar Allahu Akbar kaha aur salam pher diya. (Bukhari:482)

Baab 61: Madina ke raasta mein waq'e Masaajid aur woh maqamaat jahaan Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne namaaz padhi.

302: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما woh Makkah aur Madinah ke raaste mein muta'addid maqamaat par namaaz padha

٣٠١: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَارِسُورٍ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ فَصَلَّى بِنَارِ كَعْتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى حَشْبَةِ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ عَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجَتِ الشَّرْعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طَوْلٌ، يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْسَيْتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: (لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ). فَقَالَ: (أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟). فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(رواه البخارى: ٣٨٢)

٢١-بَابُ: الْمَسَاجِدِ الَّتِي عَلَى طُرُقِ الْمَدِينَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم

٣٠٢: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي أَمَاكِنَ

karte the aur kaha karte the ke main ne Rasoolullah ﷺ ko in jaghon par namaaz padhte dekha hai. (Bukhri:483)

303 : Hazrat Abdullah Bin Umar رضی اللہ عنہما se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ jab umrah ke liye jaate isi tarah hajjatul w'ida mein jab hajj ke liye tashreef le gaye to Zulhulaifah mein uss kekar ke neechे padaau karte jahaan ab Masjid Zulhulaifah hai aur jab Aap jehaad' hajj ya umrah se (Madinah) waapas aate aur uss raastah mein se guzarte to waadiye Aqeeq ke nasheeb mein utarte jab wahaan se oupar chadhte to apni ountni ko bat,haa mein baithhate jo waadi ke mashriqi kinaare par hai aur aakhir shab mein wahin aaraam farmate yahaan tak subah hojaati yeh muqaam uss Masjid ke paas nahin jo pattharon par bani hai aur na uss teela par hai jis par Masjid hai balke uss jagah ek gahra naala tha Abdullah Bin Umar رضی اللہ عنہما uske paas namaaz padha karte the uske andar kuchh (ret ke) teele the Rasoolullah ﷺ wahin namaaz padhte the (raavi kahta hai) lekin ab naale ki ru (paani ka bahaau) ne wahaan kankkariyan bichhaadi hain aur uss maqaam ko chhupadiya hai jahaan Abdullah Bin Umar رضی اللہ عنہما namaaz padha karte the.(Bukhari: 484)

مِنَ الطَّرِيقِ وَيَقُولُ: إِنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَمْكَنِةِ.

(رواه البخارى: ٢٨٣)

٣٠٣: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَنْزِلُ بِدِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ يَعْتَمِرُ، وَفِي حَجَّتِهِ حِينَ حَجَّ، تَحْتَ سَمُرَةٍ، فِي مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِدِي الْحُلَيْفَةِ، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ عَزْوٍ، كَانَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ، أَوْ حَجَّ أَوْ عُمَرَةَ، هَبَطَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ، أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ، فَعَرَسَ ثُمَّ حَتَّى يُصْبِحَ، لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بِحِجَارَةَ، وَلَا عَلَى الْأَكْمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ، كَانَ ثُمَّ خَلِيحُ يُصَلِّي عَبْدَ اللَّهِ عِنْدَهُ، فِي بَطْنِهِ كُشْبٌ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ يُصَلِّي، فَدَحَا فِيهِ السَّيْلُ بِالْبَطْحَاءِ، حَتَّى دَفَنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، الَّذِي كَانَ عَبْدَ اللَّهِ يُصَلِّي

فِيهِ. (رواه البخارى: ٢٨٣)

Fawaaid: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما un maqaaat par bataur-e-tabarruk wa itteba' namaaz padhte the waise to Rasoolullah ﷺ ka har qaul, har fe'l aur har naqsh-e-qadam hamaare liye baay'ise khair wa barkat hai magar tabarrukaat-e-ambiyaa ke naam se jo afraat wa tafreet ki jaati hai woh bhi had darjah qaabil-e-muzammam hai jaisa ke ba'z log aap ke peshaab aur fuzlaat ko bhi paak kahte hain neez in ahaadees mein jin masaajid ka zikr hai un mein se aksar laa pata ho chuki hai uske woh darakht aur nishaanaat bhi khatam hochuke hain sirf masjid Zul-Hulaifah ki shunaakht ho sakti hai baaqi rahe naam Allah ka.

304 : Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما se yeh bhi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne wahaan bhi namaaz padhi jahaan ab chhoti si Masjid hai us Masjid ke qareeb jo rauhaa ki

٣٠٣: وَحَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيرُ، الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي

bulandi par waaqe' hai. Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما uss maqaam ki nishaan dahi karte the jahaan Rasoolullah ﷺ ne namaaz adaa ki thi aur kahte the ke jab tu masjid mein namaaz padhe to woh jagah tere daayen haath ki taraf padti hai aur yeh chhoti Masjid Makkah ko jaate huye raasta ke daayen kinaare par waaqe' hai uske aur badi Masjid ke darmiyaan kam wa besh patthar phenkne ki masaafat hai

(Bukhari: 485)

305 : Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما uss chhoti si pahaadi ke paas bhi namaaz padhaa karte the jo Rauhaa ke khaatma par hai uss pahaadi ka silsila raaste ke aakhri kinaare par jaakar khatm ho jaata hai Makkah ko jaate huye uss Masjid ke qareeb jo uske aur Rauhaa ke aakhri hisse ke darmiyaan hai wahaan ek aur Masjid ban gayi hai Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما uss Masjid mein namaaz nahin padha karte the balke use apni baayen taraf aur peechhe chhod dete aur uske aage khud pahaadi ke paas namaaz padha karte the Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما zawaale aaftaab ke b'ad Rauhaa se chalte phir zohar ki namaaz uss maqaam par pahunch kar adaa karte aur jab Makkah se (Madinah) aate to subah hone se kuchh waqt pahle ya sehri ke aakhri waqt wahaan padaau karte aur fajr ki namaaz adaa karte.

(Bukhari: 486)

306: Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما se yeh bhi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ maqaam-e-Rowaisa ke qareeb raasta ki daayen jaanib kushaadah' narm aur humwaar jagah mein ek ghane darakht ke neche utarte yahaan tak ke uss teele se bhi

بَشَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي كَانَ صَلَّى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ، يَقُولُ: ثُمَّ عَنْ يَمِينِكَ، حِينَ تَقُومُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّي، وَذَلِكَ الْمَسْجِدِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ الْيُمْنَى، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ رَمِيَّةٌ بِحَجَرٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ. (رواه البخاري: ٣٨٥)

٣٠٥: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَى الْعِرْقِ الَّذِي عِنْدَ مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ، وَذَلِكَ الْعِرْقُ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عَلَى حَافَةِ الطَّرِيقِ، دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، وَقَدْ ابْتَنَى تَمَّ مَسْجِدَهُ، فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ، كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ، وَيُصَلِّي أَمَامَهُ إِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَرُوحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ، فَلَا يُصَلِّي الظُّهْرَ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَيُصَلِّي فِيهِ الظُّهْرَ، وَإِذَا أَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنَّ مَرَبَّهُ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ، أَوْ مِنْ آخِرِ السَّحْرِ، عَرَسَ حَتَّى يُصَلِّيَ بِهَا الصُّبْحَ.

(رواه البخاري: ٣٨٦)

٣٠٦: وَحَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ، دُونَ الرَّوْبِنَةِ، عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ وَوَجْهِ الطَّرِيقِ، فِي مَكَانٍ

aage guzar jaate jo Rowaisa ke raaste se do meel ke qareeb hai uss darakht ka baalaayi hissa toot gaya hai ab darmiyaan se jhuk kar ke apne tane par khada hai uski jad (جذ) mein bahut se ret ke teele hain. (Bukhari: 487)

307: Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما ne yeh bhi bayaan kiya hai ke Rasoolullah ﷺ ne uss teele ke kinaare par bhi namaaz padhi jahaan se paani utarta hai yeh maqaam Hazbah ko jaate huye A'raj ke peechhe waaqe' hai, uske paas do ya teen qabren hain un par oupar tale patthar rakkhe huye hain yeh raaste se daayen jaanib un bade pattharon ke paas hai jo raasta par waaqe' hain Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما do pahar ko zawaal ke bad Arj se un bade pattharon ke darmiyaan chalte phir zohar ki namaaz uss Masjid mein adaa karte.

(Bukhari: 488)

308: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما ne yeh bhi bayaan farmaya ke Rasoolullah ﷺ un bade darkhton ke paas utre jo raastah ke baayen jaanib harshai pahaadi ke paas waadi mein hain yeh waadi Harsahi ke kinaare se mil gayi hai. waadi aur raastah ke darmiyaan ek teer phenkne ka faaslah hai hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما uss bade darkht ke paas namaaz padhte jo wahaan tamaam darkhton se bada aur raasta ke ziyaadah qareeb tha. (Bukhari:489)

309: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما yeh bhi farmaya karte the ke Rasoolullah ﷺ uss waadi mein padaau karte jo Marrizzahraan ke nasheeb mein maqaam-e-safwaat se

بَطْحِ سَهْلٍ، حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَكْمَةِ
دُوَيْنَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمَيْلَيْنِ، وَقَدْ
انْكَسَرَ أَغْلَاهَا فَانْتَشَى فِي جَوْفِهَا،
وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ، وَفِي سَاقِهَا
كُتِبَتْ كَثِيرَةٌ. (رواه البخارى: ٣٨٧)
٣٠٧: وَحَدَّثَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ، صَلَّى فِي طَرْفِ تَلْعَةٍ مِنْ
وَرَاءِ الْعُرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى هَضْبَةٍ،
عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٍ،
عَلَى الْقُبُورِ رَضَمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ
يَمِينِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيقِ،
بَيْنَ أَوْلِيكَ السَّلَمَاتِ، كَانَ عَبْدُ اللَّهِ
يَرُوحُ مِنَ الْعُرْجِ، بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ
الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي
ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.

(رواه البخارى: ٣٨٨)

٣٠٨: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَنَزَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ عِنْدَ سَرَاحٍ عَنْ يَسَارِ
الطَّرِيقِ، فِي مَسِيلِ دُونِ هَرْشَى،
ذَلِكَ الْمَسِيلِ لَا صَيْقُ بِكُرَاعِ
هَرْشَى، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ
غُلُورَةٍ. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي إِلَى
سَرَاحٍ، هِيَ أَقْرَبُ السَرَاحِ إِلَى
الطَّرِيقِ، وَهِيَ أَطْوَلُهُنَّ.

(رواه البخارى: ٣٨٩)

٣٠٩: وَيَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ
يَنْزِلُ فِي الْمَسِيلِ الَّذِي فِي أَدْنَى مَرِّ
الظُّهْرَانِ، قَبْلَ الْمَدِينَةِ، حِينَ يَهْبِطُ مِنْ

uterte waqt Madinah ki jaanib hai aap uss waadi ke nasheeb mein padaau karte jo Makkah jaate huye raasta ki baayen jaanib waaqe' hai. aap jahaan utarte us mein aur 'aam raasta ke darmiyaan ek patthar phenkne ka faaslah hota. (Bukhari:490)

310:Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما ne yeh bhi bayaan kiya ke Rasoolullah ﷺ maqaam-e-zi Tawa mein utra karte aur raat yahin guzaara karte the subah hoti to namaaz-e-fajr yahin padh kar Makkah Mukarramah ko rawaana hote, yahaan aap ke namaaz padhne ki jagah ek bade teele par thi yeh woh jagah nahin jahaan aaj Masjid bani huyi hai balke uske nasheeb mein woh bade teele par waaqe' thi. (Bukhari:491)

311:Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما yeh bhi bayaan karte hain ke Rasoolullah ﷺ ne uss pahaad ke donon daron ka rukh kiya jo uske aur jabal-e-taweel ke darmiyaan kaba ki simt mein hai. aap uss masjid ko jo teele ke kinaare par ab wahaan ta'meer huyi hai apni baayen jaanib karlete. Rasoolullah ﷺ ke namaaz padhne ki jagah usse neeche siyaahi maayil teele par thi (agar tu) teele se kam wa besh das haath chhod kar wahaan namaaz padhe to tera rukh seedha pahaad ki donon ghaatiyon ki taraf hoga ya'ni woh pahaadi jo tere aur baitullah ke darmiyaan waaqe' hai. (Bukhari:492)

Baab62: Imam ka sutrah muqtadiyon ke liye bhi hai.

312:Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ jab eid ke din (namaaz ke liye) nikalte to barchha ke muta'alliq hamen hukm dete woh aap ke

الصَّفْرَاوَاتِ، يَنْزِلُ فِي بَطْنِ ذَلِكَ الْمَسِيلِ عَنِ يَسَارِ الطَّرِيقِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إِلَى مَكَّةَ، لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ إِلَّا رَمِيَّةٌ بِحَجْرٍ. (رواه البخارى: ٣٩٠)

٣١٠ قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ، كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى، وَيَبِيتُ حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ يُصَلِّي الصُّبْحَ حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ عَلِيْظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بَنَى ثُمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكْمَةِ عَلِيْظَةٍ.

(رواه البخارى: ٣٩١)

٣١١ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتِي الْجَبَلِ، الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بَنَى ثُمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بَطْرِفِ الْأَكْمَةِ، وَمُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ أَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْأَكْمَةِ السُّودَاءِ، تَدْعُ مِنَ الْأَكْمَةِ عَشْرَةَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ تُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ، مِنَ الْجَبَلِ الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ. (رواه البخارى: ٣٩٢)

٦٢- بَابُ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلَفَهُ

٣١٢ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، أَمَرَنَا بِحِرَابَةٍ فَنَوَضِعُ

saamne gaad diya jaata aap uski taraf (munh karke) namaaz padhte aur log aap ke peechhe khade hote dauraan-e-safar bhi aap aisa hi karte chunaancheh (Musalmaanon) ke kuhlfaa ne iss wajah se barchha saath rakhne ki a'adat apnaali hai. (Bukhari:494)

Fawaaid: Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما izhaar-e-afsos karte hain ke un ru'osaa ne barchha bardaar to rakh liye hain lekin namaaz ko nazar andaaaz kardiya jo islam ki a'zeem nishaani hai.

313: Hazrat Abu Juhaifah رضى الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne waadi-e-Bat'ha mein logon ko namaaz padhaayi aur aap ke saamne nezah gaad diya gaya aap ne (safar ki wajah se) zohar ki do rakaten adaa kin isi tarah Asr ki bhi do rakatein padheen. aap ke saamne se auratain aur gadhe guzar rahe the. (Bukhari:495)

Fawaaid: Aap ke saamne guzarne ka matlab yeh hai ke nasab kardah sutrah ke aage auratein waghairah guzarti thin jaisa ke doosri rivaayat mein iski wazaahat hai. (As-salaat:499)

Baab 63: Namaazi aur sutrah mein faaslah ki miqdaar

314: Hazrat Sahal رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ki jaaye namaaz aur saamne ki diwaar ke darmiyaan iss qadar faasla tha ke ek bakri guzar sakti thi. (Bukhari:496)

Fawaaid: Maloom huwa ke namaazi ko sutrah ke qareeb khada hona chaahiye ek rivaayat mein namaazi aur sutrah ka darmiyaani faaslah 3 haath bataaya gaya hai.

Baab 64: Nezah ki taraf namaaz padhna.

315: Hazrat Anas رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab rafa-e-haajat ke liye nikalte to main aur ek ladka aapke peechhe saath jaate hamaare paas nok daar lakdi ya danda ya nezah hota aur paani ki chhaagal bhi humraah le jaate jab aap apni haajat se faarigh hote to hum chhaagal aap ko de dete. (Bukhari:500)

بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ، فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأَمْرَاءُ.

(رواه البخارى: ٤٩٤)

٣١٣: عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةٌ، الظُّهْرَ رُكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رُكْعَتَيْنِ، يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَوَاةُ وَالْحِمَارُ.

(رواه البخارى: ٤٩٥)

٦٣- بَابُ: قَدْرُ كَمْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْمُصَلِّيِّ وَالسُّتْرَةِ

٣١٤: عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُصَلِّيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمْرُ الشَّاةِ.

(رواه البخارى: ٤٩٦)

٦٤- بَابُ: الصَّلَاةُ إِلَى الْعَنزَةِ

٣١٥: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، تَبِعْتُهُ أَنَا وَعِظَامٌ، وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ، أَوْ عَصَا، أَوْ عَنزَةٌ، وَمَعَنَا إِدَاوَةٌ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلَنَا الْإِدَاوَةَ. (رواه البخارى: ٥٠٠)

Baab 65: Sutoon ki aad mein namaaz padhna.

316: Hazrat Salma bin Akw'a رضي الله عنه se rivaayat hai ke woh hamesha uss sutoon ko saamne karke namaaz padhte jahaan Qur'an kareem rakhkha rahta tha unse poochha gaya ke Aye Abu Muslim! tum iss sutoon ke qareeb hi namaaz padhne ki koshish kyun karte ho? unhon ne kaha main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko dekha woh koshish se is sutoon ko saamne karke namaaz padha karte the. (Bukhari:502)

Fawaaid: Yeh Hazrat Usmaan رضي الله عنه ke daur ki baat hai jab ke qur'an majeed sandooq mein mahfooz karke ek sutoon ke paas rakkha jaata tha aur iss sutoon ko istawaanatul mushaf kahte the isko istawaanatul muhaajireen bhi kahte the kyun ke muhaajireen wahaan jama hote the. (Awnul Bari:1/601)

Baab 66: Akele Namaazi ka do Sutoonon ke darmiyaan namaaz padhna.

317: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke kaba mein daakhil hone ki rivaayat hai ke jis waqt hazrat Bilaal رضي الله عنه baitullah se baahar aaye to main ne unse poochha ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne baitullah ke andar kya kiya? unhon ne bataaya ke aap ne ek sutoon ko to apni daayen jaanib aur ek ko baayen jaanib aur teen sutoonon ko apne aqab mein karliya. (phir aap ne namaaz padhi) uss waqt k'aba ki imarat 6 sutoon par thi ek rivaayat hai ke aap ne 2 sutoonon ko apni daayen jaanib kiya tha. (Bukhari:505)

Fawaaid: Ba'z rivaayaat mein hai ke sutoonon ke dermiyaan namaaz padhna mana hai yeh uss waqt jab jama'at ho rahi ho kyun ke aisa karne se saff bandi mein khalal aata hai. (Awnul Bari:1/602)

Baab 67: Sawaari oont, darakht aur paalaan ki taraf namaaz padhna

318: Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم apni sawaari ko chadaayi mein baithha dete phir uski taraf munh karke namaaz padhte the. Naafe' se poochha gaya ke jab sawaariyan charne

٦٥- بَابُ: الصَّلَاةِ إِلَى الْأَسْطُوَانَةِ

٣١٦: عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عِنْدَ الْأَسْطُوَانَةِ النَّبِيِّ عِنْدَ الْمُصْحَفِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، أَرَأَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ هَذِهِ الْأَسْطُوَانَةِ؟ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا. (رواه البخاري: ٥٠٢)

٦٦- بَابُ: الصَّلَاةِ بَيْنَ السَّوَارِي

فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

٣١٧: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدِيثُ دُخُولِ النَّبِيِّ ﷺ الْكَعْبَةَ قَالَ: فَسَأَلْتُ بِلَالَ حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ.

(رواه البخاري: ٥٠٥)

٦٧- بَابُ: الصَّلَاةِ إِلَى الرَّاحِلَةِ

وَالْبَعِيرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

٣١٨: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ يُعْرِضُ رَاحِلَتِهِ

ke liye chali jaatin to uss waqt kiya karte the to unhon ne kaha ke Aap uss paalaan ko saamne karlete aur uske aakhri ya pichhle hisse ki taraf munh karke namaaz padhte aur lbne Umar رضى الله عنهما ka bhi yahi amal tha.

(Bukhari: 507)

Baab 68: Chaarpaayi ki taraf (munh karke) namaaz padhna

319 : Hazrat Aayesha رضى الله عنها se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke tum logon ne to hamen gadhhen ke baraabar kar diya haalaanke main ne apne Aap ko dekha ke chaarpaayi par leti hoti Rasoolullah ﷺ tashreef laate aur chaarpaayi ko (apne aur qibla ke) darmiyaan kar lete phir namaaz padh lete the. mujhe Aap ke saamne hona bura ma'loom hota isliye paayenti ki taraf se khisak kar lihaaf se baahar ho jaati.

(Bukhari: 508)

Fawaaid: Hazrat Aayeshah رضى الله عنها logon ki iss baat par naaraaz hotin ke aurat namaazi ke aage se guzar jaaye to namaaz toot jaati hai jaisa ke kutte aur gadhe ke guzar ne se toot jaati hai. (Awnul Bari:1/604)

Baab 69: Namaazi apne saamne se guzarne waale ko rokega

320 : Hazrat Abu Sayeed Khudri رضى الله عنه se rivaayat hai ke woh jum'atul mubaarak ke din kisi cheez ko logon se sutrah bana kar namaaz padh rahe the ke Abu Mu'yeet ke beton mein se ek naujawaan ne unke sage se guzarne ki koshish ki, Hazrat Abu Sayeed رضى الله عنه ne uske seene se dhakel kar use rokna chaaha naujawaan ne chaaron taraf nazar daudaayi lekin aage se guzarne ke elaawah use koyi raasta na mila woh phir uss taraf se nikalne ke liye lautata to Hazrat Abu Sayeed Khudri رضى الله عنه ne pahle se ziyaadah zor daar dhakka diya, usne iss par Hazrat Abu Sayeed Khudri رضى الله عنه ko bura bhala kaha ba'd azeen woh Hazrat Marwaan رضى الله عنه ke paas pahunc

فِيصَلَّى إِلَيْهَا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ؟ قَالَ: كَانَ يَأْخُذُ هَذَا الرَّحْلَ فَيَعْدِلُهُ، فَيُصَلِّي إِلَى آخِرَتِهِ، أَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُهُ. (رواه البخارى: ٥٠٧)

٢٨- بَابُ: الصَّلَاةِ إِلَى السَّرِيرِ
٣١٩ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعَدَلْتُمُونَا بِالْكَئْبِ وَالْحِمَارِ؟ لَقَدْ رَأَيْتُنِي مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيرِ، فَيَجِيءُ النَّبِيُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيرَ فَيُصَلِّي، فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَبِّحَهُ، فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلِ رَجُلِي السَّرِيرِ حَتَّى أَنْسَلُ مِنْ لِحَافِي. (رواه البخارى: ٥٠٨)

٦٩- بَابُ يَرُدُّ الْمُصَلِّيَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ

٣٢٠ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، فَأَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَدَفَعَ أَبُو سَعِيدٍ فِي صَدْرِهِ، فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاعًا إِلَّا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَعَادَ لِيَجْتَازَ، فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى، فَقَالَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَشَكَا إِلَيْهِ مَا

gaya aur Abu Sayeed ﷺ se jo mu'aamlaah pesh aaya tha uski shikaayat ki aur Abu Sayeed ﷺ bhi uske peechhe Marwaan ﷺ ke paas pahunch gaye Marwaan ﷺ ne kaha janaab Abu Sayeed ﷺ! tumhaara aur tumhaare bhateejee ka kiya mu'aamla hai? Hazrat Abu Sayeed ﷺ ne farmaya main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate suna hai ke tum mein se koyi agar kisi cheez ko logon se sutrah bana kar namaaz padhe phir koyi uske saamne se guzarne ki koshish kare to use roke agar woh na ruke to usse lade kyun ke woh shaytaan hai. (Bukhari: 509)

Fawaaid:Ladne se muraad hathiyaar se qatl karna nahin balke guzarne wale ko sakhti se rokna hai.(Awnul Bari:1/606)

Baab 70: Namaazi ke aage se guzarne par way'eed

321 : Hazrat Abu Juhaim ﷺ se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya agar namaazi ke saamne guzarne waala yeh jaanta ho ke uss par kis qadar gunah hai to aage se guzarne ki bajaaye wahaan chaalees.....tak khade rahne ko pasand karta raaviye hadees kahte hain mujhe ma'lloom nahin ke chaalis din kahe ya maheene ya saal. (Bukhari: 510)

Fawaaid:Ek rivaayat mein chaalees saal ki saraahat hai balke sahih Ibne Hibbaan mein 100 saal aaya hai maloom huwa ke namaazi ke aage se guzarne haraam aur bahut bada gunah hai.(Awnul Bari:1/607)

Baab 71: Soye ke peechhe namaaz padhna

322 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ namaaz padhte rahte aur main (Aap ke saamne) bistar par arz ke bal soye rahti aur jab Aap witr padhna chaahate to mujhe jaga lete main bhi witr padh leti. (Bukhari: 512)

لَقِيَ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ ، وَ دَخَلَ أَبُو سَعِيدٍ خَلْفَهُ عَلَى الْمَرْوَانَ ، فَقَالَ : مَا لَكَ وَلَا بِنِ أَخِيكَ يَا أَبَا سَعِيدٍ؟ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَحْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَلْيَدْفَعْهُ ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) (رواه البخارى: ٥٠٩)

٤٠ - بَابُ : اِثْمُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْ

الْمُصَلِّي

٣٢١ : عَنْ أَبِي جُهَيْمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ) قَالَ الرَّائِي : لَا أَدْرِي ، أَقَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ شَهْرًا ، أَوْ سَنَةً . (رواه البخارى: ٥١٠)

٤١ - بَابُ : الصَّلَاةِ خَلْفَ النَّائِمِ

٣٢٢ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ ، مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فَرَأِشِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَتَيْتَنِي فَأَوْتَرْتُ .

(رواه البخارى: ٥١٢)

Baab 72: Dauraan-e-namaaz chhoti bachchi ko gardan par uthha lena

323 : Hazrat Abu Qataadah Ansaari رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم Hazrat Umamah رضی اللہ عنہا ko uthhaaye huye namaaz padh lete the jo Aap ki lakhte jigar Hazrat Zainab رضی اللہ عنہا aur Hazrat Abul A'as Bin Rabee' Bin Abde Shams ki beti thi jab sajdah karte to use utaar dete aur jab khade hote to use uthhaa lete (Bukhari: 516)

٤٢ - بَابُ : إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً

عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

٣٢٣ : عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم

كَانَ يُصَلِّي، وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ

زَيْنَبَ، بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وَهِيَ

لِأَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ

شَمْسٍ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ

حَمَلَهَا. (رواه البخاری: ٥١٦)

Fawaaid: Maloom huwa ke dauraan-e-namaaz bachche ko uthhane se namaaz faasid nahin hoti neez iss qadar amal qaleel namaaz ke manaafi nahin hai. (Awnul Baari:1/609)

Baab 73: Aurat ka namaazi ke badan se gandagi utaar phenkna

324 : Hazrat Abdullah Bin Masood رضي الله عنه se marvi hai yeh hadees (178) guzarchuki hai jis mein Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ka quraish ke liye baddu'a ka zikr hai jis din unhon ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم par bahaalate namaaz (ountni ki) ojhdii (bachche daani) daal di thi to (Hazrat Faatimah رضی اللہ عنہا ne use Aap se hataya tha) iss rivaayat ke aakhir mein yeh bhi zikr hai phir unko ghaseet kar badr ke kunwen mein daala gaya uske b'ad Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya uske kunwen waalon par la'nat ki gayi hai. (Bukhari: 520)

٤٣ - بَابُ : الْمَرْأَةِ تَطْرَحُ عَنْ

الْمُصَلِّي شَيْئًا مِنَ الْأَذَى

٣٢٤ : حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي دَعَاءِ

النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى فَرِيشٍ يَوْمَ وَضَعُوا

عَلَيْهِ السَّلَى، تَقَدَّمَ، وَقَالَ هُنَا فِي

آخِرِهِ: سَجَبُوا إِلَى الْقَلْبِ، ثُمَّ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: (وَأَتَبَعَ أَصْحَابُ

الْقَلْبِ لَعْنَةً) (رواه البخاری: ٥٢٠)

Fawaaid: Iss se maloom huwa aurat namaazi ke badan se najaasat waghairah door karsakti hai aur aisa karne se namaaz mein koyi khalal nahin aata



hamsaayon mein hota hai use to namaaz rozah sadqah khairaat aur amr bil ma'roof aur nahi anil munkar mita deta hai Hazrat Umar ؓ ne farmaya ke main uske muta'alliq nahin poochhna chaahta balke woh fitnah jo samandar ki tarah mojizan hoga Hazrat Huzaifah ؓ ne kaha Aye Ameerul mo'mineen! uss fitne se Aap ko koyi khatrah nahin hai? kyun ke uske aur Aap ke darmiyaan ek band darwaazah (haayil) hai Hazrat Umar ؓ ne farmaya bataao' woh darwaazah khola jaayega ya toda jaayega Hazrat Huzaifah ne kaha woh toda jaayega uss par Hazrat Umar ؓ goya huye to phir kabhi band na hoga. jab Hazrat Huzaifah ؓ se poochha gaya ke kiya Umar ؓ darwaaze ko Jaante the? unhon ne kaha "haan jaise aane waale din se pahle raat aati hai." main ne unse aisi hadees bayaan ki hai jo mu'ammah (cheestaan) nahin hai. Hazrat Huzaifah ؓ se darwaaze ki baabat poochha gaya to woh kahne lage ke yeh darwaazah khud Hazrat Umar ؓ the (Bukhari: 525)

Fawaaid: Hazrat Huzaifah ؓ ka matlab yeh tha ke hazrat Umar ؓ ko shaheed kardiya jaayega aur aap ki shahaadat se fitnon ka band darwaazah aisa khulega jo qiyaamat tak band nahin hoga bila shubah aisa hi huwa aap ke rukhsat hote hi tarah tarah ke fitne roonama hone lage.

327 : Hazrat Abdullah Bin Masood ؓ se rivaayat hai ke ek shakhs ne kisi aurat ka bosa le liya phir woh Rasoolullah ﷺ ke paas haazir huwa aur Aap se apna qusoor bayaan kiya to Allah Ta'ala ne yeh aayat naazil farmayi "Aye Paighambar ﷺ! din ke donon kinaaron aur raat gaye namaaz qaayim karo be shak nekiyan buraaiyon ko mita deti hain" woh shakhs kahne laga ya Rasoolallah ﷺ! kiya yeh mere hi liye hai? Aap ne farmaya balke meri tamaam ummat ke liye hai. (Bukhari: 526)

قَالَ: لَيْسَ هَذَا أَرِيدُ، وَلَكِنَّ الْفِتْنَةَ الَّتِي تَمُوجُ كَمَا يَمُوجُ الْبَحْرُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مَغْلَقًا، قَالَ: أَيُكْسَرُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: يُكْسَرُ، قَالَ: إِذَا لَا يَغْلُقُ أَبَدًا، قِيلَ لِحَدِيثِهِ: أَكَانَ عَمْرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا أَنَّ دُونَ الْعِدِّ اللَّيْلَةَ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ بِحَدِيثٍ لَيْسَ بِالْأَعْلِيَّطِ فُسِّلَ: مِنَ الْبَابِ؟ فَقَالَ: عَمْرُ.

(رواه البخارى: ٥٢٥)

٣٢٧: عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ، فَانزَلَ اللَّهُ: (وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ) فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْ هَذَا؟ قَالَ: (لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ).

(رواه البخارى: ٥٢٦)

Fawaaid: Aayat mein mazkoora buraaiyon se muraad sagheerah gunaah hain kyun ke hadees mein hai ke ek namaaz doosri namaaz tak gunaahon ka kaffarah hai jab tak woh kaberaah gunaahon se bacha rahe. (Awnul-Bari:1/616)

328: Hazrat Ibne Masood رضي الله عنه se hi ek doosri rivaayat mein yeh ezaafah hai, Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya yeh hukm meri ummat ke har us fard ke liye hai jisne iss par amal kiya.

(Bukhari: 4687)

Fawaaid: Yeh Ezaafah kitabut-tafseer hadees number 4687 mein hai.

Baab 3: Namaaz bar waqt padhne ki fazeelat.

329: Hazrat Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se poochha Allah ko konsa amal ziyaadah pasand hai? Aap ne farmaya namaaz ki bar waqt adaayegi Ibne Mas'ood رضي الله عنه ne poochha uske ba'd (konsa)? aap ne farmaya waaledain ki itaa'at, Ibne Mas'ood ne poochha uske ba'd? aap ne farmaya Allah ki raah mein jehaad karna, Ibne Mas'ood رضي الله عنه farmate hain ke aap ne mujh se isi qadar bayaan farmaya agar main aur poochhta to mazeed bayaan farmate. (Bukhari:527)

Fawaaid: Ba'z ahaadees mein doosre a'amaal ko afzal qaraar diya gaya hai uski wajah yeh hai ke Rasoolullah har shakhs ki haalat aur uski ist'edaad wa liyaaqat dekh kar uske liye jo kaam behtar hota bayaan farmate the.. (Awnul-Bari:1/618)

Baab 4: Paanchon Namaazein (Gunaahon ka) kaffarah hain

330: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se suna aap farmate hain ke agar tum mein se kisi ke darwaaze par koyi nahar ho jis mein woh har roz paanch martabah ghusl karta ho to kiya tum kah sakte ho ke phir bhi kuchh mail kuchail baaqi rahegi Sahaba Kiraam رضي الله عنهم ne arz kiya aisa karna zara bhi mail kuchail nahin chhodega aap ne farmaya ke paanchon namaazon ki yahi misaal hai Allah Ta'ala in ki wajah se gunaahon ko mita deta hai. (Bukhari:528)

Fawaaid: Sahih Muslim ki rivaayat ke mutaabiq gunaahon se muraad chhote gunaah hain namaaz ki barwaqt adaayegi se iss qism ka koyi gunaah baaqi nahin rahta.

Free downloading facility for DAWAH purpose only

۳۲۸ : وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ : (لَمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي)

(رواه البخارى: ۴۶۸۷)

۳- باب: فَضْلُ الصَّلَاةِ لَوْ قَتَبَهَا

۳۲۹ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ : أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ؟ قَالَ : (الصَّلَاةُ عَلَيَّ وَقَتَبَهَا). قَالَ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : (بِرُّ الْوَالِدَيْنِ) قَالَ : ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ : (الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) قَالَ : حَدَّثَنِي بِهِنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَوْ اسْتَزِدُّهُ لِرَأْدِنِي.

(رواه البخارى: ۵۲۷)

۴- باب: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ

۳۳۰ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ : ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ ذَرْبِهِ شَيْئًا، قَالَ : (فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا)

(رواه البخارى: ۵۲۸)

Baab 5:Namaazi apne rab se munajaat karta hai.

331:Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke aap ne farmaya sajdah achchhi tarah itmenaan se karo aur tum mein se koyi bhi apne baazuon ko kutte ki tarah na bichhaye aur jab thookna chahe to apne aage aur apni daayen jaanib na thooke kyun ke woh apne parwardigaar se munajaat kar raha hota hai.

(Bukhari:532)

Babb 6:Sakht garmi ki benaa par namaaz-e-zohar thhande waqt adaa karna.

332:Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh bayaan karte hain ke aap صلى الله عليه وسلم ne farmaya jab garmi ziyadah ho to namaaz- e-(zohar) thhande waqt padha karo kyun ke garmi ki shiddat jahannam ke josh se hoti hai, aag ne apne parwardigaar se shikaayat ki ke Aye mere rab! mere ek hisse ne doosre ko khaaliya to Allah ne use do martabah saans lene ki ijaazat di ek sardi mein doosra garmi mein iss wajah se mosam-e-garma mein tumhein sakht garmi aur mosam-e-sarma mein sakht sardi mahsoos hoti hai.

(Bukhari: 536,537)

Fawaaid:Thhanda karne se maqsood namaaz ka ba'd az zawaal adaa karna hai yeh matlab nahin hai saaya ke ek misl hone ka intezaar kiya jaaye kyun ke uss waqt namaaz-e-Asr ka waqt shuru ho jaata hai neez jahannam ke shikwe ko haqeeqat par mahmool karna chaahiye iski taweel karna durst nahin kyun ke Allah Ta'ala apni makhlooq mein se jise chaahye quwwat-e-goyaayi se musharraf kardeta hai.

333:Hazrat Abu Zar Ghifari رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke humraah ek safar mein the muazzin ne zohar ki azaan dena chaahi to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya waqt ko zara thhandha ho jaane do phir uss ne azaan dene ka iraadah kiya to aap ne phir farmaya waqt ko zara thhandha ho jaane do. yahaan tak ke hum ne teelon ka

٥ - باب الْمُصَلِّي يُنَاجِي رَبَّهُ

٣٣١: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَسْطُ (أَحَدُكُمْ) ذِرَاعِيهِ كَالْكَلْبِ، وَإِذَا بَزَقَ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ. (رواه البخارى: ٥٣٢)

٦ - باب: الإبراد بالظُّهْرِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ

٣٣٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، وَاشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا، فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلْ بَعْضِي بَعْضًا، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، نَفْسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسٍ فِي الصَّيْفِ، أَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، وَأَشَدَّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ). (رواه البخارى: ٥٣٦، ٥٣٧)

٣٣٣: عَنْ أَبِي ذَرِّ الْعِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ الْمُؤَدِّنُ أَنْ يُؤَدِّنَ لِلظُّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَبْرِدْ). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَدِّنَ، فَقَالَ لَهُ: (أَبْرِدْ). حَتَّى رَأَيْتَا فَيءَ

saaya dekha. (Bukhari:539)

التُّوْل. (رواه البخارى: ٥٣٩)

Fawaaid: Imam Bukhari ne iss hadees par yoon unwaan qaayim kiya hai, "Dauraane safar zohar ko thhande waqt mein adaa karna" iss se muraad aakhir waqt adaa karna nahin hai.

Baab 7: Zohar ka waqt zawaal-e-aaftaab par hai.

334: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek dafa Rasoolullah صلى الله عليه وسلم sooraj dhalne par baahar tashreef laaye, Zohar ki namaaz padh kar mimbar par khade huye to qiyaamat ka zikr krte huye farmaya, uss mein bade bade hawaadis honge phir aap ne farmaya jo shakhs kuchh poochhna chahta hai poochh le, jab tak main iss muqaam mein hoon mujh se jo baat pochhoge bataaunga log kasrat se girya karne lage lekin aap baar baar yahi farmate mujh se poochho to Abdullah bin Huzafah Sahmi رضي الله عنه khade hogaye unhon ne poochha mera baap kaun hai? aap ne farmaya tumhaara baap Huzafah hai phir aap ne farmaya mujh se poochho aakhir kaar Hazrat Umar رضي الله عنه (adab se) do zaanon baithh kar arz karne lage ke hum Allah ke rab haone, islam ke deen hone aur hazrat Muhammad صلى الله عليه وسلم ke paighambar hone par raazi hain iss par aap khaamoosh ho gaye. phir farmaya abhi diwaar ke us goshe mein mere saamne jannat aur dozakh ko pesh kiya gaya to main ne jannat ki tarah u'mdah aur dozakh ki tarah buri koyi cheez nahin dekhi iss hadees ka kuchh hissa (Raqam 81) kitabul ilm mein ba rivaayat Abu Moosa رضي الله عنه bayaan ho chuka hai lekin alfaaz ki ziyaadati aur kuchh tabdeeli ki wajah se yahaan dobaarah zikr ki gayi hai. (Bukhari:540)

باب: وَقْتُ الظَّهِرِ عِنْدَ الزَّوَالِ

٣٣٤: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، فَذَكَرَ أَنَّ فِيهَا أُمُورًا عَظِيمًا، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ شَيْءٍ إِلَّا أُخْبِرْتُكُمْ بِهِ، مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هَذَا). فَأَكْثَرَ النَّاسُ فِي الْبُكَاءِ، وَأَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: (سَلُونِي). فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ السَّهْمِيُّ فَقَالَ: مَنْ أَبِي؟ قَالَ: (أَبُوكَ حُدَافَةَ). ثُمَّ أَكْثَرَ أَنْ يَقُولَ: (سَلُونِي). فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، فَسَكَتَ. ثُمَّ قَالَ: (عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آتِفًا، فِي عُرْضِ هَذَا الْحَائِطِ، فَلَمْ أَرَ كَالْخَيْرِ وَالشَّرِّ قَدْ تَقَدَّمَ بَعْضُ هَذَا لِحَدِيثِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى لَكِنْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ زِيَادَةٌ وَمُغَايِرَةٌ الْفَاطِ (رواه البخارى: ٥٣٠)

Fawaaid: Hazrat Abdullah bin Huzafah رضي الله عنه ko log kisi aur ka beta kahte the lehaazah unhon ne haqeeqat-e-haal maloom karna chaahi Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke jawaab se woh bahut khush huye.

335: Hazrat Abu Barzah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم namaaz -e-Fajr aise waqt padhte ke aadmi apne

٣٣٥: عَنْ أَبِي بَرزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الصُّبْحَ

qareeb waale ko pahchaan leta aur aap namaaz mein 60 se 100 tak aayaat tilawat karte aur Zohar uss waqt padhte jab aaftaab dhal jaata aur Asr aise waqt padhte ke uske b'ad hum se koyi Madinah ke aakhri kinaare par waaqe' apni iqamat gaah mein waapas jaata lekin sooraj ki dhoop abhi tez hoti Hazrat Abu Barzah رضي الله عنه ne maghrib ke muta'alliq jo farmaya woh raavi bhool gaya hai aur tehaayi raat tak Isha ki taakheer mein aap ko koyi parwaah na hoti phir Abu Barzah رضي الله عنه ne (dobaarah) kaha nisf shab guzrane par padhte the. (Bukhari:541)

Baab 8: Namaaz-e-Zohar ko waqt-e-Asr tak moakhhkar karna.

336: Hazrat Ibn-e-Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne Madinah Munawwarah mein Zohar aur Asr ki 8 raka'ten aur Maghrib Isha ki 7 rak'aten (ek saath) padhin. (Bukhari:543)

Fawaaid: Digar Sahih rivaayaat mein safar, khauf, aur baarish waghairah ke na hone ki saraahat maujood hai mumkin hai ke kisi masroofiyat ki wajah se namaazon ko jama kiya ho mera zaati rujhaan iss taraf hai ke wa'z wa irshaad mein masroofiyat ki wajah se aapne aisa kiya jaisa ke muslim ki rivaayat mein iska ishaarah milta hai Imam Bukhari aur Nawaab Siddeeq Hasan Khan ka rujhaan jama Soori ki taraf hai.

Baab 9: Asr ka waqt

337: Hazrat Abu Barzah رضي الله عنه ki wahi hadees (335) jo namaazon ke baare mein pahle guzar chuki hai iss rivaayat mein Isha ke zikr ke ba'd yeh ezaafah hai ke aap Isha se pahle sone aur uske b'ad baaten kanre ko na pasand khayaal karte the. (Bukhari:547)

Fawaaid: Namaaz-e-Isha ke b'ad duniyawi baaton ko Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne naapasand farmaya hai albattah deeni baaten ki jaa sakti hai.

338: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai hunhon ne farmaya ke hum (Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saath) Asr ki namaaz padh lete phir koyi

وَأَحَدُنَا يَعْرِفُ جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ فِيهَا مَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ وَيُصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَأَحَدُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَنَسِيَ الرَّائِي مَا قَالَ فِي الْمَغْرِبِ، وَلَا يَبَالِي بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قَالَ: إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ.

(رواه البخارى: ٥٢١)

٨- باب: تأخير الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ
٣٣٦: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَتَمَانِيًا: الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ.

(رواه البخارى: ٥٢٣)

٩- باب: وَقْتُ الْعَصْرِ
٣٣٧: حَدِيثُ أَبِي بَرَزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي ذِكْرِ الصَّلَوَاتِ تَقَدَّمَ قَرِيْبًا وَقَالَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِمَا ذَكَرَ الْعِشَاءَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا.

(رواه البخارى: ٥٢٧)

٣٣٨: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَخْرُجُ

shakhs qabeelah Amr bin Auf tak jaata to unhen namaaz-e-Asr mein masroof paata.

(Bukhari:548)

الْإِنْسَانُ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ،
فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ.

(رواه البخارى: ٥٢٨)

Fawaaid:In rivaayaat se yahi maloom hota hai ke Rasoolullah ﷺ ke ahad-e-mubarak mein namaaz-e-Asr awwal waqt ek misl saaya hone par adaa ki jaati thi. (Awnul Bari: 1/631)

339: Hazrat Anas رضي الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ namaaz-e-Asr uss waqt padhte the jab aaftaab buland aur tez hota aur agar koyi a'waali tak jaata to unke paas aise waqt pahunch jaata ke sooraj abhi buland hota tha aur a'waali ke ba'z maqamaat Madinah se kam wa besh chaar meel par waqe' the. (Bukhrai:550)

٣٣٩: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً حَيَّةً، فَيَذْهَبُ الدَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِيهِمْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةً، وَبَعْضُ الْعَوَالِي مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ، أَوْ نَحْوِهِ. (رواه البخارى: ٥٥٠)

Baab 10: (Uss Shakhs ka gunaah jis se namaaz-e-Asr jaati rahe.

340: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jis shakhs se namaaz-e-Asr faut ho gayi goya uska sab ghar baar maal wa asbaab lut gaya.

(Bukhari:552)

١٠- باب: مَنْ فَاتَتْهُ الْعَصْرُ
٣٤٠: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الَّذِي تَفَوُّتَهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، كَأَنَّمَا وَتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ). (رواه البخارى: ٥٥٢)

Fawaaid:Yeh wa'yeed ghair daanistah taur par namaaz-e-Asr faut hone ke muta'alliq hai jab ke aayindah baab daanistah namaaz-e-Asr tark kardene ki wa'yeed par mushtamal hai.

Baab 11: Jis ne Namaaz-e-Asr (daanista) chhod di.

341: Hazrat Buraidah رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne ek abr aalood din mein farmaya ke Asr ki namaaz jaldi padhlo kuyn ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya hai ke jis ne Asr ki namaaz chhod di to yaqeenan uska nek a'amaal zaaye' ho gaya. (Bukhri:553)

١١- باب: مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ
٣٤١: عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ: بَكَرُوا بِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَطَّ حَبِطَ عَمَلُهُ). (رواه البخارى: ٥٥٣)

Fawaaid:A'amaal ke zaaye' hone ka matlab yeh hai ke a'amaal ke sawaab se mahroom rahega yeh sakht way'eed isliye hai ke namaaz-e-asr ka khusoosi hayaal rakkha jaaye.

Baab 12: Namaaz-e-Asr ki Fazeelat

342: Hazrat Jareer رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke paas the ke aap ne ek raat chaand ki taraf dekh

١٢- باب: فَضْلُ صَلَاةِ الْعَصْرِ
٣٤٢: عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ

kar farmaya be shak tum apne parwardigaar ko uss tarah dekhoge jaise iss chaand ko dekh rahe ho, use dekhne mein tumhein koyi diqqat na hogi lehaaza agar tum (Pa bandi) kar sakte ho ke tulu' wa ghuroob se pahle ki namaazon par (pa bandi karo aur shaytaan se) maghloob na ho jao to behtar hai phir aap ne yeh aayat tilaawat farmayi: "Sooraj nikalne aur uske ghuroob se pahle apne rab ki hamd ke saath uski tasbeeh karte raho". (Bukhari:554)

لَيْلَةً فَقَالَ: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ، كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ، لَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَيْهِ، فَإِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا). ثُمَّ قَرَأَ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾

(رواه البخارى: ٥٥٤)

343: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai Rasoolullah ﷺ ne farmaya kuchh farishte raat ko aur kuchh din ko tumhaare paas yake b'ad digar aate hain aur yeh tamaam fajr aur aur Asr ki namaaz mein jama ho jaate hain jab woh aasmaan par jaate hain to un se un ka parwardigaar poochhta hai haalaanke woh khud apne bandon se khoob waqif hai ke tum ne mere bandon ko kis haal mein chhoda hai? woh jawaab dete hain ke hum ne unhein namaaz padhte chhoda aur jab hum un ke paas pahunche the to bhi woh namaaz padh rahe the. (Bukhari:555)

٣٤٣: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (يَتَعَابُونَ فِيكُمْ: مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ الَّذِينَ يَأْتُوا فِيكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَآتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ). (رواه البخارى: ٥٥٥)

Baab 13: Jis shakhs ne ghuroob se pahle Asr ki ek raka't paali

344 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jab tum mein se koyi ghuroobe aaftaab se pahle Asr ki ek raka't paale to use chaahiye ke apni namaaz poori karle aur jo koyi tulu'e aaftaab se pahle fajr ki ek raka't paale to use bhi chaahiye ke apni namaaz poori karle. (Bukhari: 556)

١٣- باب: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ الْغُرُوبِ
٣٤٤: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ، قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيَتِمَّ صَلَاتِهِ، وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَلْيَتِمَّ صَلَاتَهُ). (رواه البخارى: ٥٥٦)

Fawaaid: Iss par aaimmah ka ittefaaq hai lekin ba'z hazraat ne kaha hai ke Asr ki namaaz to sahih hai lekin fajr ki namaaz sahih na hogi unki yeh baat sahih hadees ke khilaf hai.

345: Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne Rasoolullah ﷺ ko yeh

٣٤٥: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

farmate suna ke tumhaara (deen wa dunya mein) rahna pahli ummaton ke e'tebaar se aise hai jaise namaaz-e-Asr se ghuroobe aaftaab tak, ahle tauraat ko tauraat di gayi unhon ne uss par nisf din tak kaam kiya aur thak gaye to unhen ek ek qiraat diya gaya phir ahle Injeel ko injeel di gayi jo Asr ki namaaz tak kaam karke thak gaye to unhen bhi ek ek qiraat diya gaya uske b'ad hamen qura'n diya gaya to hum ne ghuroob-e-aaftaab tak kaam kiya uss par hamen do, do qiraat diye gaye pas un donon ahle kitab ne kaha Aye hamaare Parwardigaar toone musalmaanon ko do do qiraat diye aur hamen ek ek qiraat diya gaya haalaanke hum ne unse ziyaadah kaam kiya hai. Allah Ta'ala ne farmaya kiya main ne mazdoori dene mein tum par koyi ziyaadti ki hai? unhon ne arz kiya "nahin" to Allah ne farmaya phir yeh mera fazl hai jise chahta hon deta hoon.

(Bukhari: 557)

عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَّمِ، كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلَ التَّوْرَةِ التَّوْرَةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلَ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ عَجَزُوا، فَأَعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ، فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأَعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيُّ رَبَّنَا، أُعْطِيَتْ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ وَأَعْطِينَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا؟ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: هَلْ ظَلَمْتُمْ مَنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مِنْ أَسَاءٍ)

(رواه البخارى: ٥٥٧)

Fawaaid: Ba'z auqaat kisi kaam ke ek juzw par poori mazdoori mil jaati hai isi tarah agar koyi namaaz-e-Fajr ya Asr ki ek raka't paale use Allah bar waqt poori namaaz adaa karne ka sawaab de sakta hai. (Awnul Bari:1/644)

Baab 14: Maghrib ka waqt

346 :Hazrat Raafe' Bin Khadeej ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke saath maghrib ki namaaz padhte the aur jab hum mein se koyi waapas jaata (aur teer phenkta) to woh teer ke girne ki jagah ko dekh leta. (Bukhari: 559)

١٢ - باب: وَقْتُ الْمَغْرِبِ
٣٢٦ : عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْ نَصَلِي الْمَغْرِبِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، وَإِنَّهُ لَيَبْصُرُ مَوَاقِعَ نَبَلِهِ.

(رواه البخارى: ٥٥٩)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke ghuroob-e-aaftaab ke b'ad namaaz ki adaayegi mein taakheer nahin karna chaahiye digar ahaadees se yeh bhi saabit hai ke sahaaba kiraam ؓ azaan-e-maghrib ke b'ad do raka't bhi padhte the aur faraaghat ke b'ad teer andaazi karte uss waqt itna ujaala rahta ke apne teer girne ki jagah ko dekh lete. (Awnul Bari:1/645)

347: Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضى الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ Zohar ki namaaz thheek dopahar ko padhte Asr ki aise waqt jab aaftaab saaf aur tez hota aur maghrib ki jab aaftaab ghuroob ho jaata aur Isha ki kabhi kisi waqt aur kabhi kisi waqt jab aap dekhte ke log jama ho gaye to jald padh lete aur agar log der se jama hote to der se padhte aur subah ki namaaz aap ya sahaaba kiraam andhere mein padhte. (Bukhari:560)

Baab 15: Maghrib ko Isha kahne ki karaahat.

348: Hazrat Abdullah ﷺ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya aisa na ho ke namaaz-e-maghrib ke naam ke liye dehaati logon ka muhaawarah tumhaari zabaanon par chadh jaaye Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke dehaati maghrib ko Isha kahte the.

(Bukhari:563)

Fawaaid: Badwi log namaaz-e-maghrib ko Isha aur namaaz-e-Isha ko a'tmah se mausoom karte the Rasoolullah ﷺ ne hidaayat farmayi ke unhen maghrib aur Isha ke naam se hi pukara jaaye agar cheh b'az mawaaqe' par salaah-e-Isha ko salaah A'tmah bhi kaha gaya hai iss liye ise darjah jawaaz to diya jaa sakta hai ta hum behtar hai ke use lafz Isha hi se mausoom kiya jaaye. kyun ke qur'an majeed mein iske liye yahi naam ist'emaal huwa hai.

Baab 16: Namaaz-e-Isha ki fazeelat

349: Hazrat Aayeshah رضى الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne ek raat namaaz-e-Isha mein taakheer kardi aur yeh waqia' isha'at-e-Islam se pahle ka hai aap abhi ghar se tashreef nahin laaye the ke hazrat Umar ﷺ ne aakar arz kiya ke auraten aur bachche so rahe hai. tab aap baahar tahsreef laaye aur farmaya ahle zameen mein tumhaare elaawah koyi bhi iss namaaz ka muntazir nahin hai. (Bukhari:566)

Fawaaid: Maloom huwa ke namaaz-e-Isha mein taakheer karna ek pasandeedah amal hai khud Rasoolullah ﷺ ne tehaayi raat guzaarne par Isha padhne ki khaahish ka izhaar kiya .

۳۴۷ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةً، وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجِبَتْ، وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا، إِذَا رَأَهُمْ اجْتَمَعُوا عَجَلًا، وَإِذَا رَأَهُمْ أَبْطَأُوا الْآخَرَ، وَالصُّبْحَ - كَانُوا، أَوْ - كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بِهَا بَعْلَسَ.

(رواه البخارى: ۵۶۰)

۱۵ - باب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ

لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

۳۴۸ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَغْلِبَنَّكُمْ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ الْمَغْرِبِ). قَالَ: وَيَقُولُ الْأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ. (رواه البخارى: ۵۶۳)

۱۶ - بَابُ: فَضْلِ الْعِشَاءِ

۳۴۹ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً بِالْعِشَاءِ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَ الْإِسْلَامُ، فَلَمْ يَخْرُجْ حَتَّى قَالَ عَمْرٌ: نَامَ النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ: (مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرِكُمْ) (رواه البخارى: ۵۶۶)

350: Hazrat Abu Moosa رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main aur mere saathi jo kashti mein mere hamraah the waadi-e-bat'ha mein thahre huye the jab ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم Madinah Munawwarah mein qiyaam pazeer the to un mein se ek giroh baari baari har raat Isha ki namaaz ke waqt Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki khidmat mein haazir hota tha ittefaaq se ek martabah hum sab y'ani main aur mere saathi Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas gaye chunke aap kisi kaam mein masroof the iss liye Isha ki namaaz mein aap ne taakheer ki yahaan tak ke aadhi raat guzar gayi uske b'ad Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم baahar tashreef laaye aur logon ko namaaz padhaayi faraaghat ke b'ad haazireen se farmaya ke waqaar ke saath baithhe raho aur khush ho jaao kyun ke Allah Ta'ala ka tum par ehsaan hai ke tumhaare siwa koyi aadmi iss waqt namaaz nahin padhta ya iss tarah farmaya ke tumhare elaawah iss waqt kisi ne namaaz nahin padhi maloom nahin in donon jumlaah mein se kaunsa jumlaah aap ne Irshaad farmaaya. Hazrat Abu Moosa رضي الله عنه farmate hain ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se yeh baat sun kar hum khushi khushi waapas laut aaye.

(Bukhari:567)

Baab 17: Agar neend ka ghalbah ho to Isha se pahle so jaana

351: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se jo hadees (number 349) pahle bayaan huyi hai ke ek martabah Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne namaaz-e-Isha mein iss qadar taakheer kardi ke Hazrat Umar رضي الله عنه ne aakar Aap se arz kiya (Auratein aur bachche so rahe hain) yahaan iss rivaayat mein iss qadar ezaafah hai ke Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne farmaya Sahaaba kiraam رضي الله عنهم surkhi ghaayeb ho jaane ke b'ad raat ki pahli tehaayi tak (kisi waqt bhi) iss namaaz ko padh lete the. Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se ek rivaayat hai ke phir

٣٥٠ : عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَأَصْحَابِي الَّذِينَ قَدِمُوا مَعِيَ فِي السَّفِينَةِ نَزُولًا فِي بَيْعِ بَطْحَانَ، وَالنَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَتَنَوَّبُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عِنْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ نَفَرْنَا مِنْهُمْ، فَوَافَقَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَا وَأَصْحَابِي، وَلَهُ بَعْضُ الشُّغْلِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ، فَأَعْتَمَ بِالصَّلَاةِ حَتَّى أَتَاهَا اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فَصَلَّى بِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ: (عَلَى رِسْلِكُمْ، أَبْشِرُوا، إِنَّ مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ غَيْرُكُمْ). أَوْ قَالَ: (مَا صَلَّي هَذِهِ السَّاعَةَ أَحَدٌ غَيْرُكُمْ). لَا يَدْرِي أَيُّ الْكَلِمَتَيْنِ قَالَ، قَالَ أَبُو مُوسَى: فَرَجَعْنَا، فَرَحَى بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. (رواه البخاري: ٥٦٤)

١٤ - باب: التَّوَمُّ قَبْلَ الْعِشَاءِ لِمَنْ

غَلِبَ

٣٥١ : حَدِيثٌ : أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ تَقْدِمْ، وَفِي هَذَا زِيَادَةٌ، قَالَتْ: وَكَانُوا يُصَلُّونَ فِيمَا بَيْنَ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، كَأَنِّي أَنْظَرُ إِلَيْهِ الْآنَ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ

Rasoolullah ﷺ nikle goya main iss waqt Aap ki taraf dekh rahaa hoon ke Aap ke sar se paani tapak rahaa hai jabke Aap apna haath sar par rakkhe huye hain Aap ne farmaya agar main apni ummat par giraan na samajhta to hukm deta ke Isha ki namaaz iss tarah (iss waqt) padha karen. (Bukhari: 571)

Fawaaid: Iss hadees ka unwaan se iss tarah ta'alluq hai ke sahaaba kiraam taakheer ki wajah se namaaz se pahle so gaye the aise haalaat mein namaaz-e-Isha se pahle sona jaayiz hai basharte ke namaaz-e-Isha ba jamaa'at adaa ki jaa sake.

352: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se (sar par haath rakhne ki kaifiyat bhi) manqool hai ke Rasoolullah ﷺ apna haath sar par rakkha aur apni ungliyon ko kushaadah karke unke siron ko sarke ek jaanib par rakkha phir unhen mila kar sar par yoon pherne lage ke Aap ka angoothha kaan ki uss low se jo chehre ke qareeb hai aur daadhi se jaa laga na susti ki aur na jaldi balke iss tarah (jaisa ke main ne batlaya hai) (Bukhari: 571)

Baab 18: Isha ka waqt aadhi raat tak hai

353: Hazrat Anas رضی اللہ عنہ se bhi yeh hadees marvi hai aur uss mein unhon ne farmaya ke Aap ki Angoothhi ki chamak (ka samaan meri aankhon mein uss tarah hai) goya main iss raat bhi dekh raha hoon. (Bukhari: 572)

Fawaaid: Iss rivaayat mien yeh alfaaz bhi hain ke Rasoolullah ﷺ ne ek dafa namaaz-e-Isha ko nisf shab tak moakhhkar farmaya. (Mawaqaetus-salaat: 572)

Baab 19: Namaaz-e-Fajr ki Fazeelat

354: Hazrat Abu Moosa رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs do thhandi namaazen bar waqt padhega woh jannat mein daakhil hoga. (Bukhari: 574)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein tasreeh hai ke Fajr aur Asr ki namaaz muraad hai aur yeh donon thhande waqt mein adaa ki jaati hain. (Awunl Bari: 1/655)

مَاءٌ، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوَهَا هَكَذَا)

(رواه البخارى: ٥٧١)

٣٥٢: وَحَكَى ابْنُ عَبَّاسٍ: كَيْفَ وَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَمَا أَنبَأَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَبَدَّدَ لِي عَطَاءً بَيْنَ أَصَابِعِهِ شَيْئًا مِنْ تَبْدِيدٍ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذَلِكَ عَلَى الرَّأْسِ، حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الْأُذُنِ، مِمَّا يَلِي الْوَجْهَ عَلَى الصَّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللَّحْيَةِ، لَا يَقْصِرُ وَلَا يَبْطِشُ إِلَّا كَذَلِكَ. (رواه البخارى: ٥٧١)

١٨ - بَابُ: وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى

نِصْفِ اللَّيْلِ

٣٥٣: وَرَوَى أَنَسٌ فَقَالَ فِيهِ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِّ خَاتَمِهِ لَيْلَتِيذ.

(رواه البخارى: ٥٧٢)

١٩ - بَابُ: فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

٣٥٤: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)

(رواه البخارى: ٥٧٤)

Baab 20: Namaaz-e-Fajr ka waqt

355: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai un se Hazrat Zaid bin Saabit رضي الله عنه ne hadees bayaan ki ke Sahaba kiraam رضي الله عنهم ne ek martabah Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saath sehri khaayi phir namaaz ke liye khade ho gaye main ne un se poochha ke (sehri aur namaaz) in donon kamon mein kitna waqt tha uss ne jawaab diya ke 50 ya 60 aayaat (ki telaawat) ke baraabar. (Bukhrai:575)

Fawaaid: Iss hadees se yeh bhi saabit huwa ke sehri der se khana masnoon hai jo log raat hi khaa kar so jaate hain woh sunnat ke khilaaf karte hain.

356: Hazrat Sahal bin Sa'd رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main apne Ahl-o-A'yaal ke saath baithh kar sehri khaata phir mujhe jaldi pad jaati ke main fajr ki namaaz Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saath adaa karoon. (Bukhari:577)

Fawaaid: Iss se ma'loom huwa ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم namaaz-e-Fajr subah sawere andhere mein padh liya karte the zindagi bhar aapka yahi ma'mool raha. (Awnul Bari:1/657)

Baab 21: Namaaz-e-Fajr ke ba'd Aaftaab ke buland hone tak namaaz (ka hukm)

357: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mere saamne chand achche logon ne bayaan kiya jin mein sab se ziyaadah pasandeedah aur mo'tabar Hazrat Umar رضي الله عنه the ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne subah ki namaaz ke b'ad aaftaab ki raushni se pahle aur Asr ke b'ad ghuroob-e- aaftaab se pahle namaaz padhne se mana farmaya. (Bukhari:581)

Fawaaid: Saabit huwa ke mamnoo'ah auqaat mein namaaz padhna durust nahin albattah farzon ki qaza aur sababi namaaz padhi jaa sakti hai masalan tahiyatul masjid ki do rakat, namaaz-e-kusoof wa janaazah aur sajda-e-telaawat wa shukr waghairah. (Awnul Bari:1/658)

358: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya tuloo'-e-aaftaab aur ghuroob-e-aaftaab ke waqt apni namaazen adaa karne

٢٠ - بَابُ: وَقْتِ الْفَجْرِ
٣٥٥ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُمْ تَسَحَّرُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ. قُلْتُ: كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ قَدْرُ خَمْسِينَ أَوْ سِتِّينَ، يَعْنِي آيَةً.
(رواه البخارى: ٥٧٥)

٣٥٦ : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَتَسَحَّرُ فِي أَهْلِي، ثُمَّ يَكُونُ سُرْعَةً بِي، أَنْ أُذْرِكَ صَلَاةَ الْفَجْرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.
(رواه البخارى: ٥٧٧)

٢١ - بَابُ: الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ
٣٥٧ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رَجَالٌ مَرْضِيُونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عَمْرٌ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرِقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
(رواه البخارى: ٥٨١)

٣٥٨ : عَنْ ابْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا

ki koshish na kiya karo. (Bukhari:582)

359: Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما se hi ek rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jab aaftaab ka kinaarah tuloo' hone lage to namaaz mauqoof kardo ta aanke sooraj buland ho jaaye aur jab sooraj ka kinaarah doobne lage to namaaz mauqoof kardo ta aanke aaftaab poora chhup jaaye.

(Bukhari:583)

360: Hazrat Abu Hurairah ؓ ki hadees ke Rasoolullah ﷺ ne do qism ki khareed wa farokht aur do tarah ke libaas se mana farmaya yeh hadees (No 240) pahle guzar chuki hai magar iss rivaayat mein unhon ne kuchh ezaafah kiya hai ke do namaazon se bhi mana kiya hai namaaz-e-fajr ke b'ad har qism ki namaaz se ta aanke aaftaab achchhi tarah nikal aaye aur namaaz-e-Asr ke b'ad bhi yahaan tak ke sooraj ghuroob ho jaaye. (Bukhari:584)

Fawaaid: Din aur raat mein kuchh waqt aise hain jin mein namaaz adaa karna makrooh hai namaaz-e-fajr ke b'ad tuloo-e-aaftaab tak, namaaz-e-asr ke b'ad ghuroob-e-aaftaab tak, sooraj nikalne aur ghuroob hote waqt neez do pahar ke waqt jab sooraj aasmaan ke a'in dermiyaan mien hota hai haan agar farz namaaz qaza ho gayi ho to uska padh lena jaayez hai isi tarah fajr ki sunnaten agar namaaz se pahle na padhi jaa sakin to unhen bhi b'ad az jamaa'at padh sakata hai jo log jamaa'at hote huye sunnat-e-fajr padhte rahte hain woh hadees ki khilaaf warzi karte hain albattah Makkah Mukarramah in tamaam auqaat-e-makrooha se khaarj hai.

Baab 22: (Namaaz-e-Asr ke) ba'd ghuroob-aaftaab se pahle namaaz ka qasd na kare

361: Hazrat Mu'aawiyah ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke tum aisi namaaz padhte ho hum Rasoolullah ﷺ ke saath rahe hain lekin hum ne Rasoolullah ﷺ ko woh namaaz padhte nahin dekha balke aap ne to iski mumaania't farmayi hai. ya'ni Asr ke ba'd do rakaten. (Bukhari:587)

تَحَرُّوا بِصَلَاةِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا) (رواه البخارى: ٥٨٢)
 ٣٥٩ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَجْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَجْرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ).

(رواه البخارى: ٥٨٣)

٣٦٠ : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لَيْسَتَيْنِ، تَقَدَّمَ، وَزَادَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ: وَعَنْ صَلَاتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(ر: ٢٣٣) (رواه البخارى: ٥٨٢)

٢٢ - بَابُ: لَا يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ

٣٦١ : عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلَاةً لَقَدْ صَحِبْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَمَا رَأَيْنَاهُ يُصَلِّيهِمَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهُمَا. يَعْنِي: الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (رواه البخارى: ٥٨٤)

Baab 23: Asr ke ba'd Namaaz-e-Qaza aur iss tarah ki (sababi) namaaz padhna

362: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke qasam hai uss (Allah) ki jo Rasoolullah ﷺ ko dunya se le gaye aap ne Asr ke ba'd do raka'ten tark nahin farmaayin yahaan tak ke aap Allah se jaa mile aur aap ko wafaat se pahle (khade ho kar) Namaaz padhne mein dushwaari aayi to phir aksar namaaz ki adaayegi baithh kar farmaate the chunaancheh aap Asr ke ba'd do rak'at hamesha padha karte the lekin Masjid mein nahin padhte the. mabaadan aapki ummat par giraan ho kyun ke aap ko apni ummat ke haq mein takhfeef pasand thi. (Bukhari:590)

Fawaaid: Iss se yeh bhi maloom huwa ke Asr ke ba'd sunnaton ki qaza aur phir uska dawaam Rasoolullah ﷺ ki khusoosiyat mein daakhil hai.

363: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne do raka't Fajr se pahle aur do raka't Asr ke ba'd posheedah aur aashkaara donon haalaton mein kabhi tark na farmaayin. (Bukhari:592)

Fawaaid: Ya'ni Rasoolullah ﷺ khalwat wa jalwat mein in sunnaton ko adaa karte the.

Baab 24: Waqt guzar jaane ke ba'd (qaza namaaz ke liye) azaan dena

364: Hazrat Abu qataadah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ek shab Rasoolullah ﷺ ke saath safar kar rahe the kuchh logon ne kaha ya Rasoolallah ﷺ kaash Aap hum sab logon ke saath aakhir shab aaraam farmaayen. Aap ne farmaya mujhe dar hai ke namaaz ke waqt bhi tum soye huye na rah jaao. Hazrat Bilaal رضي الله عنه bole main sab ko jaga dunga chunaancheh sab log let gaye aur Hazrat Bilaal رضي الله عنه apni pusht apni ountni se laga kar baithh gaye magar

٢٣ - بَابُ مَا يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ

الْفَوَائِتِ وَنَحْوَهَا

٣٦٢ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلَاةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا، تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا، وَلَا يُصَلِّيهِمَا فِي الْمَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثْقَلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.

(رواه البخارى: ٥٩٠)

٣٦٣ : وَعَنْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: رَكْعَتَانِ، لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُهُمَا، سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً، رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (رواه البخارى: ٥٩٢)

٢٣ - بَابُ: الْأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ

٣٦٤ : عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: لَوْ عَرَسَتْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أَخَافُ أَنْ تَسْأَمُوا عَنِ الصَّلَاةِ) قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أَوْ قَطُّكُمْ فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَأْسِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ

jab unki aankhon par neend ka ghalbah huwa to so gaye phir Rasoolullah ﷺ aise waqt bedaar huye ke sooraj ka kinaarah nikal chuka tha Aap ne farmaya Aye Bilaal tumhaara qaul kahan gaya? wo bole aaj jaisi neend mujhe kabhi nahin aayi uss par Aap ne farmaya Allah Ta'ala ne jab chaaha tumhaari roohon ko qabz kar liya aur jab chaaha waapas kar diya, Aye Bilaal! uthho aur logon mein namaaz ke liye azaan do uss ke ba'd Aap ne wazoo kiya jab sooraj buland ho kar raushan ho gaya to Aap khade huye aur namaaz padhaayi. (Bukhari: 595)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke jis namaaz se so jaaye ya bhool jaaye phir bedaar hone par ya yaad aane par use padh le to namaaz qaza nahin balke adaa hogi kyun ke sahih ahaadees mein iska waqt wahi bataaya gaya hai ke jab woh bedaar ho ya use yaad aaye.

Baab 25: Waqt guzar jaane ke ba'd qaza namaaz ba jamaa'at adaa karna

365 : Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Hazrat Umar ؓ khandaq ke din Aap ki qiyaam gaah mein uss waqt aaye jab sooraj ghuroob ho chuka tha aur kuffaar-e-quraish ko bura bhala kahne lage. arz kiya ya Rasoolallah ﷺ sooraj ghuroob ho gaya aur namaaz-e-Asr mere liye padhna mumkin na raha Rasoolullah ﷺ ne farmaya Wallah Asr ki namaaz main bhi na padh saka phir hum ne waadiye Bat'haan ka rukh kiya Aap ne namaaz ke liye wazoo farmaya aur hum sab ne bhi wazoo kiya phir Aap ne ghuroobe aafaaab ke ba'd namaaz-e-Asr adaa ki uske ba'd maghrib ki namaaz padhaayi. (Bukhari: 596)

Fawaaid: Iss mein agarcheh ba jamaa'at adaa karne ki saraahat nahin taa hum aap ki aadat-e-mubaarak yahi thi ke logon ke saath jamaa'at se namaaz padhte balke ba'z ravaayat mein saraahat hai ke aap ne sahaaba ke saath namaaz adaa ki neez yeh bhi ma'loom huwa ke faut shudh namaazon ko tarateeb se adaa karna chaahiye.

Baab 26: Jo shakhs kisi namaaz ko bhool jaaye to jis waqt yaad aaye padh le

الشَّمْسِ، فَقَالَ: (يَا بِلَالُ، أَيْنَ مَا قُلْتِ؟). قَالَ: مَا أَلْقَيْتُ عَلَى نَوْمَةٍ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ، فَمُ فَاذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ). فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، قَامَ فَصَلَّى.
(رواه البخارى: ٥٩٥)

٢٥ - بَابُ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الْوَقْتِ
٣٦٥ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ التَّخْدِيقِ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مَا كَذَبْتُ أَصَلَّى الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتْ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتَهَا). فَقُمْنَا إِلَى بَطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهُ، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.
(رواه البخارى: ٥٩٦)

٢٦ - بَابُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا

366 :Hazrat Anas bin Maalik ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya jo shakhs namaaz bhool jaaye to yaad aate hi use padhle uska yahi kaffaarah hai farmane elahi hai. namaaz ko yaad aane par qaayem kijiye. (Bukhari: 597)

Fawaaid: Iss hadees se un logon ki tardeed maqsood hai jo kahte hain ke qaza shudrah namaaz do baarah padhi jaaye ek jab yaad aaye phir doosre din uske waqt par bhi adaa ki jaaye.

Baab 27:

367 :Hazrat Anas Bin Maalik ؓ se hi rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jab tak tum namaaz ki intezaar mein ho goya namaaz mein hi ho.

(Bukhari: 600)

Fawaaid: Imam Bukhari ne iss hadees par yoon u'nwaan qaayim kiya hai. "Namaaz- e-Isha ke ba'd ilmi aur khair khaahi par mabni guftagu ki jaa sakti hai" kyun ke iss hadees mein yeh alfaaz bhi hain ke Rasoolullah ﷺ ne namaaz-e-Isha ke ba'd logon ko khutba diya aur naseehat farmaayi.

Baab 28:

368 :Hazrat Anas ؓ hi se marvi ek aur hadees (96) jo ikhtetaam sadi se muta'alliq hai pahle guzar chuki hai iss baab mein Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se bhi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya aaj jo log zameen par hain in mein koyi baaqi nahin rahega is se Aap ka matlab tha ke(100 baras tak) yeh qarn khatm ho jaayega(Bukhari: 601)

Fawaaid: Chunanche aisa hi huwa aapke iss farmaan ke 100 saal ba'd koyi sahaabi zindah na raha aakhri sahaabi hazrat Abu-Tufail hain jo 110 hijri ko faut huye. (Awnul Bari:1/671)

369 : Hazrat Abdur-Rahmaan Bin Abi Bakr رضا اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Ashaabe Suffa naadaar log the aur Rasoolullah ﷺ ne (unke muta'alliq) farmaya tha ke jiske paas do aadmiyon ka khana ho woh (Ashaabe Suffa se) teesra aadmi le jaaye aur agar chaar ka ho to paanchwaan ya chhathha (unse le jaaye) chunaankeh Hazrat Abu Bakr Siddeeq ؓ apne saath teen aadmi le kar gaye aur khud Rasoolullah ﷺ

۳۶۶ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصِلْ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ: (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي)). (رواه البخارى: ۵۹۷)

باب ۲۷-

۳۶۷ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَمْ تَرَ الْوَافِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظَرْتُمْ الصَّلَاةَ).

(رواه البخارى: ۶۰۰)

باب ۲۸

۳۶۸ : حَدِيثُهُ : عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ، تَقَدَّمَ، وَفِي رِوَايَةٍ هُنَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ). يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَحْرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنَ.

(راجع: ۹۶) (رواه البخارى: ۶۰۱)

۳۶۹ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أَنَاسًا فَقَرَاءً، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثٍ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، وَأَنْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَشْرَةٍ، قَالَ: فَهُوَ أَنَا وَ أَبِي وَأُمِّي، فَلَا أُذْرِي

apne hamraah 10 aadmi le gaye Abdur-Rahmaan ؓ ne kaha ke ghar mein us waqt main aur mere waaledain the raavi kahta hai ke mujhe yaad nahin ke Abdur-Rahmaan ؓ ne yeh kaha yaa nahin ke main, meri ahliya aur ek khaadim bhi tha jo mere aur mere waalid ke ghar mushtarkah taur par kaam karta tha. khair Hazrat Abu Bakr ؓ ne Rasoolullah ﷺ ke ghar raat ka khana khaaliya aur thodi der ke liye wahaan thhahar gaye phir Isha ki namaaz padh li gayi aur laut kar phir thodi der thhahre yahaan tak ke Rasoolullah ﷺ ne shaam ka khana tanawul farmaya uske ba'd kaafi raat gaye apne ghar aaye to unki biwi ne kaha tum apne mehmaanon ya mehmaan ko chhod kar kahaan atak gaye the? woh bole kiya tumne unhen khaana nahin khilaya? unhon ne bataya ke Aap ke aane tak mahmaanon ne khaana khaane se inkaar kar diya tha. khaana pesh kiya gaya lekin woh na maane Abdur-Rahmaan ؓ kahte hain ke main to (maare khauf ke) kahin jaakar chhup gaya Hazrat Abu Bakr ؓ ne kaha Aye layeem! bahut sakht sust kaha aur khoob kosa phir mahmaanon se goya huye khaao' tumhein khushgawaar na ho aur kaha Allah ki qasam! main har giz na khaaun ga Abdur-Rahmaan kahte hain ke Allah ki qasam! hum jab luqmah lete to neechे se ziyaadah badh jaata ta'aanke sab mehmaan ser ho gaye aur jis qadar khaana pahle tha usse kahin ziyaadah bach gaya Hazrat Abu Bakr ؓ ne khaana dekha woh waise hi balke usse ziyaadah tha to Hazrat Abu Bakr ؓ ne apni ahliya se kaha aye qabeela bani feras ki bahan! yeh kiya maajra hai? unhon ne arz kiya aye meri aankhon ki thhandak! yeh khaana iss waqt pahle teen guna hai. balke phir usse bhi ziyaadah phir us mein se Hazrat Abu Bakr ؓ ne tanawul farmaya aur kaha

قَالَ: وَأَمْرَاتِي وَخَادِمٍ، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَى عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى تَعَشَى النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَلْتُ لَهُ أَمْرَاتَهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ؟ قَالَ: أَوْ مَا عَشَيْتِهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوَا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عَرَضُوا فَأَبَوَا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثُرُ، وَجَدَعٌ وَسَبٌّ، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيئًا لَكُمْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا، وَإِيمُ اللَّهِ، مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبًّا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَظَنَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ، فَقَالَ لِأَمْرَاتِهِ: يَا أُخْتُ بِنِي فِرَاسٍ، مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَفَرَّةٌ عَيْنِي، لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَارٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِ عَقْدٍ، فَمَضَى الْأَجَلَ، فَفَرَّقْنَا أَنِّي عَشَرَ رَجُلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ، أَوْ كَمَا قَالَ.

(رواه البخارى: ٦٠٢)

unki yeh qasam shaytaan ki taraf se thi ek luqma usse (mazed) khaaya aur baaqi maandah khaana Rasoolullah ﷺ ke paas uthha kar le gaye ke woh subah tak Aap ke paas pada raha (Abdur-Rahmaan ﷺ kahte hain) hamaare aur ek giroh ke darmiyaan kuchh ahad tha jiski muddat guzar chuki thi to hum ne 12 aadmi alaahidah alaahidah kar diye un mein se har ek saath kuchh aadmi the yeh to Allah hi jaanta hai ke har shakhs ke saath kitne kitne aadmi the un sab ne us mein se khaaya. (Abdur-Rahmaan ﷺ ne kuchh aisa hi kaha) (Bukhari: 602)

Fawaaid: Yeh hazrat Abu Bakr ﷺ ki karaamat thi karaamat-e-Auliya bar haq hain magar ahle bida't ne iss aad mein jo shaaksaana khada kiya hai woh khud saakhtah aur laa ya'ni hai Imam Bukhari ka maqsood yeh hai ke Isha ke ba'd apne ahl-o- a'yaal se baamaqsad guftagu ki jaa sakti hai. (Awnul Bari:1/671)



Azaan ke bayaan mein

Baab 1: Azaan ki ibtedaa

370: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai woh farmate hain ke jab musalmaan Madinah Munawwarah aaye to namaaz ke waqt ka andaazah karke uske liye jama huwa karte the kyun ke ba qayyidah azaan na de jaati thi. ek din unhon ne uske muta'alliq mashwarah kiya to kisi ne kaha ke eisaiyon ke tarah ek naaqoos (ghanta) bana liya jaaye aur kuchh logon ne kaha ke yahoodiyon ke sankh (bigul) ki tarah narsanga banaao magar Hazrat Umar رضي الله عنه ne farmaya ke tum ek aadmi ko kyun nahin muqarrar karte jo namaaz ke liye azaan de diya kare to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya Aye Bilaal Uthho aur namaaz ke liye azaan do. (Bukhari:604)

كِتَابُ الْأَذَانِ

١ - بَابُ: بَدءِ الْأَذَانِ

٣٧٠: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، يَجْمَعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ، لَيْسَ يُنَادِي لَهَا، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخَذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ بُوُقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (يَا بِلَالُ، فَمَنْ فَتَادِ بِالصَّلَاةِ).

(رواه البخارى: ٦٠٤)

Fawaaid: Iss se yeh bhi maloom huwa ke azaan khade hokar kahna chaahiyee neez ibne Maajah ki rivaayat mein hazrat Bilaal ke muta'alliq aap ne farmaya ke woh khush ilhaan aur buland aawaaz hai isliye moazzin ko iss khoobiyon se muttasif hona chaahiyee.

Baab 2: Azaan mein dohre kalimaat kahna

371: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Hazrat Bilaal رضي الله عنه ko yeh hukm diya gaya tha ke azaan mein juft kalimat kahe aur takbeer mein "Qad qaamati-s-salaat" ke elaawah digar kalimat taq kahe.

٢ - بَابُ: الْأَذَانُ مَثْنِي مَثْنِي

٣٧١: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَأَنْ يُؤْتَرَ الْأِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ.

(رواه البخارى: ٦٠٥)

(Bukhari:605)

Fawaaid: فَدَقَّامَتِ الصَّلَاةِ ko dobaarah isliye kaha jaata hai ke eqaamat ka maqsad inhi kalimaat se adaa hota hai woh yeh ke namaaz khadi ho gayi.

Baab 3: Azaan kahne ki Fazeelat

372: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya jab namaaz ke liye azaan kahi jaati hai to shaytaan gooz maarta huwa peethh pher kar bhaagta hai taake azaan ki aawaaz na sun sake aur jab azaan poori ho jaati hai to waapas aajaata hai phir jab namaaz ke liye eqaamat kahi jaati hai to phir peethh de kar bhaag nikalta

٣ - بَابُ: فَضْلِ التَّأْدِينِ

٣٧٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ، حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْدِينَ، فَإِذَا قَضَى النِّدَاءَ أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا تُوِّبَ

hai aur jab eqaamat khatm ho jaati hai to phir saamne aata hai taake namaazi aur uss ke dil mein waswasah daale aur kahta hai yeh baat yaad ker woh baat yaad kar y'ani woh baaten jo namaazi bhool gaya tha hatta ke namaazi bhool jaata hai ke uss ne kis qadar namaaz padhi hai?. (Bukhari: 608)

بِالصَّلَاةِ أَذْبَرَ، حَتَّى إِذَا قَضَى التَّوْبِيْبَ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، يَقُولُ: أَذْكَرُ كَذَا، أَذْكَرُ كَذَا، لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكَرُ حَتَّى يَظِلَّ الرَّجُلُ لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى). (رواه البخارى: ٦٠٨)

Fawaaid: Aaj be shumaar shaytaan numa insaan aise hain jo azaan ki aawaaz sun kar apne dunyaayi kaarobaar mein masroof rahte hain aur namaaz ke liye masjid mein haazir nahin hote aise logon ka kirdaar shaytaan se kam nahin hai. (Al-Ay'azu Billah)

Baab 4: Ba aawaaz buland azaan kahna

373: Hazrat Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko suna aap farma rahe the ke moazzin ki aawaaz ko jo jin wa ins ya aur koyi sunta hai woh uske liye qiyaamat ke din shahaadat de ga. (Bukhari:609)

٣- بَابُ: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْبُلْدَاءِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (أَنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَدِّنِ، جَنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ، إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (رواه البخارى: ٦٠٩)

Fawaaid: Iss hadees mein buland aawaaz se azaan kahne ki fazeelat saabit hoti hai khaah jungal mein hi kyun na ho yeh khayaal na kiya jaaye yahaan se koyi haazir hone waala nahin lehaaza aahista kah di jaaye. (Awnul Bari:1/682)

Baab 5: Azaan sun kar qitaal wa khoon rezi se ruk jaana

374: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke hum jab Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saath kisi se jehaad karte to hum hamlah na karte ta aanke subah ho jaaye phir agar azaan sun lete to hamlah ka iraadah tark kardete aur agar azaan na sunte to un par ghaarat giri karte.

٥- بَابُ: مَا يُحَقِّنُ بِالْأَذَانِ مِنَ الدِّمَاءِ ٣٤٣: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا قَوْمًا، لَمْ يَكُنْ يَغْزُو بِنَا حَتَّى يُصْبِحَ وَيَنْظُرَ: فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْهُمْ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ أَذَانًا أَغَارَ عَلَيْهِمْ.

(Bukhari:610)

(رواه البخارى: ٦١٠)

Fawaaid: Azaan Islam ki ek bahut badi nishaani hai iska chhodna kisi soorat mein jaayez nahin jis basti se azaan ki aawaaz buland ho islam uss basti ke baashindagaan ke maal wa jaan ki zamaanat deta hai agar basti waale azaan kahna chhod dein to unke khilaaf jehaad karna durust hai. (Awnul Bari:1/685)

Baab 6: Azaan sun kar kiya kahna chaahiye

375: Hazrat Abu Say'eed Khurdri رضي الله عنه se rivaayat hai ke Raoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya jab tum azaan suno to wahi kalimaat kaho jo moazzin kah raha hai. (Bukhari:611)

٦- بَابُ: مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ ٣٤٥: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا

يَقُولُ الْمَرْدَنُّ (رواه البخارى: ٦١١)

Fawaaid: Maloom huwa ke azaan se pahle tasbeeh wa tahtleel yaa salaah wo salaam padhna jaayiz nahin.

376: Hazrat Mua'awiyah رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne Ashhadu Anna Muhammadar Rasoolullah tak Moazzin ki tarah kaha mager jab moazzin ne (Hay A'alas salaah) kaha to unhon ne (laa haw laa walaa quwwata illaa billaah) kaha aur bataaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko is tarah kahte suna hai. (Bukhari:612)

Baab 7: Azaan ke waqt du'a padhna

377: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jo shakhs azaan sunte waqt yeh du'a padhe Aye Allah! jo iss kaamil pukaar aur qaayem hone waali namaaz ka maalik hai. Hazrat Muhammad ﷺ ko waseela aur buzrug i ataa karke unhen maqaam-e-mahmood par pahuncha jiska toone un se wa'da kiya hai. to use qiyaamat ke din meri shafaa'at naseeb hogi. (Bukhari:614)

Fawaaid: B'az logon ne iss masnoon dua' mein apni taraf se kuchh alfaaz badha liye hain aisa karna shara'n jaayiz nahin hai.

Baab 8: Azaan kahne keliye Qura' Andaazi karna

378: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya agar logon ko maloom ho jaaye ke azaan aur saf-e-awwal mein kiya sawaab hai phir apne liye qura' daalne ke elaawah koyi chaarah na paayen to zaroor qura' andaazi karen aur agar logon ko ilm ho ke namaaz-e-zohar ke liye jaldi aane mein kitna sawaab hai to zaroor sabqat karen aur agar jaan lein ke Isha aur Fajr baa jamaa'at adaa karne mein kiya sawaab hai to zaroor in donon (ki jamaa'at) mein aayen

٣٧٦ : عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: (وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ). وَلَمَّا قَالَ: (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ) وَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْنَا نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ. (رواه البخارى: ٦١٢)

٤ - بَابُ: الدُّعَاءِ عِنْدَ النَّدَاءِ

٣٧٧ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النَّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدَانَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا نَ الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ). (رواه البخارى: ٦١٣)

بَابُ: الاسْتِهَامِ فِي الْأَذَانِ

٣٧٨ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَا يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهْمُوا عَلَيْهِ لَا اسْتَهْمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي النَّهْجِجِرِ لَأَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا). (رواه البخارى: ٦١٥)

agarche ghutnon ke bal chal kar aana pade.(Bukhari:615)

Baab 9: Andhe ko agar koyi waqt bataane waala ho to uska azaan kahna

379: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya Bilaal raat ko azaan dete hain isliye tum (rozah ke liye) khaate peete raho ta aanke ibne Umme Maktoom ﷺ azaan den raaviye hadees kahte hain ke Ibne Maktoom ﷺ ek naabeena aadmi the uss waqt tak azaan na dete yahaan tak ke use kaha jaata subah hogayi suabah ho gayi. (Bukhari:617)

٩- بَابُ: أَذَانَ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ لَهُ مَنْ يُخْبِرُهُ

٣٧٩: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ بِلَالَ لَا يُؤَدِّنُ بَلِيلٍ، فَكَلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنَ أُمَّ مَكْتُومٍ). قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ.

(رواه البخارى: ٦١٧)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ke ahad-e-resaalat se hi sehri ki azaan kahne ka dastoor chala aaraha hai jo log iss azaan-e-awwal ki mukhaalifat karte hain unka moqif sahih nahih hai albatta use azaan-e-tahajjud khayaal karna chaahiye kyun ke iska maqsad yoon bayaan huwa ke tahajjud guzaar ghar waapas chala jaaye aur sone wala bedaar ho kar namaaz ki tayyaari kare aur na hi use azaan-e-fajr se bahut pahle kahna chaahiye.

Baab 10: Tulu'-e-Fajr ke b'ad azaan dena

380: Hazrat Hafsah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ki aadat thi ke jab moazzin subah ki azaan ke liye khada ho jaata aur subah numaayan ho jaati to aap farz namaaz khadi hone se pahle halki si do raka'ten padh liya karte the. (Bukhari:618)

١٠- بَابُ: الْأَذَانَ بَعْدَ الْفَجْرِ
٣٨٠: عَنِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا اغْتَسَفَ الْمُؤَدِّنُ لِلصُّبْحِ، وَبَدَأَ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ. (رواه البخارى: ٦١٨)

Fawaaid: Yeh fajr ki sunnaten thin jinhen aap safar wa hazar mein zaroor adaa karte the. (Awnul Baari:1/691)

Baab 11: Subh-e-Saadiq se pahle azaan kahna

381: Hazrat Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain aap ne farmaya tum mein se koyi Bilaal رضي الله عنه ki azaan sun kar sehri khaana tark na kare kyun ke woh raat ko azaan kah deta hai taake tahajjud padhne waala (Aaraam ke liye) laut jaaye aur jo abhi soya huwa hai use bedaar karde Fajr aise nahin hai aur aap ne apni ungliyon se ishaarah karte huye pahle unko oupar athhaya phir aahistah neeche ki

١١- بَابُ: الْأَذَانَ قَبْلَ الْفَجْرِ
٣٨١: عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ، أَذَانَ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ أَوْ يُنَادِي بَلِيلٍ، لِيَرْجِعَ فَاتِمُّكُمْ، وَلِيُنَبِّئَهُ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ الْفَجْرُ، أَوْ الصُّبْحُ). وَقَالَ بِأَصَابِعِهِ، وَرَفَعَهَا إِلَى فَوْقِ، وَطَأَّ

taraf jhukaya phir farmaya ke fajr iss tarah hoti to aap ne apni donon shahaadat ki ungliyaan ek doosre ke oupar rakh kar unhein daayein baayein phaila diya (y'ani donon goshon mein raushni phail jaaye to subah hoti hai. (Bukhari:621)

Baab 12: Azaan aur Takbeer ke darmiyaan apni marzi se (nafil) namaaz padhna.

382: Hazrat Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne 3 martabah farmaya har do azaan ke darmiyaan namaaz hai agar koyi padhna chahe ek aur rivaayat mein hai ke aap ne farmaya har do azaan ke darmiyaan ek namaaz hai har do azaan ke darmiyaan namaaz hai phir teesri dafa farmaya agar koyi padhna chahe. (Bukhari:627)

Baab 13: Safar mein chaahiye ke ek hi muazzin azaan de

383: Hazrat Maalik bin Huwairis رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke main apni qaum ke chand aadmiyon ke hamraah Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki khidmat mein haazir huwa aur 20 raaten aap ke paas hamaara qiyaam raha aap intehaayi rahamdil aur bade milansaar the jab aap ne dekha ke hamaara ishtiyaaq ghar waalon ki taraf hai to irshaad farmaya ke apnhe ghar laut jaao, apne ahl-e-khana ke saath raho, unhen deen ki taleem do aur namaaz padha karo, azaan ka waqt aaye to tum mein koyi azaan kah de aur tum mein se jo bada ho woh imaamat karaaye.

(Bukhari:628)

Fawaaid: Imam Bukhari ka maqsad yeh hai ke safar mein subah ki do azaanen na kahi jaayein balke ek azaan hi kaafi hai.

384: Hazrat Maalik bin Huwairis رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke do shakhs (khud Maalik aur unke ek rafeeq) Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki khidmat mein haazir huye woh safar karna chaahate the to un se Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya jab tum safar ke liye niklo aur namaaz ka waqt aa jaaye to azaan dena aur eqaamat kahna

وَطَأُ إِلَى أَسْفَلَ: (حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا).
يُشِيرُ بِسَبَابَتَيْهِ، إِحْدَاهُمَا فَوْقَ
الْأُخْرَى، ثُمَّ مَدَّهُمَا عَنْ يَمِينِهِ
وَشِمَالِهِ. (رواه البخارى: ٢٢١)

١٢- بَابُ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ
لِمَنْ شَاءَ

٣٨٢: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمَزْنِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم
قَالَ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، بَيْنَ
كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ:
لِمَنْ شَاءَ) (رواه البخارى: ٢٢٤)

١٣- بَابُ: مَنْ قَالَ: لِيُوَدِّنْ فِي

السَّفَرِ مُوَدِّنٌ وَاحِدٌ

٣٨٣: عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم
فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ
عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَجِيمًا رَفِيقًا،
فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلَانَا، قَالَ:
(ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ،
وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُوَدِّنْ
لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَوْمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ).
(رواه البخارى: ٢٢٨)

٣٨٤: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ:
أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُرِيدَانِ
السَّفَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم: (إِذَا أَنْتَمَا
خَرَجْتُمَا، فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَوْمِّكُمْ
أَكْبَرُكُمْ). (رواه البخارى: ٢٣٠)

phir donon mein woh imamat karaaye jo (Umr) mein bada ho.(Bukhari:630)

Baab 14: Musafir agar ziyaadah hon to azaan aur eqaamat kahni chaahiye

385:Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ba haalat-e-safar sardi ya baarish ki raat muazzin ko hukm farmate ke azaan do aur uske b'ad awaaz de do ke apne apne thhekaanon mein namaaz padh lo. (Bukhari:632)

۱۴-باب: الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ لِلْمُسَافِرِ
إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً

۳۸۵: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَدِّنًا يُؤَدِّنُ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَىٰ آثَرِهِ: (الَّا صَلَّىٰ فِي الرَّجَالِ) فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ، أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ.

(رواه البخارى: ۶۳۲)

Fawaaid:Yeh hukm safer ki haalat mein, sardi ya barsaat ki raaton ke liye hai aise haalaat mein jamaa'at ka ehtemaam bhi kiya jaa sakta hai. (Awnul Baari:1/698)

Baab 15: Aadmi ka yeh kah dena ke hamaari namaaz faut hogayi

386:Hazrat Abu Qataadah رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke saath namaaz padh rahe the itne mein aap ne kuchh logon ka shor suna jab aap namaaz se faarigh huye to farmaya ke tumhaara kiya haal hai? unhon ne arz kiya hum ne namaaz mein shumooliyat ke liye bahut jaldi ki to aap ne farmaya aaindah aisa na karna balke jab namaaz ke liye aao to waqaar aur sukoon ko malhoor rakkho aur jis qadar namaaz mile padh lo aur jo rah jaaye (use b'ad mein) poora karlo. (Bukhari:635)

۱۵-بَابُ: قَوْلِ الرَّجُلِ فَاتَتْنَا
الصَّلَاةَ

۳۸۶: عَنِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيٰ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ سَمِعَ جَلْبَةَ الرَّجَالِ، فَلَمَّا صَلَّىٰ قَالَ: (مَا شَأْنُكُمْ). قَالُوا: اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: (فَلَا تَفْعَلُوا إِذَا أُتِيتُمُ الصَّلَاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا). (رواه البخارى: ۶۳۵)

Baab16: Eqaamat ke waqt log imam ko dekh kar kab khade hon?

387:Hazrat Abu Qadaadah رضى الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jab namaaz ki eqaamat kahi jaaye to tum us waqt tak khade na ho jab tak mujhe aata dekh na lo. (Bukhari:637)

۱۶-بَابُ: مَتَى يَقُومُ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا
الْإِمَامَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

۳۸۷: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّىٰ تَرَوْنِي).

(رواه البخارى: ۶۳۷)

Fawaaid:Maloom huwa ke jab imam masjid mein na ho to phir imam ke aane se pahle namaazi khade na hon balke use dekhne ke b'ad namaaz ke liye uthhen.

Baab 17: Takbeer ke b'ad Imam ko agar koyi zaroorat pesh aajaaye

388: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek dafa namaaz ki eqaamat ho gayi aur Rasoolullah ﷺ Masjid ke ek goshe mein kisi se aahista aahista baatein kar rahe the aur aap namaaz ke liye nahin khade huye yahaan tak ke kuchh logon ko neend aane lagi. (Bukhari:642)

Baab 18: Namaaz ba Jamaa'at ka farz hona

389: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Qasam hai uss zaat ki jis ke haath mein meri jaan hai! main ne iraadah karliya tha ke lakdiyaan jamaa karne ka hukm doon phir namaaz ke liye azaan kahoon phir kisi shakhs ko hukm doom ke woh logon ka imam bane aur khud main un logon ke paas jaaoun (jo jamaa'at mein haazir nahin hote) phir unhein unke gharon samet jalaa doon. Qasam hai uss zaat ki jis ke haath mein meri jaan hai! agar in mein kisi ko yeh maloom ho jaaye ke woh (Masjid mein) moti haddi ya do umdah gosht waali haddiyan paayega to Isha ki namaaz mein zaroor haazir ho. (Bukhari:644)

Baab 19: Namaaz bajamaa'at ki Fazeelat

390: Hazrat Adbullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya namaaz ba jamaa'at akele shaks ki namaaz se 27 darje ziyaadah fazeelat rakhti hai.

(Bukhari: 645)

Fawaaid: Namaaz ba jamaa'at padhne waalon ke ekhlaas wa taqwa aur khushu' mein tafaaut ki wajah se sawaab mein bhi kami wa beshi hoti hai yahi wajah hai ke agli rivaayat mein 25 darjaat ka zikr hai. (Awnul Baari:1/706)

١٧- بَابُ: الْأِمَامُ تُعْرَضُ لَهُ

الْحَاجَةُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ الْمَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ. (رواه البخارى: ٦٤٢)

١٨- بَابُ: وَجُوبِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

٣٨٩: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِحَطَبٍ لِيُحَطَّبَ، ثُمَّ أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَدَّنُ لَهَا، ثُمَّ أُمَرَ رَجُلًا فَيَوْمُ النَّاسِ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رَجَالٍ فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرَقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ).

(رواه البخارى: ٦٤٤)

١٩- بَابُ: فَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

٣٩٠: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدْيِ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً). (رواه البخارى: ٦٤٥)

Baab 20: Fajr ki namaaz ba jamaa'at padhne ki Fazeelat

391: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko yeh farmate huye suna hai namaaz ba jamaa'at tanha ki namaaz se sawaab mein 25 darje ziyaadah hai aur raat din ke farishte namaaz-e-fajr mein jama hote hain phir hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه ne kaha agar chaaho to yeh aayat phad lo fajr mein qru'an ki tilaawat par farishte haazir hote hain. (Bani Israyeel:78). (Bukhari:648)

392 : Hazrat Moosa عليه السلام se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya sab se ziyaadah namaaz ka sawaab ush shakhs ko milta hai jo (Masjid tak) door se chal kar aata hai phir (darja badarja) woh jo sabse ziyaadah masaafat tay karke aata hai aur jo shakhs muntazir rahe ke Imam ke saath namaaz padhe uska sawaab ush shakhs se ziyaadah hai jo jaldi se (pahle hi) namaaz padh kar so jaata hai. (Bukhari: 651)

Fawaaid: Iss hadees ka unwaan se ta'alluq iss tarah hai ke jaise door se aane wale ko mushaaqat ki wajah se ziyaadah sawaab milta hai so aise hi namaaz-e-fajr Umooman shaaq guzarti hai jiski wajah se ziyaadah sawaab ki haamil hai.

Baab 21: Namaaze Zohar awwal waqt padhne ki fazeelat

393 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ek shakhs raaste mein jaa raha tha ke usne kaanton bhari tehni dekhi to use hata diya Allah Ta'ala ko uska yeh kaam pasand aaya aur use bakhsh diya phir Aap ne farmaya ke shaheed paanch qism ke log hain taa'oon mein marne waale, pet ke aariza se marne waale, doob kar marne waale, dab kar marne waale, aur Allah ki raah mein jehaad karte

٢٠- بَابُ: فَضْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ فِي

جَمَاعَةٍ

٣٩١: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمِيعِ صَلَاةِ أَحَدِكُمْ وَحَدَهُ، بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا، وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ). ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَأَقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾.

(رواه البخارى: ٦٢٨)

٣٩٢: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أْبَعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْسُوسِي، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ، حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّي ثُمَّ يَنَامُ).

(رواه البخارى: ٦٥١)

٢١- بَابُ: فَضْلِ التَّهَجِيرِ إِلَى الظُّهْرِ

٣٩٣: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غَضْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَعَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَّرَ لَهُ). ثُمَّ قَالَ: (الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِيقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ

huye shaheed hone waale Hadees ka baaqi hissa (378) pahle guzar gaya hai.

(Bukhari: 652)

فِي سَبِيلِ اللَّهِ). (وباقى الحديث

تقدم (رواه البخارى: ٢٥٢)

Fawaaid: Isi hadees ke ba'z turq mein hai ke logon ko ager maloom ho jaaye ke namaaz-e-zohar ke liye jaldi aane ka kitna sawaab hai to zaroor sabqat karein. (Al-Azaan:654)

Baab 22: Masjid jaate waqt har qadam par sawaab ki niyyat karna

394 : Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Bani Salma ne naqal-e-makaani karke Rasoolullah ﷺ ke qareeb rahne ka iraadah kiya to Rasoolullah ﷺ ne unhein na pasand farmaya ke Madinah ko wiraan karden. chunaancheh Aap ne (targheeb dete huye) farmaya ke tum apne qadmon ke badle sawaab ke talabgaar kyun nahin ho?. (Bukhari: 656)

٢٢ - بَابُ : اِحْتِسَابِ الْاَثَارِ
٣٩٤ : عَنْ اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ بَنِي سَلَمَةَ اَرَادُوا اَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَارِلِهِمْ ، فَيَنْزِلُوا قَرِيْبًا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ : فِكْرَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنْ يُعْرُوا الْمَدِيْنَةَ ، فَقَالَ : (اَلَا تَحْتَسِبُوْنَ اَثَارَكُمْ) . (رواه البخارى: ٢٥٦)

Baab 23 : Namaaze Isha ba jamaa'at adaa karne ki fazeelat

395 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya fajr aur Isha ki namaaz se ziyaadah aur koyi namaaz munaafiqeen par giraan nahin hai, agar woh jaan len ke in donon mein kiya sawaab hai? to inke liye aayen agarcheh ghutnon ke bal chalkar aana pade. (Bukhari: 657)

٢٣ - بَابُ : فَضْلِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ
٣٩٥ : عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَيْسَ صَلَاةٌ اَثْقَلُ عَلٰى الْمُنَافِقِيْنَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ فِيْهِمَا لِاَنُوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًّا) (رواه البخارى: ٢٥٧)

Fawaaid: Maloom huwa ke Isha aur fajr ki jamaa'at deegar namaazon ki jamaa'aton se ziyaadah fazeelat rakhti hai. (Awnul Baari:1/712)

Baab 24: Masaajid aur un mein namaaz ke intezaar mein baithne ki fazeelat

396: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya saat qism ke logon ko Allah Ta'ala apne saaya mein jagah dega jis roz uske saaya ke elaawah koyi aur saaya na hoga insaaf karne waala hukmaraan woh naujawaan jo apne rab ki ibaadat mein parwaan chadhe woh shakhs jiska dil masjidon mein atkaa rahta ho woh do shakhs jo Allah ke liye dosti karein jama' hon to isliye juda ho to isliye woh shakhs jise koyi khoobaru aur mu'azzaz aurat buraayi ki

٢٤ - بَابُ : مَنْ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ وَفَضِلَ الْمَسَاجِدِ
٣٩٦ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ ، يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّهُ : الْاِمَامُ الْعَادِلُ ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ ، وَرَجُلٌ طَلَبْتُهُ ذَاثَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ ،

da'wat de aur woh kahde ke main Allah se darta hoon woh shakhs jo iss qadar posheedah taur par sadqa de ke uske baayen haath ko bhi pata na ho ke daayan haath kiya kharch karta hai? saatwaan woh shakhs jo khalwat mein Allah ko yaad kare to be saakhta aakhon se aansoo jaari ho jaayein. (Bukhari: 660)

Fawaaid: Waazeh rahe ke yeh e'zaaz sirf 7 qism ke logon ke liye khaas nahin balke rahmat-e-ilaahi ki wusa't ka yeh aalam hai ke deegar ahaadees mein iss qism ke logon ki ta'daad taqreeban 70 tak pahunchti hai jo Rasoolullah ﷺ ne mukhtalif ahwaal wa zuroof ke pesh-e-nazar bayaan ki hai. (Awnun-Baari:1/716)

Baab 25: Subh ya shaam Masjid mein jaane waale ki fazeelat

397 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya jo shakhs subah wa shaam Masjid mein baar baar jaaye to Allah Ta'ala Jannat se uski utni martabah mehmaani karega jitni daf'a Masjid mein gaya hoga (Bukhari: 662)

Baab 26: Namaaz ki eqaamat ke b'ad farz namaaz ke elaawah koyi namaaz nahin padhna chaahiye

398 : Hazrat Abdullah Bin Maalik Ibne Buhainah ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne ek shakhs ko do rak'at namaaz padhte dekha jab ke namaaz ki eqaamat ho chuki thi jab Rasoolullah ﷺ namaaz se faarigh huye to logon ne uss aadmi ko gher liya to tab Rasoolullah ﷺ ne uss shakhs se farmaya kiya subah ki chaar rak'at hain? kiya subah ki chaar rak'at hain? (Bukhari: 663)

Fawaaid: Yeh unwaan bajaaye khud ek hadees hai jise imam Muslim ne bayaan kiya hia ba'z rivayaat mein hai ke jab namaaz khadi ho jaaye to fajr ki sunnaten bhi na padhe hamaare yahaan ba'z hazraat iss hadees ki sareeh taur par khilaaf warzi karte hain aur namaaz khadi hone ke bad bhi sunnaten padhte rahte hain. (Awnul Baar:1/720)

فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ). (رواه البخارى: ٢٦٠)

٢٥ - بَابُ: فَضْلِ مَنْ غَدَا إِلَى

الْمَسْجِدِ وَمَنْ رَاحَ

٣٩٤ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَرَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ نُزُلًا مِنْ الْجَنَّةِ، كُلَّمَا غَدَا أَوْ رَاحَ)

(رواه البخارى: ٢٦٢)

٢٦ - بَابُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا

صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

٣٩٨ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ، رَجُلٍ مِنَ الْأَزْدِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، يُصَلِّي رُكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَاتَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الصُّبْحُ أَرْبَعًا، الصُّبْحُ أَرْبَعًا).

(رواه البخارى: ٢٦٣)

Baab 27: Mareez ko kis had tak jamaa'at mein aana chaahiye

399 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah ﷺ apni marze wafaat mein mubtila huye aur namaaz ke waqt azaan huyi to Aap ne farmaya Abu Bakr ﷺ se kaho ke woh logon ko namaaz padhaayein uss waqt Aap se kaha gaya ke Abu Bakr ﷺ bade narm dil insaan hain jab woh Aapki jagah khade honge to (shiddat gham se) logon ko namaaz na padha sakenge Aap ne dobaraah wahi hukm diya to phir wahi arz kiya gaya, Aap ne teesri martabah wahi kaha aur farmaya tum to Hazrat Yusuf ﷺ ki hamnasheen auraten ma'loom hoti ho Abu Bakr ﷺ se kaho woh logon ko namaaz padhayen chunaancheh Abu Bakr ﷺ namaaz padhaane chale gaye ba'd mein Rasoolullah ﷺ ne apni marz se kuchh kami mahsoos farmayi to Aap do aadmiyon ke darmiyaan sahaara le kar nikle goya main ab bhi Aap ke donon paaun ki taraf dekh raha hoon ke zo'f-e-marz ki wajah se zameen par ghisat te jaate the Hazrat Abu Bakr ﷺ ne Aap ko dekh kar peechhe hatna chaaha to Rasoolullah ﷺ ne Ishaarah farmaya ke apni jagah par raho phir Aap ko laya gaya taa aanke Aap Hazrat Abu Bakr ﷺ ke pahlu mein baithh gaye phir Aap ne namaaz shuru' ki to Abu Bakr ﷺ ne Aapki eqtedaa ki jabke baaqi logon ne Hazrat Abu Bakr ﷺ ki iqtedaa mein namaaz padhi ek rivaayat hai ke Aap Hazrat Abu Bakr ﷺ ki baayen jaanib baithh gaye jabke Abu Bakr ﷺ ne bahaalate qiyaam namaaz adaa ki.

(Bukhari: 664)

Fawaaid:Maqsad yeh hai ke jab tak mareez kisi na kisi tarah masjid mein pahunch sakta hai to use masjid mein jmaa'at ke liye aana chaahiye khaah doosri aadmi ka sahaara hi kyun na lena pade neez khilaafat-e-siddeeq ki haqqaaniyat par iss se ziyaadah waazeh daleel aur kiya ho sakti hai.

٢٧ - بَابُ: حَدِّ الْمَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الْجَمَاعَةَ

٣٩٩ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا مَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَأَذَّنَ، فَقَالَ: (مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ). فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِيفٌ، إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، وَأَعَادَ فَأَعَادَ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ: (أَنْتُمْ صَوَابٌ يُوَسِّفُ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ) فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ نَفْسِهِ خَفَّةً، فَخَرَجَ يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَأَنِّي أَنْظُرُ رَجُلَيْهِ تَخْطَانِ مِنَ الْوَجْعِ، فَأَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَتَأَخَّرَ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ مَكَانَكَ، ثُمَّ أَتَى بِهِ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ. وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيَ، وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ بِصَلَاتِهِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّيَ قَائِمًا.

(رواه البخارى: ٦٦٤)

400 :Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai ke unhon ne farmaya jab Rasoolullah ﷺ bimaar huye aur bimaari shiddat ikhtiyaar kar gayi to Aap ne apni biwiyon se ejaazat chaahi ke mere ghar Aapki timaar daari ki jaaye to sab ne ejaazat dedi baaqi hadees (399) abhi abhi guzar chuki hai.(Bukhari: 665)

Baab 28: Kiya Imam jiss qadar log maujood hon unhein namaaz padhaade? kiya jum'a ke din baarish mein khutbah padhe

401:Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unhon ne baarish aur keechad ke din logon ke saamne khutba diya aur mu'azzin ko hukm diya ke jab woh على الصلاة par pahunche to yun kah de, apni apni qiyaam gaahon par namaaz padh len, log ek doosre ki taraf dekhne lage goya unhon ne ise bura samjha Ibne Abbaas رضي الله عنهما ne farmaya aisa ma'loom hota hai ke tum ne ise bura khayaal kiya hai haalaanke yeh kaam us shakhsiyat ne kiya hai jo mujh se kahin behtar hai ya'ni Rasoolullah ﷺ chunke azaan se Masjid mein aana zaroori ho jaata hai isliye main ne achchha na samjha ke tumhein takleef mein daaloon. (Bukhari: 668)

402 : Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek Ansaari shakhs ne (Rasoolullah ﷺ se) arz kiya ke main Aap ke saath namaaz nahin padh sakta, kyun ke woh farba aadmi tha phir usne Rasoolullah ﷺ ke liye khana tayyaar kiya aur Aap ko apne ghar aane ki da'wat di aur Aap ke liye chataayi bichhaayi, chataayi ke ek kinaare ko dhoya us par Aap ne do rak'at adaa kin-to aale jaarood mein se ek aadmi ne Hazrat Anas رضي الله عنه se poochha kiya Rasoolullah ﷺ namaaz-e-chaasht padha karte the? Hazrat Anas رضي الله عنه ne jawaab diya ke main ne uss roz ke elaawah kabhi Aap ko yeh namaaz

٣٠٠ : وَعَنْهَا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ وَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي فَأُذِنَ لَهُ. وَبَاقِي الْحَدِيثِ تَقْدِيمِ آتِفَا.

(رواه البخارى: ٦٦٥)

٢٨ - بَابُ: هَلْ يُصَلِّي الْإِمَامُ بِمَنْ حَضَرَ؟ وَهَلْ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَطَرِ؟

٣٠١ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي يَوْمٍ ذِي رَدْغٍ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ لَمَّا بَلَغَ حَيْ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ: قُلِ الصَّلَاةُ فِي الرَّحَالِ، فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَكَانَتْهُمْ أَنْكُرُوا، فَقَالَ: كَانَكُمْ أَنْكُرْتُمْ هَذَا، إِنَّ هَذَا فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - إِنَّهَا عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرَجَكُمْ.

(رواه البخارى: ٦٦٨)

٣٠٢ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ الصَّلَاةَ مَعَكَ، وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَصَنَعَ لِلنَّبِيِّ ﷺ طَعَامًا، فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَبَسَطَ لَهُ حَصِيرًا، وَنَضَحَ طَرَفَ الْحَصِيرِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَكَعَتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأَنَسٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الضَّحَى؟ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلًّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ.

padhte nahin dekha hai. (Bukhari: 670)

(رواه البخارى: ٦٤٠)

Fawaaid: Maloom huwa ke mazoor agar namaaz-e-juma' mein shareek na hosakein to unhein ghar mein namaaz padhne ki ejaazat hai ya'ni ma'qool u'zr ki benaa par jamaa'at se peechhe rah jaana jaayiz hai.

Baab 29: Dauraan-e-Eqaamat agar khana aajaaye to kiya karna chaahiye.

403: Hazrat Anas رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke jab khana saamne rakh diya jaaye to maghrib ki namaaz se pahle khana khaao aur apna khana chhod kar namaaz ke liye u'jlat na karo. (Bukhari:672)

Fawaaid: Maqsad yeh hai ke bhook ke waqt agar khana tayyaar ho to pahle usse faarigh ho jaana chaahiye taake namaaz poore sukoon aur dil jamay'ee se adaa ki jaaye iss se yeh bhi maloom huwa ke namaaz mein khushu' wa khuzu' ki ahmiyat awwal waqt se ziyaadah hai.

(Awnul Baari:1/728)

Baab 30: Jamaa'at khadi ho jaaye to gharelu masroofiyaat tark karke namaaz mein shareek hona chaahiye

404: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai un se sawaal kiya gaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ghar mein kiya karte the unhon ne jawaab diya ke apne Ahl-e-Khana ki khidmat mein masroof rahte aur jab namaaz ka waqt aa jaata to aap namaaz ke liye tashreef le jaate.

(Bukhari:676)

Fawaaid: Imam Bukhari ka maqsad yeh hai ke khaane ke elaawah deeger duniyawi kaamon ki itni hasiyyat nahin ke unke pesh-e-nazar namaaz ko muakhkhar kardiya jaaye.

Baab 31: Masnoon Tareeqa sikhaane keliye logon ke saamne namaaz padhna

405: Hazrat Maalik bin Huwairis رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne ek dafa farmaya ke main tumhaare saamne namaaz padhta hoon halaanke meri niyyat namaaz padhne ki nahin hai mera maqsad sirf yeh hai ke woh

٢- بَابُ: إِذَا حَضَرَ الطَّعَامُ وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ

٣٠٣: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا قُدِّمَ الْعِشَاءُ فَاَبْدَأُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ).

(رواه البخارى: ٦٤٢)

٣٠- بَابُ: مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَهْلِهِ فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ

٣٠٣: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ، تَعْنِي فِي خِدْمَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ.

(رواه البخارى: ٦٤٦)

٣١- بَابُ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ لَا يُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُعَلِّمَهُمْ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ وَسُنَّتَهُ

٣٠٥: عَنْ مَالِكِ بْنِ حُوَيْرِثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي لِأُصَلِّي بِكُمْ وَمَا أُرِيدُ الصَّلَاةَ، أُصَلِّي كَيْفَ رَأَيْتُ

tareeqa sikhadon jis tareeqa se Rasoolullah ﷺ namaaz padha karte the. (Bukhari:677)

النَّبِيِّ ﷺ يُصَلِّي.

(رواه البخارى: ٦٤٤)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke ta'leem ki niyyat se namaaz padhna jaayiz hai aur aisa karna riya kaari ya shirk fil-ibadaat nahin hai. (Awnul Baari:1/730)

Baab 32:Saahib-e-Ilm-wo-Fazl Imamat ka ziyadah haq daar hai

٣٢ - بَابُ: أَهْلُ الْعِلْمِ وَالْفَضْلِ
أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ

406:Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat kardah hadees (399) ke Abu Bakr ﷺ ko kaho ke woh logon ko namaaz padhayen pahle guzar chuki hai woh iss rivaayat mein farmati hain ke main ne arz kiya Abu Bakr ﷺ aapki jagah khade ho kar (fart-e-gham se) rone lagenge iss wajah se logon ko unki aawaaz nahin sunaayi degi. lehaazah aap Hazrat Umar ﷺ ko hukm den ke woh logon ko namaaz padhayen Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmati hain ke main ne Hazrat Hafsah رضي الله عنها se kaha tum bhi Rasoolullah ﷺ se kaho ke Abu Bakr ﷺ jab aap ki jagah khade honge to rone ke baay'is logon ko aawaaz na suna sakege isliye aap Hazrat Umar ﷺ ko hukm den ke woh logon ko namaaz padhayen chunaancheh Hazrat Hafsah رضي الله عنها ne arz kiya to Rasoolullah ﷺ ne farmaya khaamoosh raho yaqeenan tum yusuf عليه السلام ki humnasheen auraton ki tarah ho Abu Bakr ﷺ ko kaho ke woh logon ko namaaz padhaayen iss Hazrat Hafsah رضي الله عنها Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se kaha main ne kabhi tum se koyi faayidah na paaya. (Bukhari:679)

٢٠٦ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
حَدِيث: مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ،
تقدم وفي هذه الرواية قَالَتْ: قُلْتُ:
إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ، لَمْ
يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ
فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ
لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ إِذَا قَامَ
فِي مَقَامِكَ، لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ
الْبُكَاءِ، فَمُرْ عُمَرَ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ،
فَفَعَلْتُ حَفْصَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: (مَهْ، إِنَّكَ لَأَتْنَنُ صَوَاحِبُ
يُوسُفَ، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ
بِالنَّاسِ). فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِشَةَ: مَا
كُنْتُ لِأُصِيبَ مِنْكَ خَيْرًا.

(رواه البخارى: ٦٤٩)

Fawaaid: Iss baab se Imam Bukhari ki gharz yeh hai ke imaamat ke liye ahle ilm wa fazl ka intekhaab kiya jaaye deen se be bahra iss mansab ke laayiq nahin khaah qaari hi kyun na ho.

407:Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Abu Bakr Siddeeq رضي الله عنه Rasoolullah ﷺ ki marz-e-wafaat mein logon ko namaaz padhate the peer ke din jab log namaaz ke liye saff bastah the to Rasoolullah ﷺ ne Hujre ka pardah uthhaaya aur khade ho kar hum logon ki taraf dekhne lage uss waqt aap ka chehra (Husn-o-jamaal aur safaayi mein)

٢٠٤ : عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ
فِي وَجَعِ النَّبِيِّ ﷺ الَّذِي تُوْفِيَ فِيهِ،
حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ، وَهُمْ
صُفُوفٌ فِي الصَّلَاةِ، فَكَشَفَ النَّبِيُّ

goya mushaf ka waraq tha phir aap bashaa shat ke saath muskuraaye to hum logon ko aisi khushi huyi ke khatrah hogaya mabaadan hum aap ko dekhne mein mashghool ho jaayen (namaaz se tawajjah hat jaaye) uske b'ad Hazrat Abu Bakr ؓ apne ulte paaun peechhe lautne lage taake saff mein shaamil ho jaayen. woh samjhe ke Rasoolullah ؐ namaaz keliye tashreef laa rahe hain lekin aap ne hamaari taraf ishaarah farmaya ke apni namaaz poori karlo yeh farma kar aap ne pardah daal diya aur usi din aap ne wafaat paayi ؓ.(Bukhari:680)

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرَ الْحُجْرَةَ، يَنْظُرُ إِلَيْنَا وَهُوَ قَائِمٌ، كَانَ وَجْهَهُ وَرَقَةً مُصْحَفٍ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْحَكُ، فَهَمَمْنَا أَنْ نَفْتِنَ مِنْ الْفَرْحِ بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَصَّ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقْبِيهِ لِيَصِلَ الصَّفَّ، وَظَنَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَشَارَ إِلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اتَّمُوا صَلَاتِكُمْ). وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَتَوَفَّى مِنْ يَوْمِهِ. (رواه البخارى: ٢٨٠)

Fawaaid: Iss hadees se waazeh taur par saabit hota hai ke Rasoolullah ؐ ki wafaat tak hazrat Abu Bakr Siddeeq ؓ namaaz padhaane ke liye aap ke jaanasheen rahe Shi'a hazraat ka yeh ghalat pairo paghandah hai ke aap ne khud bar aamad ho kar Abu Bakr Siddeeq ko imaamat se mazool kardiya tha. (Awnul Baari:1/732)

Baab 33: Ek shakhs ne imaamat shuru kardi itne mein imaam awwal aa jaaye (to kiya karna chaahiye)

408: Hazrat Sahl bin s'ad S'aadi ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ؐ Amar bin Auf Qabeelah mein sulah karaane ke liye tashreef le gaye jab namaaz ka waqt aa gaya to muazzin ne hazrat Abu Bakr ؓ ke paas aakar kaha agar tum namaaz padhaao to main takbeer kah doon unhon ne farmaya "haan" pas Hazrat Abu Bakr ؓ namaaz padhaane lage. itne mein Rasoolullah ؐ tashreef le aaye aur log namaaz mein the aap safon mein se guzar kar pahli saff mein pahunche uss par log taaliyan bajaane lage lekin Abu Bakr ؓ apni namaaz mein idhar udhar na dekhte the jab logon ne muta waatir taaliyan bajaayin to Abu Bakr ؓ mutawajjah huye aur Rasoolullah ؐ ko dekha aap ne unhein ishaarah kiya ke tum apni jagah par thhahre raho us par Abu Bakr ؓ ne apne donon haath uthha kar Allah ka shukr adaa kiya ke Rasoolullah ؐ ne unhein imaamat ka e'zaaz bakhsha phir bhi woh

٣٣- باب: مَنْ دَخَلَ لِيَوْمِ النَّاسِ فَجَاءَ الْإِمَامَ الْأَوَّلَ

٤٠٨ : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصَلِّحَ بَيْنَهُمْ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ الْمُؤَدِّبُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: أَتَصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ التَّفَّتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أُمَّكَتْ مَكَانَكَ). فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى

peechhe hat gaye aur saff mein shaamil ho gaye aur Rasoolullah ﷺ aage badh gaye aur namaaz padhaayi phir aap ne faarigh hokar farmaya. Aye Abu Bakr ﷺ jab main ne tumhen hukm diya tha to tum kyun khade na rahe to Abu Bakr ﷺ ne arz kiya ke Abu Quhaafah ke bete ki kiya majaan ke woh Rasoolullah ﷺ ke aage namaaz padhaaye? phir Rasoolullah ﷺ ne farmaya kiya wajah hai main ne tumhein bakasrat taaliyan bajaate dekha? dekho jab namaaz mein kisi ko koyi baat pesh aaye to use **Subhaanallah** kahna chaahiye kyun ke jab woh **Subhaanallah** kahega to uski taraf tawajjuh di jaayegi aur yeh taali bajaana to sirf auraton keliye hai.

(Bukhari:684)

مَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَخَرَّ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: (يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَّبِعَ إِذْ أَمَرْتُكَ). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمْ التَّصْفِيقَ، مِنْ نَابَةِ شَيْءٍ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَسِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ التُّفَّتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا التَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ).

(رواه البخارى: ٦٨٢)

Fawaaid: Maloom huwa ke agar kisi majboori ke pehs-e-nazar moqarrarah imam ke elaawah kisi doosre ko Imam bana liya jaaye phir namaaz ke shuru mein moqarrarah imam aa pahunche to use ikhtiyaar hai khud imam ban jaaye ya muqtadi rah kar namaaz mukammal karle donon sooraton mein namaaz durust hai. (Awnul Baari:1/734)

Baab 34: Imam isliye banaaya jaata hai ke uski iqtedaa ki jaaye

409 :Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah ﷺ bimaar huye to Aap ne poochha kiya log namaaz padh chuke hain? humne arz kiya nahin ya Rasoolallah ﷺ! woh Aap ke muntazir hain phir Aap ne farmaya ke mere liye ek lagan mein paani rakh do Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmati hain humne aisa hi kiya to Aap ne ghusl farmaya phir uthne lage to Aap behosh ho gaye uske ba'd jab hosh aaya to Aap ne farmaya kiya log namaaz padh chuke hain? humne arz kiya nahin ya Rasoolallah ﷺ! woh to Aap ke muntazir hain Aap ne farmaya ke mere liye lagan mein paani rakh do Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmati hain ke Aap baithh gaye aur ghusl farmaya phir khada hona chaha magar behosh ho gaye uske ba'd hosh aaya to

٣٣-بَابُ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ ٣٠٩ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (أَصَلَّى النَّاسُ؟) قُلْنَا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ، قَالَ: (ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمَخْضَبِ). قَالَتْ: فَفَعَلْنَا، فَأَغْتَسَلَ، فَذَهَبَ لِيَنْوَأَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ ﷺ: (أَصَلَّى النَّاسُ؟) قُلْنَا: لَا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمَخْضَبِ). قَالَتْ: فَفَعَدْتُ فَأَغْتَسَلَ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوَأَ فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَقَالَ ﷺ: (أَصَلَّى النَّاسُ؟) قُلْنَا: لَا،

farmaya kiya log namaaz padh chuke hain? humne kaha nahin ya Rasoolallah ﷺ woh Aap ke muntazir hain! aur log Masjid mein Isha ki namaaz ke liye baithhe huye Rasoolullah ﷺ ka intezaar kar rahe the to aakhir Rasoolullah ﷺ ne Hazrat Abu Bakr ﷺ ke paas ek aadmi bheja aur hukm diya ke woh namaaz padhayein chunaancheh qaasid ne unke paas jaakar kaha Rasoolullah ﷺ ne Aap ko hukm diya hai ke Aap logon ko namaaz padhayen. Hazrat Abu Bakr ﷺ bade narm dil insaan the unhon ne Hazrat Umar ﷺ se kaha ke tum namaaz padhaao Hazrat Umar ﷺ ne jawaab diya ke Aap hi iss mansab ke ziyaadah haqdaar hain uske b'ad Hazrat Abu Bakr ﷺ bimaari ke dinon mein namaaz padhaate rahe. baqyah hadees (No.399) pahle guzar chuki hai. (Bukhari: 687)

Fawaaid: Iss hadees mein hai ke hazrat Abu Bakr ﷺ Rasoolullah ﷺ ki iqtedaa kar rahe the aur log hazrat Abu Bakr Siddeeq ﷺ ke muqtadi the.

410: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat kardah hadees (399) jis mein Rasoolullah ﷺ ka bimaari ki wajah se ghar mein namaaz padhne ka zikr hai pahle guzar chuki hai iss rivaayat mein sirf itna ezaafah hai ke aap ne farmaya jab imam baithh kar namaaz padhe to tum sab bhi baithh kar namaaz padho.

(Bukhari:688)

Fawaaid: Yeh waqia'h maah zilhijjah 5 hijree Madinah Munawwarah mein pesh aaya tha jab aap ghode se gir kar zakhmi huye the. zindagi ke aakhri ayyaam mein jab aap bimaar the to aap ne baithh kar imamat karaayi aur log aap ke peechhe khade the isliye muqtadiyon ka aise haalaat mein baithh kar namaaz adaa karna zaroori nahin. (Awnul Baari:1/740)

Baab 35: Imam ke peechhe muqtadi kab sajdah karega?

411: Hazrat Bra'a bin Aazib رضي الله عنه se rivaayat hai ke jab Rasoolullah ﷺ سمع الله لمن حمده kahte to hum mein se koyi shakhs apni kamar uss waqt tak na jhukaata jab tak Rasoolullah ﷺ sajdah mein na chale jaate phir hum log uske ba'd sajdah mein jaate.

هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ، يَنْتَظِرُونَ النَّبِيَّ ﷺ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: بِأَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَأْتَاهُ الرَّسُولُ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَانَ رَجُلًا رَقِيفًا: يَا عَمْرُؤُ صَلِّ بِالنَّاسِ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُؤُ: أَنْتَ أَحَقُّ بِذَلِكَ، فَصَلَّى أَبُو بَكْرٍ تِلْكَ الْيَوْمَ، وبقای الحدیث تقدم.

(رواه البخاری: ٦٨٧)

٤١٠ : وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا حَدِيثَ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ، تَقْدِمُ وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ قَالَ: (وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا).

(رواه البخاری: ٦٨٨)

٣٥ - بَابُ: مَتَى يَسْجُدُ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ؟

٤١١ : عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ). لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ، حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا،

(Bukhari:690)

ثُمَّ نَقَعَ سُجُودًا بَعْدَهُ:

(رواه البخارى: ٦٩٠)

Fawaaid: Maloom huwa ke dauraan-e-namaaz imam ko dekhna jaayiz hai taake a'amaal-e-namaaz ke inteqalaat mein uski pairwi ki jaa sake. (Awnul Baari:1/741)

Baab 36: Imam se pahle sar Uthhaane waale ka gunaah

412: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya kiya tum mein se jo shakhs apna sar imam se pahle uthhata hai usko iss baat ka khauf nahin ke Allah Ta'ala uske sar ko gad'he ke sar jaisa banaa de ya Allah uski soorat gad'he jaisi banaa de. (Bukhari:691)

٣٦- بَابُ: اِثْمٌ مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ
٣١٢: عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (اَمَّا يَخْشَى
اَحَدُكُمْ، اَوْ اَلَا يَخْشَى اَحَدُكُمْ، اِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ، اَنْ يَجْعَلَ اللهُ
صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ).

(رواه البخارى: ٦٩١)

Fawaaid: Ibne Hibbaan ki rivaayat mein hai ke uske sar ko kutte ke sar jaisa bana diya jaaye lehaazah imam se sabqat nahin karna chaahiye. (Awnul Baari:1/742)

Baab 37: Ghulaam, Azaad kardah aur naa baaligh bachche ki imaamat

413: Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya (apne haakim ki) suno aur etaa'at karo agar che koyi (siyaah faam) Habshi hi tum par haakim bana diya jaaye jis ka sar munaqqah jaisa ho. (Bukhari:693)

٣٧- بَابُ: اِمَامَةِ الْعَبْدِ وَالْمَوْلَى
وَالْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمِ
٣١٣: عَنْ اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (اسْمَعُوا وَاَطِيعُوا،
وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ حَبَشِيٌّ، كَأَنَّ
رَأْسَهُ زَبِيَّةٌ). (رواه البخارى: ٦٩٣)

٣٨- بَابُ: اِذَا لَمْ يُتِمَّ الْاِمَامُ وَاَتَمَّ
مَنْ خَلَفَهُ

٣١٤: عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ: اَنْ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ:
(يُضَلُّونَ لَكُمْ، فَاِنْ اَصَابُوا فَلَكُمْ
وَلَهُمْ، وَاِنْ اَخْطَاوْا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ).

(رواه البخارى: ٦٩٤)

Baab 38: Jab Imaam apni namaaz ko poora na kare aur muqtadi poora karen

414: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo log tumhen namaaz padhaate hain agar thheek padhaayenge to tumhen aur unhein sawaab milega aur agar ghalti karenge to tumhaare liye sawaab hai magar unke liye gunaah hai. (Bukhari:694)

Fawaaid: Aise haalaat mein muqtadiyon ki namaaz mein koyi khalal nahin hoga jab ke unhon ne tamaam sharaayet wa arkaan ko poora kiya ho.

Baab 39: Jab sirf do hi namaazi hon to muqtadi imaam ke daayein jaanib uske baraabar khada ho

٣٩- بَابُ: يَقُومُ عَنْ يَمِيْنِ الْاِمَامِ
بِحَدَائِهِ سَوَاءً اِذَا كَانَ اِثْنَيْنِ

415 :Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat kardah hadees 97'142) pahle guzar chuki hai jis mein unhon ne apni khaala Hazrat Maymoonah رضي الله عنها ke ghar raat rahne ka zikr kiya hai iss rivaayat mein itna ezaafah hai ke phir Aap so rahe hatta ke saans ki aawaaz aane lagi aur jab Aap sote to saans ki aawaaz zaroor aati thi uske b'ad moazzin Aap ke paas aaya to Aap baahar tashreef le gaye aur namaaz padhi aur naya wazu nahin farmaya. (Bukhari: 698)

Fawaaid: Iss hadees mein hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما farmate hain ke main aap ki baayein jaanib khada huwa to mujhe aap ne daayen jaanib karliya. (Awnul Baari:1/741)

Baab 40: Jab imaam (namaaz ko) tool de aur koyi zaroorat mand (namaaz tod kar) akela namaaz padhle (to jaayiz hai)

416 :Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Mu'aaz Bin Jabal رضي الله عنه ke saath Isha ki namaaz padhte uske b'ad waapas laut kar apni qaum ki imaamat karaate ek din unhon ne namaaz mein surah baqrah padhi to ek shakhs namaaz tod kar chal diya to Hazrat Mu'aaz رضي الله عنه ko usse ranj paida huwa jab yeh khabar Rasoolullah ﷺ ko pahunchi to Aap ne Hazrat Mu'aaz رضي الله عنه se teen daf'a farmaya Fattaanun, Fattaanun, Fattaanun, (Fitnah parwar) ya yeh farmaya Faate an, Faate an, Faate an (Fitnah pardaaz) phir Aap ne unhein hukm diya ke ausaat mufassal ki do suraten padha karo. (Bukhari: 701)

Fawaaid: Surah hujraat se aakhir qura'n tak tamaam suraten mufassal kah laati hain phir عمّ tak tiwaal وَالضُّحَى tak tiwaal وَالنَّاس tak qisaar ke naam se pahchaani jaati hain. aam taur par "surah Burooj" tak tiwaal "سوره لم يكن الذين كفروا" tak ausaat aur "والناس" tak qisaar ka naam diya jaata hai. iss se yeh bhi maloom huwa ke nafil padhne waale imam ke peechhe farz ada kiye ja sakte hain. (Awnul Baari:1/749)

Baab 41: Imaam ko qiyaam mein takhfeef aur ruku' wa sujood mein e'tedaal karna chaahiye

417 :Abu Masood رضي الله عنه kahte hain ke ek shakhs ne arz kiya ya Rasoolullah ﷺ! Allah ki qasam! main subah ki namaaz mein sirf

٢١٥ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثًا مَبِيتِهِ فِي بَيْتِ خَالَتِهِ تَقْدِمَ، وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَ: ثُمَّ نَامَ حَتَّى نَفَخَ، وَكَانَ إِذَا نَامَ نَفَخَ، ثُمَّ أَتَاهُ الْمُؤَدِّنُ، فَخَرَجَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
(رواه البخارى: ٦٩٨)

٣٠ - بَابُ: إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ وَكَانَ

لِلرَّجُلِ حَاجَةٌ فَخَرَجَ فَصَلَّى

٢١٦ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوْمُ قَوْمِهِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ، فَقَرَأَ بِالْبَقْرَةِ، فَأَنْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَكَانَ مُعَاذًا يَنُودُ مِنْهُ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: (فَتَانٌ، فَتَانٌ، فَتَانٌ)، ثَلَاثَ مِرَارٍ، أَوْ قَالَ: (فَاتِنَا، فَاتِنَا، فَاتِنَا). وَأَمْرُهُ بِسُورَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمَفْصَلِ.

(رواه البخارى: ٤٠١)

٣١ - بَابُ: تَخْفِيفِ الْإِمَامِ فِي الْقِيَامِ،

وَاتِمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

٣١٤ : عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ

fulaan shakhs ki wajah se peechhe rah jaata hoon kyun ke woh namaaz ko bahut lamba karta hai pas main ne Rasoolullah ﷺ ko khabhi naseehat mein uss din se ziyaadah ghazabnaak nahin dekha uske ba'd Aap ne farmaya tum mein se kuchh log nafrat dilaane waale hain tum mein se jo shakhs logon ko namaaz padhaaye to use chaahiye ke takhfeef kiya kare kyunke muqtadiyon mein naatawaan boodhe aur haajat mand bhi hote hain (yeh hadees 79 pahle bhi guzar chuki hai) (Bukhari: 702)

418 : Hazrat Jaabir ؓ se rivaayat kardah hadees (416) guzar chuki hai uss mein zikr hai ke Rasoolullah ﷺ un se farmaya tune ﴿Sabbihisma Rabbikal A'laa, Washshamsi wadhuhaahaa aur Wallaili iza yaghshaa﴾ namaaz men kyun na padhi? (Bukhari: 705)

اللَّهُ، إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْعِدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ مِنْكُمْ مُنْقَرِبِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ).

(رواه البخارى: ٤٠٢)

٣١٨ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثَ مَعَاذٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: (فَلَوْلَا صَلَّيْتَ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ، وَالشَّمْسِ وَضَحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى).

(رواه البخارى: ٤٠٥)

Baab 42: Ekhtisaar ke baawajood namaaz ko mukammal karna

419 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ mukhtasar namaaz padhte aur usko kaamil adaa karte the. (Bukhari: 706)

٣٢ - بَابُ: الْإِيجَازِ فِي الصَّلَاةِ

وَإِكْمَالِهَا

٣١٩ : عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا. (رواه البخارى: ٤٠٦)

Fawaaid: Ya'ni aap ki namaaz ba e'tebaar qira'at ke mukhtasar aur halki hoti lekin ruku' aur sajdah poore taur se adaa karte aimma-e-masaajid ko aisi baaton ka khayal rakhna chaahiye.

Baab 43: Jo shakhs bachche ke rone ki wajah se namaaz mukhtasar karde

420 : Hazrat Abu Qataadah ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya main namaaz der tak padhne ke iraadah se khada hota hoon lekin kisi bachche ke rone ki aawaaz sun kar main apni namaaz ko mukhtasar kar deta hoon kyunke uski maan ko takleef mein daalna

بَابُ مَنْ أَخَفَّ الصَّلَاةَ عِنْدَ بُكَاءِ الصَّبِيِّ
٣٢٠ : عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنِّي لَأَقُومُ فِي
الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أَطْوَلَ فِيهَا، فَاسْمَعُ
بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَاتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي،
كَرَاهِيَةً أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ).

bura samajhta hoon. (Bukhari: 707)

(رواه البخارى: ٧٠٧)

Fawaaid: Iss hadees se bachchon ko masjid mein laane ka jawaaz saabit nahin hota kyun ke mumkin hai ke masjid ke qareeb ghar se bachche ke rone ki aawaaz sunten hon (Awnul Baari:1/753)

Baab 44: Eqaamat ke waqt safon ko baraabar karna

٣٢٢ - بَابُ : تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ

الْإِقَامَةِ

421 : Hazrat No'maan Bin Basheer ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya tum apni safon ko baraabar rakkho nahin to Allah tumhaare munh ko ulat dega. (Bukhari: 717)

٣٢١ : عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَتُسَوَّنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُحَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ) (رواه البخارى: ٧١٧)

Fawaaid: Safon ko baraabar rakhne se muraad yeh hai ke namaazi aage peechhe na hon aur dermiyaan mein khaali jagah na ho safon ka durst karna zaroori hai kyun ke yeh namaaz ka hissah hai.

Baab 45: Safein baraabar karte waqt imaam ka logon ki taraf mutawajjah hona

٣٢٥ - بَابُ : إِقْبَالِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ

عِنْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

422 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya safon ko durst karo aur milkar khade ho jao main tumhein apni peeth ke peechhe se bhi dekhta rahta hoon. (Bukhari: 719)

٣٢٢ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : (أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَأَوْا، فَإِنِّي أَرَأَكُمْ مِنْ وِرَاءِ ظَهْرِي). (رواه البخارى: ٧١٩)

Fawaaid: Iss hadees ka shuru yoon hai ke jab eqaamat kahi gayi to aap ne apna chehra mubaarak hamaari taraf mutawajjah karke farmaya hamaare haan saff bandi ka ehtemaam nahin hota haalaanke khud Rasoolullah ﷺ aur khulfaaye raashideen ka yeh ma'mool tha ke jab tak safen durst na ho jaatin namaaz shuru na karte. ahad-e-faarooqi mein iss kaar-e-khair ke liye log muqarrar the magar aaj kal sab se ziyaadah matrook yahi cheez hai haalaanke yeh koyi ikhtelaafi mas'alah nahin.

Baab 46: Jab imaam aur muqtadiyon ke darmiyaan koyi pardah ya diwaar haayel ho (to koyi harjj nahin)

٣٢٦ - بَابُ : إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ

الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سِتْرَةٌ

423 : Hazrat Aayeshah Siddeeqah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ namaaz-e-tahajjud apne hujrah mein padha karte the chunke hujrah ki diwaaren past thin isliye logon ne Rasoolullah ﷺ ki shakhsiyat ko dekh liya aur kuchh log namaaz ki iqtada karne ke liye Aap ke saath khade ho gaye phir subah ko unhon ne doosron se iska zikr kiya phir doosri raat

٣٢٣ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فِي حُجْرَتِهِ، وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيرٌ، فَرَأَى النَّاسَ شَخْصَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَامَ أَنَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ

namaaz ke liye khade huye to kuchh log Aap ki iqteda mein uss raat bhi khade hogaye yeh soorate haal do ya teen raaton tak rahi iske ba'd Rasoolullah ﷺ ghar baithh rahe aur namaaz ke liye tashreef na laaye uske ba'd subah ke waqt logon ne uska zikr kiya to Aap ne farmaya mujhe iss baat ka dar huwa ke kaheen (iske eltezaam se) namaaz-e-shab (tahajjud) tum par farz na kardi jaaye. (Bukhari: 729)

لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ، فَقَامَ مَعَهُ أَنَسٌ يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ، صَنَعُوا ذَلِكَ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ، جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَخْرُجْ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَكَرُوا ذَلِكَ النَّاسُ فَقَالَ: (إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُكْتَبَ عَلَيْكُمْ صَلَاةُ اللَّيْلِ). (رواه البخارى: ٤٢٩)

Fawaaid: Imam aur muqtadi ke dermiyaan koyi raastah ya diwaar haayel ho to iqteda jaayiz hai bashar teke imam ki takbeer khud sune ya koyi doosra suna de. (Awnul Baari:1/756)

Baab 47: namaaz e tahajjud (raat ki namaaz)

424 : Hazrat Zaid Bin Saabit ؓ se bhi yeh hadees marvi hai al battah yeh ezaafah hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya tumne jo kiya hai main ne dekha aur samajh liya (ke tumhen ibaadat ka shauq hai) Aye logo! tum apne gharon mein namaaz padho kyun ke Aadmi ki behtar namaaz wahi hai jo uske ghar mein adaa ho magar farz namaaz (jise Masjid mein padhna zaroori hai)(Bukhari: 731)

٤٢٤ - بَابُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ

٣٢٣ : وفى هذا الحديث من رواية زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زِيَادَةٌ أَنَّهُ قَالَ: (قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ). (رواه البخارى: ٤٣١)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ne nafli ibaadat ghar mein adaa karne ko behtar qaraar diya hai kyun ke riyaa kaari aur numaash se mahfooz rahta hai. neez aisa karne se ghar bhi mutabarrak ho jaata hai Allah ki rahmat naazil hoti hai aur ghar se shaytaan bhaag jaata hai. (Awnul Baari:1/757)

Baab 48: Takbeer-e-Tahreema mein aaghaaz namaaz ke saath hi donon haathon ko buland karna

425 : Hazrat Abdullah Bin Umar رضى الله عنهما jab namaaz shuru' karte aur jab ruku' ke liye Allahu Akbar kahte to apne donon haath kandhon ke baraabar uthhaate. aur jab ruku' se sar uthhaate tab bhi usi tarah donon haath uthhaate aur samiyallaahuliman hamidah rabbanaa walakal hamd kahte magar sajdon mein yeh amal na karte the. (Bukhari: 735)

٣٢٨ - بَابُ: رَفْعُ الْبَيْدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِفْتِيحِ سِوَاءَ ٣٢٥ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوً مِنْكَبِيهِ، إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ). وَكَانَ لَا يَفْعَلُ

ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

(رواه البخارى: ٤٣٥)

Fawaaid: Takbeer-e-Tahreema ke waqt aur ruku mein jaate aur sar uthhate waqt aur teesri rak'at ke liye uthhte waqt donon haathon ko kandhon ya kaanon tak uthhana rafaul yadain kahlaata hai aur iska maqsad baqaul imam Shafay'i Allah ki azmat ka izhaar aur Rasoolullah ﷺ ki sunnat ka itteba' hai, takbeer-e-tahreema ke waqt rafaul yadain par tamaam ummat ka ijma' hai aur baaqi maqamaat-e-salaasah mein rafaul yadain karne par bhi ahle koofa ke elaawah tamaam u'lmaa-e-ummat ka ittefaaq hai. Rasoolullah ﷺ ne umr bhar iss sunnat par amal kiya aur aisi sunnaten mutawaatira hai jise a'shra-e-mobashsharah ke elaawah digar sahaaba kiraam bhi bayaan karte hian aur iss par amal paira dekhaayi dete hian lehaazah hadees mazkoor ki bena par tamamaam musalmaanon ke liye zaroori hai ke woh ruku' jaate aur usse sar uthhate waqt Allah ki azmat ka izhaar karte huwe rafaul yadain karen. (Awnul Baari:1/760) Imam Bukhari ne iss sunnat ko saabit karne ke liye ek mustaqil resalah bhi taleef kiya hai jo ustaaz Al-mukarram shaah badee'uddin raashdi رحمه الله عليه ki tahqeeq se matbu' wa mutadaawil hai.

Baab 49: Namaaz mein daayan haath baayen par rakhna

426 : Hazrat Sahal Bin Sa'd رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke logon ko yeh hukm diya jataa tha ke namaaz mein aadmi apna daayan haath baayen haath ki zira' par rakkhe. (Bukhari: 740) (Zira' "kohni ke sire se darmiyaani ungli ke sire tak ke hisse ko kahte hain.(Al-Qamoosul Waheed)

Fawaaid: Sahih Ibne Khuzaimah ki rivaayat ke mutaabiq donon haath seene par baandhe jaayen daayen haath ko baayen haath ki kalaayi par rakkha jaaye ya daayen haath jo baayen haath ki hatheli ya gat par rakkha jaaye kalaayi par kalaayi rakh kar kohni ko pakadna saabit nahin hai zer-e-naaf haath baandhne ki ek hadees bhi sahih nahin hai seene par haath baandhna aajzee ki alaamat hai, namaaz mein fe'l-e- abas se rukaawat, dil ki hifaazat aur khushu' ke ziyaadah munaasib hai. (Awnul Baari:1/764)

Baab 50: Namaazi takbeer-e- Tahreema ke ba'd kiya padhe

427 : Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ hazrat Abu Bakr Siddeeq رضي الله عنه aur hazrat Umar رضي الله عنه namaaz mein qara'at ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ se shuru farmate the. (Bukhari:743)

Fawaaid: Iss ka matlab yeh nahin hai ke بسم الله الرحمن الرحيم ko bilkul tark kardiya jaaye balke ise padhna cahaahiye kyun ke بسم لله to surah faatiha ka juzz hai rivaayat ka matalab yeh hai ke ﴿م الله﴾ ko ba aawaaz buland nahin padha karte the jaisa ke deegar rivayaat mein iski saraahat hai albatta ise ba aawaaz buland padhne mein ikhtelaaf hai tarfain ke dalaayil se maloom hota hai ke iss mein usa't hai aur donon tarah padha jaa sakta hai. (Awnul Baari:1/767)

٤٩- بَابُ: وَضْعُ الْيَمْنَى عَلَى

الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

٤٢٦: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ

الرَّجُلُ يَدَهُ الْيَمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ

الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ. (رواه البخارى: ٤٣٠)

٥٠- بَابُ: مَا يُقْرَأُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ

٤٢٧: عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا، كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ:

بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(رواه البخارى: ٤٣٣)

428: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم takbeer -e-tahreemah aur qira'at ke dermiyaan kuchh sukoot farmate the to main ne arz kiya ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم mere maan paab aap par qurbaan hon aap takbeer aur qira'at ke dermiyaan sukoot mein kiya padha karte hain? aapne farmaya main kahta hoon ya Allah mujh se mere gunaah inte door karde jitna tu ne mushriq aur maghrib ke darmiyaan faaslah rakkha hai aur aye Allah mujhe gunahon se aisa paak karde jaise safed kapda mail kuchail se paak ho jaata hai ya Allah! mere gunah paani baraf aur wolon se dho de. (Bukhari:744)

٢٢٨ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ إِسْكَاتَةً، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ، مَا تَقُولُ؟ قَالَ: (أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثُّرْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْمَاءِ وَالْبُرْدِ).

(رواه البخارى: ٤٢٨)

Fawaaid: Iss ko dua'e istaftaah kahte hain aur iske alfaaz kayi tarah se waarid hain magar mazkoorah du'a sahih tareen hai agarche deegar adiy'yaah maasooraah bhi padhi jaa sakti hain waazeh rahe ke iss dua' ko aahista padhna chaahiye neez maloom huwa ke iskaat (khaamooshi) aur aahista qira'at mein munafaat nahin hai. (Awnul Baari:1/769)

BAAB:51

429 : Hazrat Asmaa binte Abi Bakr رضي الله عنها se hadees kusoof (86) pahle guzar chuki hai.
430: Hazrat Asmaa رضي الله عنها se marvi iss tareeq mein unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya jannat mere itni qareeb ho chuki thi ke agar main himmat karta to uske khushon mein se koyi khosha tumhaare paas le aata aur dozakh bhi mere itne qareeb ho gayi ke main kahne laga aye maalik! kiya main bhi in logon ke saath rakkha jaaunga? itne mein ek aurat dekhi raavi ka gumaan hai ke aap ne farmaya uss aurat ko ek billi panjah maar rahi thi main ne poochha iss aurat ka kiya haal hai? farishton ne kaha isne billi ko baandh rakkha tha hatta ke woh bhook se mar gayi kyun ke na to woh use khud khilaati thi aur na use khula chhodti thi ke woh khud hashraatul arz se apna pet

٥١ - باب

٢٢٩ : عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: حَدِيثُ الْكُسُوفِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ (بِرَقْم: ٤٦)
٣٣٠ : وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَالَتْ: (قَالَ: قَدْ دَنَّتْ مِنِّي الْجَنَّةُ، حَتَّى لَوْ اجْتَرَأْتُ عَلَيْهَا، لَجِئْتُكُمْ بِقِطَافٍ مِنْ قِطَافِهَا، وَدَنَّتْ مِنِّي النَّارُ حَتَّى قُلْتُ: أَيُّ رَبِّ، أَوْ أَنَا مَعَهُمْ؟ فَإِذَا امْرَأَةٌ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - تَخْدِشُهَا هِرَّةٌ، قُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا: حَبَسَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا، لَا أَطْعَمْتَهَا، وَلَا أَرْسَلْتَهَا تَأْكُلُ - حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ - مِنْ

bhar le. (Bukhari:745)

حَشِيْشٍ أَوْ حِشَاشٍ).

(رواه البخارى: ٤٢٥)

Fawaaid:Maloom huwa ke haiwaanaat ko takleef dena bhi na jaayiz hai aur qiyaamat ke din aisa karne par moaakhizah hoga. (Awnul Baari:1/770)

Baab 52:Namaaz mein imaam ki taraf dekhna

٥٢-بَابُ: رَفَعَ الْبَصَرَ إِلَى الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ

431 : Hazrat Khabbaab رضي الله عنه se rivaayat hai unse daryaافت kiya gaya ke Rasoolullah ﷺ Zohar wa Asr mein kuchh padhte the? to unhon ne kaha haan! phir poochha gaya ke tumhein kaise pata chalta tha? Hazrat Khabbaab رضي الله عنه ne kaha ke Aap ki daadhi ke hilne se ma'loom hota hai. (Bukhari: 746)

٣٣١: عَنْ خَبَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قِيلَ لَهُ، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ لَهُ: بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِاصْطِرَابِ لِحْيَتِهِ. (رواه البخارى: ٤٢٦)

Fawaaid:Imam ko chaahiye ke woh apni nazar ko sajdah gaah par markooz rakkhe muqtadi ke liye bhi yahi hukm hai albatta kisi zaroorat ke pesh-e-nazar imam ki taraf nazar uthha sakta hai agar akela namaaz padhta hai to uska hukm bhi imam jaisa hai albatta idhar udhar dekhna kisi soorat mein jaayiz nahin hai. (Awnul Baari:1/771)

Baab 53: Namaaz mein aasmaan ki taraf dekhna

٦٣-بَابُ: رَفَعَ الْبَصَرَ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ

432 : Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke logon ko kiya huwa woh namaaz mein apni nazren aasmaan ki taraf uthhaate hain phir Aap ne uske muta'alliq badi sakhti se irshaad farmaya ke logon ko isse baaz aana chaahiye ya phir unki beenaayi ko uchak liya jaayega. (Bukhari: 750)

٣٣٢: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ، يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلَاتِهِمْ). فَأَشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، حَتَّى قَالَ: (لَيْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَتُحْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ). (رواه البخارى: ٤٥٠)

Baab 54: Namaaz mein idhar udhar dekhna kaisa hai?

٥٣-بَابُ: الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ

433 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha main ne Rasoolullah ﷺ se poochha namaaz mein idhar udhar dekhna kaisa hai? to Aap ne farmaya yeh aisi dastbard hai jo shaytaan bande ki namaaz mein karta hai. (Bukhari: 751)

٣٣٣: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: (هُوَ اخْتِلَاسٌ، يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ). (رواه البخارى: ٤٥١)

Fawaaid: Iltefaat teen tarah ka hota hai: (1) Zaroorat ke baghair daayen ya baayen munh karna lekin seena qiblah rukh rahe yeh fe'l makrooh ya haraam hai. (2) gosha-e-chashm se dekhna yeh khilaaf-e-oola hai bawaqt zaroorat aisa karna jaayiz hai. (3) daayen baayen bayeen taur par dekhna ke seena bhi qiblah rukh se hat jaaye aisa karne se namaaz baatil hojaati hai.

Baab 55: Imam aur muqtadi ke liye tamaam namaazon mein qura'n padhna waajib hai

434 : Hazrat Jaabir Bin Samurah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ahle Koofa ne Hazrat Umar رضي الله عنه se hazrat Sa'd Bin Abi Waqqaas رضي الله عنه ki shikaayat ki Hazrat Umar رضي الله عنه ne Hazrat Sa'd ko bar taraf karke Hazrat Ammaar Bin Yaasir رضي الله عنه ko unka haakim banaya algarz un logon ne Hazrat Sa'd رضي الله عنه ki bahut shikaayaten kin, yeh bhi kah diya ke woh achchhi tarah namaaz nahin padhte uspar Hazrat Umar ne unhen bula bheja aur kaha: aye Abu Ishaaq! yeh log kahte hain ke tum namaaz achchhi tarah nahin padhte ho? unhon ne kaha: sunye Allah ki qasam! main unhen Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم waali namaaz padhaata tha us mein zarrah bhar kotaahi nahin karta isha ki namaaz padhaata to pahli do raka'ton mein ziyaadah der lagaata aur aakhri do rak'aton mein takhfeef karta tha Hazrat Umar رضي الله عنه ne farmaya aye Abu Ishaaq! tumhaari nisbat hamaara yahi gumaan hai phir Hazrat Umar رضي الله عنه ne ek shakhs ya chand ashkhaas ko Hazrat Sa'd رضي الله عنه ke humraah Koofa rawaana kiya (taake woh ahle Koofa se Hazrat Sa'd رضي الله عنه ki baabat tahqeeqaat karen) unhon ne wahaan koyi masjid na chhodi jahaan Hazrat Sa'd رضي الله عنه ka haal na poochha ho. sab logon ne unki ta'reef ki phir woh qabeelah Abas ki masjid mein gaye to wahaan ek shakhs khada huwa jiski kunniyat Abu Sa'dah aur use Usaamah bin Qataadah kaha jaata tha woh bola jab tum ne hamen qasam dilaayi hai to suno! Sa'd jehaad mein lashkar ke saath khud na jaate the aur na hi maal-e-ghaneemat baraabar taqseem karte

۵۵-باب: وَجُوبِ الْقِرَاءَةِ لِلْإِمَامِ
وَالْمَأْمُومِ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا
۴۳۴: عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: شَكَأَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى عَمْرِو بْنِ
عَنْهُ، فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَارًا،
فَشَكُّوا حَتَّى ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ
يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا
إِسْحَاقَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا
تُحْسِنُ تَصَلِّي؟ قَالَ: أَمَا أَنَا، وَاللَّهِ
فَإِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ مَا أَخْرِمُ عَنْهَا، أَصَلِّي صَلَاةَ
الْعِشَاءِ فَأَرْكُذُ فِي الْأَوَّلِينَ، وَأُخِفُّ
فِي الْآخِرِينَ. قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ
يَا أَبَا إِسْحَاقَ. فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا، أَوْ
رَجُلًا، إِلَى الْكُوفَةِ، تَسْأَلُ عَنْهُ أَهْلَ
الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدْعُ مَسْجِدًا إِلَّا سَأَلَ
عَنْهُ، وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَلَ
مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ،
يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا
سَعْدَةَ قَالَ: أَمَا إِذْ نَشَدْتُنَا فَإِنَّ سَعْدًا
كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ
بِالسُّوِيَّةِ، وَلَا يَعْدُلُ فِي الْقَضِيَّةِ. قَالَ
سَعْدٌ: أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُونَ بِثَلَاثٍ: اللَّهُمَّ
إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا، فَأَمِّ رِيَاءً

the aur muqaddamaat mein insaaf se kaam na lete the. Hazrat S'ad رضي الله عنه ne yeh sun kar kaha: Allah ki qasam! main tujhe teen bad du'aayen deta hoon Aye Allah! agar tera yeh bandah jhoota hai sirf logon ko dekhaane ya sunaane ke liye khada huwa hai to iski umr daraaz karde faqeer badhaade aur aafaton mein phansa de (chunaancheh aisa hi huwa) uske b'ad jab usse uska haal dariyaaft kiya jaata to kahta ke main ek aafat raseedah, daraaz umr boodha hoon mujhe S'ad ki bad du'a lag gayi hai. Hazrat Jaabir رضي الله عنه se bayaan karne waala raavi kahata hai ke main ne bhi use dekha tha budhaape ki haalat mein uske donon abroo aankhon par girne ke baa wajood woh raasta mein chalti ladkiyon ko chhedta aur un par dast daraazi karta phirta tha. (Bukhari:755)

وَسَمِعَهُ، فَأَطْلُ عُمُرَهُ، وَأَطْلُ فَقْرَهُ، وَعَرَّضُهُ بِالْفِتَنِ. وَكَانَ بَعْدَ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ. قَالَ الرَّوَايُ عَنْ جَابِرٍ: فَإِنَّا رَأَيْنَاهُ بَعْدَ، قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطَّرِيقِ يَغْمِزُهُنَّ.

(رواه البخارى:٤٥٥)

Fawaaid: Hazrat Sa'd bin Abi Waqqaas رضي الله عنه ahd-e-Farooqi mein Koofa ke governer the aur imaamat ke faraayez bhi sar anjaam dete the. ahle Koofa ki taraf se shikaayat mausool hone par unhon ne hazrat Umar رضي الله عنه ke paas wazaahat farmaayi ke main Rasoolullah صلوات الله عليه hi ki tarah unhen namaaz padhaata hoon ya'ni pahli do raka'ton mein qira'at lambi karta hoon aur doosri do raka'ten halki karta hoon. yaheen se imam ke liye chaar raka'at mein qira'at karne ka suboot milta hai.

435: Hazrat Ubaadah bin Saamit رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلوات الله عليه ne farmaya jis shaks ne surah faatiha nahin padhi uski namaaz hi nahin huyi. (Bukhari:756)

٤٣٥: عَنْ عَبْدِ بَنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ).

(رواه البخارى:٤٥٦)

Fawaaid: Iss hadees ke pesh-e-nazar jumhoor ulmaa ka yeh moqif hai ke muqtadi ke liye soorah faatiha padhna zaroori hai kuchh ahle ilm ka khayaal hai ke muqtadi ke liye imam ki qira'at hi kaafi nahin hai use faatiha padhna zaroori nahin haalaan ke muqtadi ko imam ki wo qira'at kaafi ho jaati hai jo faatiha ke elaawah hoti hai kyun ke is hadees ke pesh-e-nazar faatiha ke baghair namaaz nahin hoti. ba'z rivaayat mein saraahat hai ke Rasoolullah صلوات الله عليه ne subah ki namaaz ke bad sahaaba kiram se poochha ke shaayed tum imam ke peechhe kuchh padhte ho unhon ne arz kiya ji haan to aap ne farmaya surah faatiha ke elaawah aur kuchh na padha karo. (Awnul Baari:1/782)

436: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek dafa Rasoolullah صلوات الله عليه masjid mein tashreef laaye itne mein ek aadmi aaya aur us ne namaaz padhi phir Rasoolullah صلوات الله عليه ko salam kiya aap ne salam ka jawaab dene ke

٤٣٦: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَسَلَّمَ عَلَى

ba'd farmaya: jaao namaaz padho toone namaaz nahin padhi phir iss tarah teen dafa huwa bil aakhir usne kaha qasam hai uss Allah ki jis ne aap ko haq ke saath bheja hai. main isse achchhi namaaz nahin padh sakta lihaaza Aap mujhe bata deejiye! Aap ne farmaya achchha jab tum namaaz ke liye khade ho to takbeer kaho, phir qura'n se jo tumhen yaad ho padho, uske ba'd itmenaan se ruku' karo phir sar uthhaao aur seedhe khade ho jaao phir sajdah karo aur sajde mein itmenaan se raho phir sar uthha kar itmenaan se baithh jaao aur apni poori namaaz iss tarah mukammal kiya karo.

(Bukhari: 757)

النَّبِيِّ ﷺ فَرَدَّ، وَقَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ). فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ). فَرَجَعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّى، ثُمَّ جَاءَ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ). ثَلَاثًا، فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ، فَعَلِمَنِي؟ فَقَالَ: (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تيسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَتَعَدَّلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَافْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا).

(رواه البخارى: ٤٥٧)

Fawaaid: Abu Dawood ki rivaayat mein hai ke "Takbeer-e-Tahreema kahne ke b'ad surah faatiha padh" iss hadees par imam ibne Hibbaan رَمَزَهُ اللهُ عَلَيْهِ ne iss tarah unwaan qaayem kiya hai ke namaazi ke liye har rak'at mein faatiha padhna zaroori hai iss hadees se do sajdon ke dermiyaan baithhna aur ruku' wa sujoon itmenaan se adaa karna bhi saabit hota hai neez yeh bhi maloom huwa ke doosre sajde ke b'ad jalsa-e-isteraahat bhi zaroori hai. (Awnul Baari:1/788)

Baab 56: Namaaz-e-Zohar mein qira'at

437 : Hazrat Abu Qataadah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ namaaz-e-zohar ki pahli do rak'aton mein surah faatiha aur do sooraten padhte the pahli raka't ko lamba karte the aur doosri raka't ko chhota karte aur kabhi kabhi aayat suna bhi dete the namaaz-e-Asr bhi soorah faatiha aur deegar do sooraten telaawat

٥٦-بَابُ: الْقِرَاءَةُ فِي الظُّهْرِ
٤٣٧: عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، يُطْرَلُ فِي الْآيَةِ أَحْيَانًا، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ، وَكَانَ

farmate aur pahli rak'at ko doosri rak'at se kuchh lamba karte iss tarah subah ki namaaz mein bhi pahli raka't lambi hoti aur doosri mukhtasar karte the. (Bukhari: 759)

Fawaaid: Iss hadees se yeh bhi maloom huwa ke sirri namaaz mein agar imam kabhi kisi aayat ko ouchi aawaaz se padh de to jaayiz hai. (Awnul Baari:1/494)

Baab 57: Namaaz-e-Maghrib mein qira'at

438: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke (unke waalidah) Ummul-Fazl رضي الله عنها ne unhen surah وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا padhte suna to kahne lagin mere bete! tu ne yeh soorat padh kar mujhe yaad dila diya ke yahi woh aakhri surat hai jo main ne Rasoolullah ﷺ se suni thi aap yeh soorah namaaz-e-Maghrib mein padh rahe the. (Bukhari:763)

439: Hazrat Zaid bin Saabit رضي الله عنه se rivaayat hai ke main ne Rasoolullah ﷺ ko namaaz-e-maghrib mein do badi sooraton mein se ziyaadah badi soorat padhte huye suna hai. (Bukhari:764)

Fawaaid: Maghrib ki namaaz ka waqt chhota thoda hota hai isliye bil. umoom chhoti chhoti sooratein padhi jaati hain. iss hadees se maloom hota hai ke kabhi kabhaar koyi badi soorat bhi padh deni chaahiye. yeh bhi masnoon tareeqa hai. (Awnul Baari:1/801)

Baab 58: Namaaz-e-Maghrib ba aawaaz-e-buland qira'at karna

440: Hazrat Jubair bin Mut'im رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko namaaz-e-maghrib mein (surah) toor padhte suna hai. (Bukhari:765)

Baab 59: Namaaz-e-Isha mein sajdah waali soorat padhna

441: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Main ne ek martabah Abul Qasim Rasoolullah ﷺ ke peechhe Namaaz-e-Isha adaa ki to aap ne surah (إِذَا)

يُطَوَّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَيُقْصَرُ فِي الثَّانِيَةِ.

(رواه البخارى: ٤٥٩)

٥٤- بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ

٢٣٨: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ سَمِعَتْهُ، وَهُوَ يَقْرَأُ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا﴾.

فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، لَقَدْ ذَكَرْتَنِي بِقِرَاءِ تِكَ هَذِهِ السُّورَةِ، إِنَّهَا لِأَحْرَمًا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ. (رواه البخارى: ٤٦٣)

٢٣٩: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِطَوْلِي الطَّوِيلِينَ.

(رواه البخارى: ٤٦٢)

٨٥- بَابُ: الْجَهْرِ فِي الْمَغْرِبِ

٢٣٠: عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ.

(رواه البخارى: ٤٦٥)

٥٩- بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ

بِالسَّجْدَةِ

٢٢١: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ

(إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) pahdi aur sajdah kiya lehaazah main hamesha iss soorat mein sajdah karta rahunga yahaan tak ke aap se mil jaaun.

(Bukhari:768)

Baab 60:Namaaz-e-Isha mein qira'at

442:Hazrat Baraa bin aazib ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ek dafa safar mein the to aap ne namaaz-e-Isha ki ek rak'at mein surah (وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ) telaawat farmayi, ek rivaayat mein hai ke main ne Rasoolullah ﷺ se ziyaadah khush ilhaan ya achchha padhne wala kisi ko nahin dekha. (Bukhari:769)

Baab 61: Subah ki namaaz mein qira'at

443:Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke har namaaz mein qira'at karna chaahiye phir jin namaazon mein Rasoolullah ﷺ ne hamein ba aawaaz buland sunaaya hai un mein tumhein ba aawaaz buland sunaate hain aur jin mein aap ne padh kar nahin sunaaya un mein hum bhi tumhen nahin sunaate hain aur agar tu surah faatiha se ziyaadah qira'at na kare to bhi kaafi hai aur agar ziyaadah padh le to achchha hai.(Bukhari:772)

Fawaaid:Iss se maloom huwa ke namaaz mein faatiha ka padhna zaroori hai kyun ke iske baghair namaaz nahin hoti yeh bhi maloom huwa ke faatiha ke saath doosri soorat milaana mustahab hai zaroori nahin. (Awnul Baari:1/801)

Baab 62:Subah ki Namaaz mein ba aawaaz buland qira'at karna.

444.Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ apne chand ashaab ؓ ke hamraah Okaaz bazaar ka iraadah karke chale in dinon shayaateen ko aasmaani khabren lene se rok diya gaya tha aur un par sho'le barsaaye jaa rahe the to shayaateen apni qaum ki taraf

العَمَّةَ، فَقَرَأَ: (إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ) فَسَجَدَ، لَا أَرَأَىٰ أَسْجُدُ بِهَا حَتَّىٰ الْقَاةُ. (رواه البخارى: ٤٦٨)

٦٠- بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي الْعِشَاءِ
٣٣٢: عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ، (وَالْتَيْنِ وَالزَّيْتُونَ) (رواه البخارى: ٤٦٨) وَفِي رَوَايَةٍ أُخْرَىٰ قَالَ: وَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا مِنْهُ، أَوْ قِرَاءَةً. (رواه البخارى: ٤٦٩)

٦١- بَابُ: الْقِرَاءَةِ فِي الْفَجْرِ
٣٣٣: عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ، فَمَا أَسْمَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَىٰ عَنَّا أَكْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ زِدْتُ فَهُوَ خَيْرٌ. (رواه البخارى: ٤٤٢)

٦٢- بَابُ: الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الصُّبْحِ

٣٣٣: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، عَامِدِينَ إِلَىٰ سُوقِ عُكَاظَ، وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبْرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ

laut aaye to qaum ne poochha kiya haal hai? Shayaateen ne kaha: hamaare aur aasmaani khabron ke darmiyaan rukaawat khadi kardi gayi hai aur ab hum par sho'le barsaaye jaa rahe hain. qaum ne kaha: tumhaare aur aasmaani khabron ke darmiyaan kisi aisi cheez ne hijaab kardiya hai jo abhi zaahir huyi hai isliye roo-e- zameen mein mashriq wa maghrib tak chal kar dekho ke woh kiya hai? jis ne tumhaare aur aasmaani khabron ke darmiyaan pardah haayel kardiya hai to woh uski talaash mein nikle un mein woh jinnaat jo tehaamah ki taraf nikle the woh Rasoolullah ﷺ ke paas aa pahunche aap maqaam-e-Nakhla mein the aur O'kaaz ki mandi ki taraf jaane ki niyyat rakhte the uss waqt aap apne sahaaba kiraam ﷺ ko namaaz-e-fajr padha rahe the jab un jinnaat ne kaan lagaa kar qur'an suna to kahne lage Allah ki qasam! yahi woh Qur'an hai jis ne tumhaare aur aasmaani khabron ke darmiyaan hijaab daal diya hai usi maqaam se woh apni qaum ki taraf laut gaye aur kahne lage."Bhaiyo! hum ne a'jeeb qur'an suna hai jo hidaayat ka raastah bataata hai chunaancheh hum uss par eemaan le aaye hain ab hum hargiz apne Allah ke saath kisi ko shareek nahin banaayenge." tab Allah Ta'ala ne apne Rasoolullah ﷺ par yeh soorat naazil farmaayi ﴿قُلْ أُوْحَىٰٓ إِلَىٰٓ﴾ aur aap ko jinon ki guftagu bazariya wah'i bataayi gayi.(Bukhari: 773)

445: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ko jis namaaz mein Jahr ka hukm huwa aap ne jahr kiya aur jis mein aahista padhne ka hukm huwa aahistah padha aur tumhaara parwardigaar bhoolne waala nahin aur bila shubah tumhaare liye Rasoolullah ﷺ ki pairwi karna hi achchha hai.

(Bukhari:774)

الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: مَا لَكُمْ؟ فَقَالُوا: حَيْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسَلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ. قَالُوا: مَا حَالُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ إِلَّا شَيْءٌ حَدَثَ، فَاصْرَبُوا مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ. فَاَنْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ، إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ بِنَحْلَةٍ، عَامِدَيْنِ إِلَى سُوْقِ عُكَاطٍ، وَهُوَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ، فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَيْرِ السَّمَاءِ، فَهَذَا لِكَيْ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا: (إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا). فَانزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ أُوْحَىٰٓ إِلَىٰٓ﴾ وَأِنَّمَا أُوْحَىٰٓ إِلَيْهِ قَوْلُ الْجِنِّ.

(رواه البخارى: ٤٤٣)

٤٤٥ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْمَا أَمْرًا، وَسَكَتَ فِيْمَا أَمْرًا. (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا). (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

(رواه البخارى: ٤٤٣)

Fawaaid: Qur'an majeed mein dauraan-e-namaaz qur'an aahista ya ba aawaaz buland padhne ki tafseel nahin hai. isse maloom huwa ke qur'an ke elaawah bhi Rasoolullah par wahi aati thi. lehaaza un hazraat ko ghaur karna chaahiye jo deeni ahkaam mein sirf qura'n par e'temaad karte hain aur hadees un ke nazdeek qaabil-e- e'tebaar nahin hai.

Baab 63: Do suraten ek rak'at mein padhna, soorat ki aakhri aayat padhna, tarteeb ke khilaaf padhna neez soorat ki ibtedaayi aayaat telaawat karna

446: Hazrat Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه se rivaayat hai ke unke paas ek aadmi aakar kahne laga main ne raat ko mofassal ki tamaam suraten ek rak'at mein padh daalin hazrat Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه ne kaha tu ne iss qadar tezi se padhin jaise ash'aar padhe jaate hain, be shak mein un joda joda sooraton ko jaanta hoon jinhen Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم mila kar padha karte the phir aap ne mofassal ki bees suraten bayaan kin ya'ni har rak'at mein padhi jaane waali do do suraten. (Bukhari:775)

Fawaaid: Ulmaa ne qur'ani sooraton ko chaar aqsaam mein taqseem kiya hai: (1) **Tiwaal:** Jo suraten 100 se ziyaadah aayaat par mushtamil hain. (2) **Mayeen:** Jo sooraten 100 ya iss se kam aayaat par mushtamil hain. (3) **Masaani:** Jo 100 se bahut kam aayaat par mushtamil hain. (4) **Mofassal:** Soorat Hujraat se aakhir qur'an tak, **phir mofassal ki teen aqsaam hain:** (1) **Tiwaal-e-Mofassal** (2) **Awsaat-e-Mofassal**, aur (3) **Qisaar-e-Mofassal** iski tafseel pahle guzar chuki hai. waazeh rahe ke hazrat Abdullah bin Masood رضي الله عنه ne jin joda joda suraton ki nishaandahi ki hai un mein se ba'z maujoodah tarteeb-e-qur'an se mukhtalif hain.

Baab 64: Aakhri do raka'ton mein sirf surah faatiha padhna

447: Hazrat Abu Qataadah رضي الله عنه rivaayat karte hain ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم Zohar ki pahli do rak'aton mein surah faatiha aur do suraten mazed padhte the aur pichhli do rak'aton mein sirf surah faatiha padhte the aur kabhi koyi aayat humen suna bhi dete the aur aap pahli rak'at ko doosri rak'at se lamba karte iss tarah Asr aur subah ki namaaz mein bhi yahi mamool tha. (Bukhari:776)

٦٣ بَابُ - الْجَمْعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ وَالْقِرَاءَةَ بِالْحَوَاتِيمِ وَبِسُورَةٍ قَبْلَ سُورَةٍ وَبِأَوَّلِ سُورَةٍ : ٣٢٦ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : قَرَأْتُ الْمُفْصَّلَ اللَّيْلَةَ فِي رَكْعَةٍ ، فَقَالَ : هَذَا كَهَذَا الشِّعْرِ ، لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ ، فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفْصَّلِ ، سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ .

(رواه البخارى: ٤٤٥)

٦٤ - بَابُ : يَقْرَأُ فِي الْأَخْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ

الْكِتَابِ

٣٢٤ : عَنِ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ ، فِي الْأُولَيَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، وَفِي السَّرَكْعَتَيْنِ الْأَخْرَيْنِ بِأَمِّ الْكِتَابِ ، وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ ، وَيُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ ، وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ . (رواه البخارى: ٤٤٦)

Baab 65: Imaam ka ba aawaaz buland aameen kahna

448: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jab Imam aameen kahe to tum bhi aameen kaho kyun ke jis ki aameen farishton ki aameen se mil jaayegi uske saabqah gunah ma'aaf kardiye jaayenge. (Bukhari:780)

Baab 66: Aameen kahne ki fazeelat

449: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jab tum se koyi aameen kahta hai to aasmaan par farishte bhi aameen kahte hain agar un donon ki aameen ek doosre se mil jaaye to uss (namaazi) ke saabqah tamaam gunaah ma'af ho jaate hain. (Bukhari:781)

Fawaaid: Muqtadi Imam ki aameen sun kar aameen kahenge iss se muqtadiyon ke liye ba aawaaz aameen kahna saabit huwa. ek rivaayat mein hai ke aameen kahne par hasad karna yahood ka shewah hai.

Baab 67: Shumooliyat saff se pahle ruku' karna

450: Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه se rivaayat hai ke woh Rasoolullah ﷺ ke paas uss waqt pahunche jab aap ruku' mein the saff mein shumooliyat se pahle unhon ne ruku' kar liya phir Rasoolullah ﷺ se yeh bayaan kiya to aap ne farmaya Allah Ta'ala tumhaara shauq aur ziyadah kare lekin aaindah aisa mat karna. (Bukhari:783)

Baab 68: Ruku' mein poore taur par takbeer kahna

451: Hazrat Imran bin Husain رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne Hazrat Ali رضي الله عنه ke hamraah Basrah mein namaaz adaa ki farmaane lage unhon ne humein woh namaaz yaad dila di jo hum Rasoolullah ﷺ ke hamraah padha karte the phir unhon ne kaha ke aap jab sar uthhate aur sar jhukaate to us waqt takbeer kahte the. (Bukhari:784)

٢٥ - بَابُ: جَهْرِ الْإِمَامِ بِالتَّامِينَ
٣٣٨ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أَمَّنَ
الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مِنْ وَافِقِ تَأْمِينِهِ
تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ). (رواه البخاري: ٤٨٠)

٢٦ - بَابُ: فَضْلِ التَّامِينَ
٣٣٩ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا قَالَ
أَحَدُكُمْ: آمِينَ، فَوَافَقَتْ أَحَدَهُمَا
الْآخَرَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).
(رواه البخاري: ٤٨١)

٢٤ - بَابُ: إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ
٣٥٠ : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ رَاكِعٌ،
فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصَلَ إِلَى الصَّفِّ، فَذَكَرَ
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (رَزَاكَ اللَّهُ
جِرْصًا وَلَا تَعُدْ).
(رواه البخاري: ٤٨٣)

٢٨ - بَابُ: اِتِّمَامِ التَّكْبِيرِ فِي
الرُّكُوعِ
٣٥١ : عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: ذَكَرْنَا هَذَا
الرَّجُلُ صَلَاةً، كُنَّا نُصَلِّيْهَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كَلِمًا

رَفَعَ وَكَلَّمَا وَضَعَ.

(رواه البخارى: ٤٨٢)

Fawaaid: Ba'z log ruku' aur sajdah ke waqt Allahu Akbar kahna zaroori khayaal nahin karte the. Imam Bukhari iss moqif ki tardeed karne ke liye yeh hadees laaye hain.

Baab 69: Jab sajdah karke khade ho to takbeer kahna

452: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم jab namaaz ke liye khade hote to takbeer kahte phir jab ruku' se apni peethh uthhate to ﴿سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ﴾ kahte uske ba'd ba haalat-e-qaumah ﴿رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ﴾ kahte the.

(Bukhari:789)

٦٩ - بَابُ: التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ

السُّجُودِ

٣٥٢ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرُكِعُ، ثُمَّ يَقُولُ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ). حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ).

(رواه البخارى: ٤٨٩)

Baab 70: Bahaalat-e-Ruku' haath ghutnon par rakhna

453: Hazrat S'ad bin Abi Waqqaas رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek dafa un ke bete hazrat Musa'b ne unke pahloo mein namaaz adaa ki hazrat Musa'b رضي الله عنه kahte hain ke main ne apni donon hatheliyon ko mila kar apni raanon ke darmiyaan rakh liya tha mere waalid ne mujhe iss fe'l se mana farmaya aur kaha ke pahle hum aisa kiya karte the phir humen aisa karne se rok dia gaya aur hukm diya gaya ke (douraan-e-ruku') apne haath ghutnon par rakkha karen. (Bukhari:790)

Fawaaid: Hazrat Abdullah bin Masood رضي الله عنه dauraan-e-ruku' donon haathon ki ungliyaan mila kar inhen raanon ke dermiyaan rakhte the Imam Bukhari ne yeh hadees laa kar bayaan farmaya ke yeh hukm mansookh ho chuka hai mumkin hai ke hazrat Abdullah bin Mas'ood ko yeh hadees na pahunchi ho. (Awnul Baari:1/817)

Baab 71: Ruku' mein pusht ka baraabar rakhna aur uss mein e'tedaal wa itmnaan karna

454: Hazrat Baraa bin A'azib رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ka

٤٠ - بَابُ: وَضْعِ الْأَكْفِ عَلَى

الرُّكْبِ فِي الرُّكُوعِ

٣٥٣ : عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى جَنْبِهِ ابْنُهُ مُضْعَبٌ قَالَ: فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفِّي، ثُمَّ وَضَعْتُهَا بَيْنَ فَخْذِي، فَنَهَانِي أَبِي وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهَيْنَا عَنْهُ، وَأَمَرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكْبِ.

(رواه البخارى: ٤٩٠)

٤١ - بَابُ: اسْتَوَاءِ الظُّهْرِ فِي

الرُّكُوعِ وَالْإِطْمِئْنَانِ فِيهِ

٣٥٣ : عَنْ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

ruku',sajdah, sajdon ke darmiyaani nashist aur ruku' ke ba'd qaumah yeh sab taqreeban baraabar hote the albatta qiyaam aur tashahhud kuchh taweel hote the.

(Bukhari:792)

Baab 72:Ruku' mein Du'a karna

455:Hazrat Aayeshah رضى الله عنها se rivaayat hai woh farmaati hain ke Rasoolullah ﷺ

ruku' aur sajde mein yeh du'a padhte the.

﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي﴾
(Bukhari:794)

كَانَ رُكُوعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسَجْدَتُهُ، وَيَبْنَ سَجَدَتَيْنِ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ. (رواه البخارى: ٤٩٢)

٤٢ - بَابُ: الدُّعَاءِ فِي الرُّكُوعِ

٣٥٥: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي).

(رواه البخارى: ٤٩٢)

Fawaaid:Ba'z Aimmah ne bahaalat-e-ruku' du'a karne ko makrooh khayaal kiya hai Imam Bukhari yeh bataana chaahate hain ke bahaalat-e-ruku' du'a karna durust hai. (Awnul Baari:1/820)

456:Hazrat Aayeshah رضى الله عنها se hi mazkoorah baala hadees ek doosre tareeq se bayeen alfaaz bayaan huyi hai ke Rasoolullah ﷺ (yeh du'a padhne mein) Qur'an Majeed par amal karte the.

(Bukhari:817)

Baab 73: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ﴾ ki fazeelat

457:Hazrat Abu Hurairah رضى الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jab imam ﴿سَمِعَ﴾ ﴿رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ﴾ kahe to tum ﴿اللَّهُ لِمَنْ حَمْدُهُ﴾ kaho kyun ke jis ka yeh kahna farishton ke kahne ke saath hoga uske saabiqah gunah ma'af kardiye jaayenge. (Bukhari:796)

٤٥٦: وَعَنْهَا فِي رِوَايَةِ أُخْرَى: يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ.

(رواه البخارى: ٨١٤)

٤٣ - بَابُ: فَضْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

٣٥٤: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدُهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مِنْ وَافِقِ قَوْلِهِ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ).

(رواه البخارى: ٤٩٦)

Fawaaid:Waazeh rahe ke Imam aur muqtadi donon ko ruku' se sar uthha kar ﴿سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمْدُهُ﴾ kahna chaahiye Imam Bukhari ne iss par mustaqil ek unwaan qaayim kiya hai.

Baab 74:

458:Hazrat Abu Hurairah رضى الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne kaha ke bilaa shubah main Rasoolullah ﷺ ki namaaz ki tarah namaaz padhta hoon aur hazrat Abu Hurairah رضى الله عنه

٤٢ - بَابُ

٣٥٨: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لِأَقْرَبِينَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ. فَكَانَ أَبُو

Zohar, Isha aur fajr ki aakhri rak'at mein ﴿سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ﴾ ke ba'd qunoot padha karte the ya'ni musalmaanon ke liye du'a karte aur kaafiron par la'nat karte the. (Bukhari:797)

459: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke fajr aur maghrib ki namaaz mein qunoot padhi jaati thi. (Bukhari: 798)

Fawaaid: Hangaami haalaat mein har namaaz ki aakhri rakat mein ruku ke bad du'a-e-qunoot karna chaahiye.

460: Hazrat Rifa'ah bin raafe' zarqi رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ek din Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke peeche namaaz padh rahe the jab aap ne ruku' se sar uthha kar farmaya: ﴿سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ﴾ to ek shakhs ne peeche se kaha ﴿حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا﴾ jab aap namaaz se faarigh huye to farmaya ke yeh kalimaat kis ne kahe the? woh shakhs bola! main ne, tab aap ne farmaya ke main ne 30 se ziyaadah farishton ko dekha ke woh iss par baaham sabqat karte the ke kaun usko pahle Qalamband kare? (Bukhari:799)

Fawaaid: Maloom huwa ke ﴿رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ﴾ ba aawaaz buland kahna jaayiz hai hamaare ustaaz-e-mohtaram shaikh badi'uddin Raashdi رحمه الله عليه iss par amal paira the aur unke mo'taqideen iss sunnat par aaj bhi kaar band hain.

Baab 75: Ruku' se sar uthhane ke ba'd itmena se seedha khada hona

461: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke humein Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki namaaz ka tareeqa bata rahe the chunaancheh woh namaaz mein khade hote aur jab ruku' se sar uthhate to itni der qiyaam karte ke hum kahte aap bhool gaye hain. (Bukhari:800)

هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقْنُتُ فِي الرُّكْعَةِ الْأُخْرَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، وَصَلَاةِ الصُّبْحِ، بَعْدَ مَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكُفَّارَ.

(رواه البخارى: ٤٩٤)

٣٥٩: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.

(رواه البخارى: ٤٩٨)

٣٦٠: عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزَّرَقِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي يَوْمًا وَرَاءَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكْعَةِ، قَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ). فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ (مَنْ الْمُتَكَلِّمُ). قَالَ: أَنَا، قَالَ: (رَأَيْتُ بِضِعَّةٍ وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا، أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلًا). (رواه البخارى: ٤٩٩)

٤٥ - بَابُ: الْأَطْمِنَانِيَّةِ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ

٣٦١: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ قَدْ نَسِيَ.

Baab 76: Sajdah ke liye Allahu Akbar kahta huwa jhuke

462 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم jab (ruku' se) sar uthhaate to (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) kahte aur ba'z logon ke liye unka naam le kar du'a karte huye farmate aye Allah! Waleed Bin Waleed, Salama Bin Hishaam, Ayyaash Bin Rabee'ah aur kamzor musalmaanon ko kuffaar ke zulm se nijaat de aye Allah! Qabeela muzar par apni giraft sakht karde aur unhen qahat saali mein muhtala karde jaisa ke Hazrat Usuf عليه السلام ke ahad mein qahat pada tha us zamaana mein ahle mashriq se qabeela muzar ke log Aap ke dushman the.

(Bukhari: 804)

(رواه البخارى: ٨٠٠)

٤٦- بَابُ: يَهْوَى بِالتَّكْبِيرِ حِينَ يَسْجُدُ
٣٦٢ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ يَرْفَعُ
رَأْسَهُ يَقُولُ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ،
رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). يَدْعُو لِرِجَالِ
فَيْسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، فَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ
أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلْمَةَ بِنَ
هَشَامٍ، وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ،
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ
اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا
عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنَى يُوسُفَ). وَأَهْلُ
الْمَشْرِقِ يَوْمَئِذٍ مِنْ مُضَرَ مُخَالِفُونَ

لَهُ. (رواه البخارى: ٨٠٢)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke namaaz mein kisi ka naam le kar dua ya bad dua' karne mein koyi harj nahin hai. (Awnul Baari:1/829)

Baab 77: Sajde ki fazeelat

463 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke logon ne arz kiya ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم! kiya hum roze qiyaamat apne parwardigaar ko dekhenge? Aap ne farmaya ke shab-e-badr ke chaand mein jis par koyi abar na ho (use dekhne mein) tumhen koyi shak hota hai? sahaaba kiraam رضي الله عنهم ne kaha ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم! nahin Aap ne farmaya to kiya tum aaftaab (ke dekhne) mein shak karte ho jabke uss par abar na ho? sahaaba kiraam رضي الله عنهم ne kaha ya Rasoolallah! har giz nahin, Aap ne farmaya usi tarah tum apne parwar digaar ko dekhoge qiyaamat ke din jab log uthhaaye jaayenge to Allah Ta'ala farmaye ga jo (dunya mein) jis ki pooja karta tha woh uske peechhe jaaye chunaankeh koyi suraj ke saath ho jaayega aur koyi chaand ke peechhe ho lega aur koyi buton aur

٤٧- بَابُ: فَضْلِ السُّجُودِ

٣٦٣ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّاسَ
قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: (هَلْ تَمَارُونَ فِي الْقَمَرِ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ دُونَهُ سَحَابٌ؟)، قَالُوا:
لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (فَأَنْتُمْ تَرَوْنَهُ
كَذَلِكَ، يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ،
فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْ،
فَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ الشَّمْسَ، وَمِنْهُمْ مَنْ
يَتَّبِعُ الْقَمَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَّبِعُ
الطَّوَاغِيَتِ، وَتَبَقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا
مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: هَذَا

shayaateen ke peechhe chale ga baaqi iss ummat ke (musalmaan) log rah jaayenge jin mein munaafiq bhi honge unke paas Allah Ta'ala (ek nayi soorat mein) tashreef laaye ga aur farmaayega main tumhaara rab hoon woh arz karenge hum (tujhe nahin pahchaante hum) usi jagah khade rahenge jab humaara rab humaare paas aayega to hum use pahchaan lenge phir Allah Ta'ala unke paas apni (asli) shakal o soorat mein jalwah gar hoga aur farmaayega ke main tuhaara rab hoon to woh kahenge haan tu hamaara rab hai phir Allah Ta'ala unhen bulaayega uss waqt jahannam ki pusht par pul rakh diya jaayega sabse pahle main apni ummat ke saath uss pul se guzrunge uss roz Rsoolon ke elaawah kisi ko yaarah kalaam na hoga Rasool kahenge elaahi! salaamti de salaamti de, jahannam mein sa'daan ke kaanton ki tarah aankde honge kiya tumne sa'daan ke kaante dekhe hain? sahaba ne arz kiya ji haan, Aap ne farmaya bas woh sa'daan ke kaanton ki tarah honge magar unki lambaayi Allah ke elaawah aur koyi nahin jaanta hai woh aankde logon ko unke (bure) a'maal ke mutaabiq ghaseeteinge ba'z shakhs to apni bad a'maaliyon ki wajah se halaak ho jaayenge aur kuchh zakhmon se choor ho kar bachh jayenge hatta ke Allah Ta'ala ahle jahannam mein se jin par mehar baani karna chaahega to farishton ko hukm dega jo log Allah ki ibaadat karte the woh nikaal liye jaayen chunaankeh farishte unhein sajdon ke nishanaat se pahchaan kar nikaal lenge kyun ke Allah Ta'al ne aag par sajdon ke nishanaat ko khana haraam kardiya hai un logon ko jahannam mein iss haalat mein nikaala jayega ke nishanaat sujoon ke elaawah unki har cheez ko aag kha chuki hogi yeh log koyela ki tarah sokhta haalat mein jahannam se niklenge phir un

مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِينَا رَبُّنَا، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا
عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فَيَقُولُ: أَنَا
رَبُّكُمْ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَذْعُوهُمْ
فَيَضْرِبُ الصِّرَاطَ بَيْنَ ظَهْرَانِي جَهَنَّمَ،
فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَجُوزُ مِنَ الرُّسُلِ
بِأَمَّتِهِ، وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ إِلَّا
الرُّسُلُ، وَكَلَامُ الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ
سَلِّمْ سَلِّمْ، وَفِي جَهَنَّمَ كَاللَّيْلِ، مِثْلُ
شَوْكِ السُّعْدَانِ، هَلْ نَعَمْ، قَالَ:
(فَأَنهَذَا مِثْلُ شَوْكِ السُّعْدَانِ، غَيْرَ أَنَّهُ
لَا يَعْلَمُ قَدْرَ عَظَمَتِهَا إِلَّا اللَّهُ، تَحْطِفُ
النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوبِقُ
بِعَمَلِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُخْرَدُ ثُمَّ يَنْجُو،
حَتَّى إِذَا أَرَادَ اللَّهُ رَحْمَةً مَنْ أَرَادَ مِنْ
أَهْلِ النَّارِ، أَمَرَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ أَنْ
يُخْرِجُوا مَنْ كَانَ يَعْْبُدُ اللَّهَ،
فَيُخْرِجُونَهُمْ وَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ
السُّجُودِ، وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ
تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَ مِنَ
النَّارِ، فَكُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِلَّا أَثَرَ
السُّجُودِ، فَيُخْرِجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدْ
امْتَحَشُوا، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ،
فَيَنْتَبِهُونَ كَمَا تَنْتَبِهُ الْحَبَّةُ فِي حِمْلِ
السَّيْلِ، ثُمَّ يَفْرَعُ اللَّهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ
الْعِبَادِ، وَيَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ-
وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ النَّارِ دُخُولًا الْجَنَّةِ-
مُقْبِلًا بِوَجْهِهِ قِبَلَ النَّارِ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ
أَصْرَفَ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، قَدْ قَشَبَنِي

par aab-e-hayaat chhidka jayega to woh aise namu paayenge jis tarah qudrati beej paani ke bahaao mein ugtaa hai uske ba'd Allah Ta'ala apne bandon ka faisla karne se faarigh hojayega lekin ek shakhs jannat aur dozakh ke darmiyaan rah jayega woh jannat mein daakhil hone ke e'tebaar se aakhri hoga uska munh dozakh ki jaanib hoga aur woh arz karega aye Allah! mera munh dozakh ki taraf se pherde kyun ke iski badbu ne mujhe jhulas diya hai aur iske sho'lah ne mujhe jala diya hai. Allah Ta'ala farmayega kiya tu aayindah aisa to nahin karega ke agar tere saath achchha sulook kiya jaaye to phir uske elaawah kuchh aur maange? woh arz karega har giz nahin, teri buzrugi ki qasam! phir woh Allah Ta'ala ko uski mashiyat ke mutaabiq ahdo paimaan dega uske ba'd Allah Ta'ala uska munh dozakh ki jaanib se pher dega jab woh jannat ki taraf munh karega to woh uski taro taazgi aur bahaar dekh kar jitni der tak Allah Ta'ala ko manzoor hoga khaamosh rahega uske ba'd kahega Allah mere parwardigaar mujhe jannat ke darwaaze tak pahuncha de Allah Ta'ala farmaayega kiya tune iss par qaul-o-qaraar na kiya tha ke jo kuchh tu maang chuka hai uske elaawah kisi aur cheez ka mutaaleb nahin karega uss par woh arz karega aye parwardigaar! be shak lekin teri makhlooq mein se sirf main hi badnaseeb na rahoon, irshaad hoga agar tujhe yeh bhi ataa kardiya jaaye to uske elaawah kuchh aur sawaal to nahin karega? woh arz pardaaz hoga teri buzrugi ki qasam! main iske elaawah koyi aur sawaal nahin karunga phir Allah Ta'ala ko uski mashiyat ke mutaabiq qaul wa qaraar dega aakhir Allah Ta'ala use jannat ke darwaaze par pahuncha dega aur jab woh jannat ke darwaaze ke paas pahunch jaayega wahaan ki shaadaabi

رَبِّحُهَا، وَأَحْرَقْنِي ذَكَوُهَا، فَيَقُولُ: هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، فَيُعْطِي اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ، فَإِذَا أَقْبَلَ بِهِ عَلَى الْجَنَّةِ، رَأَى بِهَجَّتِهَا، سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَبِّ قَدِّمْنِي عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعُهُودَ وَالْمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنْتَ سَأَلْتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيَقُولُ: فَمَا عَسَيْتَ إِنْ أُعْطِيتَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَهُ؟ فَيَقُولُ: لَا وَعِزَّتِكَ، لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ؟، فَيُعْطِي رَبُّهُ مَا شَاءَ مِنْ عَهْدٍ وَمِيثَاقٍ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا بَلَغَ بَابَهَا، فَرَأَى زَهْرَتَهَا، وَمَا فِيهَا مِنَ النَّضْرَةِ وَالسُّرُورِ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَسْكُتَ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ ادْخُلْنِي الْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ: وَيَحْكُ يَا ابْنَ آدَمَ، مَا أُغْدِرَكَ، أَلَيْسَ قَدْ أُعْطِيتَ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، أَنْ لَا تَسْأَلَ غَيْرَ الَّذِينَ أُعْطِيتَ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ لَا تَجْعَلْنِي أَشْقَى خَلْقِكَ، فَيُضْحِكُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْذَنُ لَهُ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ لَهُ: تَمَنَّ، فَيَتَمَنَّى حَتَّى إِذَا انْقَطَعَ أُمِّيَّتُهُ، قَالَ

taazgi aur farhat dekh kar jetni der Allah ko manzoor hoga khaamoosh rahega phir yun goya hoga aye parwardigaar! mujh ko jannat mein daakhil karde Allah Ta'ala farmayega aye aadam ke bete! tujh par afsos tu kitna ahad shikan aur dagha baaz hai kiya tune iss baat ka ahad nahin kiya tha ke ab main koyi darkhaast nahin karunga to woh arz karega aye mere parwardigaar mujhe apni makhlooq mein se sab se ziyadah bad naseeb na kar tab uski baaton par Allah Ta'ala ko hansii aa jayegi aur use jannat mein jaane ki ejaazat de kar farmayega khaahish kar chunaancheh woh khaahish karne laga yahaan tak ke uski tamaam khaahishaat khatm ho jaayengi to Allah farmayega yeh cheezein maang iska parwardigaar use khud yaad dilaayega yahaan tak ke jab uski jumlaah khaahishaat tamaam ho jaayengi phir Allah Ta'ala farmayega tujhe yeh bhi balke iski misl aur bhi diya jata hai.

Hazrat Abu Say'eed Khudri ؓ ne Hazrat Abu Hurairah ؓ se kaha ke Rasoolullah ﷺ ne iss jagah par farmaya tha ke Allah Ta'ala farmayega tere liye yeh bhi aur iske saath 10 guna mazeed tere liye hai Hazrat Abu Hurairah ؓ goya huye ke mujhe Rasoolullah ﷺ se yahi yaad hai ke Allah Ta'ala farmayega tere liye yeh aur itna aur hai Hazrat Abu Say'eed ؓ ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate suna yeh sab kuchh tujhe diya aur 10 guna mazeed bhi diya jata hai.

(Bukhari:806)

Fawaaid: Iss hadees se sajdah ki fazeelat ka pata chalta hai ke Allah Ta'ala uss peshaanii ko nahin jalayega jis par sajde ke nishanaat honge aur unhi nishanaat ki wajah se be shumaar gunah gaaron ko dhoond dhoond kar jahannam se nikaala jaayega aur iss mein be shaumaar Allah ki sifaat ka isbaat hai jin par kitabut-tauheed mein guftagu hogi. (Insha.Allah)

Baab 78: Saat haddiyon par sajdah karna

464: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se ek rivaayat mein hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya mujhe saat haddiyon par sajdah karne ka hukm diya

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: زِدْ مِنْ كَذَا وَكَذَا، أَقْبَلَ يُسَدِّكِرُهُ رُئُوءَهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَتْ بِسِهِ الْأَمَانِيُّ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ).

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ). قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَمْ أَحْفَظْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا قَوْلَهُ: (لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (ذَلِكَ لَكَ وَعَشْرَةٌ أَمْثَالِهِ). (رواه البخارى: ٨٠٦)

٤٨ - بَابُ: السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظَمِ
٣٦٣: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا فِي رِوَايَةٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ

gaya hai peshaani par aur aap ne apne haath se apni naak, donon haathon aur donon ghutnon aur donon paaun ki taraf ishaarah farmaya aur yeh bhi hukm diya gaya ke hum kapdon aur baalon ko na sameten.

(Bukhari:812)

(أَمْرٌ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكَفَتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ). (رواه البخارى: ٨١٢)

Fawaaid: Dar asal peshaani ka zameen par rakhna hi sajdah hai aur naak bhi peshaani mein daakhil hai lehaaza naak aur peshaani donon ka zameen par rakhna zaroori hai. neez dauraan-e-sajdah apne paaun yediyon samet mila kar rakkhe aur ungliyon ka rukh qiblah ki taraf hona chaahiye.

Baab 79: Donon sajdon ke darmiyaan thhaharna

465: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke main kotaahi nahin karunga ke tumhein waisi hi namaaz padhaun jis tarah main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko padhte dekha hai baaqi hadees 461 pahle guzar chuki hai. (Bukhari:821)

٤٩ - بَابُ: الْمَكْثِ بَيْنَ

السَّجْدَتَيْنِ

٣٦٥: عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّي لَا أَلُو أَنْ أُصَلِّيَ بِكُمْ كَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ. وباقى الحديث تقدم. (رواه البخارى: ٨٢١)

Fawaaid: Uss mein yeh alfaaz bhi hain ke donon sajdon ke darmiyaan itni der tak baithhte ke dekhne waala khayaal karta ke shaayad aap doosra sajdah karna bhool gaye hain doosri hadees se maloom hota hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم donon sajdon ke darmiyaan رِبَى اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي baar baar padhte the.

Baab 80: Dauraan-e-Sajdah apne baazoo zameen par na bichhaaye

466: Hazrat Anas رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke sajdah thheek taur par adaa karo aur tum mein se koyi apne donon baazoo zameen par kutte ki tarah na bichhaaye. (Bukhari:822)

Baab 81: Taaq rak'at ke ba'd thoodi der baithh kar phir khada hona

467: Hazrat Maalik bin Huwairis رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko namaaz padhte huye dekha aap jab namaaz ki taaq raka'at mein hote to uss waqt tak khade na hote jab tak seedhe baithh na

٨٠ - بَابُ: لَا يَفْتَرِشُ ذِرَاعِيهِ فِي

السُّجُودِ

٣٦٦: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَسْطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ). (رواه البخارى: ٨٢٢)

٨١ - بَابُ: مَنْ اسْتَوَى قَاعِدًا فِي

وَتَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ نَهَضَ

٣٦٧: عَنْ مَالِكِ بْنِ حُوَيْرِثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وَتَرٍ مِنْ صَلَاتِهِ، ثُمَّ

jaate.(Bukhari:823)

يَنْهَضُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

(رواه البخارى: ٨٢٣)

Fawaaid: Pahlī aur teesri rak'at ke doosre sajde se sar uthha kar thodi baaihh kar phir uthna isko jalsaye isteraahat kahte hain jo sunnat sahiha se saabit hai.

Baab 82: Do rakaton se Uthhte Waqt takbeer kahna

468: Hazrat Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne namaaz padhayi to jis waqt unhon ne apna sar (pahle) sajde se uthhaya phir jab sajdah kiya aur jab unhon ne (doosre sajde se) sar uthhaya aur jab do rak'aton se uthhe to buland aawaaz se takbeer kahi, phir unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko aisa karte dekha hai.

(Bukhari:825)

Baab 83: Tashahhud mein baithhne ka tareeqa

469: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke woh namaaz mein chaar zaanon baithhe the lekin unhon ne jab apne bachche ko aisa karte dekha to use mana kardiya aur farmaya ke namaaz mein (baithhne ka) sunnat tareeqa yeh hai ke tum apna daayan paaun khada karo aur baayan paaun phaila do aap ke bete ne kaha aap aisa kyun karte hain? unhon ne farmaya ke mere paaun mera bojh nahin uthha sakte.

(Bukhari:827)

470: Hazrat Abu Humaid Sa'di رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mujhe Rasoolullah ﷺ ki namaaz tum sab se ziyaadah yaad hai main ne dekha ke aap ne takbeer-e-tahreema kahi aur apne donon haath donon kandhon ke baraabar le gaye aur jab aap ne ruku' kiya to aap ne donon haath ghutnon par jamaaliye phir apni kamar ko khameedah kiya aur jab aap ne sar

٨٢ - بَابُ: يُكَبِّرُ وَهُوَ يَنْهَضُ مِنْ

السَّجْدَتَيْنِ

٣٦٨ : عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى، فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرُّكُوعَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ. (رواه البخارى: ٨٢٥)

٨٣ - بَابُ: سُنَّةُ الْجُلُوسِ فِي

التَّشَهُدِ

٣٦٩ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلَاةِ إِذَا جَلَسَ، وَأَنَّهُ رَأَى وَلَدَهُ فَعَلَّ ذَلِكَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنَى، وَتَتَّبِعَ الْبُسْرَى، فَقَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلِي لَا تَحْمِلَانِي.

(رواه البخارى: ٨٢٤)

٣٧٠ : عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَا كُنْتُ أَحْفَظُكُمْ لِصَّلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَأَيْتُهُ إِذَا رَكَعَ أَمَكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ هَضَرَ ظَهْرَهُ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلَا قَابِضُهُمَا،

uthhaya to aise seedhe huye ke har haddi apni jagah par aagayi aur jab aap ne sajdah kiya to na aap donon haathon ko bichhaaye huye the aur na hi samete huye aur paaun ki ungliyaan qiblah rukh thin aur do rak'aton mein baithhte to baayan paaun bichha kar baithhte aur daayan paaun khada rakhte jab aakhri raka't mein baithhte to baayan paaun aage karte aur daayan paaun khada rakhte phir apni nashist gaah ke bal baithh jaate.

(Bukhari:828)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke aakhri rak'at mein tawarruk karna chaahiye.

(Awnul Baari:1/845)

Baab 84: Jo pahle tashahhud ko waajib nahin kahta.

471: Hazrat Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه (jo qabeelah azdeshanoah se hain aur bani abd-e-manaaf ke haleef aur Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke ashaab se the) se irvaayt hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne logon ko ek din namaaz-e-zohar padhayi aur pahli do raka't ke ba'd baithhne ki bajaaye log bhi aap ke saath khade ho gaye jab aap apni namaaz poori karchuke to log inetzaar mein the ke ab salam pherenge to aap ne baithhe hi baithhe Allahu Akbar kaha salam se pahle do sajde kiye phir salam phera. (Bukhari:829)

Fawaaid: Hadees mazkoor se Imam Bukhari ne yeh saabit kiya hai ke tashahhud awwal farz nahin agar aisa hota to aap iska e'aadah karte lekin digar rivaayaat se pata chalta hai ke yeh zaroori hai lekin agar rah jaaye to sajdah sahw se iski talaafi hojaati hai Imam Shaukani رحمۃ اللہ علیہ ka bhi yehi rujhaan hai. (Awnul Baari:1/846)

Baab 85: Doosre qa'dah mein tashahhud padhne ka bayaan

472: Hazrat Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum jab Rasoolullah ke peechhe namaaz padhte the to q'adah mein kaha karte the Jibrayeel par

وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْيُمْنَى، وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى، قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَنَصَبَ الْأُخْرَى، وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

(رواه البخارى: ٨٢٨)

٨٢ - بَابُ: مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُدَ الْأَوَّلَ وَاجِبًا

٣٤١ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ مِنْ أُرْدِ شُؤءَةَ، وَهُوَ حَلِيفُ لِبْنِي عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم صَلَّى بِهِمْ الظُّهْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، لَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ، وَأَنْتَظَرَ النَّاسَ تَسْلِيمَهُ، كَبَّرَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ سَلَّمَ.

(رواه البخارى: ٨٢٩)

٨٥ - بَابُ: التَّشَهُدُ فِي الْآخِرَةِ
٣٤٢ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلَفَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قُلْنَا: أَلَسْلَامُ عَلَى جِبْرِيلَ

salam, Mikayeel par salaam, fulaan par aur fulaan par salam phir Rasoolullah ﷺ ne hamaari taraf motawajjah ho kar farmaya Allah to khud hi salam hai jab tum mein se koyi namaaz padhe to (Q'adah mein) yoon kahe "sab ta'zeemen" ibaadaten aur umdah baaten Allah ke liye hain Aye Nabi tum par salam, Allah ki rahmat aur uski barkaten hon, hum par aur Allah ke nek bandon par salam ho.....kyun ke jab tum yeh kahoge to yeh dua' Allah ke har nek bande ko pahunch jaayegi khaah woh zameen par ho ya aasmaan mein.....main gawaahi deta hoon ke Allah ke elaawah koyi ma'bood-e-haqeeqi nahin aur main gawaahi deta hoon ke hazrat Muhammad ﷺ uske bande aur uske Rasool hain.(Bukhari:831)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ki wafaat ke ba'd muta'ddid sahaaba kiram ne tashahhud mein segha khitab chhod kar segha ghaayeb istemaal karna shuru kardiya tha. (Awnul Baari:1/850)

Baab 86: Salaam se pahle du'a ka bayaan

473: Hazrat Aayshah رضي الله عنها (jo Rasoolullah ﷺ ki zaujah mohtarmah hain) se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ namaaz mein yeh dua' kiya karte the. Aye Allah! main qabr ke azaab se teri panaah maangta hoon aur fitna dajjal se teri panaah talab karta hoon, zindagi aur maut ke fitna se teri panaah mein aata hoon aye Allah main gunaah aur qarz se teri panaah ka taalib hoon. aap se ek shakhs ne kaha aap qarz se bahut panaah maangte hain? aap ne farmaya insaan jab qarz daar hota hai to baat karte waqt jhoot bolta hai aur jab waadah karta hai to uski khilaaf warzi karta hai. (Bukhari:832)

474: Hazrat Abu Bakr Siddeeq رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne Rasoolullah ﷺ se arz kiya ke aap mujhe koyi aisi du'a taleem farmayen jise main namaaz mein padha

وَمِيكَائِيلَ، أَسْلَامٌ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٍ، فَاتَّفَقَتْ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَسْلَامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمُوهَا، أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ لِلَّهِ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ). (رواه البخارى: ٨٣١)

٨٦- بَابُ: الدُّعَاءِ قَبْلَ السَّلَامِ
٣٤٣: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَائِثِ وَالْمَغْرَمِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِينُ مِنَ الْمَغْرَمِ؟ فَقَالَ: (إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرِمَ، حَدَّثَ فَكَذَّبَ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ). (رواه البخارى: ٨٣٢)

٣٤٤: عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ:

karun aap ne farmay yeh padha karo: Aye Allah! main ne apne aap par bahut zulm kiya aur gunaahon ko tere e'laawah koyi ma'af karne waala nahin pas tu mujhe apni taraf se maaf karde aur mujh par meharbaani farma yaqeenan tu bakhshne waala meharbaan hai. (Bukhari:834)

عَلِمَنِي دَعَاءَ أَدْعُو بِهِ فِي صَلَاتِي:
قَالَ: (قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي
ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ
فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي
إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

(رواه البخارى: ٨٣٤)

Baab 87: Tashahhud ke ba'd pasandeedah du'a karna

475: Hazrat Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه se rivaayat 472 jo pahle guzar chuki hai iss tareeq se main ﴿أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ﴾ ke ba'd mazed farmaya phir jo dua' us ko pasand aaye padhe. (Bukhari:835)

٨٧- بَابُ: مَا يَتَّخِرُ مِنَ الدُّعَاءِ
بَعْدَ التَّشْهَدِ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ

٤٧٥: حديث ابن مسعود رضى الله
عنه فى التشهد تقدم قريبا، وقال فى
هذه الرواية بعد قوله: (وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ): (ثُمَّ يَتَّخِرُ
مِنَ الدُّعَاءِ أُعْجِبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو).

(رواه البخارى: ٨٣٥)

Fawaaid: Behtar hai ke pasandeedah du'a ka inetekhaab adi'yah masoorah mein se kare kyun ke be shumaar masnoon dua'yen aisi maujood hain jo hamaare mataalib wa maqaasid par mushtamal hain inka padhna baai's-e-sad kahir wa barkat hoga jumla maqaasid par mushtamal yeh dua' hi kaafi hai. ((رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ))

Baab 88: Salaam pherna

476: Hazrat Umme Salmah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم jab salaam pherte the to auraten aapke salaam pherte hi khadi ho kar chal deti thin aur aap khade hone se pahle kuchh der thhahar jaate. (Bukhari:837)

٨٨- بَابُ التَّسْلِيمِ

٤٧٦: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا
سَلَّمَ، قَامَ النِّسَاءُ حِينَ يَقْضِي تَسْلِيمَهُ،
وَمَكَتْ يَسِيرًا قَبْلَ أَنْ يَقُومَ.

(رواه البخارى: ٨٣٧)

Fawaaid: Aakhir mein salaam pherna namaaz ka ek rukn hai lekin ba'z hazraat isse ittefaaq nahin karte unka moqif hai ke namaazi apne kisi bhi fe'l ke zariya' namaaz se nikal sakta hai yeh moqif mahall-e-nazar hai kyun ke hadees mein hai ke takbeer-e- tahreema namaaz mein daakhil hone aur salaam pherna iss se khaarj hone ka zariya hai. (Awnul Baari:1/861)

Baab 89: Imam ke salaam ke saath hi muqtadi bhi salaam pherde

477: Hazrat Itbaan رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke

٨٩- بَابُ: يُسَلِّمُ حِينَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ
٤٧٧: عَنْ عَتَبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَلَّمْنَا حِينَ

saath namaaz padhi to jab aap ne salaam phera to hum ne bhi salaam pherdiya.

(Bukhari:838)

Fawaaid:Maqsad yeh hai ke muqtadiyon ko salaam pherne mein der nahin karni chaahiye balke Imam ki mutaabia't karte huye saath hi salaam pherden.

Baab 90:Namaaz ke bad Zikr-e-Ilaahi karna

478:Hazrat Ibne Abbaas رضى الله عنهما se rivaayat hai ke farz namaaz se faraaghat ke ba'd ba aawaaz buland zikr karna Rasoolullah ﷺ ke zamaane mein jaari tha Hazrat Ibne Abbaas رضى الله عنهما farmate hain ke mujhe to logon ka namaaz se faraaghat ka pata uss zikr ki aawaaz sun kar maloom hota tha.

(Bukhari:841)

479:Hazrat Abu Hurairah رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke kuchh naadaar log Rasoolullah ﷺ ke paas aaye aur kahne lage ke ziyaadah maaldaar log bade bade darje aur daayimi aish le gaye kyun ke hamaari tarah woh namaaz padhte hain aur hamaari tarah woh roze rakhte hain lekin unke paas maal ki bohtaata hai jis se woh hajj wa u'mrah aur jehaad karte hain aur sadqah bhi dete hain uss par aap ne farmaya kiya main tumhein aisi baat na bataaun ke uss par amal karke tum un logon ko paa loge jo tum se sabqat le gaye hain aur tumhaare ba'd tumhein koyi na paa sake aur tum jin logon mein ho un se behtar ho jaaoge siwaaye us shakhs ke paas jo uske misl amal kare (woh tumhaare baraabar rahega) tum har namaaz ke bad 33 baar اللَّهُ ، 33 baar الْحَمْدُ لِلَّهِ aur 33 baar اللَّهُ أَكْبَرُ ، padh liya karo.

Raavi kahta hai ke phir humaara baahami ihtelaaf hogaya hum mein se ba'z ne kaha

سَلَّمَ. (رواه البخارى: ٨٣٨)

٩٠ - بَابُ: الدِّكْوِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
٣٤٨: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ، حِينَ
يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، كَانَ
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ. وَقَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا
بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

(رواه البخارى: ٨٣١)

٣٤٩: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: جَاءَ الْفُقَرَاءُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ
فَقَالُوا: ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ مِنَ الْأَمْوَالِ
بِالدَّرَجَاتِ الْعُلَا وَالنَّعِيمِ الْمُقِيمِ:
يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيُصُومُونَ كَمَا
نُصُومُ، وَلَهُمْ فَضْلُ أَمْوَالٍ، يَحْجُونَ
بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ، وَيُجَاهِدُونَ
وَيَتَصَدَّقُونَ. فَقَالَ: (أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا
إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ، أَدْرَكْتُمْ مِنْ سَبَقِكُمْ،
وَلَمْ يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ، وَكُنْتُمْ
خَيْرَ مَنْ أَنْتُمْ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِ، إِلَّا مَنْ
عَمِلَ مِثْلَهُ؟ تَسْبِحُونَ وَتَحْمَدُونَ
وَتُكَبِّرُونَ، خَلَفَ كُلَّ صَلَاةٍ، ثَلَاثًا
وَتَلَاثِينَ). قَالَ الرَّوَى: فَاخْتَلَفْنَا بَيْنًا،
فَقَالَ بَعْضُنَا: نُسَبِّحُ ثَلَاثًا وَتَلَاثِينَ،
وَنُحْمَدُ ثَلَاثِينَ، وَنُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَتَلَاثِينَ،
فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (تَقُولُ: سُبْحَانَ

ke hum 33 martabah **اللَّهُمَّ**, **سُبْحَانَ اللَّهِ** 33 martabah aur 34 martabah **اللَّهُمَّ أَكْبَرُ** padhenge to main ne phir apne ustad se poochha to usne kaha **اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ، اللَّهُمَّ أَكْبَرُ** padha karo hatta ke un mein se har ek 33 martabah ho jaaye. (Bukhari:843)

480:Hazrat Mugheerah bin Sho'ba رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم har farz namaaz ke ba'd yeh padha karte the.

Allah ke elaawah koyi mabood-e-haqeeqi nahin hai woh ek hai uska koyi shareek nahin uski baadshaahat hai aur usi ke liye tareef hai aur woh har baat par qaadir hai. Aye Allah! jo kuchh tu de use koyi rokne waala nahin aur jo cheez tu rok le uska koyi dena waala nahin kisi buzrug ki koyi buzrug tere huzoor kuchh faayidah nahin deti.

(Bukhari:844)

Baab 91: Imam ko chaahiye ke salaam pherne ke ba'd logon ki taraf munh karke baithhe

481:Hazrat Samurah bin Jundub رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم namaaz padh lete to apna rooye mubaarak hamaare taraf karlete the.

(Bukhari:845)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke namaaz ke ba'd ba aawaaz buland imam ka du'a karna aur muqtadiyon ka aameen kahna Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم aur aap ke sahaaba kiram رضي الله عنهم ka ma'mool na tha balke ise bahut arsa ke ba'd eijaad kiya gaya.

482:Hazrat Zaid bin Khalid رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne Hudaibiyah mein baarish ke ba'd jo raat ko huyi thi namaaz-e-fajr padhaayi faraaghat ke ba'd logon ki taraf munh karke farmaya tum jaante ho ke tumhaare parwardigaar ne kiya farmaya hai? Unhon ne arz kiya ke Allah aur uska Rasool hi ziyaadah jaanta hai aap ne kaha Allah ka irshaad-e-giraami hai ke mere bandon mein se kuchh log momin huye aur kuchh kaafir, jis ne yeh kaha ke Allah ke fazl aur uski rahmat se hum par baarish huyi woh

اللَّهُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلُّهُنَّ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ.

(رواه البخارى: ٨٤٣)

٣٨٠ : عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطَى لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. (رواه البخارى: ٨٤٣)

٩١ - بَابُ: يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامُ النَّاسَ

إِذَا سَلَّمَ

٣٨١ : عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

(رواه البخارى: ٨٤٥)

٣٨٢ : عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَّةِ، عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: (هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ؟) قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي

to mera momin bandah hai aur sitaaron ka munkir aur jis ne kaha ke hum par fulaan sitaare ki wajah se baarish huyi hai woh mera munkir hai aur sitaaron par eemaan laane waala hai. (Bukhari:846)

وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ
اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي
وَكَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ:
بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَ
مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ).

(رواه البخارى: ٨٢٦)

Baab 92: Jo shakhs namaaz padha kar apni koyi zaroorat yaad kare aur logon ko phlaangta huwa nikal jaaye.

483: Hazrat Uqbah Bin Aamir رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke peeche Madinah Munawwarah mein Asr ki namaaz padhi Aap ne salam phera aur jaldi se khade ho gaye phir logon ki gardanen phalaangte huye apni ek ahliya ke hujre mein tashreef le gaye log Aap ki iss ujlat se ghabra gaye phir Aap tashreef laaye to dekha ke Aap ke jaldi jaane ki wajah se hairaan hain Aap ne farmaya ke mujhe kuchh sona yaad aagaya tha jo mere ghar mein rakkha huwa tha mujhe nagawaar guzra ke woh mere liye Allah ki yaad mein haayel ho isliye main ne usse baant dene ka hukm de diya. (Bukhari: 851)

٩٢ - بَابُ: مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَذَكَرَ

حَاجَةً فَتَخَطَّاهُمْ

٣٨٣ : عَنْ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْمَدِينَةِ
الْعَصْرَ، فَسَلَّمْتُ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا، فَتَخَطَّيَ
رِقَابَ النَّاسِ، إِلَى بَعْضِ حُجُرِ نِسَائِهِ،
فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ، فَقَالَ:
(ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تَبَرُّعِنَا، فَكُرِهْتُ
أَنْ يَحْبِسَنِي، فَأَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ).

(رواه البخارى: ٨٥١)

Fawaaid: Iss hadees se saabit huwa ke farz ki adaayegi ke ba'd imam ko wahaan baithhe rahne ki pa bandi nahin. (Awnul Baari:1/875) Zaroorat ki soorat mein woh fauran bhi uthh sakta hai.

Baab 93: Namaaz padh kar daayen ya baayen taraf se phirna

484 : Hazrat Abdullah Bin Mas'ood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke tum mein se koyi shakhs apni namaaz mein shaytaan ka hissa na banaaye ke namaaz ke ba'd daayen jaanib se phirne ko zaroori khayaal kare yaqeenan main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko aksar apni baayen jaanib se phirte dekha.

(Bukhari: 852)

٩٣ - بَابُ: الْإِنْفِتَالِ وَالْإِنْجِرَافِ عَنِ

الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ

٣٨٣ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ
لِلشَّيْطَانِ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِهِ، يَرَى أَنَّ
حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ،
لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَثِيرًا يَنْصَرِفُ
عَنْ يَسَارِهِ. (رواه البخارى: ٨٥٢)

Fawaaid: Maloom huwa ke kisi mubaah kaam ko laazim ya waajib qaraar de lena shaytaan ka eghwaa hai. (Awnul Baari:1/877)

Baab 94: Kachche lahsan piyaaz aur gandne ke baare mein kiya aaya hai

485 :Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs us paude ya'ni lahsan mein se kuchh khaaye woh hamaare paas hamaari Masjidon mein na aaye raavi kahta hai ke main ne Jaabir رضي الله عنه se daryaافت kiya isse Aap ki kiya muraad hai? unhon ne farmaya ke mere khayaal ke mutaabiq kachcha lahsan muraad hai yeh bhi kaha gaya hai ke isse muraad uski badboo hai.
(Bukhari: 854)

Fawaaid:Mooli waghairah ka bhi yahi hukm hai agar paka kar uski bu ko khatm kardiya jaaye to istemaal karne mein koyi qabaahat nahin. (Awnul Baari:1/879) Ulmaa ne tambakoo noshi aur tambakoo khori ki hurmat ke liye iss hadees ko buniyaad qaraar diya hai diyaar-e-arab ke fuqhaa ne iski hurmat ka fatwaa diya hai.

486 : Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs lahsan ya piyaaz khaaye woh hum se ya hamaari Masjid se alag rahe apne ghar baithha rahe aur ek martabah Rasoolullah ﷺ ke paas ek handiya laayi gayi jis mein sabz tarkaariyaan paki huyi thi Aap ne uss mein kuchh bu paayi to unke muta'alliq daryaافت kiya chunaancheh jo tarkaariyan uss mein thin Aap ko bataa di gayin Aap ne farmaya use mere kuchh ashaab ke qareeb karo phir jab unhon ne dekha to uske tanawul ko na pasand kiya uss par aap ne farmaya tum khaao kyun ke main to uss se manajaat karta hoon jis se tum manajaat nahin karte.(Bukhari: 855)

487 : Ek rivaayat mein hai ke Aap ke paas sabz tarkaariyon ka thaal laaya gaya tha.
(Bukhari: 7359)

Baab 95: Kam sin bachchon ka wazu

488 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ek (la waaris bachche ki) qabar par guzre jo sab se alaahida thi to wahaan Aap ne imaamat farmaayi aur logon ne Aap ke peechhe saff bandi ki.

٩٤- بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّوْمِ النَّيِّءِ

وَالْبَصْلِ وَالْكُرَاتِ

٣٨٥ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ التَّوْمَ - فَلَا يَغْتَسِنَا فِي مَسَاجِدِنَا). قَالَ الرَّاوي: قُلْتُ لِحَابِرٍ: مَا يَعْنِي بِهِ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ يَعْنِي إِلَّا نَيْئَهُ. وَقِيلَ: إِلَّا نَتْنَهُ. (رواه البخاري: ٨٥٤)

٣٨٦ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ أَكَلَ تَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا). أَوْ قَالَ: (فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَعُدْ فِي بَيْتِهِ). وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِقَدْرِ فِيهِ خَضِرَاتٍ مِنْ بُقُولٍ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ، فَقَالَ (قَرَّبُوهَا). إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَأَاهُ كَرِهَ أَكْلَهَا، قَالَ: (كُلْ قَلَانِي أَنَا جِي مَنْ لَا تَنَاجِي). (رواه البخاري: ٨٥٥)

٣٨٧ : وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَى بِبَدْرٍ، يَعْنِي طَبَقًا، فِيهِ خَضِرَاتٌ. (رواه البخاري: ٨٥٩)

٩٥- بَابُ: وَضُوءِ الصِّبْيَانِ

٣٨٨ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ عَلَى قَبْرِ مَنبُودٍ، فَأَمَّهُمْ وَصَفَّوْا عَلَيْهِ).

Fawaaid: Hazrat Ibne Abbas رضي الله عنهما ne bhi namaaz-e-janaazah padhi isse maloom huwa ke bachche jab sinn-e-shu'oor ko pahunch jaayen to woh eidain wa janaayiz mein shirkat karsakte hain aur unhen wazoo bhi karna hoga agarcheh in ahkaam ke mukaaliyf nahin hain taa hum aadat daalne ke liye in baaton par naa baalghi mein hi amal karaana chaahiye. (Awnul Baari:1/883)

489 : Hazrat Abu Sa'yeed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke juma' ke din har naujawaan par ghusl waajib hai. (Bukhari: 858)

٣٨٩ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ). (رواه البخارى: ٨٥٨)

Fawaaid: Imam Bukhari isse yeh saabit karna chahte hain ke juma' ke din ghusl ki paa bandi ba'd az huloogh hai. (Awnul Baari:1/883)

490 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unse ek aadmi ne daryaافت kiya ke aaya tum Rasoolullah ﷺ ke hamraah eid gaah gaye ho? unhon ne kaha haan agar meri qaraabat Aap ke saath na hoti to kam sini ke baayis shaayad na jaa sakta Aap pahle uss nishaan ke paas aaye jo Kaseer Bin Salat ke makaan se qareeb hai wahaan Aap ne khutbah sunaya phir auraton ke paas tashreef laaye unko wa'z wa naseehat ki, unhein sadqah wa khairaat karne ka hukm diya iss par ek aurat to apni angoothhi ki taraf haath badhaane lagi aur Hazrat Bilaal رضي الله عنه ki chaadar mein daalne lagi phir Aap Hazrat Bilaal رضي الله عنه ke samet ghar laut aaye.

(Bukhari: 863)

٣٩٠ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَقَدْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتُ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ لَا مَكَانِي مِنْهُ مَا شَهِدْتُهُ، يَعْنِي مِنْ صُغْرِهِ، أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ ابْنِ الصَّلْتِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَّظَهُنَّ، وَذَكَرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَّصِفْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تَهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا، تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، ثُمَّ أَتَى هُوَ وَبِلَالٌ الْبَيْتَ. (رواه البخارى: ٨٦٣)

Fawaaid: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما kamsin hone ke baawajood eid mein shareek huye neez isse auraton ka eid gaah jaana bhi saabit huwa (Awnul Baari:1/883)

Baab 96: Raat aur andhere mein mastoorat ka Masjid ki taraf jaana

491 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya agar Raat ke waqt tumhaari auraten Masjid mein jaane ki ijaazat maangen to unhen ijaazat de do.

(Bukhari: 865)

٩٦- بَابُ: خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ وَالْغَلَسِ
٣٩١ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا اسْتَأْذَنْتُكُمْ نِسَاءُكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَذِنُوا لَهُنَّ).

(رواه البخارى: ٨٦٥)

Fawaaid: isse maloom huwa ke agar fitnah ka andesha na ho to auraten raat ke waqt bhi masjid mein aa sakti hain basharteke uska khaawind ijaazat de de. (Awnul Baari:1/887)

Juma' ke bayaan mein

كِتَابُ الْجُمُعَةِ

Baab 1: Farziyat-e-jum'a ka bayaan

492 :Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko yeh farmate huye suna ke hum ba'd mein aaye hain lekin qiyaamat ke din sabse aage honge sirf itni baat hai ke aglon ko hum se pahle kitab di gayi phir yahi jum'a ka din unke liye bhi muqarrar huwa tha magar unhon ne ikhtelaaf kiya aur humko Allah Ta'ala ne iski hidaayat kardi iss bena par sab log hamaare peechhe ho gaye yahood kal (shambah) ke din aur Nasaara parson (itwaar ke din) ibaadat karenge. (Bukhari: 876)

۱-بَابُ: فَرَضِ الْجُمُعَةِ

۴۹۲: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، بَيْنَهُمْ أَوْ تَوَالِيهِ مِنَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ فَالْأَسْبَغُ لَنَا فِيهِ تَبِعَ: الْيَهُودُ عَدَا وَالنَّصَارَى بَعْدَ عَدِي).

(رواه البخارى: ۸۷۶)

Fawaaid: Farziyat-e-juma ki takeed muslim ki ek rivaayat se bhi hoti hai jiske alfaaz hain "hum par juma farz qaraar diya gaya" (Awnul Baari:1/6)

Baab 2: Jum'a ke din khushboo lagaana

493 :Hazrat Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه se rivaayat unhon ne farmaya ke main Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke iss farmaan par gawaah hoon ke jum'a ke din har baaligh aadmi par gusl karna farz hai aur yeh ke woh miswaak kare aur agar khushboo moyassar ho to use bhi iste'maal kare Bukhari: 880)

۲-بَابُ: الطَّيْبِ لِلْجُمُعَةِ

۴۹۳: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأَنْ يَمَسَّ طَيِّبًا إِنْ وَجَدَ).

(رواه البخارى: ۸۸۰)

Fawaaid: Jum'a ke din ghusl karna zaroori hai agar cheh Imam Bukhari ka rujhaan iske sunnat hone ki taraf hai. (Wallahu A'lam)

Baab 3: Jum'a ki fazeelat ka bayaan

494 :Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya jo shakhs juma' ke din ghusl-e-janaabat ki tarah ehtemaam se ghusl karke phir namaaz ke liye jaaye to aisa hai jaisa ke ek ount sadqah kiya jo doosri ghadi mein jaaye to uss ne goya gaaye ki qurbaani di jo teesri ghadi mein jaaye to goya usne seengh daar mendha sadqah kiya jo chauthi ghadi mein chale to usne goya ek murghi sadqah di jo

۳-بَابُ: فَضْلِ الْجُمُعَةِ

۴۹۴: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقْرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّلَاثَةِ، فَكَأَنَّمَا

paanchwin ghadi mein jaaye to usne goya ek anda ki Allah ki raah mein sadqah kiya. phir jab imam khutbah padhne ke liye aa jata hai to farishte khutbah sunne ke liye Masjid mein haazir ho jaate hain. (Bukhari: 881)

قَرَّبَ كَبْشًا أَفْرَنْ، وَمَنْ رَاحَ فِي
السَّاعَةِ الْمَرَابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ
دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ
الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، فَإِذَا
خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ
يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ).

(رواه البخارى: ٨٨١)

Fawaaid: Jum'a ke din jaldi aane ki fazeelat aam logon ke liye hai Imam ko chaahiye ke woh khutbah ke waqt masjid mein aaye jaisa ke Rasoolullah ﷺ aur khulfaa-e- Raashideen ka amal tha. (Awnul Baari:2/15)

Baab 4: Jum'a ke liye baalon ko tel lagaane ka bayaan

495: Hazrat Salmaan Faarsi رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs jum'a ke din ghusl kare aur jis qadar mumkin ho safaayi karke tell lagaye ya apne ghar ki khushboo laga kar namaaz-e-jum'a ke liye nikle aur aise do aadmiyon ke darmiyaan tafreeq na kare (jo Masjid mein baithhe hon) phir jitni namaaz uski qismat mein ho ada kare aur jab imam khutbah dene lage to khamoosh rahe to uske woh gunah jo iss jum'a se doosre jum'a ke darmiyaan huye hon sab bakhsh diye jaayenge. (Bukhari: 883)

496: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai un se daryaافت kiya gaya ke log kahte hain Rasoolullah ﷺ ne farmaya hai ke jum'a ke din ghusl karo aur apne saron ko dhowo agarcheh tum junbi na ho. phir khushbu iste'maal karo. Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما ne jawaab diya ke ghusl mein to shak nahin lekin khushboo ke muta'alliq mujhe ma'loom nahin. (Bukhari: 884)

باب: الدُّهْنُ لِلْجُمُعَةِ

٣٩٥: عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا
يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا
اسْتَطَاعَ مِنْ طَهْرٍ، وَيَدْهِنُ مِنْ دُهْنِهِ،
أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ فَلَا
يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يَصَلِّي مَا كَتَبَ
لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ، إِلَّا
عَفْوٌ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْآخَرَى).

(رواه البخارى: ٨٨٣)

٣٩٦: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: إِنَّهُ قِيلَ لَهُ: ذَكَرُوا أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (وَاعْسَلُوا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ وَاعْسَلُوا رُؤُوسَكُمْ وَإِنْ لَمْ
تَكُونُوا جُنُبًا، وَأَصِيبُوا مِنَ الطِّيبِ).
فَقَالَ: أَمَا الْعَسَلُ فَنَعَمْ، وَأَمَا الطِّيبُ
فَلَا أَدْرِي. (رواه البخارى: ٨٨٤)

Fawaaid: Tel aur khushboo ke muta'alliq Hazrat Salmaan Faarsi رضي الله عنه ki hadees ouper zikr huyi hai ghaaliban hazrat ibne Abbas رضي الله عنهما ko iska ilm na ho saka.

Baab 5: Jum'a ke din hasb-e-taufeeq behtareen libaas pahne

497 : Hazrat Umar رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne Masjid ke darwaaze ke paas ek reshmi joda farokht hote dekha to arz kiya: ya Rasoolallah ﷺ! agar Aap ise khareed len taake jum'a aur qaasidon ki aamad ke waqt zaib tan farmaliya karen uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya: use to woh shakhs pahnega jiska aakhirat mein koyi hissa na ho ba'd mein kahin se iss qism ke reshmi jode Rasoolullah ﷺ ke paas aagaye jin mein ek joda Aap ne Hazrat Umar رضي الله عنه ko bhi diya, to unhon ne arz kiya: ya Rasoolallah ﷺ! Aap ne mujhe yeh diya hai haalaanke Aap khud hi ke muta'alliq kuchh farma chuke hain. Rasoolullah ﷺ ne farmaya: main ne tumhein yeh isliye nahin diya ke use khud pahno chunaanche Hazrat Umar رضي الله عنه ne woh joda apne mushrik bhaayi ko pahna diya jo Makkah Mukarramah mein rahta tha.

(Bukhari: 886)

Fawaaid: Hadees ki u'nwaan se iss tarah mutaabiqat hai ke hazrat Umar رضي الله عنه ne Rasoolullah ﷺ ki khimdat mein juma ke din umdah kapde pahanne ki darkhaast ki Rasoolullah ﷺ ne isliye reshmi jode ko naa pasand kiya ke iska istemaal mardon ke liye jaayiz na tha.

Baab 6: Juma' ke din miswaak karna

498 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke agar main apni ummat ya logon par giraan na samajhta to unhen har namaaz ke liye miswaak karne ka hukm zaroor deta.

(Bukhari: 887)

Fawaaid: Jab Rasoolullah ﷺ ne har namaaz ke liye miswaak ki takeed farmayi hai to juma ki namaaz ke liye bhi uski taakeed saabit huyi. وهو المقصود

499 : Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke main tumhein miswaak ke muta'alliq bahut

٥٥٠-بَابُ: يَلْبَسُ أَحْسَنَ مَا يَجِدُ
٣٩٤: عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَجَدَ حُلَّةً سَيِّئًا عِنْدَ بَابِ
الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ
اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِستَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ،
وَلَلَوْ قَدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ
لَا خَلَّاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ). ثُمَّ جَاءَتْ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا حُلٌّ، فَأَعْطَى
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْهَا
حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةِ عَطَّارٍ
مَا قُلْتَ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنِّي
لَمْ أَكْسُهَا لِتَلْبَسَهَا). فَكَسَاهَا عُمَرُ
بُنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخَاهُ
بِمَكَّةَ مُشْرِكًا.

(رواه البخاري: ٨٨٦)

٦-بَابُ: السِّوَاكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
٣٩٨: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَوْ لَأَنَّ
أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي، أَوْ عَلَى النَّاسِ،
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ).

(رواه البخاري: ٨٨٤)

٣٩٩: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَكْثَرُ

talqeen kar chuka hoon. (Bukhari: 888)

عَلَيْكُمْ فِي السَّوَاكِ).

(رواه البخارى: ٨٨٨)

Baab 7: Jum'a ke din subah ki namaaz mein imam kiya padhe?

سَبَابُ: مَا يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ

500 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم jum'a ke din subah ki namaz mein ﴿الْمَنْزِيلُ﴾ As-sajdah aur. ﴿هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ padha karte the. (Bukhari: 891)

٥٠٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ، فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ: ﴿الْمَنْزِيلُ﴾ السَّجْدَةَ، وَ: ﴿هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾.

(رواه البخارى: ٨٩١)

Baab 8: Dehaaton aur shahron mein juma' padhna

501 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate huye suna tum sab log negehbaan ho aur tumhen apni reaa'ya ki muta'alliq poochha jaayega imam bhi negehbaan hai use apni rai'yat ki poochh hogi mard apne ghar ka nigraan hai usse uski rai'yat ke muta'alliq sawaal hoga aurat apne khaawind ke ghar ki nigraan hai use uski rai'yat ke muta'alliq poochha jaayega khaadim apne makhdoom ke maal ka zimme daar hai usse uski rai'yat ke muta'alliq daryaaft kiya jaayega algarz tum sab nighbaan ho aur tumhein apni ra'yat ke muta'alliq poochha jaayega. (Bukhari: 893)

٨- بَابُ: الْجُمُعَةِ فِي الْقُرَى وَالْمُدُنِ

٥٠١: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَقُولُ: (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ

عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ

رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَ

هُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ

فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ

رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ

وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ). قَالَ: وَحَسِبْتُ

أَنْ قَدْ قَالَ: (وَالرُّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ

أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ

رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ).

(رواه البخارى: ٨٩٣)

Fawaaid: Imam Bukhari ne iss baab mein un logon ki tardeed ki hai jo sehat-e-juma ke liye shahar aur haakim waghairah ki shartein aayid karte hain iss qism ki sharaayet bila daleel hain Rasoolullah ﷺ ke zamaana mein masjid-e-nabwi ke ba'd pahla juma Abdul Qais naami qabeelah ki msajid mein qaayem kiya gaya jo jawaasi gaan mein thi aur woh gaan elaaqah Bahrain mein waaqe' tha.

Baab 9: Jise jum'a ke liye aana zaroori nahin kiya uss par ghusl jum'a waajib hai?

٩- بَابُ: هَلْ يَجِبُ غُسْلُ الْجُمُعَةِ

عَلَى مَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ

5002 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai jis mein zikr tha ke hum ba e'tebaar-e-zamaana ba'd waale hain lekin qiyaamat ke din sabqat le jaayenge pahle (492) guzar chuki hai iss rivaayat mein itna ezaafah hai ke har musalmaan ke liye hafta mein ek din ghusl karna zaroori hai uss roz use apna badan aur sar dhona chaahiye (Bukhari: 897)

Fawaaid: Iss se bhi maloom huwa ke juma' ke din ghusl karna zaroori hai. (Awnul Baari:2/29)

Baab 10: Kitni masaafat se jum'a ke leye aana chaahiye aur kis par jum'a waajib hai

503 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai woh farmati hain ke log apne gharon aur awaali (dehaaton) se namaaz-e-jum'a ke liye baari baari aate the chunke gard-o-ghubaar mein chal kar aate isliye unke badan se gubaar aur paseena ki wajah se badbu aane lagti chunaancheh un mein se ek shakhs Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas aaya jabke Aap uss waqt mere ghar mein the tab Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya: kaash ke tum log iss mubaarak din mein nahaa dho liya karo. (Bukhari: 902)

Fawaaid: A'waaliye Madinah ke baalaayi hisse mein teen chaar meel par waaqe' dehi aabaadi ko kahte hain maloom huwa ke itni masaafat par rahne waalon ko shahar ki masaajid mein juma ke liye haazir hona zaroori nahin agar zaroori hota to baari baari aane ke bajaaye sab ke sab haazir hote.

504 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke log khud apne khidmatgaar the aur jab jum'a ke liye aate to usi haalat mein chale aate tab unse kaha gaya kaash ke tum log ghusl kiya karte.

(Bukhari: 903)

Fawaaid: Iss hadees se Imam Bukhari yeh saabit karte hain ke juma' zawaal-e- aafataab ke ba'd padhna chaahiye kyun ke lafz rawaah istemaal huwa jo zawaal ke ba'd waqt par bola jaata tha aayindah hadees mein iski saraahat maujood hai. (Awnul Baari:2/31)

505 : Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم suraj dhalte hi namaaz-e-jum'a adaa kar lete the. (Bukhari: 904)

۵۰۲ : حدیث ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ: (نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ) تقدم قریبا، وزاد هنا فی آخره. ثم قال: (حَقُّ عَلٰی كُلِّ مُسْلِمٍ، اَنْ یَغْتَسِلَ فِی كُلِّ سَبْعَةِ اَیَّامٍ یَوْمًا، یَغْسِلُ فِیْهِ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ). (رواه البخاری: ۸۹۷)

۱۰ - بَابُ: مِنْ اَیْنِ تَوَتَّی الْجُمُعَةُ، وَعَلٰی مَنْ تَجِبُ؟

۵۰۳ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي الْعُبَارِ يُصِيبُهُمُ الْعُبَارُ وَالْعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمْ الْعَرَقُ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كَلِمَةً تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هَذَا). (رواه البخاری: ۹۰۲)

۵۰۴ : وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّاسُ مَهْنَةً أَنْفُسِهِمْ، وَكَانُوا إِذَا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا فِي هَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ لَهُمْ: (لَوْ اغْتَسَلْتُمْ). (رواه البخاری: ۹۰۳)

۵۰۵ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي

الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ.

(رواه البخارى: ٩٠٣)

١١- بَابُ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ

٥٠٦: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أُبْرِدَ
بِالصَّلَاةِ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ.

(رواه البخارى: ٩٠٦)

١٢- بَابُ: الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ

٥٠٧: عَنْ أَبِي عَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ قَالَ، وَهُوَ ذَاهِبٌ إِلَى الْجُمُعَةِ:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ
أَغْبَرَتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَرَّمَهُ
اللَّهُ عَلَى النَّارِ).

(رواه البخارى: ٩٠٧)

Baab 11: Jab jum'a ke din garmi ziyadah ho?

506 : Hazrat Anas ؓ se hi rivaayat hai ke jab ziyadah sardi hoti to Rasoolullah ﷺ namaaz-e-jum'a jaldi padhte aur agar garmi ziyadah hoti to namaaz-e-jum'a kuchh thhandak hone par padhte the.(Bukhari: 906)

Baab 12: Jum'a ke liye rawangi ka bayaan

507 : Hazrat Abu Abs ؓ se rivaayat hai woh namaaz-e-jum'a ko jaate waqt kahne lage main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate suna hai ke jis shakhs ke donon paaun Allah ki raah mein ghubaar aalood hon to Allah Ta'ala ne use dozakh ki aag par haraam kardiya hai. (Bukhari: 907)

Fawaaid:Sahaabiye Rasoolullah ﷺ ne juma ke liye nikalne ko jehaad ki tarah qaraar diya aur jehaad mein aaraam aur sukoon se shirkat ki jaati hai isliye juma ka bhi yahi hukm hai.

Baab13: Apne bhaayi ko uthha kar khud uski jagah baithhne ki mumaaniyat

508 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne mana' farmaya hai ke koyi shakhs apne bhai ko uski jagah se uthha kar khud wahaan baithh jaaye daryaaft kiya gaya aaya yeh hukm jum'a ke liye khaas hai? farmaya ke nahin balke jum'a aur ghair jum'a donon ke yahi hukm hai. (Bukhari: 911)

Fawaaid:Aadaab-e-juma mein se ek yeh ek adab hai ke aadmi nehaayat mataanat ke saath jahaan jagah mile baithh jaaye dhakkam pel karte huye gardanen phalaang kar aage badhna shar'an mamnoo' aur ma'yoob hai.

Baab 14: Jum'a ke din azaan

509 : Hazrat Saayib Bin Yazeed ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ Abu Bakr Siddeeq ؓ aur Hazrat Umar ؓ ke zamaane mein jum'a ke

١٣- بَابُ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ مَكَانِهِ

٥٠٨: عَنِ ابْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقِيمَ
الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنْ مَقْعَدِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ.

قِيلَ: الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: الْجُمُعَةُ وَغَيْرَهَا.

(رواه البخارى: ٩١١)

١٤- بَابُ: الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

٥٠٩: عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

din pahli azaan uss waqt hoti jab imam mimbar par baith jaata lekin Hazrat Usmaan ؓ ke daure khilaafat mein jab log ziyadah ho gaye to unhon ne maqaame Zaura par teesri azaan ka ezaafah farmadiya.

(Bukhari: 912)

أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ،
عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَكْرٍ
وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَلَمَّا كَانَ
غُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَثُرَ النَّاسُ،
زَادَ الْبَدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزُّورَاءِ.
(رواه البخارى: ٩١٢)

Fawaaid: Asal azaan-e-juma to wahi hai jo imam ke mimbar par aane ke waqt di jaati hai Rasoolullah ﷺ aur shaikhain ke ahad-e-mubarak mein sirf ek azaan thi. Hazrat Usmaan ؓ ek khaas zaroorat ke pesh nazar ek aur azaan ki ehtemaam kardiya hazrat Usmaan ki tarah bawaqt zaroorat masjid ke baahar agar munaasib jagah par uska ehtemaam kiya jaaye to jaayiz hai magar jahaan zaroorat na ho wahaan sunnat ke mutaabiq sirf khutbah hi ke waqt ba aawaaz buland ek hi azaan dena chaahiye.

Baab 15: Jum'a ke din ek hi moazzin ho

510 : Hazrat Saayib Bin Yazeed ؓ se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ka ek hi moazzin tha aur jum'a ke din sirf ek hi azaan di jaati thi woh bhi uss waqt jab imam mimbar par baith jaata tha. (Bukhari: 913)

١٥ - بَابُ: الْمُؤَذِّنِ الْوَاحِدِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ

٥١٠) : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي
رِوَايَةٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِلنَّبِيِّ ﷺ مُؤَذِّنٌ
غَيْرَ وَاحِدٍ، وَكَانَ التَّادِثِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
حِينَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ، يَعْنِي عَلَى
الْمِنْبَرِ. (رواه البخارى: ٩١٣)

Fawaaid: Ahad-e-Nabawi mein kayi ek moazzin the jo apni apni baari par azaan diya karte the lekin juma' ki azaan ek khaas muazzin hazrat Bilaal ؓ hi diya karte the.

Baab 16: Jum'a ke din (imaam bhi) mimbar par baithha azaan ka jawaab de

511 : Hazrat Mu'aawiyah Bin Abi Sufyaan رضی اللہ عنہا se rivaayat hai ke woh jum'a ke din mimbar par tashreef farmaa the to moazzan ne azaan kahi jab moazzin ne Allahu Akbar kaha to Hazrat Mu'aawiyah ؓ ne bhi Allahu Akbar kaha jab moazzin ne Ashhadu Allah ilaaha illallah kaha to mu'aawiyah ؓ ne bhi kaha main bhi yeh gawaahi deta hoon phir muazzin ne Ashhadu Anna Muhammadar Rasoolullah kaha to Hazrat Mu'aawiyah ؓ ne kaha main bhi yahi gawaahi deta hoon phir jab azaan khatm ho gayi to Hazrat Mu'aawiyah ؓ ne kaha aye logo! main ne Rasoolullah ﷺ se isi maqaam par suna ke jab

١٦ - بَابُ: يُجِيبُ الْإِمَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ
إِذَا سَمِعَ الْبَدَاءَ
٥١١ : عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى
الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا أَدَّنَ
الْمُؤَذِّنُ، قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ،
قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ
مُعَاوِيَةُ: وَأَنَا، فَلَمَّا أَنْ قَضَى التَّادِثِينَ،
قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَذَا الْمَجْلِسِ،
حِينَ أَدَّنَ الْمُؤَذِّنُ، يَقُولُ مَا سَمِعْتُمْ

moazzin ne azaan di to Aap bhi wahi farmate the jo tumne mujhe kahte huye suna hai (Bukhari: 914)

مِنِّي مِنْ مَقَالَتِي. (رواه البخارى: ٩١٤)

Fawaaid: Imam Bukhari iss hadees se un logon ki tardeed karte hain jo khateeb ke liye khutbah se pahle mimbar par baithhne ko mana kahte hain. neez yeh bhi maloom huwa ke khutbah shuru' karne se pahle guftagu karna jaayiz hai. (Awnul Baari: 2/38)

Baab 17: Khutbah mimbar par dena

512 : Hazrat Sahal Bin Sa'd ؓ ki woh rivaayat (249) jo mimbar se muta'alliq thi pahle guzar chuki hai jis mein Rasoolullah ﷺ ka mimbar par namaaz padhne phir ulte paaun neechे utarne ka zikr hai is mein yeh ezaafah hai ke Aap ne faraaghat ke ba'd logon ki taraf mutawajjah ho kar farmaya: aye logo! main ne isliye aisa kiya taake tum meri iqteda karke meri namaaz ka tareeqa seekh lo. (Bukhari: 917)

١٤ - بَابُ: الْخُطْبَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ
٥١٢ : حديث سهل بن سعد في أمر المنبر تقدم وذكر صلواته عليه ورجوعه القهقري وزاد في هذه الرواية: فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتُمُّوا وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي).
(رواه البخارى: ٩١٤)

Fawaaid: Maloom huwa ke muqtadiyon ko namaaz ki amalan tarbiyyat dena chaahiye neez agar koyi khilaaf-e-aadat kaam kare to uski wazaht kardeni chaahiye. (Awnul Baari:2/39) Tabraani ki rivaayat mein hai ke aap ne uss par logon ko khutbah diya phir waheen namaaz adaa ki iss hadees se yeh bhi maloom huwa ke khilaaf-e- aadat kaam karne ke ba'd uski hikmat bayaan kardena chaahiye. (Fatahul Baari:2/400)

513 : Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke ek khujoor ka tanaa Masjid mein tha jis par tek laga kar Rasoolullah ﷺ khade hote the aur jab Aap ke liye mimbar rakkha gaya to uss tana se humne 10 maah ki haamilah ountniyon ke rone jaisi awaaz suni aakhir Rasoolullah ﷺ mimbar se utre aur us tane par apna daste mubaarak rakkha. (Bukhari: 918)

٥١٣ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ جِدْعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا وُضِعَ لَهُ الْمِنْبَرُ، سَمِعْنَا لِلْجِدْعِ مِثْلَ أَصْوَاتِ الْعِشَارِ، حَتَّى نَزَلَ النَّبِيُّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ. (رواه البخارى: ٩١٨)

Fawaaid: Nasayi ki rivaayat mein hai ke iss judaayi ki wajah se tane par larzah taari ho gaya aur iss tarah rone laga jiss tarah gum shudah bachche waali ountni roti hai yeh Rasoolullah ﷺ ka mo'jzah hai jo Eisaa ؑ ke Ahyaaul Amwaat ke mo'jzah se badh kar hai.

Baab 18: khade ho kar khutba dena

514 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ khade ho kar khutbah diya karte the aur darmiyaan mein kuchh der baithh jaate the jaisa ke tum ab karte ho. (Bukhari: 920)

١٨ - بَابُ: الْخُطْبَةِ قَائِمًا
٥١٤ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ، كَمَا يَفْعَلُونَ الْآنَ. (رواه البخارى: ٩٢٠)

Fawaaid: Agar baithh kar juma ka khutbah dena jaayiz hota to donon khutbon ke darmiyaan baithhne ki kiya haqeeqat rah jaati hai? neez (وَتَرْكُوكَ قَائِمًا) ke mafhoom ka bhi yahi taqaazah hai ke juma ka khutbah khade ho kar diya jaaye. (Awnul Baari:2/41)

Baab 19: Khutbah mein sana ke ba'd "Amma ba'd" kahna

515 :Hazrat Amar Bin Taghlib ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ke paas kuchh maal ya ghulaam laaye gaye jin ko Aap ne taqseem farmadiya lekin kuchh logon ko diya aur kuchh ko na diya phir Aap ko ittela' mili ke jin ko Aap ne nahin diya woh nakhush hain Aap ne Allah ki hamd-o-sana ke ba'd farmaya **Amma ba'd** Allah ki qasam! main kisi ko deta hoon aur kisi ko nahin deta lekin jis ko chhod deta hoon woh mere nazdeek uss shakhs se ziyaadah azeed hota hai jisko deta hoon neez kuchh logon ko iske liye deta hoon ke un mein be sabri aur bokhlaahat dekhta hoon aur kuchh ko unki sair chashmi aur bhalaayi ke sabab chhod deta hoon jo Allah ne unke dilon mein paida ki hai unhin logon mein se Amar Bin Taghlib ؓ bhi the unka bayaan hai ke Allah ki qasam! yeh main nahin chahta ke Rasoolullah ﷺ ke iss kalimah ke e'waz mujhe surkh oont milen.(Bukhari: 923)

١٩ - بَابُ: مَنْ قَالَ فِي الْخُطْبَةِ بَعْدَ الشَّاءِ: أَمَّا بَعْدُ

٥١٥ : عَنْ عَمْرٍو بْنِ تَعْلِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِمَالٍ، أَوْ سَبِيٍّ، فَقَسَمَهُ، فَأَعْطَى رِجَالًا وَتَرَكَ رِجَالًا، فَلَبَّغَهُ أَنَّ الَّذِينَ تَرَكَ عَتَبُوا، فَحَمِدَ اللَّهُ ثُمَّ أَنَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَأَدْعُ الرَّجُلَ، وَالَّذِي أَدْعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِيَ، وَلَكِنْ أُعْطِيَ أَقْوَامًا لَمَّا أَرَى فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْجَزَعِ وَالْهَلَعِ، وَأَكُلُ أَقْوَامًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ تَعْلِبٍ). فَوَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُمْرَ النَّعَمِ.

(رواه البخارى: ٩٢٣)

Fawaaid: Imam Bukhari رحمه الله عليه yeh bataana chahte hain ke khutbah mein Amma ba'd kahna sunnat hai Hazrat Dawood ؓ ke muta'alliq qur'an mein hai ke unhen fasl-e-khitab se nawaaza gaya tha iska bhi taqaaza hai ke Allah Ta'ala ki hamd wa sana ko apne asal khitab se Amma ba'd ke zariye alag kiya jaaye neez iss hadees se aap ke khulq-e-azeem ka bhi pata chalta hai ke aap ko na to kisi ki naaraazgi gawaarah thi aur na hi aap kisi ki dil shikni karte the aur yeh bhi maloom huwa ke sahaba kiram ؓ ko aap se dili mohabbat aur qalbi ta'alluq tha.

516 :Hazrat Abu Humaid Saa'di ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ek raat namaaz ke ba'd khade ho gaye Allah Ta'ala ki aisi hamd-o-sana bayaan ki jo uske laayeq hai aur phir farmaya "Amma Ba'd".

(Bukhari: 925)

٥١٦ : عَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَحَمِدَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنَّى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ). (رواه البخارى: ٩٢٥)

Fawaaid: Yeh ek taweel hadees ka tukda hai jise Imam Bukhari ne muta'addid maqamaat par bayaan kiya hai. huwa yoon ke Rasoolullah ﷺ ne ek sahaabi ؓ ko wosooli zakaat ke liye bheja jab woh waapas aaya to chand ek cheezon ke muta'alliq kahne laga ke yeh mujhe bataur tohfa mili hain to uss waqt aap ne Isha ke ba'd khutbah irshad farmaya ke sarkaari safar mein tumhen zaati tahaayif lene ka koyi haq nahin jo bhi wosool ho sab baitul maal ka hai. (Awnul Baari:2/43)

517: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek din Rasoolullah ﷺ mimbar par tashreef laaye aur woh aakhri nashist thi jis mein Aap shareek huye Aap apne shaanon par badi chaadar daale huye the sar par chikni patti baandhe huye the Aap ne Allah ki hamd-o-sana ke ba'd farmaya logo! mere qareeb aajao chunaancheh log Aap ke qareeb jama' hogaye to farmaya "Amma Ba'd" suno deegar log to badhte jaayenge magar qabeela Ansaar kam hota jaayega lehaazah ummat- e-Muhammad ﷺ mein se jo shakhs kisi bhi shakal mein hukoomat kare jis ki wajah se doosron ko nafa' ya nuqsaan pahunchaane ka ikhtiyaar rakhta ho use chaahiye ke ansaar ke khoob kaaron ki neki qubool kare aur khata kaaron ki laghzishon se dar guzar kare. (Bukhari: 927)

Fawaaid: Iss mein koyi shak nahin ke Ansaar-e-Madina ne taareekh-e-Islam mein ek sunhari baab raqam kiya hai woh ummat-e-muslimah ke bade mohsin hain isliye unki izzat wa ehtaraam har musalmaan ka mazhabi fareeza hai.

Baab 20: jab imam dauraan-e-khutbah kisi ko aata dekhe to do raka't padhne ka hukm de

518 : Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jum'a ke din ek shakhs uss waqt aaya jab Aap khutbah irshaad farma rahe the Aap ne poochha, Aye shakhs kiya tune namaaz padhli? uss ne arz kiya nahin Aap ne farmaya to phir khada ho aur namaaz adaa kar. (Bukhari: 930)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein hai ke aap ne uss shakhs ko halki phulki do rak'at padhne ka hukm diya maloom huwa ke dauraan-e-khutbah bhi tahiyatul masjid ke nafil padhne chaahiyen neez kisi zaroorat ke pesh-e-nazar imam dauraan-e-khutba guftagu kar sakta hai. (Awnul Baari:2/47)

Baab 21: Khutbah-e-jum'a ke dauraan baarish ke liye du'a karna

519 : Hazrat Anas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke zamaana-e-

٥١٧ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَعِدَ النَّبِيُّ ﷺ الْمِنْبَرَ، وَكَانَ آخِرُ مَجْلِسٍ جَلَسَهُ، مُتَعَطِّفًا مِلْحَفَةً عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ بِعَصَابَةٍ دَسِمَةٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ إِلَيَّ). فَابُوا إِلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ، يَقْلُونَ وَيَكْتُرُ النَّاسُ، فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِمْ).

(رواه البخارى: ٩٢٧)

٢٠ - بَابُ: إِذَا رَأَى الْإِمَامُ رَجُلًا جَاءَهُ وَهُوَ يَخْطِفُ، أَمْرُهُ أَنْ يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ ٥١٨ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: (أَصَلَيْتَ يَا فُلَانُ). فَقَالَ لَا، قَالَ: (قُمْ فَارْكَعْ).

(رواه البخارى: ٩٣٠)

٢١ - بَابُ: الْأَسْتِسْقَاءِ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

mein ek martabah log qahat mein muftala huye. Rasoolullah ﷺ jum'a ke din khutbah irshaad farma rahe the ke ek e'raabi ne khade ho kar arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! maal talf ho gaya aur bachche bhookon marne lage Aap hamaare liye du'a farmayen to Aap ne du'a ke liye apne donon haath uthhaaye aur uss waqt aasmaan par abr ka ek tukda bhi na tha magar uss zaat ki qasam! jiske haath mein meri jaan hai Aap apne haathon ko neechे bhi na kar paaye the ke pahaadon jaisa baadal ghir aaya aur Aap mimbar se bhi na utre the ke main ne Aap ki daadhi mubaarak par baarish ko tapakte dekha uss din khoob baarish huyi aur doosre aur teesre din phir chauthे din bhi yahaan tak ke doosre jum'a tak yeh silsila jaari raha uske ba'd wahi e'raabi ya koyi doosra shakhs khada huwa aur arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! makaanaat gir gaye aur maal gharq ho gaya isliye Aap Allah se hamaare liye du'a farmaayen to Aap ne apne donon haath uthha kar farmaya aye Allah hamaare aas paas baarish barsa magar hum par na barsa, phir Aap us waqt abr ke jis tukde ki taraf ishaarah farmaate woh hat jaata aakhir kaar Madinah taalaab ki tarah ho gaya aur waadi qanaat mahina bhar khoob bahti rahi aur jis taraf se bhi koyi shakhs aata woh baarish ki kasrat bayaan karta tha.

(Bukhari: 933)

٥١٩ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
أَصَابَتِ النَّاسَ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ
ﷺ ، فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ فِي
يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكَ الْمَالُ وَجَاعَ
الْعِيَالُ ، فَأَدْعُ اللَّهُ لَنَا ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، وَمَا
نَرَى فِي السَّمَاءِ فَرْعَةً ، فَوَالَّذِي
نَفْسِي بِيَدِهِ ، مَا وَضَعَهَا حَتَّى تَارَ
السَّحَابَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ
عَنْ مَنبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ
عَلَى لِحْيَتِهِ ﷺ ، فَمَطَرْنَا يَوْمًا
ذَلِكَ ، وَمِنَ الْعِدِّ وَبَعْدَ الْعِدِّ ، وَالَّذِي
يَلِيهِ ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى . وَقَامَ
ذَلِكَ الْأَعْرَابِيُّ ، أَوْ قَالَ غَيْرُهُ ، فَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تَهَدَّمِ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ
الْمَالُ ، فَأَدْعُ اللَّهُ لَنَا . فَرَفَعَ يَدَيْهِ
فَقَالَ : (اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا) . فَمَا
يُشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ السَّحَابِ إِلَّا
انْفَرَجَتْ ، وَصَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ
الْجُوبَةِ ، وَسَالَ الْوَادِي قَنَاةَ شَهْرًا ،
وَلَمْ يَجِءْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةِ الْأَحَدِ
بِالْجُودِ . (رواه البخارى: ٩٣٣)

Fawaaid: Maloom huwa ke ba haalat-e-khutbah Imam se kisi a'waami zaroorat ke liye du'a ki darkhaast ki jaa sakti hai aur imam dauraan-e-khutbah hi aisi darkhaast par tawajjoh kar sakta hai. (Awnul Baari:2/413)

Baab 22 : Jum'a ke din dauraan khutba khaamoosh rahna

520 : Hazrat Abu Hurairah ﷺ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jum'a ke din jab imam khutbah de raha ho agar tune apne saathi se kahaa ke khamoosh hoja be

٢٢ — بَابُ : الْإِنصَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ
٥٢٠ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (إِذَا قُلْتَ

shak tune khud ek lughw harkat ki hai.(Bukhari: 934)

لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَنْصِتْ،
وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَعُوتَ).
(رواه البخارى: ٩٣٤)

Fawaaid:Kisi insaan ko dauraan-e-khutbah moozi jaanwar se khabar daar karna ya naa beena ki rahnumaayi karna iss nahi mein shaamil nahin taa hum behtar hai ke aise haalaat mein bhi mumkin had tak ishaarah se kaam lena chahiye(Awnul Baari:2/51)

Baab 23: Jum'a ki ek ghadi (jis mein du'a qubool hoti hai)

521 :Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne jum'a ke din dauraan-e-wa'z farmaya ke iss mein ek aisi ghadi hai ke agar thheek uss ghadi mein musalmaan bandah khada ho kar namaaz padhe aur Allah Ta'ala se koyi cheez maange to Allah Ta'ala usko woh zaroor ataa karta hai aur Aap ne haath se ishaarah karke bataya ke woh ghadhi thodi der ke liye aati hai. (Bukhari: 935)

٢٣-بَابُ: السَّاعَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ
٥٢١: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ:
(فِيهِ سَاعَةٌ، لَا يُوفَّقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ،
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى
شَيْئًا، إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ). وَأَشَارَ بِيَدِهِ
يُقَلِّلُهَا. (رواه البخارى: ٩٣٥)

Fawaaid:Ba'z rivaayaat mein iss ghari ki tahdeed ki gayi hai ke woh imam ke mimbar par baithhne se lekar faraaghat-e- namaaz tak hai. (Awnul Baari:2/52)

Baab 24: agar namaaz-e-jum'a mein kuchh log imam ko chhod kar chale jaayen (to baaqi muqtadiyon ki namaaz sahih hai)

522 : Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ek martabah Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saath namaaz (ke intezaar mein khutbah sunne mein) masroof the ke chand ount ghalle se lade huye aaye log unki taraf aise mutawajjah huye ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke paas sirf 12 aadmi rah gaye uss par yeh aayat naazil huyi aur jab log kisi saudagiri ya tamaasha ko dekhte hain to udhar daud padte hain aur tumhen khada chhod jaate hain. (Bukhari: 936)

٢٤-بَابُ: إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنِ الْإِمَامِ
فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ
٥٢٢: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ أَقْبَلَتْ عَيْرٌ تَحْمِلُ
طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ
هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا
انْفَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾.
(رواه البخارى: ٩٣٦)

Fawaaid:Hazrat Imam ne iss hadees se yeh saabit farmaya ke ba'z log sehat juma' ke liye haazireen ki ta'daad ke muta'alliq jo sharaayet bayaan karte hian woh sahih nahin hain sirf itni tadaad ka hona zaroori hai jise jamaa'at kaha jaa sake agar imam akela rah jaaye to iss soorat mein juma na hoga (Awnul Baari:2/57)

Baab 25: Jum'a se pahle aur ba'd namaaz padhna

٢٥-بَابُ: الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ

وَقَبْلَهَا

523 : Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ Zohar se qabl do rak'atein aur uske ba'd bhi do rak'atein padha karte the aur Maghrib ke ba'd apne ghar mein do rak'atein aur Isha ke ba'd bhi do rak'aten padhte the lekin jum'a ke ba'd kuchh na padhte the albatta jab ghar waapas aate to phir do rak'aten adaa karte the. (Bukhari: 938)

٥٢٣: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي: قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

(رواه البخارى: ٩٣٨)

Fawaaid: Jum'a se pahle nawaafil padhne ki had bandi nahin hai albatta juma'h ke ba'd agar masjid mein adaa kare to guftagu ya tabdeeli jagah se fasil karke chaar raka't padhe aur agar ghar mein adaa kare to do raka't padhe. (Wallahu A'lam)



Namaaz-e-khauf ka bayaan

کتاب الخوف

۱-باب: صلاة الخوف

Baab1: Bawaqt-e-jung namaaz padhana

524 : Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke main ne ek dafa' Rasoolullah ﷺ ke hamraah Najd ki taraf jehaad ke liye gaya jab hum dushman ke saamne saff aara huye to Rasoolullah ﷺ hamein namaaz padhaane ke liye khade huye ek giroh Aap ke saath khada huwa aur doosra giroh dushman ke muqaable mein data rahaa phir Rasoolullah ﷺ ne apne hamraahi giroh ke saath ek ruku' aur do sajde keiye uske ba'd yeh log uss giroh ki jagah chale gaye jis ne namaaz nahin padhi thi jab woh aaye to Aap ne unke saath bhi ek ruku' aur do sajde adaa kiye aur salaam pher diya phir un mein se har aadmi khada huwa aur ek ek ruku' aur do sajde apne apne poore kiye. (Bukhari: 942)

۵۲۴: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ نَجْدٍ، فَوَارَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَا لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي لَنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أَنْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ، فَجَاوَرُوا فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمْ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(رواه البخارى: ۹۴۲)

Fawaaid: Mukhtalif ahaadees se pata chalta hai ke salaah-e-khauf ko adaa karne ke 17 tareeqe hain lekin imam Ibne Qayyim ne jumla ahaadees ka tajziya karne ke ba'd likkha hai ke bunyaadi taur par iski adaayegi ke 6 tareeqe hain. haalaat wa zuroof ke pesh-e-nazar jo tareeqa munaasib ho use ikhtiyaar karliya jaaye, Jumhoor Ulmaa-e-Ummat ne iski mashroo'iyat par ittefaaq kiya hia. (Awnul Baari:2/61)

Baab 2: Peyaadah aur sawaar ho kar namaaz-e-khauf adaa karna

525 : Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما se hi ek ek rivaayat mein iss qadar ezaafah hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke agar dushman usse ziyaadah hon to peyaadah aur sawaar jis tarah bhi mumkin ho namaaz padhen (Bukhari: 943)

۲-باب: صلاة الخوف رجلاً

وَرُكْبَانًا

۵۲۵: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي رِوَايَةٍ - قَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (إِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا). (رواه البخارى: ۹۴۳)

Fawaaid: Shiddat-e-qetaal ke waqt ek raka't bhi adaa ki jaa sakti hai balke ishaaron se adaa karna bhi jaayez hai. (Awnul Bari:2/65)

Baab 3: ta'aaqub kunindah aur ta'aaqub shudah ka sawaari par ishaarah se namaaz padhna

526 :Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم jab jung-e-ahzaab se waapas huye to hum se farmaya ke har shakhs qabeela banu Quraizah mein pahunch kar namaaz padhe ba'z logon ko Asr ki waqt raasta mein hi aagaya to unhon ne kaha jab tak hum wahaan na pahunchenge namaaz na padhenge lekin ba'z kahne lage hum abhi namaaz padhte hain kyun ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ka yeh maqsad nahin tha phir unhon ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se iss baat ka tazkerah kiya to Aap ne kisi par izhaar-e-naraazgi na kiya. (Bukhari: 946)

سَبَابُ: صَلَاةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ
رَاكِبًا وَإِمَاءً

٥٢٦: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: (لَا يَصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي قَرْيَظَةٍ). فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدِّ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يُعْنِفْ أَحَدًا مِنْهُمْ.

(رواه البخارى: ٩٤٦)

Fawaaid: Ba'z Sahaaba Kiraam رضي الله عنهم ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke farmaan ka yeh matlab liya ke raasta mein kisi jagah par padaau kiye baghair hum jaldi pahunchen unhon ne namaaz-e-qaza na ki aur use sawaari par hi adaa karliya jabke doosre ashaab ne aap ke farmaan ko zaahir par mahmool kiya ke agar ta'meel-e-hukm mein namaaz der se bhi adaa huyi to hum gunahgaar nahin honge chunancheh fareeqain ki niyyat durst thi isliye koyi bhi qaabil-e-mulaamat na thahra. (Awnul Baari:2/68)



Eidain ka bayaan

Baab 1: Eid ke din bar chhiyon aur dhaalon se jehaadi mashq karna

527 : Hazrat Aayeshah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا se rivaayat hai unhone farmaya ke Rasoolullah ﷺ mere paas tashreef laaye uss waqt mere haan do ladkiyan baithhi huyi jung-e-bu'aas ke geet gaa rahi thin Rasoolullah ﷺ munh pher kar let gaye itne mein Hazrat Abu Bakr رَضِيَ اللهُ عَنْهُ aaye unhon ne mujhe daant kar kaha ke Rasoolullah ﷺ ke huzoor yeh shaytaani aawaazen? uss par Rasoolullah ﷺ ne unki taraf mutawajjah ho kar farmaya inhen chhod do phir jab Abu Bakr Siddeeq رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ghaafil huye to main ne un ladkiyon ko isharah kiya woh chali gayin. (Bukhari: 949)

Fawaaid: Ise rivaayat ke aakhir mein hai ke yeh waaqi'a eid ke din huwa jabke Habshi masjid mein barchhiyon aur dhaalon se jehaadi mashqon mein masroof the yeh hadees gaane bajaane ke liye daleel nahin hai kyun ke ek rivaayat mein hazrat Aayeshah رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ne saraahat ki hai ke woh donon ma'roof gulu kaarah na thin sirf aam ladkiyan thin jo eid ke din izhaar-e-musarrat kar rahi thin. (Awnul Baari:2/72)

Baab 2: Eidul fitr ke din (Namaaz ke liye) nikalne se pahle kuchh khana

528 : Hazrat Anas رَضِيَ اللهُ عَنْهُ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ Eidul fitr ke din jab tak chand khujooren tanaawul na farma lete namaaz ke liye na jaate aur unhin se ek rivaayat hai ke Aap taaq adad mein khujooren khaate the. (Bukhari: 953)

Fawaaid: Maloom huwa ke eidul fitr ke din namaaz se pahle meethhi cheez tanaawul karna mustahab hai, sharbat nosh karna bhi sahih hai agar ghar mein muyassar na aaye to raastah mein ya eid gaah pahunc kar khaapi le iska tark makrooh hai behtar hai ke taaq khujooron ko istemaal kiya jaaye. (Awnul Baari:2/73)

Baab 3: Eidul Azha ke din khaane ka bayaan

529 : Hazrat Bara' Bin Aazib رَضِيَ اللهُ عَنْهُ se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko khutbah Irshaad farmate suna Aap ne farmaya ke aaj ke iss din mein pahla kaam jo

کتاب العیدین

۱- بَابُ: الْحَرَابِ وَالذَّرَقِ يَوْمَ الْعِيدِ
۵۲۷: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدِي
جَارِيَتَانِ، تُغْنِيَانِ بَغِيَاءَ بَعَاثَ،
فَاضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفِرَاشَ وَحَوْلَ
وَجْهَهُ، وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي،
وَقَالَ: مِرْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ
النَّبِيِّ ﷺ؟ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (دَعُهُمَا). فَلَمَّا غَفَلَ
عَمَرْتُهُمَا فَخَرَجْنَا.

(رواه البخارى: ۹۴۹)

۲- بَابُ: الْأَكْلِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ
الْخُرُوجِ

۵۲۸: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ
الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمْرَاتٍ. وَفِي رِوَايَةٍ
عَنْهُ قَالَ: وَيَأْكُلُهُنَّ وَتَرًا.

(رواه البخارى: ۹۵۳)

۳- بَابُ: الْأَكْلِ يَوْمَ النَّحْرِ

۵۲۹: عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ، فَقَالَ:
(إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْنَا بِهِ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا أَنْ

hum karengे woh yeh ke namaaz padhenge phir waapas jaakar qurbaani karengे to jisne aisa kiya to usne humaare tareeqe ko paaliya. (Bukhari: 951)

نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَنْحَرُ، فَمَنْ فَعَلَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا).
(رواه البخارى: ٩٥١)

Fawaaid:Imam Bukhari ne iss hadees par bayeen alfaaz unwaan qaayem kiya hai. "Musalmaanon ke liye eid ke din pahli sunnat ka bayaan" Musnad Imam Ahmed, Tirmeezi aur Ibne Majah ki rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ eidul Azha ke din waapas aakar apni qurbaani ka gosht tanaawul farmate the (Awnul Baari:2/74)

530 : Hazrat Bara' Bin Aazib ؓ se hi rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne Eidul Azha mein namaaz ke ba'd hamaare saamne khutba irshaad farmaya to kaha jo shakhs hamaare jaisi namaaz padhe aur hamaare jaisi qurbaani kare to uska fareeza poora ho gaya aur jisne namaaz se pahle qurbaani ki to woh namaaz se pahle hone ki bena par qurbaani nahin hai iss par Hazrat Bara' ؓ ke maamun Janaab Abu Burdah Bin Niyaar ؓ ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! main ne to apni bakri namaaz se pahle hi zabah kardi kyun ke main ne samjha ke aaj chunke khane peene ka din hai isliye meri khaahish thi ke sab se pahle mere hi ghar mein bakri zabah kardi jaaye aur namaaz keliye aane se pahle kuchh naashta bhi kar liya Aap ne farmaya ke tumhaari bakri to sirf gosht ki bakri thhahri (qurbaani nahin huyi) unhon ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ hamaare paas ek bhed ka bachcha hai jo mujhe 2 bakriyon se ziyaadah azeed hai to kiya woh meri taraf se kaafi ho jayega? Aap ne farmaya haan lekin tumhaare siwa kisi aur ko kaafi na hoga. (Bukhari: 955)

٥٣٠: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْأَضْحَى بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسْكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسْكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَلَا نُسْكَ لَهُ). فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَّارٍ، خَالَ الْبَرَاءِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنِّي نَسَكْتُ شَاتِي قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلِ وَشُرْبِ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ تَكُونَ شَاتِي أَوَّلَ شَاةٍ تُذْبَحُ فِي بَيْتِي، فَذَبَحْتُ شَاتِي وَتَغَدَّيْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ، قَالَ: (شَاتُكَ شَاةٌ لَحْمٌ). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَّا قَالًا لَنَا جَذَعَةٌ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ، أَفْتَجْزِي عَنِّي؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَلَكِنْ تَجْزِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ). (رواه البخارى: ٩٥٥)

Fawaaid:Qurbaani ke jaanwar ke liye do daanta hona zaroori hai iske baghair qurbani nahin hoti hadees mein mazkoorah ijaazat sirf Abu Burdah ؓ ke liye thi. iss se yeh bhi maloom huwa ke deen insaan ke paakeezah jazbaat ka naam nahin balke uske liye **munazzal minallah** hona zaroori hai.

Baab 4: Eid gaah mein mimbar ke baghair jaana

531 :Hazrat Abu Say'eed khudri ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ Eidul Fitr aur Eidul Azha ke

٥٣١: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
بِعَيْرٍ مِنْبَرٍ
بَابُ: الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى

din eid gaah tashreef le jate to pahle jo kaam karte woh namaaz hoti, usse faraghat ke ba'd Aap logon ke saamne khade hote log apne safon mein baithhe rahte tab Aap unhen naseehat wa talqeen farmate aur achchhi baaton ka hukm dete phir agar Aap koyi lashkar bhejna chaahte to use tayyaar karte ya jis kaam ka hukm karna chaahte hukm dete phir waapas ghar laut aate Hazrat Abu Say'eed ؓ farmate hain ke uske ba'd bhi log aisa hi karte rahe yahaan tak ke main Marwaan ؓ ke saath Eidul Azha ya Eidul Fitr mein gaya woh uss waqt Madinah ka haakim tha jab hum eidgaah pahunche to ek mimbar wahaan rakkha huwa tha jo Kaseer Bin Salat ne tayyar kiya tha Marwaan ؓ ne achaanak chaahe ke namaaz padhne se pahle uss par chadhhe to main ne uska kapda pakad kar kheencha lekin usne mujhe jhatak diya aur mimbar par chadh gaya phir usne namaaz se pahle khutba diya main ne usse kaha Allah ki qasam! tum logon ne sunnate Nabwi ko badal diya hai usne kaha Janaab Abu Sayeed Khudri ؓ! woh baat jaati rahi jo tum jaante ho main ne jawaaban kaha Allah ki qasam! jo main jaanta hoon woh isse kahin behtar hai jise main nahin jaanta hoon us par Marwaan ؓ goya huwa baat dar asal yeh hai ke log hamaare khutba ke liye namaaz ke ba'd nahin baithhte lehaaza main ne khutbah ko namaaz se pahle kar diya.(956)

Fawaaid: Hazrat Marwaan ؓ ne yeh tabdeeli apne ijtehaad se ki thi jo nas ke muqaablah mein hone ki benaa par qaabil-e-amal na thi. chunaancheh hazrat Abu Say'eed Khudri ؓ ne iska notis liya isse yeh bhi maloom huwa ke agar hukmaraan kisi behtar kaam par muwaafiqat na karen to khilaaf-e-oola kaam ko amal mein laana jaayiz hai. (Awnul Baari:2/80)

Baab 5: Eid ke liye paidal ya sawaar ho kar jaana aur khutbah se pahle namaaz adaa karna

532 : Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما اور Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضی اللہ عنہما se

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةَ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ، فَيُعْطُهُمْ وَيُوصِيهِمْ وَيَأْمُرُهُمْ: فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَهُ، أَوْ يَأْمُرَ بِشَيْءٍ أَمَرَ بِهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَلَمَّ يَزِلُ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى خَرَجَتْ مَعَ مَرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ، فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرِ، فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُصَلَّى، إِذَا مِنْبَرٌ بِنَاءِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَإِذَا مَرْوَانُ يُرِيدُ أَنْ يَرْتَفِعَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَجَبَذْتُ بِشَوْبِهِ، فَجَبَذَنِي، فَارْتَفَعَ فَحَطَبَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: غَيْرْتُمْ وَاللَّهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، قَدْ ذَهَبَ مَا تَعْلَمُ، فَقُلْتُ: مَا أَعْلَمُ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا لَا أَعْلَمُ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَجْلِسُونَ لَنَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَجَعَلَهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ. (رواه البخارى: ٩٥٦)

٥- بَابُ: الْمَشْيِ وَالرُّكُوبِ إِلَى الْعِيدِ، وَالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

٥٣٢: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا: لَمْ

rivaayat hai unhon ne farmaya ke na Eidul Fitr ki azaan hoti thi aur na Eidul Azha ki.

(Bukhari: 960)

Fawaaid: Mazkoora rivaayat mein na paidal chalne ka zikr hai aur na hi sawaari par jaane ki mumaani'at hai jiss se imam Bukhari ne saabit kiya hai ke donon tarah eidgaah jaane durust hai agarcheh paidal jaane mein ziyaadah sawaab hai. khutbah se pahle namaaz ka hona ouper ke baab se saabit ho chuka hai agle baab se bhi saabit hota hai.

Baab 6: Namaaze Eid ke ba'd khutba

533 : Hazrat Ibne Abbaas ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Eid ki namaaz Rasoolullah ﷺ Hazrat Abu Bakr ؓ Hazrat Umar ؓ aur aur Hazrat Usmaan ؓ ke saath padhi hai. yeh sab khutbah se pahle namaaz-e-eid padhte the. (Bukhari: 962)

Baab 7: Ayyaam-e-tashreeq mein ibaadat karne ki fazeelat

534 : Hazrat Ibne Abbaas ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya kisi aur din mein ibaadat in das dinon mein ibaadat karne se afzal nahin hai sahaaba kiraam ؓ ne arz kiya ke jehaad bhi nahin? Aap ne farmaya ke jehaad mein bhi nahin haan woh shakhs jo (jehaad mein) apni jaan aur maal ko khatre mein daalte huye nikle aur phir koyi cheez le kar waapas na laute (balke apni jaan wa maal qurbaan karde) (Bukhari: 969)

Fawaaid: Chunke yeh ayyaam aksar log ghafilat ke saath guzaarte hain lehaazah in dinon ki ibaadat ko badi fazeelat ki haamil qaraar diya gaya hai neez yeh bhi ma'loom huwa ke kam darje ka amal agar behtareen waqt mein adaa kiya jaaye to uski fazeelat do chand ho jaati hai. (Awnul Baari: 2/84)

Baab 8: Ayyaam-e-mina aur maydaan-e-arfaat ko jaate takbeeren kahna

535 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai ke un se labbaik pukaarne ke muta'alliq poochha gaya ke Rasoolullah ﷺ ke hamraah kis tarah karte the to unhon ne jawaab diya ke labbaik kahne waala labbaik kahta use mana' na kiya jaata aur isi tarah takbeeren kahne

يَكُنْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى. (رواه البخارى: ٩٦٠)

٦-بَابُ: الْخُطْبَةِ بَعْدَ الْعِيدِ

٥٣٣: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ، كَانُوا يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ).

(رواه البخارى: ٩٦٢)

٧-بَابُ: فَضْلِ الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ

التَّشْرِيقِ

٥٣٤: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: (مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَذَا الْعَشْرِ). قَالُوا: وَلَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: (وَلَا الْجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ).

(رواه البخارى: ٩٦٩)

٨-بَابُ: التَّكْبِيرِ أَيَّامَ مِنَى وَإِذَا عَدَا

إِلَى عَرَفَةَ

٥٣٥: عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّلْبِيَةِ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ؟ قَالَ: كَانَ يُلَبِّي الْمَلْبِي

waala takbeer kahta to uss par bhi koyi e'teraaz na karta. (Bukahri 970)

لَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ، وَيَكْبِرُ الْمَكْبَرِ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ. (رواه البخارى: ٩٧٠)

Fawaaid: Eidain ki rooh yahi hai ke in mein ba aawaaz buland Allah ki kibriyaayi aur uski azmat ka e'laan kiya jaaye, iska matlab yeh nahin hai ke ayyaam-e-hajj mein talbiyah tark kardiyah jaaye balke talbiyah kahte huye takbeeren bhi ba aawaaz buland kahi jaayen.

(Awnul Baari:2/86)

Baab 9: Qurbaani ke din Eid gaah mein ount ya koyi jaanwar zabah karna

536: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ount ya kisi aur jaanwar ki qurbaani Eid gaah mein kiya karte the. (Bukahri 982)

٩-بَابُ: النَّحْرِ وَالذَّبْحُ بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ

٥٣٦: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَنْحَرُ، أَوْ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى. (رواه البخارى: ٩٨٢)

Fawaaid: Bila shubah eid gaah mein qurbani karna masnoon hai magar haalaat wa zuroof ke pesh-e-nazar yeh sunnat apne gharon aur moqarrarah maqamaat par bhi adaa ki jaa sakti hai.

Baab 10: Eid ke din waapsi par raastah badalna

537 : Hazrat Jaabir رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab Eid ka din hota to raasta tabdeel karte ya'ni ek raastah se jaate to waapsi ke waqt doosra raastah ikhtiyaar farmate. (Bukahri 987)

١٠-بَابُ: مَنْ خَالَفَ الطَّرِيقَ إِذَا رَجَعَ يَوْمَ الْعِيدِ

٥٣٧: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِ خَالَفَ الطَّرِيقَ. (رواه البخارى: ٩٨٦)

Fawaaid: Raastah badalne mein sharay'i maslehat yeh hai ke har taraf islaam ki shaukat ka izhaar ho neez jahaan jahaan qadam padenge qiyaamat ke din woh khitte gawaahi denge. (Awnul Bari:2/87)

538 : Hazrat Aayshah رضي الله عنها ki Habshiyon se muta'alliq rivaayat (486) pahle guzar chuki hai yahaan iss rivaayat mein itna ezaafah hai ke Hazrat Aayshah رضي الله عنها ne farmaya jab Hazrat Umar رضي الله عنه ne unhen jhidhka to Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke unhen rahne do Aye bani Arfadah! aaraam aur sukoon se khelo (Bukahri 988)

٥٣٨: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي أَمْرِ الْحَبَشَةِ تَقْدِمَ، وَزَادَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ: فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (دَعُوهُمْ، أَمَّا بَنِي أَرْفَدَةَ). (رواه البخارى: ٩٨٨)

Fawaaid: Imam Bukhari ne iss hadees par bayeen alfaaz unwaan qaayim kiya hai ke "agar kisi ko ba jamaa'at eid na mile to do raka't padh le" kyun ke iss rivaayat ke mutaabiq ayyaam-e-eid ka taqaazah hai ke namaaz ba jamaa'at padhi jaaye agar rah jaaye to inferaadi taur par adaa karli jaaye. (Awnul Baari:2/89)

Witr ke bayaan mein

کتاب الوتر

Baab 1: Witr ke muta'alliq jo waarid hai

539 : Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke ek shakhs ne Rasoolullah ﷺ se namaaz-e-shab ke muta'alliq daryaaft kiya to Aap ne farmaya ke raat ki namaaz do do rak'at hain aur agar tum mein se kisi ko subah hone ka andesha ho to ek rak'at aur padhle woh uski namaaz ko witr banaadegi.

(Bukhari : 990)

Fawaaid: Namaaz-e-witr mustaqil ek namaaz hai jo Isha ke ba'd fajr tak raat ke kisi hisse mein padhi jaa sakti hai ise tahajjud, qiyaamullail aur taraweeh bhi kaha jaata hai. iski kam az kam ek raka't aur ziyaadah se ziyaadah 13 ra'kat hain aksar Ulmaa ke nazdeek namaaz-e-witr sunnat hai jis ki taakeed ki gayi hai iss hadees se do baaten saabit hoti hain ek yeh ke raat ke nawaafil, do do raka't karke padhna chaahiye doosri yeh ke witr ki ek raka't padhna bhi saabit hai. (Awnul Baari:2/91)

540 : Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne namaaz-e-tahajjud 11 raka't padha karte the raat ke waqt Aap ki yahi namaaz thi iss namaaz mein sajdah iss qadar taweel karte ke Aap ke sar uthhaane se pahle tum mein se koyi 50 aayaat telaawat kar leta hai aur namaaz-e-fajr se pahle do raka't sunnat bhi padha karte phir apni daayen karwat let jaate yahaan tak ke muazzin Aapke paas namaaz ki ittela' ke liye aaja ta to utth jaate. (Bukhari : 994)

Fawaaid: Doosri rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ramzaan ya ghair ramzaan mein kabhi 11 raka't se ziyaadah nahin padha karte the albatta ba'z auqaat 13 raka't padhna bhi saabit hai jaisa ke Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما ne bayaan farmaya hai neez subah ki sunnaten adaa karke daayen jaanib letna bhi sunnat hai kyun ke aap achchhe kaamon mein daayen taraf ko pasand farmate the. (Awnul Baari:2/96)

Baab 2: Namaaz-e-Witr ke auqaat

541 : Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke raat ke har hisse

۱ - مَا جَاءَ فِي الْوَيْتْرِ

۵۳۹ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى).
(رواه البخارى: ۹۹۰)

۵۴۰ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، كَانَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ - تَعْنِي بِاللَّيْلِ - فَيَسْجُدُ السَّجْدَةَ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ أَحَدُكُمْ خَمْسِينَ آيَةً، قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوَدِّنُ لِلصَّلَاةِ.
(رواه البخارى: ۹۹۴)

۲ - بَابُ : سَاعَاتِ الْوَيْتْرِ

۵۴۱ : وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :

mein Rasoolullah ﷺ namaaz-e-Witr adaa ki hai magar aakhir mein aapki namaaz-e-Witr aakhir shab mein hoti thi (Bukhari: 996)

كُلَّ اللَّيْلِ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
وَأَنْتَهَى وَتْرَهُ إِلَى السَّحْرِ.
(رواه البخارى: ٩٩٦)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ne mukhtalif haalaat ke pesh-e-nazar mukhtalif auqaat mein witr adaa kiye hain shaayad takleef aur marz mein awwal shab mein bahaalat-e-safar dermiyaan shab mein aur aam ma'mool aakhir shab mein padhne ka tha. albatta ummat ki aasaani ke liye Isha ke ba'd jab bhi mumkin ho to witr adaa karna jaayiz qaraar diya. (Awnul Baari:2/97)

Baab 3: Chaahiye ke apni aakhir namaaz witr ko banaaye

542 : Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya aye logo! tum raat ki aakhri namaaz witr ko banaao. (Bukhari: 998)

٣- بَابٌ : لِيَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِهِ وَتْرًا
٥٣٢ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (اجْعَلُوا
آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وَتْرًا).
(رواه البخارى: ٩٩٨)

Fawaaid: Raat ki aakhri namaaz witr ko banaane ka amr-e-nabwi istehbaab ke liye hai kyun ke Rasoolullah ﷺ se witr ke ba'd do raka't padhna bhi saabit hai aur aap ne iski targheeb bhi di hai Rasoolullah ﷺ in do rak'aat ko baithh kar adaa karte the lekin hamein khade ho kar adaa karni chaahiye kyun ke Rasoolullah ﷺ ko baithh kar namaaz padhne se bhi poori namaaz ka sawaab milta tha. yeh rea'ayat ummat ke liye nahin hai.

Baab 4: Sawaari par witr padhna

543 : Hazrat Abdullah Bin Umar رضی اللہ عنہما se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ount par sawaar ho kar witr padh liya karte the. (Bukhari: 999)

٣- بَابٌ : الْوَيْتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ
٥٣٣ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى
الْبَعِيرِ . (رواه البخارى: ٩٩٩)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke witr waajib nahin hain agar aisa hota to ise sawaari par adaa na kiye jaate. (Awnul Baari:2/99)

Baab 5: Ruku' se pahle aur ruku' ke ba'd qunoot ka bayaan

544 : Hazrat Anas رضی اللہ عنہ se rivaayat hai un se daryaaft kiya gaya ke Rasoolullah ﷺ ne namaaz-e-fajr mein qunoot padhi hai? unhon ne jawaab diya haan phir poochha gaya ke ruku' se pahle Aap ne qunoot padhi thi? unhon ne kaha ruku' ke ba'd thode dinon ke liye. (Bukhari: 1001)

٥- بَابٌ : الْقُنُوتِ قَبْلَ الرَّكُوعِ وَبَعْدَهُ
٥٣٤ : عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
سُئِلَ : أَقْنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصُّبْحِ؟
قَالَ : نَعَمْ. فَقِيلَ : أَوْقْنَتَ قَبْلَ
الرَّكُوعِ؟ قَالَ : بَعْدَ الرَّكُوعِ يَسِيرًا.
(رواه البخارى: ١٠٠١)

Fawaaid: Iss hadees mein qunoot-e-witr ka zikr nahin balke qunoot-e-naazlah ka hai shaayad imam Bukari ne yeh qiyaas kiya ho ke jab farz namaaz mein qunoot padhna jaayiz huwa to witr mein batareeq oola jaayiz hoga mahall-e-qunoot ke muta'alliq nasayi mein wazaahat hai ke witr mein qunoot ruku' se pahle hai aur muslim ki rivaayat ke mutaabiq qunoot-e-naazlah ruku' ke ba'd hai. agar qunoot-e-witr mein deegar adiya'h bhi shaamil karli jaayein to use bhi ruku' ke ba'd padhna chaahiye, basoorat deegar qunoot-e-witr ruku' se pahle hai. (Awnul Baari:2/105)

545 : Hazrat Anas رضي الله عنه se hi rivaayat hai unse qunoot ke muta'alliq sawaal kiya gaya to unhon ne jawaab diya ke bilaa shubhah qunoot padhi jaati thi phir daryaافت kiya gaya ke ruku' se qabl ya ruku' ke ba'd? unhon ne kaha ruku' se qabl, phir jab unse kaha gaya ke fulaan shakhs to Aap se naql karta hai ke Aap ne ruku' ke ba'd farmaya hai Hazrat Anas رضي الله عنه bole woh ghalat kahta hai Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne sirf ek maheena ruku' ke ba'd qunoot padhi hai aur mera khayaal hai ke Aap ne mushrikeen ki taraf taqreeban 70 aadmi bhejhe jinhen qaari kaha jata tha yeh mushrik un mushrikeen ke elaawah the jin ke aur Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke darmiyaan mu'aahidah sulah tha Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne du'a-e-qunoot padhi aur ek maah tak unke liye bad,du'a karte rahe inhi se ek rivaayat mein yeh hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne ek maah tak dua'e qunoot padhi aur qabeela re'al wa zakwan ke liye bad,du'a farmate rahe.

(Bukhari: 1002-3)

Fawaaid: Hangaami haalat ke pesh-e-nazar har namaaz mein qunoot ki jaa sakti hai neez maloom huwa ke zulm pesh logon par namaaz mein bad du'a karne se namaaz mein koyi khalal nahin aata. (Awnul Baari:2/102)

546 : Hazrat Anas رضي الله عنه se hi yeh bhi rivaayat hai unhon ne farmaya ke qunoot Maghrib aur Fajr ki namaaz mein padhi jaati thi.

(Bukhari: 1004)

Fawaaid: Namaaz-e-Maghrib chunke din ke witr hain aur iss mein qunoot karna saabit hai to raat ke waitron mein qunoot biloola ki jasakti hai iske elaawah witr mein qunoot karne ki saraahat ahaadees mein bhi maujood hai. (Awnul Baari:2/106)

٥٣٥ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ، فَيُقِيلُ لَهُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ. قِيلَ: فَإِنَّ فَلَانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؟ فَقَالَ: كَذَبٌ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أَرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَهُمُ الْقُرَاءُ، زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا، إِلَى قَوْمٍ مُشْرِكِينَ دُونَ أَوْلِيكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ.

(رواه البخارى: ١٠٠٢)

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ شَهْرًا، يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ. (رواه البخارى: ١٠٠٣)

٥٣٦ : وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَلْقُنُوتٌ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ.

(رواه البخارى: ١٠٠٤)



Baarish Talab Karne ka bayaan

Baab 1: Istesqaa ka bayaan

Hazrat Abdullah Bin Zaid رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم namaaz-e-istasqaa keliye bahar tashreef le gaye aur wahaan Aap ne apni chaadar ko palat liya inhin se ek rivaayat hai unhon ne farmaya wahaan Aap ne do rak'at namaaz adaa ki. (Bukhari: 1005, 1012)

Fawaaid: Istesqaa ke teen tareeqe hain: (1) Mutlaqan baarish ki dua' ki jaaye. (2) Nafil aur farz namaaz ke ba'd neez khutba mein dua' ki jaaye, (3) Baahar maydaan mein do raka't adaa ki jaayen aur khutbah diya jaaye phir dua' ki jaaye. (Awnul Baari: 2/107) Chaader ko yoon palta jaaye ke neechे ka kona pakad kar use ulta kiya jaaye phir use daayein jaanib se ghuma kar baayen jaanib daal liya jaaye iss mein ishaarah hai ke Allah apne fazl se aise hi qahat ki haalat ko badal de ga.

Baab 2: Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ki bad du'a ke aisi qahat saali daal jaisi Hazrat Yusuf عليه السلام ke zamaana mein thi

548: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه ki woh hadees (545) pahle guzar chuki hai jis mein musalmaan ke liye du'a aur qabeela Muzar par bad du'a ka zikr hai yahaan aakhir mein yeh ezaafah hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke qabeelah Ghifaar ko Allah Ta'ala maghfirat se nawaaze aur qabeela Aslam ko Allah Ta'ala salaamat rakkhe. (Bukhari: 1006)

Fawaaid: Yeh Hadees Imam Bukhari Istesqaa mein isliye laaye hain jaise musalmaan ke liye baarish ki dua' karna masnoon hai isi tarah kaafiron par qahat ki bad dua' karna jaayiz hai lekin aise kaafiron ke liye jin se mu'ahhidah sulah ho bad dua' karna jaayiz nahin. (Awnul Baari: 2/109)

549: Hazrat Abdullah Bin Mas'ood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne jab logon ki islam se sartaabi dekhi to bad dua' ki aye Allah! inko saat baras tak ke liye qahat saali mein mu'tala karde jaise Hazrat Yusuf عليه السلام ke zamaane mein saat baras qahat pada tha.

کتاب الإستسقاء

۱- بَابُ: الإِسْتِسْقَاءِ

۵۴۷ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ يَسْتَسْقِي، وَحَوْلَ رِذَاءِهُ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

(رواه البخاری: ۱۰۰۵ و ۱۰۱۲)

۲- بَابُ: دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: اجْعَلْهَا

عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ

۵۴۸ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَدِيثُ دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ: اللَّهُمَّ لِمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَاتِكَ عَلَى مُضَرِّ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسَنِي يُوسُفَ وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (غَفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَأَسْلَمٌ سَأَلَهَا اللَّهُ)

(راجع: ۲۶۲). (رواه البخاری: ۱۰۰۶)

۵۴۹ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا رَأَى مِنَ النَّاسِ إِذْبَارًا، قَالَ: (اللَّهُمَّ سَبِّعْ كَسَبِعِ يُوسُفَ). فَأَخَذَتْهُمُ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلُّ شَيْءٍ، حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ

chunaancheh qahat ne unko aisa dabocha ke har cheez nest-o-naabood ho gayi yahaan tak ke log chamda, murdaar aur gale sade jaanwar khaane shuru' kar diye aur un mein se agar koyi aasmaan ki jaanib dekhta to bhook ki wajah se use dhunwa sa dikhaayi deta aakhir Abu Sufyaan ؓ ne Apa ki khidmat mein aakar arz kiya aye Muhammad ؐ! Aap to Allah ki etaa'at aur aqrabaa parwari ka da'wa karte hain magar yeh Aap ki qaum mari jaati hai Aap unke liye Allah se du'a farmayen uss par Allah Ta'ala ne farmaya aye Nabi ؐ! uss din ka intezaar karo jab aasmaan se ek saaf dhunwa zaahir hoga iss farman-e-elaahi tak jab hum unhein sakht tarah se pakdenge Hazrat Abdullah Bin Mas'ood ؓ kahte hain ke alabatshata ya'ni sakht pakad badr ke din huyi to Qura'n shareef mein jis dhunwen, pakad aur qaid ka zikr hai iss tarah aayat Ar-Room sab waaq' ho chuke hain. (Bukhari: 1007)

Fawaaid: Yeh hijrat se pahle ka waaqia'h hai qahat ki shiddat ka yeh aalam tha ke qahat zadah elaaqe wiraane ka naqshah pesh kar rahe the bil aakhir Rasoolullah ؐ ne hazrat Abu Sufyaan ؓ ki darkhaast par dua' farmaayi aur qahat khatam huwa. (Awnul Baari:2/ 111)

550: Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mujhe aksar shaa'yer (Abu Taalib) ka qaul yaad aa jaata hai jab main ne Rasoolullah ؐ ka chehra-e-anwar ko du'a istesqaa karte huye dekhta hoon Aap mimbar se na utar paate the ke tamaam par naale zor se bahne lagte woh sh'er Abu Talib ka yeh hai "woh gore mukhde waala jis ke rooye zeba ke waaste se abar-e-rahmat ki du'ayen maangi jaati hain woh yateemon ka sahara, bewaaon aur miskeenon ka sarparast hai. (Bukhari: 1009)

Fawaaid: Roo-e-zeba ke waastah se muraad aapka du'a karna hai yeh sh'er janab Abu Talib ke uss qaseede se hai jo 110 ash'aar par mushtamal hai jise unhon ne Rasoolullah ؐ ki shaan mein padha tha. (Awnul Baari:2/ 112)

551: Hazrat Umar Bin Khatthaab ؓ se rivaayat hai unki yeh aadat thi ke jab log qahat saali mein mubtala hote to Abbaas Bin

وَالْمَيْتَةَ وَالْجَيْفَ، وَيَنْظُرُ أَحَدُهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى الدُّخَانَ مِنَ الْجُوعِ. فَاتَاهُ أَبُو سُفْيَانَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ تَأْمُرُ بِطَاعَةِ اللَّهِ وَبِصَلَةِ الرَّحِمِ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا، فَأَدْعُ اللَّهَ لَهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ) إِلَى قَوْلِهِ: (عَائِدُونَ) ☆ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى) فَالْبَطْشَةُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَقَدْ مَصَّتِ الدُّخَانَ وَالْبَطْشَةَ وَاللِّزَامَ وَآيَةُ الرُّومِ. (رواه البخارى: ١٠٠٤)

٥٥٠ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُبَّمَا ذَكَّوْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَسْقَى، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيْشَ كُلُّ مِزَابٍ، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَالِ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ هُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ. (رواه البخارى: ١٠٠٩)

٥٥١ : عَنْ عُمَرَ بْنِ خَطَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحَطُوا اسْتَسْقَى

Abdul Muttalib ﷺ se du'ay-e-istesqa ki apeel karte aur kahte aye Allah! pahle hum Rasoolullah ﷺ se du'ay-e-istesqa ki apeel kiya karte the to tu baarish barsaata tha ab hum tere Nabi ﷺ ke chacha jaan ke zariye baarish ki du'a karte hain to ab bhi raham farma kar baarish barsa de raavi kahta hai ke phir baarish barasne lagti. (Bukhari: 1010)

Fawaaid: Maloom huwa ke zindah buzurg se baarish ke liye du'a ki apeel karna ek pasandeedah amal hai yeh bhi maloom huwa ke hamaare aslaaf murdon ko waseelah bana kar du'a nahin karte the kyunke yeh ghair shara'yi waseelah hai.

Baab 3: Jaama Masjid mein baarish ke liye du'a karna

553 : Hazrat Anas ﷺ ki hadees uss shakhs ke muta'alliq jo masjid mein aaya tha jabke Rasoolullah ﷺ khutba irshaad farma rahe the aur usne Aap se baarish ke liye du'a ki apeel ki thi muta'addid martabah guzar chuki hai iss rivaayat mein itna ezaafah hai ke hum ne 6 din tak aaftaab ko na dekha phir agle jum'a ek shakhs usi darwaaze se Masjid mein daakhil huwa jabke Rasoolullah ﷺ uss waqt khade hokar khutba de rahe the usne Aap ke saamne aakar arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! maal talf ho gaye aur raaste band ho gaye hain isliye Aap Allah se du'a karen ke ab baarish rokle Hazrat Anas ﷺ kahte hain ke Rasoolullah ﷺ ne donon haath uthaa kar farmaya aye Allah! hamaare ird gird barsa hum par na barsa teelon, pahaadon maydaanon waadiyon aur darakht ugne ke maqaamaat par baarish barsa raavi kahta hai ke baarish band ho gayi aur hum dhoop mein chalne lage. (Bukhari: 1013)

Fawaaid: Imam Saahab iss hadees se yeh bhi saabit karna chahte hain ke dua'-e- istesqaa ke liye baahar maydaan main jaana zaroori nahin balke juma ke din masjid ke ander dauraan-e-khutbah apni chaader palte baghair bhi dua ki jaa sakti hai (Awnul Baari:2/ 118).

Baab 4: Khutbah Jum'a mein ghair qiblah rukh kiye baarish ki du'a karna

553 : Hazrat Anas ﷺ se hi rivaayat hai

بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا، قَالَ فَيُسْقَوْنَ.

(رواه البخارى: ١٠١٠)

٣- باب: الإِسْتِسْقَاءُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ
٥٥٢ : حَدِيثُ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ فَسَأَلَهُ الدُّعَاءُ بِالْغَيْثِ، تَكَرَّرَ كَثِيرًا، وَفِي الرَّوَايَةِ: فَمَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا. ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ الْبَابِ فِي الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَائِمٌ يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَهُ قَائِمًا، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأُمُومُ، وَأَنْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَأَدْعُ اللَّهُ يُمَسِّكْهَا. قَالَ: فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ حَوِّأَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ، وَالْأَجَامِ) وَالظَّرَابِ، وَالْأُودِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ). قَالَ: فَانْقَطَعَتْ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي الشَّمْسِ. (رواه البخارى: ١٠١٣)

٣- باب: الإِسْتِسْقَاءُ فِي خُطْبَةِ

الْجُمُعَةِ غَيْرِ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ

unhon ne farmaya Rasoolullah ﷺ ne dauraan-e-khutba khade) apne donon haathon ko uthha kar yoon du'a ki aye Allah! hum par baarish barsa aye Allah! hum par baarish barsa Aye Allah hum par baarish barsa. (Bukhari: 1014)

۵۵۳ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا، اللَّهُمَّ اغْنِنَا). (رواه البخارى: ۱۰۱۴)

Fawaaid:Sahih Ibne Khuzaimah mein hai ke aap ne iss qadar haath uthhaye ke baglon ki safedi nazar aane lagi nasayi mein hai ke logon ne bhi haath uthhaye. (Awnul Baari:2/ 120) logon ke haath uthhane ka zikr Bukhari mein bhi maujood hai.(Alvi)

Baab 5:Rasoolullah ﷺ ne (istesqa' mein) logon ki taraf apni pusht kaise pheri?)

۵ - بَابُ: كَيْفَ حَوَّلَ النَّبِيُّ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى النَّاسِ

554 : Hazrat Abdullah Bin Zaid ؓ se marvi hadees istesqa (547) pahle guzar chuki hai iss rivaayat mein itna ezafah hai ke Aap ne logon ki taraf pusht karke qiblah ki taraf munh kar liya aur du'a farmane lage phir apni chaader ko ulat liya uske ba'd ba aawaaz buland qera'at karke hamein do rak'at padhaayin. (Bukhari: 1024)

۵۵۴ : حديث عبد الله بن زيد في الاستسقاء تقدم، وفي هذه الرواية قَالَ: فَحَوَّلَ إِلَى النَّاسِ ظَهْرَهُ، وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ يَدْعُو، ثُمَّ حَوَّلَ رِكَائَهُ، ثُمَّ صَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ، جَهْرًا فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ. (رواه البخارى: ۱۰۲۴)

Fawaaid:Iss hadees se maloom huwa ke namaaz-e-istesqa mein khutbah namaaz se pahle hai kyun ke chaader ka palatna khutbah mein hota hai jo namaaz se pahle hai Abu Dawood ki rivaayat mein iski saraahat bhi hai lekin namaaz ke bad khutbah ko bayaan karne wale raaviyon ki ta'dad ziyadah hai phir eid aur kusoof par qiyaas bhi taqaaza karta hai ke khutbah namaaz ke ba'd hai. (Awnul Baari:2/121)

Baab 6: Imaam ka baarish ke liye haath uthaa kar du'a karna

555 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ dua'-e-istesqa ke elaawah kisi aur du'a mein apne donon haath buland na uthhate the Aap apne haath itne ounche uthhate ke Aap ki donon baghlon ki safedi nazar aane lagti.

۶-بَابُ:رَفَعَ الْإِمَامُ يَدَهُ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ ۵۵۵ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ حَتَّى يُرَى بَيَاضَ إِبْطِيهِ. (رواه البخارى: ۱۰۳۱)

(Bukhari: 1031)

Fawaaid:Iss hadees mein sirf mubaalghah ki had tak utthaane ki nafi hai kyun ke muta'ddid maqamaat par Rasoolullah ﷺ ka du'a ke waqt haath uthhana saabit hai jaisa ke Imam Bukhari ne kitabudd'awaat mein bayaan kiya hai neez du'a istasqa mein haath uthhane ki kaifiyat bhi aam dua' se mukhtalif hai iss mein haathon ki hatheliyan zameen ki taraf hon aur puth aasmaan ki taraf honi chaahiye. (Awnul Baari:1/122)

Baab 7:bawaqte baarish kiya kahna chaahiye?

۷- بَابُ: مَا يَقَالُ إِذَا أَمْطَرَتْ ۵۵۶ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

556 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat

hai ke Rasoolullah ﷺ jab baarish barasti dekhte to farmate aye Allah! "Mufeed paani barsa"(Bukhari:1032)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى الْمَطَرَ قَالَ: (اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا)
(رواه البخارى: ١٠٣٢)

Baab 8: Jab aandhi chale to kiya karna chaahiye?

557 : Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab tez aandhi chalti to Rasoolullah ﷺ ke chehra-e-anwar par khauf ke aasaar nomayaan hote. (Bukhari: 1034)

٨- بَابُ: إِذَا هَبَّتِ الرِّيحُ
٥٥٧ : عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
كَانَتْ الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ إِذَا هَبَّتْ،
عُرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ.
(رواه البخارى: ١٠٣٤)

Fawaaid: Aandhi ke ba'd aksar baarish hoti hai iss munaasibat se Imam Bukhari ne iss hadees ko yahaan bayaan kiya hai chunke qaum-e-a'ad par aandhi ka azaab aaya tha isliye aandhi ke waqt azaab-e-ilaahi ka tasawwur farma kar ghabra jaate aur ghutnon ke bal gir kar du'a karte. (Awnul Baari:1/125)

Baab 9: Irshaad-e-Nabwi ke baad-e-saba ke zari'ye meri madad ki gayi hai

558 : Hazrat Abdullah Bin Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya saba ya'ni mashriqi hawa se meri madad ki gayi hai aur qaum-e-a'ad ko maghribi hawa se halaak kiya gaya hai. (Bukhari: 1035)

٩- بَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:
"نُصِرْتُ بِالصَّبَا"

٥٥٨ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (نُصِرْتُ
بِالصَّبَا، وَأَهْلِكْتُ عَادَ بِالدُّبُورِ).
(رواه البخارى: ١٠٣٥)

Fawaaid: Baab-e-saba ko qubool bhi kahte hain jo haq qubool karne waalon ke liye baa'is-e-nusrat wa taayid saabit hoti hai aur khandaq ke waqt iska aml muzaahrah . huwa jabke 12 hazaar kaafiron ne madinaa ka muhaasrah karliya tha Allah ta'ala ne aisi hawa bheji jis se kaafir parishaan ho kar bhaag nikle. (Awnul Baari:1/126)

Baab 10: Zalzalon aur alaamaate qiyamat ke baare mein jo aaya hai

559 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya aye Allah hamaare Shaam mein aur Yaman mein barkat de logon ne arz kiya hamaare Najad ke liye bhi barkat ki du'a farmayein to Aap ne dobaarah kaha aye Allah! Shaam aur Yaman ko ba barkat farma logon ne phir arz kiya aur hamare Najd mein bhi to Aap ne farmaya wahaan zalzale aur fitne honge aur shaytaan ka giroh bhi waheen hoga.

١٠- بَابُ: مَا قِيلَ فِي الزَّلَازِلِ وَالْآيَاتِ
٥٥٩ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
عَنْهُمَا. عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ
بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمِينِنَا قَالُوا:
وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا
فِي شَامِنَا وَفِي يَمِينِنَا قَالَ: (هُنَاكَ
الزَّلَازِلُ وَالْفِتْنُ، وَبِهَا يُطْلَعُ قَرْنُ
الشَّيْطَانِ). (رواه البخارى: ١٠٣٧)

(Bukhari: 1037)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ne arz-e-fitan ki nishaandahi karte waqt mashriq ki taraf ishaarah farmaya iss se maloom hota hai ke iss se muraad najd, iraq hai jo fitnon ki aamaaj gaah hai iss elaaqah se musalmaanon ka ifteraaq wa inteshaar shuru huwa jo aaj tak baaqi hai iss se muraad Najd-e-Hejaaz nahin jaisa ke bida'ti kahte hain kyun ke iss elaaqah se ek aisi tahreek uthhi jis ne khulfaa-e-raashideen ki yaad ko taazah kardiya wahaan se shaikh Muhammed bin Abdul Wahhab ne khaalisi islam ki da'wat ka aaghaaz kiya jis ke nateeje mein wahaan Najdi hukoomat qaayim hoyi. iss hukoomat saoudiya najdiyah ne islaam ki sarbulandi aur harmain shareefain ke liye aise kaarhaa-e-numayaan anjaam diye hain jo aalam-e-islam mein hamesha yaad rahenge.

Baab 11: Allah ke elaawah koyi nahin jaanta ke baarish kab hogi

560 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke ghaib ki chaabiyen paanch hain jinhein Allah ke elaawah koyi nahin jaanta ek yeh ke koyi nahin jaanta kal kiya hoga? koyi nahin jaanta ke shikme maadar mein kiya hai? koyi nahin jaanta ke woh kal kiya karega? koyi nahin jaanta ke woh kahaan marega? aur (paanchwin yeh) ke koyi nahin jaanta ke baarish kab barsegi?

(Bukhari: 1039)

١١ - بَابُ : لَا يَدْرِي مَتَى يَجِيءُ

الْمَطَرُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى

٥٦٠ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مِفْتَاحُ الْغَيْبِ

خَمْسٌ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ : لَا يَعْلَمُ أَحَدٌ

مَا يَكُونُ فِي عَمْدٍ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا

يَكُونُ فِي الْأَرْحَامِ، وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ

مَاذَا تَكْسِبُ عَدَا، وَمَا لَا تَدْرِي نَفْسٌ

بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وَمَا يَدْرِي أَحَدٌ

مَتَى يَجِيءُ الْمَطَرُ).

(رواه البخارى: ١٠٣٩)

Fawaaid: Imam Bukhari ne iss hadees se yeh saabit kiya hai ke baarish hone ka sahih ilm sirf Allah Ta'ala ko hai uske elaawah koyi nahin bata sakta ke fulaan din ya fulaan waqt yaqeeni taur par baarish ho jaayegi mohkama mosamiyaat bhi apne zan wa takhmeen se peshan goyi karta hai jo ghalat bhi ho jaati hai.



Girhan ke bayaan mein

Baab1: Sooraj girhan ke waqt namaaz ka bayaan

561: Hazrat Abu Bakrah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke paas baithhe huye the ke aaftaab girhan huwa Aap apni chaadar ghaseette huye utthe aur Masjid mein daakhil huye hum bhi Masjid mein aaye to Aap ne humen do raka'at padhaayin yahaan tak ke aaftaab raushan ho gaya phir Aap ne farmaya ke sooraj aur chaand kisi ke marne se girhan nahin hote jab tum girhan dekho to namaaz padho aur du'a karo yahaan tak ke taariki jaati rahe inhi se ek aur rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke Allah Ta'ala (sooraj aur chaand) donon ko girhan karke apne bandon ko daraata aur khauf dilaata hai hadees girhan muta'addid baar rivaayat ki gayi hai chunaankeh Hazrat Mughirah Bin Sho'bah رضي الله عنه se ek rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke ahad-e- hayaat mein sooraj girhan uss din huwa jis roz Aap ke lakhte jigar Hazrat Ibraheem عليه السلام ki wafaat huyi thi logon ne khayaal kiya ke Hazrat Ibraheem عليه السلام ki wafaat ki wajah se sooraj girhan huwa hai uss par Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke chaand aur sooraj kisi ke marne aur paida hone se girhan nahin hote jab tum girhan dekho to namaaz padho aur Allah se du'a karo. (Bukhari: 1040,1043,1048)

Fawaaid: Yeh sooraj aur chaand iss kurrah-e-arz se kayi guna bade hain girahn ke zariye' itne bade ajraam-e-falki mein tasarruf se maqsood yeh hai ke ghalat she'ar logon ko qiyaamat ka manzar dekha kar bedaar kiya jaaye neez Allah ki qudrat kamilah ka izhaar bhi hai ke maalik-e-haqeeqi agar be gunah makhloq ko be noor kar sakta hai to saraapa khata kaar insaan par bhi girift ki jaa sakti hai. (Awnul Baari:2/132)

كِتَابُ الْكُسُوفِ

اَبَابُ: الصَّلَاةُ فِي كُسُوفِ

الشَّمْسِ

٥٦١: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَجْرُرُ دَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَدَخَلْنَا، فَصَلَّى بِنَارِ كُعْتَيْنِ حَتَّى أَنْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا وَادْعُوا، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بَيْنَكُمُ). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: (وَلَكِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ). وَتَكَرَّرَ حَدِيثُ الْكُسُوفِ كَثِيرًا فِي رِوَايَةِ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ). (رواه البخاري: ١٠٢٨، ١٠٢٣، ١٠٢٠)

Baab 2: Girhan ke waqt sadqa karna

562 : Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا سے ek rivaayat mein hai unhon ne farmaya ke ek martabah Rasoolullah ﷺ ke zamaana mein sooraj girhan huwa to Aap ne logon ko namaaz padhaayi aur uss mein bahut lambi qiyaam farmaya phir ruku' kiya to woh bhi bahut taweel kiya ruku' ke ba'd qiyaam farmaya to bahut taweel qiyaam kiya magar pahle qiyaam se kuchh mukhtasar tha phir Aap ne taweel ruku' farmaya jo pahle ruku' se kam tha phir sajdah bhi bahut taweel kiya aur doosri rak'at mein bhi aisa hi kiya jaisa ke pahli rak'at mein kiya tha phir jab namaaz se faarigh huye to aaftaab saaf ho chuka tha uske ba'd Aap ne logon ko khutba sunaaya aur Allah ki hamd-o-sana ke ba'd farmaya yeh chaand aur sooraj Allah ki nishaaniyon mein se do nishaaniyaan hain yeh donon kisi ke marne jeene se girhan nahin hote jis waqt tum aisa dekho to Allah se du'a karo, takbeer kaho, namaaz padho aur sadqah khairaat karo phir Aap ne farmaya aye ummate Muhammad ﷺ Allah se ziyaadah koyi ghairat mand nahin hai ke uska ghulaam ya uski laundi bad kaari kare aye ummate Muhammad ﷺ! Allah ki qasam agar tum uss baat ko jaan lo jo main jaanta hoon to tumhein bahut kam hansii aaye aur bahut ziyaadah rona aaye. (Bukhari: 1044)

۲- بَابُ: الصَّدَقَةِ فِي الْكُسُوفِ

۵۶۲: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَمَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى. ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ، وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا). ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أُمَّتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا.

(رواه البخارى: ۱۰۴۴)

Fawaaid: Salaat-e-kusooof ki yeh khusoosiyat hai ke iski har do rakat mein do,do ruku' aur do,do qiyaam hain agarcheh ba'z rivaayaat mein teen,teen ruku' ba'z mein chaar, chaar aur paanch paanch ruku' har raka't mein waarid huye hain magar har raka't mein, do,do ruku' ki rivaayaat tamaam deegar rivayaat se se ziyaadah sahih hain. (Awnul Baari:2/141) Tarjeeh ki zaroorat nahin kyun ke yeh namaaz kayi martabah padhi gayin, zuroof wa haalaat ke mutaabiq jo tareeqa munaasib huwa use ikhtiyaar kiya jaa sakta hai. (Alvi) lekin Imam Shaafay'i, Imam Ahmed aur Imam Bukhari رحمهم الله ka rujhaan tarjeeh ki taraf hai. (Fatahul Bari:2/532)

Baab 3: Girhan mein Assalatu jaami'ah ke zari'y e'laan karna

563 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke ahade mubaarak mein jab sooraj girhan huwa to yun e'laan kiya gaya "namaaz ke liye jama' ho jaao" (Bukhari: 1045)

Fawaaid:Girhan ki namaaz ke liye agar cheh azaan nahin di jaati taa hum iske muta'alliq umoomi e'laan karaane main koyi harj nahin hai taake yeh namaaz khaas ehtemaam ke saath ba jamaa'at adaa ki jaaye. (Awnul Baari:2/143)

Baab 4: Bawaqte girhan azaabe qabr se panaah maangna

564 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke ek yahoodi aurat unse kuchh maangne aayi dauraane guftagu usne Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se kaha ke Allah tumhein azaabe qabr se bachaaye Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne Rasoolullah ﷺ se poochha kiya logon ko qabron mein azaab hoga? to Rasoolullah ﷺ ne azaabe qabr se panaah maangte huye farmaya haan phir Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne hadeese girhan ka zikr kiya jiske aakhir mein hai ke phir Aap ne logon ko hukm diya ke woh azaabe qabr se panaah maangen.(Bukhari: 1049)

Fawaaid:Girhan ke waqt azaab-e-qabr se iss munaasibat ki bena par daraaya jaata hai ke jaise girhan ke waqt dunya mein andhera ho jaata hai aise hi gunah gaar ki qabr mein azaab ke waqt andhera chha jaayega yeh bhi maloom huwa ke azaab-e- qabr barhaq hai aur iss par eemaan laana zaroori hai.(Awnul Baari:2/144)

Baab 5: Girhan ki namaaz ba jamaa'at adaa karna

565 :Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unhon ne sooraj girhan ka taweel waaqe'ah zikr karne ke ba'd kaha ke logon ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ ! hum ne Aap ko dekha ke Aap ne apni jagah khade khade koyi cheez haath mein li phir hum ne Aap ko peechhe hat,te huye dekha uss par Aap ne

سَبَابُ: النَّدَاءِ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً فِي

الْكُسُوفِ

٥٦٣: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ. نُودِيَ: بِالصَّلَاةِ جَامِعَةً. (رواه البخارى: ١٠٣٥)

٤-بَابُ: التَّعَوُّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي

الْكُسُوفِ

٥٦٣: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ يَهُودِيَّةً جَاءَتْ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ لَهَا: أَعَاذُكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، فَسَأَلَتْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَيْعَذِبُ النَّاسُ فِي قُبُورِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عَائِدًا بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثَ الْكُسُوفِ، ثُمَّ قَالَتْ فِي آخِرِهِ: ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

(رواه البخارى: ١٠٣٩)

٥-بَابُ: صَلَاةِ الْكُسُوفِ جَمَاعَةً

٥٦٥: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ذَكَرَ حَدِيثَ الْكُسُوفِ بِطَوِيلِهِ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتَاكَ تَنَاولْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ، ثُمَّ رَأَيْتَاكَ كَعَكَمْتَ؟ قَالَ ﷺ: (إِنِّي

farmaya ke main ne jannat dekhi thi aur ek khosha angoor ki taraf haath badhaaya tha agar main woh le aata to tum rahti dunya tak use khaate rahte uske ba'd mujhe jahannam dekhaayi gayi main ne aaj tak usse ziyaadah khauf naak manzar nahin dekha ahle dozakh mein ziyaadah tar auraton ki ta'daad dekhi logon ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ iski wajah kiya hai? Aap ne farmaya ke iski wajah unki na shukri hai arz kiya gaya aaya woh Allah ki na shukr guzaar hain? farmaya nahin balke woh apne khawind ki na shukri karti hain aur ehsaan nahin maantain agar tum kisi aurat ke saath tamaam umr ehsaan karo aur phir ittefaaqan tumhaari taraf se koyi nagawaar baat dekhe to fauran kah degi ke main tujh se kabhi koyi bhalaayi dekhi hi nahin. (Bukhari: 1052)

Fawaaid:Ma'loom huw ke girhan ke waqt namaaz ba jama'at ka ehtemaam karna chaahiye aur agar muqarrar imam maujood na ho to koyi bhi saahib-e-ilm iss fareezah ko adaa kar sakta hai. (Awnul Baari:2/148)

Baab 6: Jisne ghirhan ke waqt ghulaam aazaad karna behtareen amal samjha

566 : Hazrat Asma Binte Radhwanallaheunha رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne sooraj girhan ke waqt ghulaam aazaad karne ka hukm farmaya tha.(Bukhari: 1054)

Fawaaid:Jis insaan mein ghulaam aazaad karne ki himmat na ho use chaahiye ke uss aam hadees par amal kare jis mein hai ke aag se bacho agar cheh khujoor ka ek tukda hi sadqah karna pade baharhaal uss waqt sadqah wa khairaat karna ek pasandeedah amal hai. (Awnul Baari:2/149)

Baab 7: Sooraj girhan ke waqt zikr-e-elaahi karna

567 :Hazrat Abu Moosa رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek daf'a aaftaab girhan huwa to Rasoolullah ﷺ khauf zadah hokar khade ho gaye Aap ghabraaye ke kahin qiyaamat na ho phir Masjid mein tashreef laaye aur itne taweel qiyaam, ruku' aur

رَأَيْتُ الْجَنَّةَ، فَتَنَاوَلْتُ عُقُودًا، وَلَوْ أَصْبَتْهُ لَأَكَلْتُمُ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ، فَلَمْ أَرْ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ أَفْطَعُ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءِ).
قَالُوا: بِمِ يَارَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (بِكُفْرِهِنَّ). قِيلَ: يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: (يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ كُلَّهُ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ).

(رواه البخارى ١٠٥٢)

٢-بَابُ: مَنْ أَحَبَّ الْعَتَاقَةَ فِي كُسُوفِ

الشَّمْسِ

٥٦٦: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ. (رواه البخارى: ١٠٥٣)

٤-بَابُ: الذِّكْرِ فِي الْكُسُوفِ

٥٦٧: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَرِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَاتَى الْمَسْجِدَ، فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَأَيْتُهُ

sujood ke saath Aap ne namaaz padhaayi ke itni taweel namaaz padhaate main ne Aap ko kabhi nahin dekha tha phir Aap ne farmaya ke yeh nishaaniyan hain jo Allah Ta'ala apne bandon ko daraane ke liye bhejta hai neez yeh kisi ke marne jeene ki wajah se zuhoor pazeer nahin hotin lehaaza jab tum aisa dekho to zikr-e- elaahi ki taraf tawajjoh karo neez du'a aur ishtaghfaar bhi khoob karo.(Buhkhari: 1059)

Fawaaid: Qiyaamat aane ki tamseel raavi ki taraf se hai goya Rasoolullah ﷺ aise khaufzadah hote jaise koyi qiyaamat ke aa jane se darta hai warna aap jaante the ke meri maujoodgi mein qiyaamat nahin aayegi bahar haal aise haalaat mein istaghfaar karna chaahiye kyun ke dafa-e-bala ke liye yeh nuskh-e-kimiya hai.(Awnul Baari: 2/151)

Baab 8: Namaaze kusoof mein ba aawaaze buland qera'at karna

568 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne namaaze kusoof mein ba aawaaz buland qera'at farmaayi aur jab qera'at se faarigh huye to Allahu Akbar kah kar ruku' farmaya aur jab ruku' se sar uthhaaya to kaha. (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) phir dobarah qera'at shuru' ki Aap ne namaaz-e- kusoof mein hi aisa kiya algharz uss namaaz ki do rek'at mein chaar ruku' aur chaar sajde farmaaye. (Buhkhari: 1065)

Fawaaid: Ba'z ne yeh mauqif ikhtiyaar kiya hai ke jahri qera'at mein chaand girhan ke waqt thi haalaanke ek rivaayat mein hai ke jahri qera'at ka ehtemaam sooraj girhan ke waqt huwa tha bahar haal girhan ke waqt ba aawaaz buland qera'at karni chaahiye.(Awnul Baari:2/151)

قَطُّ يَفْعَلُهُ، وَقَالَ: (هَذِهِ الْآيَاتُ الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ، لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ).

رواه البخارى: ١٠٥٩

٨- بَابُ: الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي

الْكُسُوفِ

٥٢٨: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَهَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتِهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَائَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ: (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ). ثُمَّ يُعَاوِذُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي رَكَعَتَيْنِ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

(رواه البخارى: ١٠٦٥)



Sajda-e-Telaawat aur Uska Tareeqa

Baab 1: Sujood-e-Qur'an aur unke tareeqe ke muta'alliq jo waarid hai.

569. Hazrat Abdullah bin Masood رضي الله عنه se rivaayat hai hunon ne farmay ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne Makkah Mukarramah mein surah An-najm telaawat ki to sajdah farmaya aap ke saath jo log the un sab ne sajdah kiya, elaawah ek umr raseedah shakhs ke ke usne ek mutthhi bhar kankariyaan ya mitti lekar apni peshani tak uthhayi aur kahne laga mujhe yahi kaafi hai uske ba'd main ne use dekha ke woh ba haalat-e-kufr qatl huwa.

(Bukhari:1067)

Fawaaid: Sajdah telaawat aksar aimmah ke nazdeek sunnat hai qur'an kareem mein mukhtalif maqamaat par 15 sajdah telaawat hain aur sajdah telaawat mein yeh dua' padhni chaahiye. ((سَجْدَةٌ وَجْهِي لِذِي خَلْقِهِ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِخَوْلِهِ وَقَوْمِهِ)) Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne jab surah najm ki telaawat farmaayi to mushrikeen iss qadar maroo'b huye ke musalmaanon ke saath woh bhi sajdah mein gir gaye. (Wallahu A'lam)

Baab 2: Surah "Sa'd" ka sajdah

570: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke surah "Sa'd" ka sajdah zaroori nahin hai albatta main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko uss mein sajdah karte dekha hai. (Bukhari:1069)

Fawaaid: Nasayi mein hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne sajdah mein Sa'd ke muta'alliq farmaya Hazrat Dawood عليه السلام ka yeh sajdah taubah ke liye tha aur unki pairwi mein hum bataur shukr sajdah karte hain. (Awnul Baari:2/157)

Baab 3: Musalmaanon ka Mushrikeen ke saath sajdah karna halaan ke Mushrik paleed aur be wazoo hota hai.

571: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se hi rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne surah najm mein sajdah farmaya jo abhi abhi ba rivaayat Abdullah bin Masood رضي الله عنه (569) guzar chuki hai iss rivaayat mein itna ezaafah hai ke aap ke saath uss waqt Musalmaanon, Mushrikon, Jinon aur Insaanon ne sajdah

کتاب سُجُودِ الْقُرْآنِ

۱- بَابُ: مَا جَاءَ فِي سُجُودِ

الْقُرْآنِ وَ سُنَّتِهَا

۵۶۹: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم النَّجْمَ بِمَكَّةَ، فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مِنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ، أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى، أَوْ تُرَابٍ، فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ، وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا، فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَاتِلَ كَافِرًا. (رواه البخاری: ۱۰۶۷)

۲- بَابُ: سَجْدَةُ (ص)

۵۷۰: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ((ص)) لَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ، وَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْجُدُ فِيهَا. (رواه البخاری: ۱۰۶۹)

۳- بَابُ: سُجُودِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكُ نَجَسٌ لَيْسَ لَهُ وُضُوءٌ

۵۷۱: وَوَحِيدُهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سَجَدَ بِالنَّجْمِ، تَقَدَّمَ قَرِيبًا مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَزَادَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ.

kiya.

(Bukhari:1071)

(رواه البخاری: ۱۰۷۱)

Fawaaid: Imam Bukhari ka mauqif yeh hai ke kisi mushaqqat ke pesh-e-nazar sajdah-e-telaawat wazoo ke baghair kiya jaa sakta hai. (Awnul Baari:1/554) lekin Imam Saahab ka istedlaal mahall-e-nazar hai. (Wallahu A'lam)

Baab 4: Jis ne Aayat-e-Sajdah padhi magar sajdah na kiya.

572: Hazrat Zaid Bin Saabit رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke saamne surah najam telaawat ki to Aan Hazrat ne us mein sajdah nahin farmaya: (Bukhari:1073)

۴-بَابُ: مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ وَلَمْ يَسْجُدْ
۵۷۲: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: إِنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم:
﴿وَالنَّجْمِ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا.

(رواه البخاری: ۱۰۷۳)

Fawaaid: Sajdah na karne ki kayi ek wajoohaat mumkin hain raajeh ehtemaal yeh hai ke bayaan jawaaz ke liye aisa kiya gaya hai ya'ni iska tark bhi jaayiz hai. (Awnul Baari:2/559)

Baab 5: Surah ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ ka sajdah

573: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne surah ﴿إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ﴾ padhi to uss mein sajdah kiya uske muta'alliq un se daryaafat kiya gaya to kahne lage ke agar main Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko (iss mein) Sajdah karte na dekhta to main bhi sajdah na karta.

(Bukhari:1074)

۵- بَابُ: سَجْدَةُ ﴿إِذَا السَّمَاءُ
انْشَقَّتْ﴾
۵۷۳: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّهُ قَرَأَ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾
فَسَجَدَ بِهَا؛ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ: قَالَ:
لَوْ لَمْ أَرِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم سَجَدَ لَمْ أُسْجُدْ.
(رواه البخاری: ۱۰۷۴)

Fawaaid: B'az log namaaz mein aayat-e-sajdah ki tilaawat makrooh khayaal karte the hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه par e'teraaz ki yahi wajah thi hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه ke jawaab se iss e'teraaz ki kali khul gayi. (Awnul Baari:2/160)

Baab 6: Jo Shakhs ba wajah hujoom sajdah-e-telaawat ke liye jagah na paaye.

574: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم hamaare saamne sajdah waali soorat telaawat farmaate to aap sajdah karte aur hum bhi sajdah karte yahaan tak ke hum mein se kisi ko apni peshaani rakhne ke liye jagah na milti thi. (Bukhari:1079)

۶- بَابُ: مَنْ لَمْ يَجِدْ مَوْضِعًا لِلْسُّجُودِ
مِنَ الزَّرْحَامِ
۵۷۴: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَقْرَأُ عَلَيْنَا
السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ، فَيَسْجُدُ وَ
نَسْجُدُ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا
لِمَوْضِعِ جَبْهَتِهِ. (رواه البخاری: ۱۰۷۹)

Fawaaid: Iska matlab yeh hai ke sajdah telaawat ki adaayegi fauran zaroori nahin ise ba'd mein kiya jaa sakta hai agar haalaat aise hon ke sajdah ke liye gunjaayish na ho to use muakhhhar kiya jaa sakta hai.

Namaaz-e-Qasr ke Bayaan mein

کتابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ

Baab 1: Namaaz-e-Qasr aur Musaafir kitni iqamat par qasr kar sakta hai.

575: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ safar (Fath-e-Makkah) mein 19 din thhahre aur iss arsa mein qasr karte rahe.

(Bukhari:1080)

ابَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّقْصِيرِ وَكَمْ

يُقِيمُ حَتَّى يَقْصُرَ

٥٧٥: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: أَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ تِسْعَةَ

عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ. فَنَحْنُ إِذَا سَافَرْنَا تِسْعَةَ

عَشَرَ يَوْمًا، وَإِنْ زِدْنَا أَتَمْنَا.

(رواه البخاري: ١٠٨٠)

Fawaaid: Hijrat ke chauthi saal qasr ki ijaazat naazil huyi, maghrib aur fajr ki farz namaazon mein qasr nahin hai aur na hi uss safar mein qasr ki ijaazat hai jo gunah ki niyyat se kiya jaaye itteba'-e-sunnat ka taqaazah yahi hai ke dauraan-e-safar namaaz-e-qasr padhi jaaye agar cheh itmaam jaayiz hai taa hum afzal qasr hai, hadees mein jis safar ka zikr hai woh fath-e-Makkah ka hai chunke yeh hangaami ayyaam the aur fursat ke lamhaat muyassar aane ka ilm na tha isliye in ayyaam mein qasr karte rahe. yaqeeni iqamat par chaar din tak ke liye qasr ki ijaazat hai bashar teke masaafat bhi kam az kam 9 meel ho.

576: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke hum Rasoolullah ﷺ ke hamraah Madinah se Makkah tak gaye aap iss dauraan do do raka'at phadte rahe yahaan tak ke hum log Madinah laut aaye aap se daryaaft kiya gaya ke aap ne Makkah mein kitne din qiyaam kiya? aap ne farmaya ke hum wahaan 10 din thhahre the. (Bukhari:1081)

٥٧٦: عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى

مَكَّةَ، فَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ،

حَتَّى رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ. قُلْتُ أَقَمْتُمْ

بِمَكَّةَ شَيْئًا؟ قَالَ: أَقَمْنَا بِهَا عَشْرًا.

(رواه البخاري: ١٠٨١)

Fawaaid: Iss hadees mein jiss safar ka bayaan hai woh hajjatul wida' ka hai Aap 8 Zilhijjah tak makkah mein thhahre aur qasr karte rahe phir 8 Zilhijjah ko Mina rawaana huye Zohar ki namaaz aap ne Mina mein ada ki maloom huwa ke muddat-e-iqamat chaar din tak namaaz ko qasr kiya jaa sakta hai. (Awnul Baari:2/ 164) aap Makkah mein chaar Zilhijjah ko pahunche the.

Baab 2: Maqaam-e-Mina mein Namaaz-e-(Qasr)

577: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ Abu Bakr Siddeeq رضي الله عنه aur Hazrat Umar رضي الله عنه ke saath Mina mein do do raka'at padhin aur hazrat Usmaan ke saath bhi shuru khilaafat mein do hi raka'at padhi iske unhon ne poori namaaz padhna shuru kardi. (Bukhari:1082)

٢-ابَابُ: الصَّلَاةُ بِمِنَى

٥٧٧: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِمِنَى

رَكْعَتَيْنِ، وَأَبَى بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَمَعَ

عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا.

(رواه البخاري: ١٠٨٢)

Fawaaid: Ayyaam-e-Hajj mein Mina, Arfaat, Muzdalfah mein namaaz-e-qasr hi padhi jaaye safar-e-hajj ki benaa par yeh reaa'yat har haaji ke liye hai. Hazrat Usmaan رضي الله عنه ne ek khaas u'zr ki benaa par namaaz poori padhna shuru kardi thi agarcheh hazrat Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه ne iss par apni naa gawaari ka izhaar kar diya tha jis ka zikr agli rivaayat mein hai.

578: Hazrat Haarisah bin Wahab رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne bahaalat-e-Amn Mina mein do raka'at namaaz (Qasr) padhaayi.

(Bukhari:1083)

٥٧٨: عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آمَنَ مَا كَانَ، بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ.

(رواه البخارى: ١٠٨٣)

Fawaaid: Agarcheh qur'an mein safar mein qasr karne ko hangaami haalat se mashroot kiya gaya hai taa hum iss hadees se saabit hota hai ke dauraan-e-safar ba haalat-e-amn bhi qasr ki jaa sakti hai. (Awnul Baari:2/167)

579: Hazrat Ibne Mas'ood رضي الله عنه se rivaayat hai unhein bataaya gaya ke Hazrat Usmaan رضي الله عنه ne Mina mein chaar rak'atein padhaayi hain to unhon ne **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** padha aur farmaya main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saath Mina mein do rak'atein padhin aur Abu Bakr رضي الله عنه aur Hazrat Umar رضي الله عنه ke saath Mina mein do,do rak'atein padhin kaash ke chaar raka'at ke bajaaye mere hissa mein wahi do maqbool rak'aten aayin. (Bukhari:1084)

٥٧٩: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، لَمَّا قِيلَ لَهُ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانَ ابْنِ عَفَّانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَاسْتَرْجَعَ، ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمِنَى رَكْعَتَيْنِ، فَلَيَّتْ حَظِي مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

(رواه البخارى: ١٠٨٣)

Fawaaid: Rivaayat se yeh bhi saabit nahin hota ke hazrat Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه ke nazdeek dauraan-e-safar qasr karna waajib hai kyun ke agar aisa hota to sirf **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** padhne par iktefa na karte deegar rivaayaat ke pesh-e-nazar un se daryaافت kiya gaya ke aap ne chaar raka'at kyun padhi hain? to jawaab diya ke aise moqa' par ikhtelaaf karna shar ka pesh kheema hai agar dauraan-e-safar itmaam-e-bida't hota to bid'at se ikhtelaaf karna to baai's-e-barkat hai. (Awnul Baari:2/168)

Baab 3: Ketni Masaafat par namaaz ko Qasr kiya jaaye

580: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya jo aurat Allah par eemaan aur roz-e-Qiyaamat par yaqeen rakhti hai use rawaa nahin ke ek din raat ke masaafat iss haal mein tai kare ke uske saath koyi mohrim na ho. (Bukhari:1088)

سَبَابُ: فِي كَمْ تَقْضَى الصَّلَاةُ؟

٥٨٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، أَنْ تَسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ). (رواه البخارى: ١٠٨٨)

Fawaaid:Iss se Imam Bukhari ne yeh saabit kiya hai ke qasr ke liye masaafat ka kam az kam itna hona zaroori hai jo ek din aur raat mein tai ho sake iss masalaah mein taqreeban 20 aqwaal hain raajeh qaul yeh hai ke har safar mein qasr ki jaa sakti hai jise urf-e-aam mein safar kaha jaata hai hadees mein iski tahdeed teen farsang se ki gayi hai jo 9 meel ke baraabar hai. (Wallahu A'lam)

Baab 4: Namaaz-e-Maghrib Duraan-e-Safar bhi teen rak'at padhe.

581: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke main ne Rasoolullah ﷺ ko dekha ke jab aap ko safar ki ujlat hoti to namaaz-e-maghrib muakhkhar karke teen raka't padhte the phir salaam pher kar kuchh der waqfa karte uske ba'd Isha ki namaaz ke liye uthhte aur iski do raka'aten padh kar salaam pherdete the aur Isha ke ba'd nafil namaaz na padhte phir nisf shab ko uthhte aur namaaz-e-tahajjud ada farmate. (Bukhari:1092)

۴- بَابُ: يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا فِي

السَّفَرِ

۵۸۱: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ يُقِيمُ الْمَغْرِبَ فَيُصَلِّيهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ قَلَّمَا يَلْتُمُ حَتَّى يُقِيمَ الْعِشَاءَ، فَيُصَلِّيهَا رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ، وَلَا يُسَبِّحُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ.

(رواه البخارى: ۱۰۹۲)

Fawaaid:Matlab yeh hai ke namaaz-e-maghrib ko duraan-e-safar qasr ki bajaaye poora ada kiya jaaye iss par ulmaa ka ijma' hai. (Awnul Baari:2/171)

582: Hazrat Jaabir bin Adbullah رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ sawaari ki haalat mein baghair qiblah ru huye namaaz-e-nafil padh lete the. (Bukhari:1094)

۵۸۲: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ. (رواه البخارى: ۱۰۹۴)

Fawaaid:Iss hadees par Imam Bukhari ne yoon unwaan qaayem kiya hai "Nafil namaaz sawaari par adaa karna" agar cheh jaanwar ka rukh ghair qiblah ki taraf ho, Imam Saahab ki kitabul Maghaazi mein tasreeh ke mutaabiq yeh waaqea'h ghazwah anmaar ka hai Madinah se udhar jaane ke liye qiblah baayen jaanib rahta hai. (Awnul Baari:2/172)

Baab 5: Gadhe (گدھے) par (sawaar hokar) namaaz-e-nafil padhna

583: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne gadhe par sawaari ki haalat mein namaaz padhi jabke unka rukh qiblah ki baayen jaanib tha jab un se daryaافت kiya gaya aap khilaaf-e-qiblah nmamaaz padhte hain to unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko aisa karte na dekha hota to kabhi aisa na karta. (Bukhari:1100)

۵- بَابُ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ عَلَى

الْحِمَارِ

۵۸۳: عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى حِمَارٍ وَوَجْهُهُ عَنْ يَسَارِ الْقِبْلَةِ، فَقِيلَ لَهُ: تُصَلِّي لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ فَقَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُهُ لَمْ أَفْعَلُهُ. (رواه البخارى: ۱۱۰۰)

Fawaaid:Nafil Namaaz ke liye bhi zaroori hai ke shuru karte waqt munh qiblah rukh ho ba'd mein woh sawaari jidhar bhi rukh kare nafil namaaz padhna jaayiz hai.

Baab 6: Jo Dauraan-e-Safar namaaz ke ba'd nafil namaaz nahin padhna

584:Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main Rasoolullah ﷺ ka hum safar raha hoon main ne kabhi aap ko dauraan-e- safar nafil namaaz padhte nahin dekha aur Allah Ta'ala ka irshaad-e- giraami hai "Yaqeenan tumhaare liye Rasoolullah ﷺ behtareen namoona hai. (Bukhari:1101)

Fawaaid:Maloom huwa ke dauraan-e-safar namaaz-e-Zohar aur Asr waghairah mein do rakat hi kaafi hain sunnat na padhna bhi usway-e-nabawi hai.(Awnul Baari:2/173)

Baab 7:Jo Safar mein namaaz se pahle ya ba'd ki sunnaton ke elaawah deegar nawaafil padhta hai.

585:Hazrat Aamir bin Rabi'ah se rivaayat hai unhon ne dekha ke Rasoolullah ﷺ raat ko apni sawaari par nafil padhte the sawaari jidhar chaahti aap ko le jaati. (Bukhari:1104)

Fawaaid:Imam Bukhari ka matlab yeh hai ke Rasoolullah ﷺ ne farz namaazon se pahle aur ba'd ki sunan raatibah nahin padhi haan deegar qism ke nawaafil ishraq waghairah padhna manqool hai isi tarah namaaz-e-fajr ki do sunnaten aur witr padhna bhi saabit hai. (Awnul Baari:2/174)

Baab 8:Dauraan-e-Safar Maghrib wa Isha ko mila kar padhna

586:Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ dauraan-e-Safar Zohar wa Asr ko aur namaaz-e- Maghrib wa Isha ko mila kar padh lete the. (Bukhari:1107)

Fawaaid:Zohar ke waqt Asar aur maghrib ke waqt Isha ko padh lene ko jama taqdeem aur Asr ke waqt Zohar Isha ke waqt Maghrib padh lene ko jama taakheer kahte hain safar main jaisa bhi moqa mahal ho do namaazon ko jama kiya jaa sakta hai. (Wallahu A'lam)

٦-بَاب: مَنْ لَمْ يَتَطَوَّعْ فِي السَّفَرِ دُبِّرِ الصَّلَاةَ

٥٨٣: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمْ أَرَهُ يُسَبِّحُ فِي السَّفَرِ وَقَالَ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾. (رواه البخارى: ١١٠١)

٧-بَاب: مَنْ تَطَوَّعَ فِي السَّفَرِ فِي غَيْرِ دُبْرِ الصَّلَاةِ وَقَبْلَهَا

٥٨٥: عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى السُّبْحَةَ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ، عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ. (رواه البخارى: ١١٠٣)

٨-بَاب: الْجَمْعُ فِي السَّفَرِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

٥٨٦: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ سَيْرٍ، وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. (رواه البخارى: ١١٠٤)

Baab 9: Jo Shakhs baithh kar namaaz padhne ki taaqat na rakhta ho woh pahloo ke bal let kar namaaz padhe

587: Hazrat Imraan bin Hussain رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne bataaya ke mujhe bawaaseer thi to main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se aisi haalat mein namaaz padhne ke muta'alliq daryaaft kiya aap ne farmaya ke khade ho kar namaaz padho agar aisa na ho sake to baithh kar agar yeh bhi na ho sake to pahloo ke bal let kar namaaz ada karo.

(Bukhari: 1117)

۹-بَابُ: إِذَا لَمْ يُطِيقْ قَاعِدًا صَلَّى عَلَيَّ

جَنْبٍ

۵۸۷: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ).

(رواه البخارى: ۱۱۱۷)

Fawaaid: Baithh kar aur let kar namaaz padhne se sawaab mein zaroor farq aa jaata hai kyun ke hadees ke mutaabiq baithh kar namaaz padhne waale ko khade ho kar namaaz padhne waale se aadha sawaab milta hai aur let kar namaaz padhne waale ko baithh kar namaaz padhne waale se nisf sawaab milta hai. Note: yeh uss waqt hai jab insaan bila u'zr aur bila wajah baithh kar namaaz padhe aur farz namaaz bila u'zr baithh kar padhna jaayiz nahin. (Alvi)

Baab 10: Jab koyi baithh kar namaaz shuru kare phir dauraan-e-namaaz achchha ho jaaye ya use takhfeef maloom ho to baaqi namaaz (khade ho kar) poori kare

588: Ummul Mo'mineen Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai ke unhon ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko namaaz-e-tahajjud kabhi baithh kar padhte nahin dekha lekin jab aap umr raseedah ho gaye to aap baithh kar qera'at farmate phir jab ruku karna chaahte to khade ho kar taqreeban 30 se 40 aayaat padh kar ruku farmate. (Bukhari:1118)

۱۰-بَابُ: إِذَا صَلَّى قَاعِدًا ثُمَّ صَحَّ أَوْ

وَجَدَ خِفَةَ تَمَمَّ مَا بَقِيَ

۵۸۸: عَنْ عَائِشَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا لَمْ تَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَاعِدًا قَطُّ حَتَّى أَسَنَّ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَاعِدًا، حَتَّى إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ فَقَرَأَ نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ.

(رواه البخارى: ۱۱۱۸)

Fawaaid: Iss se aur agli hadees se yeh saabit huwa ke baithh kar namaaz shuru karne se yeh laazim nahin aata ke saari namaaz baithh kar padhe kyun ke jaisa baithh kar shuru karne ke ba'd khada hona durust isi tarah khade ho kar shuru karne ke ba'd baithh jaana bhi jaayiz hai donon mein koyi farq nahin hai. (Awnul Baari:2/179)

589: Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se hi ek rivaayat mein ezaafah bhi waarid hai ke aap doosri rakat mein bhi aisa hi karte aur jab namaaz se faarigh ho jaate aur mujhe bedaar dekhte to mere saath mah-weguftagu hote aur agar main neend mein hoti to aap bhi let jaate. (Bukhari:1119)

۵۸۹: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي

رَوَايَةٍ: ثُمَّ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِذَا قَضَى صَلَاتِهِ نَظَرَ: فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِيَ، وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ. (رواه البخارى: ۱۱۱۹)

Tahajjud ke bayaan mein

Baab 1: Raat ke waqt namaaze tahajjud padhna

590 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ raat ko tahajjud padhne ke liye uthhte to yeh du'a padhte. aye Allah! tu hi ta'reef ke laayeq hai tu hi aasmaan wa zameen aur jo in mein hai unhen sambhaalne waala hai tere hi liye ta'reef hai, tere hi liye zameen wa aasmaan aur jo kuchh in mein hai unki sarbaraahi hai tere hi liye ta'reef hai tu hi assmaan wa zameen aur jo ashiya in mein hain in sab ka noor hai tu hi har tarah ki ta'reef ka saza waar hai tu hi aasmaan wa zameen aur jo in mein hai sab ka baadshaah hai tere hi liye ta'reef laayeq hai tu sachcha hai aur tera wa'da bhi sachcha hai teri mulaaqaat yaqeeni aur teri baat barhaq hai jannat wa dozakh barhaq hai aur tamaam ambiyaa bhi barhaq aur Muhammad ﷺ khusoosan sachche hain aur qiyaamat barhaq hai aye Allah main tera farma bardaar aur tujh par hi bharosa rakhta hoon aur teri hi taraf ruju' karta hoon, teri hi madad se mukhaalifeen se jhaghadhta hoon aur tujh se hi faisla chaahta hoon, tu mere agle pichhle chhupe aur khule gunahon ko ma'af karde tu hi pahle tha aur tu hi aakhir mein hoga tere elaawah koyi bhi ma'bood barhaq nahin.

(Bukhari: 1120)

كِتَابُ التَّهَجُّدِ

١-بَابُ: التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ

٥٩٠: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ: (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قِيمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكَ الْحَمْدُ. أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَائِكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ ﷺ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أُنْبِتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَأَعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ. أَوْ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

(رواه البخارى: ١١٢٠)

Fawaaid: Faraayiz panjgaana ke ba'd namaaz-e-tahajjud badi ahmiyat ki haamil hai jo pichhli raat adaa ki jaati hai aur iski bilumoom giyarah raka'at hain jin mein 8 raka'at, '2' do salaam se adaa ki jaati hain aur aakhir mein 3 witr padhe jaate hain, yahi namaaz maah-e-ramzaan mein taraweeh se mausoom ki jaati hai hadees mein mazkoorah du'a ko tahajjud ke liye uthhte hi padh liya jaaye. (Wallahu Alam)

Baab 2: Namaaze shab ki fazeelat

591 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke

٢-بَابُ: فَضْلِ قِيَامِ اللَّيْلِ

٥٩١: عَنِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

zamaane hayaat mein jab koyi khaab dekhta to Rasoolullah ﷺ se bayaan karta tha mujhe bhi aarzoo huyi ke main koyi khaab dekhoon aur Rasoolullah ﷺ se bayaan karoon main abhi jawaan tha aur Rasoolullah ﷺ ke ahade mubaarak mein Masjid hi mein soya karta tha chunaancheh main ne khaab dekha ke jaise do farishton ne mujhe pakda aur dozakh ki jaanib le gaye kiya dekhta hoon woh kunwen ki tarah pech daar bani huyi hai uss par do charkhiyaan hain aur us mein kuchh aise log bhi hain jinhen main pahchaanta hoon main dozakh se Allah ki panaah maangne laga Hazrat Abdullah ﷺ kahte hain ke phir hamein ek farishta mila jisne mujh se kaha ke daro nahin main ne yeh khaab (apni bahan) Hafsa رضي الله عنها se bayaan kiya unhon ne Rasoolullah ﷺ se uska tazkirah kiya to Aap ne farmaya ke Abdullah achchha aadmi hai kaash woh tahajjud padha karta uske ba'd woh (Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما) raat ko bahut kam soya karte the. (Bukhari: 1121,1122)

قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَأَى رُؤْيَا قَصَّهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَمَنْبِتٌ أَنْ أَرَى رُؤْيَا، فَأَقْصَهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكُنْتُ غُلَامًا شَابًا، وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا أَنْاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، قَالَ: فَلَقِينَا مَلَكَ آخَرَ، فَقَالَ لِي: لَمْ تَرَ. فَقَصَّصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّصْتُهَا حَفْصَةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: (نَعَمْ الرَّجُلُ عَبْدُ اللَّهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ). فَكَانَ بَعْدَ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا.

(رواه البخارى: 1121، 1122)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke namaaz-e-tahajjud ki be had fazeelat hai aur iss par paabandi karna dozakh se najaat ka zariya' hai. (Awnul Baari:2/186)

Baab 3: Bimaar ke liye tahajjud chhod dene ka bayaan

592 : Hazrat Jundub Bin Abdullah ﷺ se rivaayat hai unhone farmaya ke Rasoolullah ﷺ bimaar ho gaye to ek ya do raat Aap tahajjud ke liye nahin uthhe. (Bukhari: 1124)

Fawaaid: Iss hadees ka tatimmah yeh hai ke jab aap ne bimaari ki wajah se chand din ka qiyaamullail mauqoof kardiya to Abu Lahab ki biwi Umme Jameel kahne lagi ke ab tujhe tere shaytaan ne chhod diya hai to uss waqt "سوره ضحى" naazil huyi. (Awnul Baari:2/187)

Baab 4: Rasoolullah ﷺ ka namaaz-e-Shab aur deegar nawaafil ke liye bila wajoob targheeb dena

593 : Hazrat Ali Bin Abi Taalib رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek raat Rasoolullah ﷺ unke aur apni Saahabzaadi Hazrat Faatimah رضي الله عنها ke paas

سَبَابُ: تَرَكَ الْقِيَامَ لِلْمَرِيضِ ٥٩٢: عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمْ يَقُمْ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ. (رواه البخارى: 1124)

٣-بَابُ: تَحْرِيطُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالنَّوَافِلِ مِنْ غَيْرِ إِجْبَابٍ ٥٩٣: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ طَرَقَهُ

tashreef laaye aur farmaya ke tum donon namaaze (tahajjud) kyun nahin padhte? main ne kaha ya Rasoolallah ﷺ hamaari to jaanein hi Allah ke haath mein hain jab woh hamen uthhayega to uthh jaayenge jab main ne yeh kaha to Aap waapas ho gaye aur mujhe koyi jawaab na diya phir main ne Aap ko pusht pher kar raan par haath maarte huye dekha aur yeh farmate suna ke "Insaan sab se ziyaadah jhaghdaalu hai" (Bukhari: 1127)

وَفَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَالَ: (أَلَا تَصَلِّيَانِ؟). فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْفُسَنَا، بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ أَنْ يُعْتَنَا بَعَثَنَا فَأَنْصَرَفَ حِينَ قُلْنَا ذَلِكَ وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُوَلٌّ، يَضْرِبُ فِخْذَهُ، وَهُوَ يَقُولُ: ((وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا)).

(رواه البخارى: 1127)

Fawaaid: Hazrat Ali ؑ ka uzr sun kar aap khamoosh ho gaye agar yeh namaaz farz hoti to hazrat Ali ka uzr qaabil-e-qubool na ho sakta tha albatta jaate huye izhar-e-ta'assuf zaroor kardiya kyun ke taqdeer ke bahaane ek fazeelat ke husool se raah-e-faraar ikhtiyaar karna durust na tha.

594 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ek kaam agarcheh woh Aap ko pasand hi hota iss khauf se tark kar dete the ke log uss par amal karenge to woh un par farz ho jaayega chunaancheh Rasoolullah ﷺ ne namaaze chaasht kabhi (iltazaaman) nahin padhi lekin main padhti hoon. (Bukhari: 1128)

٥٩٤: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُ الْعَمَلَ، وَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ، خَشْيَةً أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَمَا سَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَةَ الصُّحَى قَطُّ، وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا. (رواه البخارى: 1128)

Fawaaid: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ka bayaan unki maloomaat ke mutaabiq hai wa gar na Rasoolullah ﷺ ne fatah-e-makkah ke waqt namaaz-e-chaasht padhi thi aur hazrat Abu Zar aur hazrat Abu Hurairah رضي الله عنهما ko iske padhne ki talqeen bhi ki thi. (Awnul Baari:2/190)

Baab 5: Rasoolullah ﷺ ka qiyaam iss qadar hota ke Aap ke paaun mutwaram ho jaate

595 : Hazrat Mughirah Bin Sho'ba ؑ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ namaaz mein itna qiyaam farmate ke Aap ke donon paaun ya Aap ki donon pindliyon par warm aa jaata aur jab Aap se uske muta'alliq kaha jaata to farmate the ke kiya main Allah ka shukr guzaar banda na banoon? (Bukhari: 1130)

٥-بَابُ: قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ
٥٩٥: عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَقُومُ لِيُصَلِّيَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ، أَوْ سَاقَاهُ. فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: (أَفَلَا أَكْرُنُ عَبْدًا شَكُورًا؟). (رواه البخارى: 1130)

Fawaaid: Iss hadees se shukr ke taur par namaaz padhne ka suboot milta hai neez maloom huwa ke shukr zabaan ke elaawah amal se bhi adaa karna chaahiye kyun ke zabaan se e'teraaf karte huye khidmaat ki baja aawari ko shukr kaha jaata hai. (Awnul Baari:2/192)

Baab 6: Jo shakhs sehri ke waqt so raha

596: Hazrat Abdullah bin Amr bin A'as رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne un se farmaya Allah ko sab namaazon se Hazrat Dawood عليه السلام ki namaaz bahut pasand hai aur tamaam rozon mein ziyaadah pasandeedah rozah bhi Hazrat Dawood عليه السلام ka hai woh nisf raat tak soye rahte phir tehaayi shab ibaadat karte uske ba'd raat ke chhate hisse mein so jaate neez woh ek din rozah rakhte aur ek din iftaar farmate. (Bukhari:1131)

Fawaaid: Iska matlab yeh hai ke agar raat ke 12 ghante hon to pahle 6 ghante so rahte phir chaar ghante ibaadat karte phir do ghante mahwe isteraahat rahte goya sehri ka waqt so kar guzaar dete yahi unwaan ka maqsad hai.

597: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ko sab se ziyaadah woh amal pasand hota jo hameshah hota rahe aap se daryaaft kiya gaya ke Rasoolullah ﷺ raat ko kab uthhte to unhon ne farmaya ke jab murgh ki aawaaz sunte to uthh jaate the. (Bukhari: 1132)

Fawaaid: Murgh aam taur par aadhi raat ko baang deta hai yeh uski fitrat hai jis par Allah ta'ala ne use paida kiya hia. (Awnul Baari:2/194)

598: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi ek rivaayat mein hai ke jis waqt murgh ki aawaaz sunte to uthh kar namaaz padhte. (Bukhari:1132)

Fawaaid: Imam Bukhari ne pahli hadees mein Hazrat Dawood عليه السلام ki shab bedaari ko bayaan farmaya iss hadees se Rasoolullah ﷺ ke amal ko uske mutaabiq saabit kiya agli hadees se saabit kiya ke sehri ke waqt aap soye hote lehaazah aap ke aur Hazrat Dawood عليه السلام ke amal mein yaksaaniyat saabit huyi.

599: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi ek aur rivaayat mein hain unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko aakhri shab mein soye huye hi dekha hai. (Bukhari:1133)

Baab 7: Tahajjud ki namaaz mein lamba Qiyaam karna

600: Hazrat Abdullah bin Mas'ood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne ek

٦- بَابُ: مَنْ نَامَ عِنْدَ السَّحْرِ

٥٩٦ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهُ : (أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ ، وَيَصُومُ يَوْمًا وَيَفْطِرُ يَوْمًا) .
(رواه البخارى: ١١٣١)

٥٩٧ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الدَّائِمُ ، قِيلَ لَهَا : مَتَى كَانَ يَقُومُ ؟ قَالَتْ : كَانَ يَقُومُ إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ . (رواه البخارى: ١١٣٢)

٥٩٨ : وَفِي رِوَايَةٍ : إِذَا سَمِعَ الصَّارِخَ قَامَ فَصَلَّى . (رواه البخارى: ١١٣٢)

٥٩٩ : وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا قَالَتْ : مَا أَلْفَاهُ السَّحْرُ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا . تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ . (رواه البخارى: ١١٣٣)

٤- بَابُ طُرُلِ الْقِيَامِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ
٦٠٠ : عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً ،

raat Rasoolullah ﷺ ke saath namaaz-e-tahajjud padhi to aap kaafi der khade rahe hatta ke meri niyyat bigad gayi aap se poochha gaya ke aap ke dil mein kiya aaya? unhon ne farmaya ke main ne yeh iraadah kiya tha ke Rasoolullah ﷺ ko chhod kar khud baithh jaaoun. (Bukhari:1135)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke Rasoolullah ﷺ qiyamullail mein bahut lambi qera'at karte the. (Awnul Baari:2/197)

Baab 8: Rasoolullah ﷺ namaaz-e-shab kis tarah aur kis qadar padht the

601: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ki namaaz-e-tahajjud 13 raka'at par mushtamal hoti thi. (Bukhari:1138)

Fawaaid: In 13 raka'at ko iss tarah adaa karte the ke har do raka't ke ba'd salaam pherte the jaisa ke deegar rivayaat mein iski wazaahat hai. (Awnul Baari:2/197)

602: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ raat ko 13 raka'at namaaz padhte the inhi mein witr aur (sunnat) fajr ki do rakaten bhi shaamil hoti the. (Bukhari:1140)

Fawaaid: Namaaz-e-fajr ki do sunnaten mila kar 13 raka'at hain kyun ke Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ki doosri rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ramzaan ya ghair ramzaan mein kabhi 11 raka'at se ziyaadah nahin padhte the chunke din ke faraayiz bhi 11 hain isiliye raat ke witr bhi 11 the. isi tarah raat ke nawaafil aur din ke faraayez mein yaksaaniyat hoti thi.

(Awnul Baari:2/198)

Baab 9: Rasoolullah ﷺ ka raat ke waqt Qiyaam aur neend karna neez Qiyaam-e-Shab kis qadar mansookh huwa?

603: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ kisi mahinah mein aisa iftaar karte ke hum khayaal karte the ke iss mahinah mein aap bilkul rozah nahin rakkhenge aur jab roze rakhte to itne musalsal ke hum sochte aap iss mein bilkul iftaar hi nahin karenge aur raat ko namaaz

فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ. قِيلَ: وَمَا هَمَمْتُ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ ﷺ.

(رواه البخارى: 1135)

٨- بَابُ: كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ وَكَمْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ٦٠١ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ صَلَاةَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَعْنِي بِاللَّيْلِ.

(رواه البخارى: 1138)

٦٠٢ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا الْوِتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ. (رواه البخارى: 1140)

٩- بَابُ: قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ بِاللَّيْلِ وَنَوْمِهِ وَمَا نُسِخَ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ

٦٠٣ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُفْطِرُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يَصُومَ مِنْهُ وَيَصُومُ حَتَّى نَظُنَّ أَنْ لَا يُفْطِرُ مِنْهُ شَيْئًا، وَكَانَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا

to aise padhte the ke hum jab chaahte aap ko namaaz padhte dekh lete aur jab chaahte mahuwe khaab dekh lete. (Bukhari:1141)

رَأَيْتَهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ.

(رواه البخارى: ١١٤١)

Fawaaid: Iska matlab yeh hai ke raat ke waqt aap ke nawaafil aur aaraam ka waqt hota tha woh aisa ke jo shakhs aap ko jis haalat mein dekhna chaahta dekh leta yeh hazrat Anas رضي الله عنه ka apna mushaahedah hai jo hazrat Aayeshah رضي الله عنها ke bayaan ke khilaaf nahin ke murgh ki baang sun kar bedaar ho jaate the kyun ke unhon ne apne chashm-e-deed haalaat ko bayaan kiya hai. (Awnul Baari:2/199)

Baab 10: Shaytaan ka guddi par girah lagaana jab ke aadmi namaaz-e-shab na padhe

604: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke jab aadmi (ba waqt raat) so jaata hai to shaytaan uski guddi par teen girah lagaa deta hai har girah par yeh afson phoonk deta hai ke abhi to bahut raat hai so jao phir agar aadmi bedaar hogaya aur Allah ka zikr kiya to ek girah khul jaati hai phir agar usne wazoo karliya to doosri girah khul jaati hai uske ba'd agar us ne namaaz padhi to teesri girah bhi khul jaati hai aur subah ko khush mizaaj aur dilshaad uthhta hai warna subah ko ba'd dil aur khasta jism uthhta hai. (Bukhari:1142)

١٠. بَابُ: عَقْدِ الشَّيْطَانِ عَلَى قَافِيَةِ

الرَّأْسِ إِذَا لَمْ يُصَلِّ بِاللَّيْلِ

٦٠٤: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (يَعْقُدُ

الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ

إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى

مَكَانِ كُلِّ عُقْدَةٍ: عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ

فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ

انْحَلَّتْ عُقْدَتُهُ، فَإِنِ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ

عُقْدَتُهُ، فَإِنِ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَتُهُ،

فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلَّا

أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ).

(رواه البخارى: ١١٤٢)

Fawaaid: In shaytaani girohon ko haqeeqat par mahmool kiya jaaye aur yeh girhen ek shaytaani dhaage mein hoti hain aur woh dhaaga guddi par hota hai, Imam Ahmed رحمته الله عليه ne apni musnad mein saaf bayaan kiya hai ke shaytaan ek rassi mein girhen lagaata hai. (Awnul Baari:2/201)

Baab 11: Jo Shakhs so rahe aur namaaz na padhe to shaytaan us ke kaan mein peshaab kardeta hai

605: Hazrat Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmay ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saamne ek shakhs ka zikr kiya gaya ke woh subah tak soya raha aur namaaz ke keliye bhi nahin uthha to aap ne farmaya ke shaytaan ne uske kaan mein peshaab kardiya. (Bukhari:1144)

١١. بَابُ: إِذَا نَامَ وَلَمْ يُصَلِّ بِالْ

الشَّيْطَانِ فِي أُذُنِهِ.

٦٠٥: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ،

فَقِيلَ: مَا زَالَ نَائِمًا حَتَّى أَصْبَحَ، مَا قَامَ

إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (بَالَ الشَّيْطَانِ فِي

أُذُنِهِ). (رواه البخارى: ١١٤٤)

Fawaaid: Jab shaytaan khaata peeta aur nikaah bhi karta hai to uska ghaafil aur be namaaz ke kaan mein peshaab kardena bay'eed az aqal nahin. (Awnul Baari:2/203)

Baab 12: Pichhli raat du'a aur namaaz ka bayaan

606: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya hamaara buzurg wa bartar parwar digaar har raat aasmaan-e-dunya par nuzool farmata hai aur jab aakhri tehaayi baaqi rah jaati hai to aawaaz deta hai koyi hai jo mujh se du'a kare main use qubool karoon koyi hai ju mujh se maange main use doon koyi hai jo mujh se bakhshish talab kare to main use ma'af kardoon. (Bukhari:1145)

Fawaaid: Allah Ta'ala ka apne Arsh-e-Mua'llah se aasmaan-e-dunya par bila taaweel wa takyeef utarna bar haq hai jis tarah uss zaat ka A'rsh-e-Azeem par mustawi hona bar haq hai hamaare aslaaf ka aqeedah hai ke iss qsim ki sifaat ko zaahiri mana par mahmool kiya jaaye magar yeh bhi aqeedah rakhna chaahiye ke uski sifaat makhloq ki sifaat ki tarah nahin hain. Allamah Ibne Qayyim رحمة الله عليه ne iss mauzu par نزول الرب الى سماء الدنيا naami kitab bhi likkhi hai. (Awnul Baari:2/205)

Baab 13: Jo Shakhs Shuru raat so jaaye aur aakhri shab bedaar ho

607: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai un se Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki namaaz-e-tahajjud ke muta'alliq sawaal kiya gaya to unhon ne farmay ke aap shuru raat mein so jaate aur pichhli raat uthh kar namaaz padhte phir apne bistar par laut aate phir jab muazzin azaan deta to uthh khade hote agar zaroorat hoti to ghusl farmate warna wazoo karke baahar tashreef le jaate. (Bukhari:1146)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko agar ta'alluqaat zan wa shoyi ki zaroorat hoti to use tahajjud adaa karne ke ba'd poora karte kyun ke ibaadaat ke silsilah mein Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke yahi shayaan-e-shaan tha. (Awnul Baari:2/209)

Baab 14: Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ka Ramzaan aur ghair Ramzaan mein raat ka qiyaam

608: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai un se daryaافت kiya gaya ke Ramzaan mein Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki namaaz-e-tahajjud kaise huwa karti thi to unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم Ramzaan aur ghair Ramzaan

۱۲-بَابُ: الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ مِنْ آخِرِ

اللَّيْلِ

۶۰۶: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يُنزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، يَقُولُ: مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ). (رواه البخارى: ۱۱۴۵)

۱۳-بَابُ: مَنْ نَامَ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَأَخِيَا آخِرَهُ ۶۰۷: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ: عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَهُ، وَيَقُومُ آخِرَهُ، فَيُصَلِّي ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَذِنَ الْمُؤَدِّنُ وَتَبَّ، فَإِنْ كَانَتْ بِهِ حَاجَةٌ اغْتَسَلَ، وَإِلَّا تَوَضَّأَ وَخَرَجَ. (رواه البخارى: ۱۱۴۶)

۱۴-بَابُ: قِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ

۶۰۸: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ: عَنْ صَلَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ

mein giyarah raka'at se ziyaadah nahin padhte the pahle chaar raka'at aisi taweel padhte ke unki khoobi ke muta'alliq na poochho aur phir aap chaar raka'at aisi hi padhte the ke unki khoobi aur tewaalat ki kaifiyat mat poochho phir teen raka'at witr padhte the Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmati hain ke main ne poochha ke ya Rasoolallah ﷺ ! kiya aap witr padhne se pahle so rahte hain? to aap ne farmaya meri aankhen to so jaati hain magar mera dil nahin sota.

(Bukhari:1147)

Fawaaid: Jin rivaayaat mein Rasoolullah ﷺ ka raat ke waqt 20 raka'at padhna bayaan huwa hai woh sab se zay'eef aur na qaabil-e-hujjat hain namaaz-e-taraweeh ki ta'dad 8 raka'at aur 3 witr hain jiasa ke hadees mazkoor mein waarid hai.

Baab 15: Ibaadat mein sakhti uthhana ek naa pasandeedah amal hai

609: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek dafa Rasoolullah ﷺ masjid mein daakhil huye to dekha ke do sutoonon ke darmiyaan ek rassi latak rahi hai aap ne farmaya yeh rassi kaisi hai? logon ne arz kiya ke yeh rassi Hazrat Zainab رضي الله عنها ki latkaayi huyi hai jab woh namaaz mein khade khade thak jaati hain to usse latak jaati hain Rasoolullah ﷺ ne farmaya nahin (aisa hargiz nahin chaahiye) use khol do tum mein har shakhs nashaat tab'a tak namaaz padhe agar thak jaaye to baithh jaaye. (Bukhari:1150)

Fawaaid: Maloom huwa ke ibaadat karte waqt miyaanah ravi ikthiyaar karna chaahiye aur uske muta'alliq be jaa sakhti ki mumaania't hai kyun ke aisa karna rooh -e-ibaadat ke khelaaf hai. (Awnul Baari:2/211) maqsad yeh hai ke ibaadat ke iltezaam mein tashaddud ma'yoob hai kyun ke aisa karne se tabee'at mein nafarat ke jazbaat ubharte hain jo qaabil-e-muzammam hain. (Awnul Baari:2/212)

Baab 16: Ehtemaam-e-tahajjud ke bad use tark kardena makrooh hai.

610: Hazrat Abdullah bin Amr bin Aas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne mujhe farmaya Abdullah ﷺ ! fulaan shakhs ki tarah na ho jaana ke woh raat ko uthha karta tha phir us ne

فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَىٰ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّيٰ أَرْبَعًا، فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيٰ أَرْبَعًا فَلَا تَسْتَلُّ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطَوْلِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّيٰ ثَلَاثًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُؤْتِرَ؟ فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانُ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي) (رواه البخارى: ١١٤٧)

٥- ١- بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ فِي الْعِبَادَةِ

٦٠٩: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَا هَذَا الْحَبْلِ). قَالُوا هَذَا حَبْلٌ لَزَيْنَبَ فَإِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا، حُلُوهُ، لِيُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ). (رواه البخارى: ١١٥٠)

١٦- ١- بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنْ تَرْكِ قِيَامِ اللَّيْلِ لِمَنْ كَانَ يَقُومُهُ

٦١٠: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، لَا تَكُنْ

qiyaam-e-shab tark kardiya.(1152)

مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ
قِيَامَ اللَّيْلِ. (رواه البخارى: ١١٥٢)

Fawaaid: Iss hadees ka maqsad yeh hai ke neki ke kaam mein sahoorat aur aasaani ko malhooz rakh kar dawaam aur hameshgi karna chaahiye. (Alvi)

Baab 17: Uss shakhs ki fazeelat jo raat uthhe aur namaaz padhe

611 : Hazrat U'baadah Bin Saamit رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya jo shakhs raat ko uthhe aur kahe

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

Laa 'ilaaha illallaahu wahdahu laa shareeka lahu, lahul-mulku wa lahul-hamdu, wa Huwa 'alaa kulli shay'in Qadeer. Alhamdu lillaahi, wa Subhaana- Ilaahi, wa laa ilaaha illallaahu, wallaahu Akbar, wa Laa hawla wa laa quwwata illaa billaah. phir yeh du'a padhe اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي Allaahummaghfir lee ya aur koyi du'a kare to uski qu'a qubool hoti hai aur agar wazoo karke namaaz padhe to uski namaaz bhi qubool hoti hai. (Bukhari: 1154)

Fawaaid: Zaroori hai ke jo shakhs iss hadees ko padhe use chaahiye ke apne andar khuloos-e-niyyat paida kare aur iss amal ko ghaneemat samjhe. (Awnul Baari: 2/213)

612 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke woh w'az karte huye Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ka zikr karne lage ke Aap ne ek daf'a farmaya tumhaara bhaayi Abdullah Bin Rawaah رضي الله عنه koyi behooda baat nahin kahta (dekho to kaise achche mazaameen sunaata hai) hum main Allah ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم hain jo kalaamullah ki telaawat karte hain jab subah ki pu phathti hai hum to andhe the usne hamein hidaayat par lagaya aur hamein dili yaqeen hai ke woh jo kuchh kahte hain woh waaqa'yi sach hai raat ko un ka pahlu bistar se alag rahta hai jabke neend ki wajah se mushrikeen par bistar bhaari hote hain.

(Bukhari: 1155)

٤- أَبَابُ: فَضِّلْ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى

٦١١: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، أَسْتَجِيبَ فَإِنْ تَوَضَّأْتُ فَلَيْتَ صَلَاتِهِ).

(رواه البخارى: ١١٥٣)

٦٠١٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ، وَهُوَ يَقْضِي فِي قَصْبِهِ، وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَخَا لَكُمْ لَا يَقُولُ الرَّقَّتَ). يَعْنِي بِذَلِكَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ: وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَسْلُو كِتَابَهُ إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعُمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مَوْقِنَاتٌ أَنْ مَا قَالَ وَقَاعٌ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ إِذَا اسْتَقْفَلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاجِعُ.

(رواه البخارى: ١١٥٥)

Fawaaid: Maloom huwa ke majaalis-e-wa'z mein Rasoolullah ﷺ ka zikr khair baayi's-e-barkat hai lekin mahaafil-e-eid meelaad murawwajah ka koyi suboot nahin yeh khairul quroon se bahut bad ki paida waar hain.

613 : Hazrat Abdullah Bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ke zamaane mein ek khaab dekha jaise mere haath mein dabeez reshama ka ek tukda hai main jannat mein jahaan jaana chaahta hoon woh mujhe uda le jaata hai aur main ne yeh bhi dekha ke jaise do shakhs mere paas aaye ba'd mein woh poori hadees (591) mein bayaan ki jo pahle guzar chuki hai.

(Bukhari: 1156)

Fawaaid: Iss hadees mein hai ke hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما ne uske bad bil iltezaam tahajjud padhna shuru kardi thi. (Awnul Baari:2/217)

Baab 18: Nafil namaaz do do raka'at karke padhne ka bayaan

614 : Hazrat Jaabir Bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ hamen tamaam kaamon ke liye istekhaara ki ta'leem farmaya karte jaise hamen qura'n ki koyi surat sikhlaaya karte the. irshaad farmate ke jab koyi tum mein se kisi kaam ka iraadah kare to woh farz ke elaawah do raka'at padhle phir yoon kahe. Aye Allah! main tujh se tere ilm ki badolat bhalaayi chaahta hoon aur teri qudrat ki badolat taaqat chaahta hoon aur tujhi se tera fazl-e-azeem chaahta hoon be shakh tuhi qudrat rakhta hai aur main qudrat nahin rakhkhta hoon aur tu jaanta hai main nahin jaanta tuhi posheedah baaton ka jaanne waala hai. Aye Allah! agar tu jaanta hai ke yeh kaam mere deen wa dunya mein aur mrrer kaam ke aaghaaz wa anjaam mein behtar hai to isko mere liye muqaddar farma de aur isko mere liye aasaan kar de aur tu jaanta hai ke yeh kaam mere liye deen wa dunya mein aur mere kaam ke aaghaaz wa anjaam mein nuqsan deh hai to isko mujh se alag kar de aur mujhe isse alahidah kar de aur jahaan kahin bhalaayi ho woh mere

٦١٣: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ كَأَنَّ بِيَدِي قِطْعَةً اسْتَبْرَقَ، فَكَأَنِّي لَا أُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا طَارَتْ إِلَيْهِ، وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أُتِيَانِي. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

(رواه البخارى: ١١٥٦)

١٨- بَابُ: مَا جَاءَ فِي التَّطَوُّعِ مَثْنَى مَثْنَى

٦١٤: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: (إِذَا هُمْ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلْ، اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أُقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدِرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ

liye muqaddar kar de aur uske zariy'a mujhe khush kar de. Aap ne farmaya ke phir apni zaroorat ka naam le aur Allah ke huzoor pesh kare. (Bukhari: 1162)

وَأَقْدَرَلِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضَيْتِي بِهِ قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ).

(رواه البخارى: 1162)

Fawaaid: Dar asal istekhaarah ki iss dua ke zariye bandah awwal to wa'dah tawakkal karta hai phir saabit qadmi aur taqdeer-e-ilaahi par raazi rahne ki dua karta hai agar khuloos-e-dil se Allah ke huzoor yeh donon baatein pesh kardi jaayen to Allah ke fazl wa karam se bandah ke matloobah kaam mein zaroor khair wa barkat hogi.

Baab 19: Fajr ki do sunnaton par mudaawamat karna aur jisne unhein nafil ka naam diya

615 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ kisi nafil namaaz ka iss qadar iltazaam na karte jitna ki fajr ki do sunnaton ka ehtamaam karte the. (Bukhari: 1169)

١٩ - بَابُ: تَعَاهُدِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ وَمَنْ سَمَّاهُمَا تَطَوُّعًا

٦١٥ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ، أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتِي الْفَجْرِ. (رواه البخارى: 1169)

Fawaaid: Chunke Rasoolullah ﷺ ne fajr ki sunnaton par hameshgi farmayi hai isliye safar wa hazar mein inka tark karna mustahsan nahin hai.

Baab 20: Fajr ki sunnaton mein kiya padha jaaye?

612 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai unhon ne farmaya Rasoolullah ﷺ namaaz-e-fajr se pahle do raka'at bahut halki padhte the hatta ke main apne dil mein kahti ke Aap ne surah Faatiha padhi hai ya nahin.

(Bukhari: 1171)

٢٠ - بَابُ: مَا يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ

٦١٦ : وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُخَفِّفُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى إِنِّي لِأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِأَمِّ الْكِتَابِ.

(رواه البخارى: 1171)

Fawaaid: Iss hadees mein hazrat Aayeshah رضي الله عنها fajr ki sunnaton mein qera'at faatiha ke muta'alliq izhar-e-shak nahin farmaya balke matlab yeh hai ke bahut halki padhte the Muslim ki rivaayat mein hai ke pahli raka't mein قل يا ايها الكافرون aur doosri mein قل هو الله احد padhte the. (Awnul Baari: 2/122)

Baab 21: Ghar mein namaaze chaasht padhne ka bayaan

617 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mere khleel Rasoolullah ﷺ ne mujhe teen baaton ki wasiyyat farmayi aur jeete ji main unhein hargiz nahin chodunga ek to har mahne mein teen roze rakhna doosri chaasht ki namaaz padhna teesri witr padh kar sona.

٢١ - بَابُ: صَلَاةُ الصُّحَى فِي الْخَضِرِ

٦١٧ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ، لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الصُّحَى، وَنَوْمٍ عَلَى وَتْرِ. (رواه البخارى: 1178)

(Bukhari: 1178)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke jis namaazi ko bawaqt sehar uthhne par yaqeen na ho woh neend se pahle witr padh le aur jise wasooq ho ke subah tahajjud ke liye uthhega woh tuloo'-e-fajr se qabl witr adaa kare jaisa ke Muslim ki rivaayat mein iski wazaahat maujood hai. (Awnul Baari:2/223)

Baab 22: Zohar se pahle do sunnaten padhna

618 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ Zohar se pahle chaar raka'at aur Fajr se pahle do raka'at sunnat ko kabhi nahin chodte the. (Bukhari: 1182)

Fawaaid: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se marvi hadees se maloom hota hai ke aap zuhar se pahle do rakat padhte the aur iss hadees se pata chalta hai ke aap 4 padhte the in mein ta'aruz nahin kyun ke donon hazraat ne apni apni maloomaat se aagaah kiya hai mumkin hai ke ghar mein 4 padhte hon jaisa ke hazrat Aayeshah رضي الله عنها ka bayaan hai aur masjid mein do raka'at hi adaa karte hon jin ka Ibne Umar رضي الله عنهما ne mushaahidah kiya hai.

(Awnul Baari:2/224)

Baab 23: Namaaz-e-maghrib se pahle sunnat padhne ka bayaan

619 : Hazrat Abdullah Muzzani رضي الله عنه se rivaayat karte hain unhon ne Rasoolullah ﷺ se bayaan kiya ke Aap ne farmaya namaaze Maghrib se pahle nafil padho (mukarrar farmaya) teesri martabah yeh kaha jo koyi chahe iss andesha ke peshe nazar ke log ise laazmi na samajh len. (Bukhari: 1183)

Fawaaid: Maghrib se pahle do raka't padhna mustahab hai agarcheh zaroori nahin taa hum inki adaayegi baayi'se ajr wa sawaab hai lekin jama'at khadi hone se pahle padhna chaahiye aur fajr ki sunnaton ki tarah inhen bhi halka phulka adaa karna chaahiye (Awnul Baari:2/225)

۲۲-بَابُ: الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ
۶۱۸: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَدْعُ أَرْبَعًا قَبْلَ
الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعِدَاةِ.
(رواه البخارى: ۱۱۸۲)

۲۳-بَابُ: الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ
۶۱۹: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (صَلُّوا قَبْلَ
صَلَاةِ الْمَغْرِبِ). قَالَ: فِي الثَّلَاثَةِ:
(لِمَنْ شَاءَ). كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَتَّخِذَهَا
النَّاسُ سُنَّةً. (البخارى: ۱۱۸۳)



Makkah aur Madinah ki Masaajid mein namaaz padhna

Baab 1: Makkah aue Madinah ki Masjid mein namaaz padhne ki fazeelat

620 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya teen Masjidon ke elaawah kisi aur Masjid ki taraf safar na kiya jaaye Masjide Haraam, Masjide Nabawi, aur Masjide Aqsa,(Bukhari: 1189)

Fawaaid:Husool-e-taqarrub ke liye saamaan-e-safar tayyaar karna aur ziyaarat ke liye ghar se nikalna yeh sirf inhi teen maqamaat ke saath makhsos hai, neez buzrugon ke mazaraat par iss niyyat se jaana ke woh khush hokar hamaari haajat rawaayi karenge ya uska waseelah banenge aur iss qism ke deegar auhaam-e -baatilah iss hadees ke tehat qata'an na jaayez aur haraam hain. (Awnul Baari:2/231)

621 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya meri iss Masjid mein ek namaaz Masjide Haraam ke siwa deegar tamaam Masaajid ki hazaar namaazon se behtar hai. (Bukhari: 1190)

Fawaaid:Meri masjid se muraad Masjid-e-Nabawi hai Hazrat Imam Bukhari ka maqsood yeh hai ke Masjid-e-Nabawi ki ziyaarat ke liye saamaan-e-safar baandhna chaahiye aur jo wahaan jaayega laazmi taur par use Rasoolullah صلى الله عليه وسلم aur hazraat shaykhain par durood wa salaam ki sa'aadaten haasil hon.

Baab 2: Masjide Quba ka bayaan

622 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke woh namaaz-e-chaasht do dinon ke elaawah kisi aur din mein na padhte ek jab Makkah Mukarramah aate to zaroor padhte kyun ke woh Makkah mein chaasht hi ke waqt aate the tawaaf karte phir maqaame Ibraheem ke peeche do raka'at namaaz padhte aur doosre jis din Quba jaate uss din

كِتَابُ الصَّلَاةِ فِي

مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

۱-بَابُ: فَضْلِ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ

۶۲۰: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ
إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى).

(رواه البخارى: ۱۱۸۹)

۶۲۱: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي
هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ،
إِلَّا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ).

(رواه البخارى: ۱۱۹۰)

۲-بَابُ: مَسْجِدِ قُبَاءٍ

۶۲۲: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
كَانَ لَا يُصَلِّي مِنَ الضُّحَى إِلَّا فِي
يَوْمَيْنِ: يَوْمٍ يَقْدَمُ بِمَكَّةَ فَإِنَّهُ كَانَ
يَقْدَمُهَا ضُحَى، فَيَطُوفُ، ثُمَّ يُصَلِّي
رَكْعَتَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ، وَيَوْمَ يَأْتِي
مَسْجِدَ قُبَاءٍ فَإِنَّهُ كَانَ يَأْتِيهِ كُلُّ سَبْتٍ،

bhi namaaze chaasht padhte the woh har hafta Masjide Quba jaate jab Masjid mein daakhil hote to namaaz padhe baghair wahaan se nikalne ko bura khayaal karte unka bayaan hai ke Rasoolullah ﷺ Masjide Quba ki ziyaarat keliye kabhi sawaar aur kabhi paidal jaaya karte aur yeh bhi kaha karte the ke main uss tarah karta hoon jaisa ke main ne apne doston ko karte dekha hai aur main kisi ko mana' nahin karta ke raat ya din mein jab chaahe namaaz padhe haan qasdan sooraj nikalte ya ghuroob hote waqt namaaz na padhe. (Bukhari: 1191,1192)

Fawaaid: Maloom huwa ke baz amaal-e-khair ki adaayegi ke liye kisi din ko muta'ayyan karna aur phir uss par mudaawamat karna jaayez hai. (Awnul Baari:2/237)

Baab 3: (Masjide Nabawi mein) qabr aur mimbar ke darmiyaan maqaam ki fazeelat

623 : Hazrat Abu Hurairah ﷺ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya mere ghar aur mimbar ki darmiyaani jagah Jannat ke baaghon mein se ek baagh hai aur mera mimbar (qiyaamat ke din) mere hauz par hoga. (Bukhari: 1196)

Fawaaid: Bela shubah yeh fazeelat kisi aur khitta-e-arz ko haasil nahin haqeeqatan yeh hissa jannat hi ka hai aur aalam-e-aakhirat mein ise jannat hi ka hissa bana diya jaayega chunke aap apne ghar mein hi madfoon hain isliye imam Bukhari ne iss hadess par "Qbar aur mimbar ke darmiyaani hissa ki fazeelat" ka unwan qaayem kiya hai. (Awnul Baari:2/238)

فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَرِهَ أَنْ يُخْرَجَ مِنْهُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِيهِ. قَالَ: وَكَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَزُورُهُ رَاكِبًا وَمَا شِئًا. وَكَانَ يَقُولُ لَهُ: إِنَّمَا أَصْنَعُ كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يَصْنَعُونَ، وَلَا أَمْنَعُ أَحَدًا أَنْ صَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا.

(رواه البخارى: 1191، 1192)

سَبَابُ: فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ

وَالْمِنْبَرِ

٦٢٣: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِّنْ رِّيَاضِ الْجَنَّةِ، وَمَنْبَرِي عَلَى حَوْضِي).

(رواه البخارى: 1196)



Namaaz mein koyi kaam karne ka bayaan

Baab 1: Namaaz mein kalaam ka mamnu' hona

624 : Hazrat Abdullah Bin Mas'ood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko salaam kiya karte the halaanke Aap namaaz mein hote aur Aap humein jawaab bhi diya karte the lekin najjaashi ke paas se laut kar aane ke ba'd humne Aap ko salaam kiya to Aap ne jawaab na diya aur faraaghat ke ba'd farmaya namaaz mein masroofiyat huwa karti hai.

(Bukhari: 1199)

Fawaaid: Dauraan-e-namaaz Allah se manajaat ka taqaazah hai ke Allah ki yaad mein hamah tan mustaghraq huwa jaaye iss qadar dil waabastagi ke aalam mein logon se guftagu aur unke salaam ka jawaab kaise diya jaa sakta hai? (Awnul Baari:2/240)

625 : Hazrat Zaid Bin Arqam رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum namaaz mein ek doosre se guftagu kiya karte the hatta ke yeh aayat naazil huyi "Namaazon ki hifaazat karo aur (khaas kar) darmiyaani namaaz ki aur Allah ke saamne adab se khade raho" phir humen namaaz mein khaamoosh rahne ka hukm diya gaya. (Bukhari: 1200)

Fawaaid: Maloom huwa ke dauraan-e-namaaz har qism ki dunyaawi baat karna man'a hai chunaankeh Sahih Muslim mein hai ke humen iss aayat ke zariye' kalaam karne se rok diya gaya. (Awnul Baari:2/241)

Baab 2: Namaaz mein kankariyan hataana

626 : Hazrat Mu'aiqeeb رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم uss shakhs se jo sajdah ki jagah mitti hamwaar kar raha tha yeh farmaya agar tum yeh karna hi chahte ho to ek daf'a se ziyaadah na karo. (Bukhari: 1207)

Fawaaid: Ek rivaayat mein iski wajah yoon bayaan ki gayi hai ke namaaz ke waqt Allah ki rahmat namaazi ke roo baroo hoti hai isliye tawajjah hataa kar kankariyon ko baar baar baraabar karna goya Allah ki rahmat se roo gardaani karna hai. (Awnul Baari:2/243)

كتاب العمل في الصلاة

اَبَابُ: مَا يُنْهَى مِنَ الْكَلَامِ فِي

الصَّلَاةِ

٢٢٣: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: (إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا). (رواه البخارى: ١١٩٩)

٢٢٥: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ﴾. الْآيَةَ، فَأَمَرْنَا بِالسُّكُوتِ.

(رواه البخارى: ١٢٠٠)

٢-بَابُ: مَسْحُ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ

٢٢٦: عَنْ مُعَيْقِبِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: (إِنْ كُنْتُ فَأَعْلًا فَوَاحِدَةً). (رواه البخارى: ١٢٠٤)

Baab 3: Agar kisi ka bahaalate namaaz jaanwar bhaag jaaye (to kiya kare?)

627: Hazrat Abu Barzah Aslami رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne kisi jung mein sawaari ki lagaam haath mein le kar namaaz padhi sawaari shokhi karne lagi to aap us ke peechhe ho liye jab un se uske muta'alliq poochha gaya to kahne lage ke main Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke hamraah 6,7ya 8 baar jehaad mein rahaa hoon aur main ne aap ki aasaan rawi aur sahoorat pasandi dekhi hai isliye mujhe yeh baat ke main apni sawaari ke hamraah rahoon iss baat se ziyaadah basand hai ke main use chhod deta aur woh apne astabal mein chali jaati phir mujhe takleef hoti. (Bukhari:1211)

سَبَابٌ: إِذَا انْفَلَتَ الدَّابَّةُ فِي الصَّلَاةِ
٦٢٧: عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: صَلَّى يَوْمًا فِي غَزْوَةٍ وَإِذَا
لِجَامَ دَابَّتِيهِ بِيَدِهِ فَجَعَلَتِ الدَّابَّةُ تَنَازِعُهُ
وَجَعَلَ يَتْبَعُهَا، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ،
فَقَالَ: إِنِّي غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ سِتَّ غَزَوَاتٍ، أَوْ سَبْعَ غَزَوَاتٍ،
أَوْ ثَمَانٍ، وَشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وَإِنِّي
كُنْتُ أَنْ أُرَاجِعَ مَعَ دَابَّتِي، أَحَبَّ إِلَيَّ
مِنْ أَنْ أَدْعَهَا تَرْجِعَ إِلَيَّ مَأْلِفَهَا، فَيَشُقُّ
عَلَيَّ. (رواه البخاري: ١٢١١)

Fawaaid: Maloom huwa ke kisi khaas zaroorat ke pesh-e-nazar insaan apni ta'reef khud kar sakta hai bashar teke maqsood fakhr na ho. (Awnul Baari:2/245)

628: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke unhon ne sooraj girhan ki hadees bayaan ki jo pahle (526) guzar chuki hai uss rivaayat ke mutaabiq Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya ke main ne dozakh ko dekha uska ek hissa doosre ko tode jaa raha tha uske ba'd aap ne farmaya ke main ne jahannam mein Amr bin Luhai ko dekha aur yeh woh shakhs hai jis ne buton ke naam par jaanwaron ko azaad karne ki rasam daali thi. (Bukhari:1212)

٦٢٨: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
ذَكَرْتُ حَدِيثَ الْخَسُوفِ وَقَالَ فِي
هَذِهِ الرِّوَايَةِ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ
النَّارَ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا حِينِ
رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ: (وَرَأَيْتُ فِيهَا
عَمْرُوبَ بْنَ لُحَيٍّ، وَهُوَ الَّذِي سَبَّ
السَّوَابِ). (رواه البخاري: ١٢١٢)

Fawaaid: Iss hadees mein hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم jannat ka khosha lene ke liye dauraan-e-namaaz aage badhe aur jahannam ka haulnaak manzar dekh kar kuchh peechhe hate isse maloom huwa ke bawaqt zaroorat namaaz mein thoda sa chalna aur mamooli sa kaam karna iss se namaaz baatil nahin hoti. (Awnul Baari:2/246)

Baab 4: Namaaz mein Salaam ka jawaab (zabaan se) nahin dena chaahiye

629: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mujhe Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne kisi kaam ke liye bheja chunaancheh main gaya aur woh kaam karke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki khidmat mein haazir huwa main ne aap ko salaam kiya magar aap ne jawaab na diya jis se mera dil itna

٣-سَبَابٌ: لَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الصَّلَاةِ
٦٢٩: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فِي حَاجَةٍ، لَهُ فَانْطَلَقْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ
وَقَدْ قَضَيْتُهَا، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ،
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَوَقَعَ فِي

ranjdedah huwa ke Allah hi khoob jaanta hai main ne apne dil mein kaha ke shaayad Rasoolullah ﷺ mujh se iss liye naa raaz hain ke main der se lauta hoon chunaancheh main ne phir salaam kiya to aap ne jawaab na diya ab to mere dil mein pahle se bhi ziyadah ranj huwa main ne phir salaam kiya to aap ne salaam ka jawaab de kar farmaya chunke main namaaz padh raha tha isliye main tujhe salaam ka jawaab na de saka uss waqt aap sawaari par the jis ka rukh qiblah ki taraf na tha. (is liye main tameez na karsaka ke aap namaaz mein hain yaa nahin)

(Bukhari: 1217)

Fawaaid: Muslim mein itni wazaahat hai ke Rasoolullah ﷺ ne salaam ka jawaab haath ke ishaare se diya tha jise hazrat Jaabir ؓ na samajh sake iss liye woh pareeshan aur fikrmand huye.

Baab 5: Namaaz mein kamar par haath rakhna man'a hai

630: Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne kamar par haath rakh kar namaaz padhne se man'a farmaya hai. (Bukhari: 1220)

Fawaaid: Iss hukm-e-imtenaay'i ki chand wajoohaat hain kyun ke aisa karna takabbur karne walon ki alaamat hai, yahoodi aksar aisa karte the neez lblees ko aisi haalat mein aasmaan se utaara gaya aur ahle jahannam aaraam ke waqt aisa karengi isliye dauraan-e-namaaz aisa karna mana hai. (Awnul Baari: 2/248)

قَلْبِي مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَعَلَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَجَدَ عَلَيَّ أَنِّي أَبْطَأْتُ عَلَيْهِ؟ ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ فَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَشَدُّ مِنَ الْمَرَّةِ الْأُولَى، ثُمَّ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ، فَقَالَ: (أِنَّمَا مَنَعَنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ أَنِّي كُنْتُ أَصَلِّي). وَكَانَ عَلَيَّ رَاحِلَتِهِ، مُتَوَجِّهًا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ.
(رواه البخارى: ١٢١٤)

بَابُ: التَّحْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ
٦٣٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُتَخَصِّرًا. (رواه البخارى: ١٢٢٠)



Sajda-e-Sahw ke Bayaan mein

کتاب السهو

۱-بَابُ: إِذَا صَلَّى خَمْسًا

Baab 1: Jab (bhoor kar) paanch rak'at padh le

631: Hazrat Abdullah bin Masood رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne ek dafa Zohar ki paanch raka'at padhin arz kiya gaya ke namaaz mein kuchh ezaafah kardiya gaya hai? aap ne farmaya: woh kiya? arz kiya gaya ke aap ne paanch raka'at padhi hain to aap ne salaam pherne ke ba'd do sajda-e-sahw kiye. (Bukhari:1226)

۶۳۱: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا، فَقِيلَ لَهُ: (أَزِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟) فَقَالَ: (وَمَا ذَاكَ). قَالَ: صَلَّيْتُ خَمْسًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ (رواه البخارى: ۱۲۲۶)

Fawaaid: Imam Bukhari ka maqsood yeh hai ke agar namaaz mein kami waaq'e ho to salaam se pahle sajdah sahw kiya jaaye aur agar kuchh ezaafah ho jaaye to salaam ke ba'd sajdah sahw kiya jaaye lekin iss silsila mein Imam Ahmed ka maslak ziyaadah behtar maloom hota hai ke har hadees ko uske mahal mein istemaal kiya jaaye aur jis bhoor ki soorat mein koyi hadees nahin aayi wahaan salaam se pahle sajdah sahw kiya jaaye. (Awnul Baari:2/250)

Baab 2: Jab Namaazi se koyi baat kare aur woh sun kar haath se ishaarah kar de

632: Hazrat Ummeh Salmah رضي الله عنها se rivaayat hai unhone ne farmay ke main ne Rasoolullah ﷺ se suna hai aap Asr ke ba'd namaaz padhne se man'a karte the phir main ne aap ko namaaz padhte huye dekha uss waqt mere paas Ansaari Auraten baithhin thin main ne kaha aap ke pahloo mein kahde hokar arz karna ke Umme Salmah رضي الله عنها daryaaft karti hain ya Rasoolallah ﷺ ! main ne aap ko in do raka'ton se man'a farmate suna hai jab ke main ne aap ko dekhti hoon ke aap do raka'at padh rahe hain agar Rasoolullah ﷺ apne haath se teri taraf ishaarah karen to peechhe hat jaana chunaancheh uss ladki ne aisa hi kiya aap ne apne haath se jab ishaarah farmay to woh peechhe hat gayi

۲-بَابُ: إِذَا كَلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَاسْتَمَعَ

۶۳۲: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا، وَكَانَ عِنْدِي نِسْوَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قَوْمِي بِجَنَبِهِ، قَوْلِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنِ هَاتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا؟ فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرْنِي عَنْهُ. فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرْتُ عَنْهُ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ قَالَ: (يَا بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ

phir aap ne namaaz se faarigh ho kar farmaya Aye Abu Umayya ki beti! tu ne Asr ke ba'd do rakaten padhne ke muta'alliq poochha to baat dar asal yeh hai ke qabeelah Abdul Qais ke kuchh log mere paas aagaye the unhon ne Zohar ke ba'd ki do rakaton mein mujhe der karaadi to yeh wahi do rak'atein hain (yeh nafil nahin hai)

(Bukhari:1233)

مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَشَغَلُونِي عَنِ
الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا
هَاتَانِ). (رواه البخارى: ١٢٣٣)

Fawaaid: Iss se Maloom huwa ke namaaz ke dauraan-e- namaaz kisi ki baat sunna aur use samajhna iss se namaaz mein koyi kharaabi nahin aati. (Awnul Baari:2/253)



Janaazah ke Bayaan mein

Baab 1: Jis Shakhs ki aakhri baat لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ **ho**

633: Hazrat Abu Zar رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya mere rab ki taraf se mere paas ek aane waala aaya usne mujhe khush khabri di ke meri ummat mein se jo shakhs bayin haalat faut ho ke woh Allah ke saath kisi ko shareek na karta ho to woh jannat mein daakhil hoga main ne arz kiya ke agarcheh uss ne zena aur chori ki ho aap ne farmaya haan agarcheh uss ne zena kiya ho aur chori bhi ki ho.

(Bukhari:1237)

Fawaaid:Matlab yeh hai ke jo shakhs tauheed par faut huwa woh hamesha ke liye jahannam mein nahin rahega aakhir kaar jannat mein daakhil hoga khaah huqooqullah jaise zena aur huqooqulibaad jaise chori ka murtaqib hi kyun na ho aise haalaat mein huqooqulibaad ki adaayegi ke muta'alliq Allah zaroor koyi soorat paida kardega.

(Awnul Baari:2/255)

634: Hazrat Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs iss haal mein faut ho ke woh Allah ke saath shirk na karta ho woh jannat mein jaayega.(Bukhari:1238)

Fawaaid:Iss hadees se Imam Bukhari ek farmaan-e-Nabawi ki wazaahat karna chaahate hain yani zaroori nahin ke marne waqt kalima-e-ikhlaas padhne se hi jannat mein daakhilah hoga balke muraad tauheed ka aqeedah raakhna aur iss aqeedah par marna hai.(Awnul Baari:2/257)

Baab 2: Janaaze mein shareek hone ka hukm

635: Hazrat Bara bin A'azib رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne humen saat baaton ka hukm diya aur saat cheezon se mana farmaya jin baaton ka hukm diya tha woh janaazon ke hamraah jaana, mareez ki iyaadat karna, da'wat qubool karna, mazloom ki madad karna, qasam ka poora karna, salaam ka jawaab dena hai aur chheenkne waale ko du'a dena

کتاب الجنائز

۱- بَابُ: مَنْ كَانَ آخِرَ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

۲۳۳: عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي، فَأَخْبَرَنِي، أَوْ قَالَ: بِشَرِّنِي، أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ). (رواه البخارى: ۱۲۳۷)

۲۳۴: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ) وَقُلْتُ أَنَا: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. (رواه البخارى: ۱۲۳۸)

۲- بَابُ: الْأَمْرُ بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

۲۳۵: عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِرَارِ الْقَسَمِ. وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ،

aur aapne chaandi ke bartan, sone ki angoothhi, resham, deeba, qaz aur istabraq se mana farmaya tha. (Bukhari:1239)

Fawaaid: Iss hadees mein jin saat cheezon se mana kiya gaya hai un mein saatwin yeh hai ke reshmi gaddiyon ke istemaal se bhi mana farmaya hai jo sawaari ki zeen par rakkhi jaati hain Imam Bukhari ne ise (kitabul-libaas:5863) mein bayaan farmaya hai.

Baab 3: Jab Murdah Kafan mein Lapet diya jaaye to us ke paas jaana

636: Hazrat Ummul U'laa رضي الله عنها ek Ansaari khaatoon se rivaayat hai jo un auraton mein shaamil hain jinhon ne aap se bai'at ki thi unhon ne farmaya ke jab muhaajreen bazariye qura' andaazi taqseem huwe to humaare hissa mein Hazrat Usmaan bin Maz'oon ؓ aaye jin ko hum apne ghar laaye aur woh achaanak marz-e-wafaat mein muftala ho gaye jab unhon ne inteqaal kiya to hum ne unhein ghusl diya aur unke kapdon mein kafnaya darin isnaa Rasoolullah ﷺ tashreef laaye main ne kaha Aye Abu Saayib ؓ! tum par Allah ki rahmat ho meri shahaadat tumhaare liye yeh hai ke Allah Ta'ala ne tumhen sarfaraaz kardiya hai. Rasoolullah ﷺ ne farmaya tumhen kiya maloom ke Allah ne inhein izzat di hai? main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! mere maan baap aap par fida hon to phir Allah kise sarfaraaz karega? aap ne farmaya be shak inhein (achchhi haalat mein) maut aayi hai wallah! main bhi inke liye bhalaayi ki ummeed rakhta hoon lekin Allah ki qasam! main iska Rasool hokar apne muta'alliq nahin jaanta hoon ke mere muta'alliq kiya muaa'mlah kiya jaayega? Hazrat Umme U'laa رضي الله عنها kahti hain ke uske bad main ne kisi ke paakbaaz hone ki shahaadat nahin di.

(Bukhari:1243)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke qata'yi taur par kisi ko jannati nahin kahna chaahiye kyun ke husool-e-jannat ke liye khuloos niyyat shart hai jiss par Allah ke elaawah koyi muttala' nahin ho sakta albatta jin hazraat ke muta'alliq nass-e-qatay'i hai masalan A'shrah Mubashsharah waghairah inhen jannati kahne mein koyi harj nahin. (Awnul Baari:2/262)

وَالْحَرِيرِ، وَالذِّيَّاجِ، وَالْقَسِيِّ، وَالْأَسْتَبْرَقِ. (رواه البخارى: ١٢٣٩)

سَبَابُ: الدُّخُولِ عَلَى الْمَيِّتِ
بَعْدَ الْمَوْتِ إِذَا أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ
٢٣٦: عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
إِمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ:
أَنَّهُ أَقْتَسَمَ الْمُهَاجِرُونَ فُرْعَةً، فَطَارَ لَنَا
عُثْمَانُ بْنُ مَطْعُونٍ، فَأَنْزَلَنَا فِي أَبِيَاتِنَا،
فَوَجَعَ وَجَعَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ، فَلَمَّا
تُوُفِّيَ وَغَسِلَ وَكُفِّنَ فِي أَثْوَابِهِ، دَخَلَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَقُلْتُ: رَحِمَةَ اللَّهِ
عَلَيْكَ أبا السَّائِبِ، فَشَهِدَاتِي
عَلَيْكَ: لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ
أَكْرَمَهُ). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، فَمَنْ يُكْرِمُهُ اللَّهُ؟ فَقَالَ: (أَمَّا
هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ الْيَقِينُ، وَاللَّهُ إِنِّي لَأَرْجُو
لَهُ الْخَيْرَ، وَاللَّهُ مَا أَدْرِي، وَأَنَا رَسُولُ
اللَّهِ، مَا يُفْعَلُ بِي). (قَالَتْ: فَوَاللَّهِ
لَأَرْزِي أَحَدًا بَعْدَهُ أَبَدًا.)

(رواه البخارى: ١٢٣٣)

637: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mere waalid ghazwa-e-Uhad mein shaheed huye to main baar baar unke chehre se pardah hataata aur rota tha log mujhe iss se mana karte the lekin Rasoolullah ﷺ mujhe mana na farmate the phir meri phoophi Faatimah رضي الله عنها bhi rone lagi to Rasoolullah ﷺ ne famaya tu ro wo ya na ro wo farishte to in par apne paron ka saaya kiye rahe hatta ke tum ne unhen uthhaliya. (Bukhari:1244)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ne iske muta'alliq jannati hone ka faislah farmaya iski bunyaadi wahi thi waise apne zan wa takhmeen se kisi ke muta'alliq jannati hone ka faislah nahin karna chaahiye. (Awnul Baari:2/263)

Baab 4: Jo Shakhs mayyat ke azeeron ko uske marne ki khabar khud de

638: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne najjaashi ke faut hone ki khabar sunaayi jis din woh faut huye the phir aap eid gaah tashreef le gaye safen durst karne ke bad chaar takbeeren kah kar namaaz-e-janazah adaa ki. (Bukhari:1245)

Fawaaid: Isse maloom huwa ke ghaayibanah janaazah padha jaa sakta hai bashar teke marne waala mu'aashrah mein asar wa rusookh ka haamil ho.

639: Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jung-e-mota mein pahle Zaid رضي الله عنه ne jhanda uthhaya aur woh shaheed ho gaye phir Ja'far رضي الله عنه ne jhanda uthhaya woh bhi shaheed ho gaye phir Abdullah bin Rawaah رضي الله عنه ne jhanda uthhaya to woh bhi shaheed ho gaye uss waqt Rasoolullah ﷺ ki aankhon se aansoo jaari the phir Khalid bin Waleed رضي الله عنه ne saalaari ke baghair hi jhanda uthhaya to un ke haath par fatah huyi. (Bukhari:1246)

Fawaaid: Hazrat Khalid bin Waleed رضي الله عنه ko Rasoolullah ﷺ ne fauj ki kamaan karne ka hukm nahin diya iske bawajood unhon ne kamaan ki aur kaafiron ko shikast faash se do chaar kiya maloom huwa ke sangeen haalaat ke pesh-e-nazar aisa karna jaayez hai. (Awnul Baari:2/266)

٦٣٧: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قُتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَكْشِفُ الثُّوبَ عَنْ وَجْهِهِ أَبْكَى وَيَنْهَوْنِي عَنْهُ، وَالنَّبِيُّ ﷺ لَا يَنْهَانِي، فَجَعَلْتُ عَمِّي فَاطِمَةَ تَبْكِي، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَبْكِينَ أَوْ لَا تَبْكِينَ، مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ تُظَلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رَفَعْتُمُوهُ). (رواه البخارى: ١٢٣٣)

٣- بَابُ: الرَّجُلِ يَنْعَى إِلَى أَهْلِ

الْمَيِّتِ بِنَفْسِهِ

٦٣٨: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. (رواه البخارى: ١٢٣٥)

٦٣٩: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَإِنْ عَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَتَذَرِفَانِ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيدِ مِنْ غَيْرِ أَمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ).

(رواه البخارى: ١٢٣٦)

Baab 5: Uss Shakhs ki Fazeelat jis ka koyi bachcha mar jaaye to woh sawaab ki ummeed se sabr kare

640: Hazrat Anas رضي الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya jis musalmaan ke teen na baaligh bachche mar jaayen to Allah Ta'ala bachchon par apni enaayat ziyaadah hone ke baais use jannat mein daakhil farmata hai.(Bukhari:1248)

Fawaaid:Ek rivaayat mein hai do bachchon balke ek bachche ke faut hone ka bhi yahi hukm hai basharteke sabr kiya jaaye aur koyi be adbi ka lafz munh se na kaha jaaye.(Awnul Baari:2/268)

Baab 6: Mayyat ko taaq martabah ghul dena pasandeedah hai.

641: Hazrat Umme Atiya رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم apni saahabzaadi ki wafaat ke waqt hamaare paas tashreef laye aur farmaya ke use teen martabah ya paanch martabah ya uss se ziyaadah agar zaroorat ho to paani aur bari ke patton se ghul do aur aakhri martabah kaafoor daal do ya thoda sa kaafoor shaamil kardo aur faarigh ho kar mujhe ittela dena chunaanche hum ne faarigh ho kar aap ko ittela di to aap ne hamein apna tahband diya aur farmaya ise un ke badan par lapet do y'ani uski ezaar banaadi jaaye.(Bukhari:1235)

Fawaaid:Apna tahband bataur-e-tabarruk enaayat farmaya mayyat ko ek dafa ghul dena farz hai aur iss se ziyaadah baqadr zaroorat mustahab hai.(Awnul Baari:2/ 270)

Baab 7: Mayyat ke daayen atraaf se ghul shuru kiya jaaye

642: Hazrat Umme Atiyah رضي الله عنها hi se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke daayen atraaf aur wazoo ke maqamaat se ghul ka aaghaaz karna Hazrat Umme Atiyah رضي الله عنها kahti hain ke hum ne kangghi karke unke baalon ke teen hisse kardiye the.

(Bukhari:1254)

Fawaaid:Maloom huwa ke mayyat ko kulli karaana aur uske naak mein paani daalna mustahab hai neez yeh wazoo ghul ka hissa hai.(Awnul Baari:2/272)

٥ - بَابُ: فَضْلِ مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ

فَاحْتَسَبَ

٢٣٠ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ، يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْتَ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ أَيَّاهُمْ). (رواه البخارى: ١٢٣٨)

٦ - بَابُ: مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُغْسَلَ وَتُرَأَى

٢٣١ : عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، حِينَ تُوَفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: (اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذْنِبِي). فَلَمَّا فَرَعْنَا أَذْنَاهُ، فَأَعْطَانَا حِقْوَهُ، فَقَالَ: (أَشْعِرْنَهَا أَيَّاهُ). يَعْنِي إِزَارَهُ. (رواه البخارى: ١٢٥٣)

٧ - بَابُ: يُبَدَأُ بِمِيَامِنِ الْمَيِّتِ

٢٣٢ : وَفِي رِوَايَةِ أُخْرَى أَنَّهُ قَالَ: (إِبْدَأَنَّ بِمِيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا). قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ. (رواه البخارى: ١٢٥٣)

Baab 8: Kafan ke liye safed kapdon ka hona

643: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ko teen safed kapdon mein kafan diya gaya jo yamni sahooli ruyi se bane huye the aur unmein na to qamees thi na amaamah. (Bukhari:1264)

Fawaaid: Ek hadees mein hai ke Rasoolullah ﷺ ko 3 safed kapdon mein kafan diya gaya baqaul Imam Tirmeezi Rasoolullah ﷺ ke kafan ke muta'alliq yahi ek rivaayat sahih se Amaamah baandhna bid'at hai iss se ijtenaab kiya jaaye. (Awnul Baari: 2/273)

Baab 9: Do kapdon mein kafan dena

644: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek shakhs Rasoolullah ﷺ ke hamraah maqaam-e-Arfa mein thhahra huwa tha ke achaanak apni sawaari se gira jis se uski gardan toot gayi to Rasoolullah ﷺ ne farmaya use paani aur bairi ke patton se ghusl de kar do kapdon mein kafan do magar hunoot (ek khushbu) na lagaana aur na uske sar ko dhaakna kyun ke yeh qiyaamat ke din labbaik kahta huwa uthhaaya jaayega. (Bukhari:1265)

Fawaaid: Imam Bukhari ne iss hadees par yoon u'nwaan qaayem kiya hai "Mohrim ko kyun kar kafan diya jaaye" iss hadees se yeh bhi maloom huwa ke mohrim jab mar jaaye to uss par ehraam ke ahkaam baaqi rahenge. (Awnul Baari: 2/277)

Baab 10: Mayyat ke liye kafan

645: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke jab Adbullah bin Ubai munafiq margaya to uske bete ne Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein haazir hokar arz kiya ya Rasoolallah ﷺ ! us ke kafan ke liye apni qameez enaayat farmadijiye, uski namaaz-e-janaazah padhiye aur uske liye du'ay-e-maghfirat keejiye to aap ne apni qamees enaayat farmayi aur kaha ke jab janaazah tayaar ho jaaye to mujhe ittela' dena main uski namaaz-e-janaazah

٨- بَابُ: الثِّيَابِ الْبَيْضِ لِلْكَفَنِ

٦٤٣ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كُفِنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ، بَيْضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. (رواه البخارى: ١٢٦٤)

٩- بَابُ: الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ

٦٤٤ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَقَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِعَرَفَةَ، إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَبِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا).

(رواه البخارى: ١٢٦٥)

١٠- بَابُ: الْكَفَنِ لِلْمَيِّتِ

٦٤٥ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي لَمَّا تُوْفِيَ، جَاءَ ابْنُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي قَمِيصَكَ أَكْفِنُهُ فِيهِ، وَصَلَّ عَلَيْهِ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُ. فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ قَمِيصَهُ، فَقَالَ: (أَدْنِي أَصْلِي عَلَيْهِ). فَأَذَنَهُ، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ جَذَبَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ

padhonga chunaancheh usne aap ko ittela' ki magar jab aap ne uska janaazah padhne ka iraadah farmaya to Hazrat Umar رضي الله عنه ne aap ko rok liya aur arz kiya: kiya Allah Ta'ala ne munaafiqeen ki namaaz-e-janaazah padhne se aap ko mana nahin farmaya hai? aap ne farmaya ke mujhe donon baaton ka ikhtiyaar diya gaya hai aur irshaad-e-baari ta'ala hai tum un ke liye maghfirat karo ya na karo (donon baraabar hain) agar 70 baar bhi unke gunaahon ki ma'afi chaahoge to tab bhi Allah unhein hargiz ma'af nahin farmayega" phir aap ne uski namaaz-e-janaazah padhi uss par yeh aayat naazil huyi "Agar koyi munaafiq marjaaye to uski kabhi namaaz-e-janaazah na padho". (Bukhari:1269)

Fawaaid:Rasoolullah ﷺ ne apni qamees isliye di ke uske bete Abdullah رضي الله عنه ki izzat afzaayi ho, uska baap munaafiq tha neez ghazwa-e-badr mein jab Abbaas رضي الله عنه qaaid ho kar aaye to unke badan par qamees na thi to Abdullah bin Ubai munaafiq ne apni qamees unhen pahnaayi thi Rasoolullah ﷺ ne uska badlah diya taake munaafiq ka koyi ehsaan baaqi na rahe.(Awnul Baari: 2/276)

646:Hazrat Jaabir رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ Abdullah bin Ubai munaafiq ki mayyat par tashreef laaye jab use qabr mein rakh diya gaya to aap ne use nikalwaakar kisi qadr l'u'aab-e-dahan us par daala aur use apni qamees pahnaayi.

(Bukhari:1270)

Fawaaid:Pahli rivaayat mein qamees dene se muraad yeh hai ke aap ne dene ka wa'dah farmaya huwa yoon ke Abdullah munaafiq ke azeezon ne Rasoolullah ﷺ ko takleef dena munaasib na khayaal kiya jab use qabr mein rakh diya gaya to aap ne use apna qamees pahnaaya.(Awnul Baari: 2/279)

Baab 11: Jab kafan sirf itna ho jo mayyat ke sar ya paaun ko chhupaaye to usse sar ko dhaanp diya jaaye.

647:Hazrat Khabbaab رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum logon ne sirf Allah ki raza haasil karne ke liye Rasoolullah ﷺ ke hamraah hijrat ki to hamaara sawaab Allah ke zimma hogaya hum mein se kuchh logon ne to marne tak apne badle mein se kuchh na khaya inhin logon mein hazrat

عَنْهُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ اللَّهُ نَهَاكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ؟ فَقَالَ: (أَنَا بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ، قَالَ: (اسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ). فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَنَزَلَتْ: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا). (رواه البخارى: ١٢٦٩)

٢٣٦ : عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
أَتَى النَّبِيَّ ﷺ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَعْدَ مَا دُفِنَ، فَأَخْرَجَهُ، فَنفَتَ فِيهِ مِنْ رِيْقِهِ،
وَالْبَسَهُ قَمِيصَهُ.

(رواه البخارى: ١٢٤٠)

١١ - بَابُ : إِذَا لَمْ يَجِدْ كَفَنًا إِلَّا مَا
يُورَى رَأْسَهُ أَوْ قَدَمَيْهِ غَطَّى بِرَأْسِهِ
٢٣٤ : عَنْ خَبَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : هَاجَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ نَلْتَمِسُ
وَجْهَ اللَّهِ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا
مَنْ مَاتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا؛

Mus'ab bin Umair ؓ the aur hum mein se kuchh aise log bhi hain jin ke liye un ka phal pak gaya aur woh use uthha uthha kar khaate hain Hazrat Mus'ab bin Umair ؓ hazwa-e-Uahad mein shaheed huye un ke kafan ke liye kuchh na mila bas ek chaadar thi agar unka sar usse chhupaate to paaun khul jaate paaun chhupaate to sar baahar nikal aata aakhir Rasoolullah ﷺ ne hamen hukm diya ke un ka sar chhupa do aur paaun par kuchh azkhar ghaas daal do. (Bukhari:1276)

Fawaaid: Maloom huwa ke kafan mein waajib satar poshi hai neez iss hadees se Hazrat Musa'b bin U'mair ؓ ki fazeelat bhi maloom hoti hai ke aakhirat mein unke sawaab mein koyi kami nahin hogi. (Awnul Baari: 2/280)

Baab 12: Zamaana-e-Nabuwat mein kisi qism ke e'teraaz wa inkaar ke baghair jis ne apna kafan tayyar kiya

648: Hazrat Sahal ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek aurat Rasoolullah ﷺ ke liye tayyaar shudah haashiya daar chaadar laayi raavi ne kaha kiya tum jaante ho ke Burdah kiya cheez hai? logon ne kaha Burdah chaadar ko kahte hain to us ne kaha haan khair aurat ne kaha main ne ise apne haath se tayaar kiya hai aur aap ko pahnaane ke liye laayi hoon chunaancheh uss waqt aap ko uski zaroorat bhi thi uske liye use qubool farmaliya phir aap baahar tashreef laaye to woh chaadar aap ki ezaar thi ek shakhs ne uski ta'reef ki aur kahne laga kiya hi umdah chaadar hai yeh mujhe enaayat kardijiye logon ne usse kaha toone achchha nahin kiya kyun ke Rasoolullah ﷺ ne intehaahyi zaroorat ke pesh-e-nazar use pahna tha magar toone maang li hai halaanke tu jaanta hai ke Rasoolullah ﷺ kisi ka sawaal rad nahin karte uss shakhs ne kaha Allah ki qasam! main ne pahanne ke liye nahin maangi balke isliye ke woh mera kafan ho hazrat Sahal ؓ farmate hain ke phir usi chaadar se uss shakhs ka kafan tayyaar

مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِي بِهَا، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَلَمْ نَجِدْ مَا نَكْفِيهِ إِلَّا بُرْدَةً، إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نَعْطِيَ رَأْسَهُ، وَأَنْ نَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِدْحَرِ.

(رواه البخارى: ١٢٤٦)

١٢ - بَابُ: مَنْ اسْتَعَدَّ الْكَفْنَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ

٢٣٨ : عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ بِبُرْدَةٍ مَنَسُوجَةٍ، فِيهَا حَاشِيَتُهَا، أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدَيَّ فَجِئْتُ لِأَكْسُو كَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَنَهَا فَلَانَ فَقَالَ: اكْسُبِيهَا مَا أَحْسَنَهَا، قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنَتْ، لَبَسَهَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ، مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهَا، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفْنِي. قَالَ سَهْلٌ: فَكَانَتْ كَفْنَهُ. (رواه البخارى: ١٢٤٤)

huwa.(Bukhari:1277)

Fawaaid:Iss se maloom huwa ke apni zindagi mein kafan tayyaar kar ke rakh lena qaabil-e-e'teraaz nahin hai..(Awnul Baari: 2/283)

Baab 13: Auraton ka Janaaze ke hamraah jaana (Mamnu' hai)

649:Hazrat Umme Atiyah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hamen Janaazon ke saath jaane se mana' kardiya gaya taaham koyi ziyaadah sakhti bhi na thi.

(Bukhari:1278)

Fawaaid:Iss se maloom huwa ke hukm imتنااعy'i ki kayi ek aqsaam hain kuchh to aise hain jin ka irtekaab haraam hai aur kuchh aise bhi hain jin par amal karna pasandeedah aur behtar nahi hai woh nahin karaahat ke m'ana mein hai jaisa ke iss hadees se waazeh hai.(Awnul Baari: 2/285)

Baab 14: Aurat ka apne Shauhar ke elaawah kisi doosre par sog karna

650:Hazrat Umme Habeebah رضي الله عنها Rasoolullah ﷺ ki Zaujah Mohtarmah se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate huye suna jo aurat Allah par eemaan aur yaum-e-aakhirat par yaqeen rakhti ho uske liye yeh jaayez nahin ke woh kisi mayyat par teen din se ziyaadah sog kare lekin use apne khaawind par 4maah 10din sog karna chaahiye.

(Bukhari:1281)

Fawaaid:Haamilah aurat ke sog ki muddat waza-e-hamal hai khaah chaar maah das din se pahle waz'a ho ya iske bad..(Awnul Baari: 2/286)

Baab 15:Qabron ki ziyaarat karne ka bayaan

651:Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek dafa Rasoolullah ﷺ ka guzar ek aurat par huwa jo qabr ke paas baithhi ro rahi thi aapne use farmaya Allah se dar aur sabr kar uss aurat ne aap ko na pahchaana aur kahne lagi mujh se alag raho kyun ke tumhen mujh jaisi museebat nahin padi jab use bataaya gaya ke yeh to Rasoolullah ﷺ the woh (ma'zrat ke liye) Rasoolullah ﷺ ke dar-e-daulat par haazir hoyi usne aap ke darwaaze par koyi darbaan na dekh kar arz kiya ke main ne aap ko

١٣ - بَابُ: اتِّبَاعِ النِّسَاءِ الْجَنَائِزِ

٦٣٩ : عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نُهِنَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. (رواه البخاري: ١٢٤٨)

١٤ - بَابُ: حَدِّ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا

٦٥٠ : عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا).

(رواه البخاري: ١٢٨١)

١٥ - بَابُ: زِيَارَةِ الْقُبُورِ

٦٥١ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِمَرْأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرِ، فَقَالَ: (اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي). قَالَتْ: إِلَيْكَ عَيْبِي، فَإِنَّكَ لَمْ تَصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى).

pahchaana na tha (ma'af farmaayen) aap ne farmaya sabr to shuru sadme ke waqt (mo'tabar) hota hai. (Bukhari:1283)

Fawaaid: Auraton ke liye qabron ki ziyaarat karna jaayez hai basharteke baar baar na jaayen aur ijtemaayi taur par iska ehtemaam na karen neez wahaan jaa kar khilaaq-e-shara' kamon ki murtaqib na hon Rasoolullah ﷺ ne uss aurat ko sadme par sabr ki talqeen zaroor ki hai lekin use ziyaarat-e-quboor se mana nahin farmaya hai. (Awnul Baari: 2/289)

Baab 16:Irshaad-e-Nabawi ke mayyat ke aqaarib ke rone se mayyat ko a'zaab hota hai yeh uss waqt jab rona peetna uske khaandaan ka wateerah ho.

652:Hazrat Usaamah bin Zaid رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ki ek saahabzaadi ne aap ke paas paighaam bheja ke mera ladka haalat-e-Naz'a mein hain jaldi tashreef laaiye aap ne salaam ke ba'd kahlaa bheja ke jo kuchh Allah ne liya ya enaayat kiya sab usi ka hai aur har cheez (ki zindagi) ke liye uske haan ek waqt muqarrar hai iss liye tumhen sawaab ki ummeed par sabar karna chaahiye saahabzaadi ne do baarah paighaam bheja aur qasam dilaayi ke aap zaroor tashreef laayen chunaancheh aap khade ho gaye aap ke saath Sa'd bin Ubaadah, Mu'aaz bin Jabal, Ubai bin K'ab Zaid bin Saabit ﷺ aur deegar chand ashkhaas the wahaan pahunchne par bachche ko uthha kar aap ki khidmat mein laaya gaya uss waqt uski saans ukhdi huyi thi, raavi ke khayaal ke mutaabiq saans ki aamd wa raft puraane mashkeeze ki tarah thi yeh dekh kar aap ki donon aankhon se aansoo bahne lage hazarat S'ad ﷺ ne arz kiya ya Rasoolallah! ﷺ yeh rona kaisa? Aap ne farmayah yeh rahmat hai jo Allah ne apne bandon ke dilon mein rakkhi hai aur Allah sirf unhin bandon par raham karta hai jo rahamdil hote hain. (Bukhari:1284)

Fawaaid:Maqsad yeh hai ke kisi ke marne ya museebat aane par rona ek fitrati baat hai iss par muaakhizah nahin albattah rukhsaar peetna, chillana ya zabaan se naa shukri ke kalimaat nikaalna mana hain. (Awnul Baari: 2/292)

Free downloading facility for DAWAH purpose only

(رواه البخارى: ١٢٨٣)

١٦- بَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

((يُعَذَّبُ الْمَيِّتُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)) إِذَا كَانَ النَّوْحُ مِنْ سُنَّتِهِ
٦٥٢: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُرْسِلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ: إِنَّ ابْنَ لِي فَبِضْ فَاتِنَا، فَأُرْسَلُ يُقْرِئُ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. فَأُرْسِلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِنَهَا، فَقَامَ وَمَعَهُ: سَعْدُ بْنُ عِبَادَةَ، وَمَعَادُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبِيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَرَجَالٌ، فَرَفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الصَّبِيُّ وَنَفْسُهُ تَتَقَعَّقُ، قَالَ: حَسِبْتُهُ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْهَا شَنْ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَذَا؟ فَقَالَ: (هَذِهِ رَحْمَةٌ وَأَنَا مِرْحَمٌ اللَّهُ مِنَ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءِ).

(رواه البخارى: ١٢٨٣)

653 : Hazrat Anas Bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ki saahabzaadi ke janaazah mein haazir the Aap qabr ke paas baithhe huye the main ne dekha ke Aap ki aankhon se aansoo rawaan the phir Aap ne farmaya ke kiya tum mein koyi aisa shakhs hai jisne aaj raat hambistari na ki ho? Hazrat Abu Talha رضي الله عنه ne arz kiya main hoon to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya tum hi ise qabr mein utaaro chunaancheh woh unki qabr mein utre.

(Bukhari: 1285)

٢٥٣ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، قَالَ : وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ ، قَالَ : فَقَالَ : (هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ ؟) . فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا ، قَالَ : (فَانزِلْ) قَالَ : فَزَلَّ فِي قَبْرِهَا . (رواه البخارى: ١٢٨٥)

Fawaaid:Shia' Raafzi ghalat paro paighandah karte hain ke hazrat Usmaan رضي الله عنه ne maut ke ba'd hazrat umme Kulsoom se jima' kiya tha ya un se jima' ki wajah se maut waaqe' huyi thi hadees mein iska ishaarah tak bhi nahin hai. (Awnul Baari: 2/294)

654 : Hazrat Umar رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke mayyat ko uss par uske a'izzah ke kuchh rone ki wajah se azaab diya jaata hai Hazrat Umar رضي الله عنه ki wafaat ke ba'd yeh khabar Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ko mili to unhon ne farmaya Allah Umar رضي الله عنه par raham kare Allah ki qasam! Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne yeh nahin farmaya ke momin ko uske a'izzah ke rone ki wajah se Allah Ta'ala a'zaab mein muftala karta hai balke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne yeh farmaya ke Allah Ta'ala kaafir pe uske a'izzah ke uss par rone ke baay'is a'zaab ziyaadah karta hai tumhaare liye qur'an (ki yeh aayat) kaafi hai "koyi shakhs kisi doosre ka bojh nahin uthhaayega" (Bukhari: 1288)

٢٥٤ : عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنْ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ . فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بَعْدَ مَوْتِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَتْ : رَحِمَ اللَّهُ عُمَرَ ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ لَيُعَذِّبُ الْمُؤْمِنَ بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (إِنْ اللَّهُ لَيَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) . وَقَالَتْ : حَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ : ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ . (رواه البخارى: ١٢٨٨)

Fawaaid:Uss shaks ko zaroor azaab hota hai jo apne aizzah ko marne ke ba'd rone dhone, chillane ki wasiyyat kar ke gaya ho, agar marne waale ne wasiyyat na ki ho to rishtah daaron ke rone se mayyat ko a'zaab nahin hoga. (Awnul Baari: 2/297)

655 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ek yahoodi aurat (ki qabr) par se guzre jis par uske ghar waale ro rahe the Aap ne farmaya ke yeh to iss par girya zaari karrahe hain aur ise apni qabr mein azaab ho rahaa hai.

٢٥٥ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا ، فَقَالَ (إِنَّهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهَا ، وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي

Fawaaid: Iss hadees se imam Bukhari yeh bataana chaahate hain ke rishtah daaron ke rone se uss mayyat ko a'zaab hota hai jo kufr ki haalat mein mari ho, albattah hazrat Umar ise 'aam khayaal karte the neez Abu Dawood mein hai ke aap uss aurat ki qabr par se guzre to aisa farmaya lehaazh jo fitnah gar iss hadees se barzakhi qabr ka wajood kasheed karte hain unka moqif mabni bar haqeeqat nahin hai.

Baab 17: Mayyat par noha karna makrooh hai

656 : Hazrat Mugheerah ﷺ se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmaate huye suna ke mujh par jhoot baandhna aur logon par jhoot baandhne ki tarah nahin balke jo shakhs mujh par daanistah jhoot baandhta hai use dozakh mein apna thhekaana talaash karna chaahiye aur main ne Rasoolullah ﷺ se yeh bhi suna ke Aap farmate the jis shakhs par noha kiya jaata hai use uss noha ki wajah se azaab diya jaata hai. (Bukhari: 1291)

Fawaaid: Iska matlab yeh nahin hai ke Rasoolullah ﷺ ke elaawah kisi doosre par jhoot baandhna jaayez hai balke iss qism ke jhoot ki hurmat doosre dalaayel se saabit hai.

(Awnul Baari: 2/299)

Baab 18: Jo shakhs (museebat ke waqt) apne rukhsaar ko peete woh hum se nahin

657 : Hazrat Abdullah Bin Mas'ood ﷺ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs apne rukhsaaron ko peet kar gerebaan phaad kar aur ahde jaahiliyat ki tarah cheekh chillaa kar maatam kare woh hum mein se nahin hai. (Bukhari: 1294)

Fawaaid: Maloom huwa ke museebat ke waqt gerebaan phaadna aur apne rukhsaar peetna haraam hai kyun ke isse taqdeer-e-elaahi se adm-e-raza nikalti hai agar kisi ko iski hurmat ka ilm hai uske ba wajood ise halaal samajh kar aisa karta hai to woh daaira-e-islam se khaarij hai. (Awnul Baari: 2/300)

Baab 19: Sa'd Bin Khaulah ﷺ par Rasoolullah ﷺ ka taras khaana

658 : Hazrat Sa'd Bin Abi Waqqaas ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ hajjatul wida' ke saal jabke main ek saangeen marz mein muftala tha

١٧- بَابُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ النَّيَاحَةِ عَلَى

الْمَيِّتِ

٦٥٦: عَنِ الْمُغْبِرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِنَّ

كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ،

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ

مِنَ النَّارِ). وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ:

(مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ).

(رواه البخارى: ١٢٩١)

١٨- بَابُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ

الْحُدُودَ

٦٥٧: عَنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ

لَطَمَ الْحُدُودَ، وَشَقَّ؟ الْجُيُوبَ، وَدَعَا

بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ).

(رواه البخارى: ١٢٩٣)

١٩- بَابُ: رِثَاءِ النَّبِيِّ ﷺ سَعْدُ بْنُ

خَوْلَةَ

٦٥٨: عَنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

meri i'yaadat ke liye tashreef laaye main ne arz kiya ke meri bimaari ki intehaayi shiddat ko to Aap dekh hi rahe hain main maaldaar aadmi hoon magar ek beti ke siwa mera aur koyi waaris mahin hai kiya main apne maal se do tehaayi khairaat kar sakta hoon? Aap ne farmaya: nahin, phir main ne arz kiya: kiya ek tehaayi khairaat kardoon? Aap ne farmaya: ek tehaayi ka muzaayiqah nahin agarcheh ek tehaayi bhi bahut hai. apne warsaa ko maaldaar chhodna tumhaare liye isse behtar hai ke tum unhen faqeer chhod jao aur woh logon ke saamne haath phailaate phiren tum Aallah ki khushnoodi ke liye jo kuchh sarf karoge uska ajr tumhen zaroor milega hatta ke jo niwaala apni biwi ke munh mein doge uska bhi sawaab mile ga main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! kiya main bimaari ki wajah se apne saathiyon se peechhe rah jaaounga? Aap ne farmaya tum hargiz peechhe na raho ge jo nek a'amaal karoge unse tumhaare darjaat mein ezaafah hota jaayega aur tumhaara martabah buland hota rahega aur shaayad tum ba'd tak zindah rahoge yahaan tak ke ba'z logon ko tum se nafa' pahunchega aur kuchh logon ko tumhaari wajah se nuqsaan hoga aye Allah! mere ashaab ki hijrat kaamil kar de aur unhein ediyon ke bal mat lauta (ya'ni unko makkah mein maut na aaye) lekin be chaare Sa'd Bin Khaulah ؓ jin ke liye Rasoolullah ﷺ izhare ranj wa taras karte the woh Makkah mein hi inteqaal ho gaye. (Bukhari: 1295)

Fawaaid: Hazrat Sa'd ؓ aapki peshen goyi ke misdaq muddat tak zindah rahe Allah ki taufeeq se i'raaq aur iraan unke haath se fatah huwa be shumaar log unke haathon musalmaan huye aur kayi ek unke haathon jahannam waasil huye. (Awnul Baari: 2/303)

Baab 20: Museebat ke waqt sar mudwaana mana hai

659: Hazrat Abu Moosa ؓ se rivaayat hai ke ek dafa woh sakht bimar huye aur un par ghashi taari ho gayi unka sar unke ghar ki ek aurat ki god mein tha woh rone lagi hazrat

يَعْمُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوِدَاعِ، مِنْ وَجَعِ
اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ
الْوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا
يَرْتُنِي إِلَّا ابْنَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلثِي مَالِي؟
قَالَ: (لَا). فَقُلْتُ: بِالشُّطْرِ؟ فَقَالَ:
(لَا). ثُمَّ قَالَ: (الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ،
أَوْ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ
أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً
يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تَنْفِقَ نَفَقَةً
تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا،
حَتَّى مَا تَجْعَلَ فِي فِي أَمْرَاتِكَ).
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُخَلِّفُ بَعْدَ
أَصْحَابِي؟ قَالَ: (إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ
فَتَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا إِلَّا أزدَدْتَ بِهِ
دَرَجَةً وَرَفْعَةً، ثُمَّ لَعَلَّكَ أَنْ تُخَلِّفَ
حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، وَيُضْرَبَ بِكَ
آخَرُونَ، أَلَلَّهِمْ أَمْضٍ لِأَصْحَابِي
هَجَرْتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ،
لَكِنَّ الْبَائِسَ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ). يَرْتُنِي لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ.

(رواه البخارى: 1295)

۲۰-بَابُ: مَا يَنْهَى مِنَ الْحَلْقِ عِنْدَ

الْمُصِيبَةِ

۶۵۹: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

وَجِعَ وَجَعًا، فَغَشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأْسُهُ فِي

Moosa ﷺ mein itni taaqat na thi ke use mana karte hosh aaya to kahne lage main uss shakhs se bari hoon jis se Rasoolullah ﷺ ne izhar-e-bara'at farmaya hai aur be shak Rasoolullah ﷺ ne (museebat ke waqt) chillaa kar rone waali, sar mundwaane waali aur gerebaan phaadne waali aurat se izhar-e-bara'at farmaya hai. (Bukhari:1296)

Fawaaid: Iss se muraad daayira-e-Islam se kharij hona nahin balke unke fe'l se izhar-e-bara'at aur nafrat maqsood hai. (Awnul Baari: 2/305)

Baab 21: Museebat ke waqt ghamgeen hona.

660: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah ﷺ ke paas Hazrat Zaid bin Haarisah ﷺ, Hazrat Ja'far ﷺ aur ibne Rawaah ﷺ ke shaheed hone ki khabar aayi to aap ghamgeen ho kar baithh gaye main darwaaze ki daraad se dekh rahi thi ke ek shakhs aap ke paas aaya jis ne hazrat Ja'far ﷺ ki auraton ke rone dhone ka zikr kiya aap ne hukm diya ke unhen girya zaari se mana karo chunaancheh woh gaya aur us ne waapas aakar arz kiya ke woh nahin maantain to aap ne phir yahi farmaya ke unhein mana karo chunaancheh woh dobaarah aaya aur bataya woh nahin maantain, aap ne farmaya unhein mana karo phir woh teesri martabah waapas aakar kahne laga ya Rasoolallah ﷺ! Allah ki qasam woh hum par ghaalib aagayin aur nahin maantain hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne kaha ke aakhir kaar Rasoolullah ﷺ ne farmaya: jaa! un ke munh mein khaak jhonk de. (Bukhari: 1299)

Fawaaid: Maloom huwa aurat ajnabi logon ki taraf dekh sakti hai bashar teke bad niyyati aur fitnah ka andesha na ho. (Awnul Baari: 2/307)

Baab 22: Jo Shakhs museebat ke waqt apne ranj wa gham ko zaahir na hone de

661: Hazrat Anas ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hazrat Abu Talha ﷺ ka ek beta faut ho gaya aur hazrat Abu Talha ﷺ

حَجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِيَءٌ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ ، وَالْحَالِقَةِ ، وَالشَّاقَةِ .
(رواه البخارى: 1296)

۲۱- بَابُ: مَنْ جَلَسَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ

يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ

۲۲۰: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : لَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ قَتْلَ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرَ وَابْنَ رَوَاحَةَ ، جَلَسَ يُعْرِفُ فِيهِ الْحُزْنَ ، وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْأَبَابِ شَقَّ الْأَبَابِ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرَ ، وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُنَّ ، فَذَهَبَ ، ثُمَّ آتَاهُ النَّائِيَةَ : فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطْعَمْنَ ، فَقَالَ : (أَنْهَيْتَهُنَّ) . فَاتَاهُ النَّائِيَةُ ، قَالَ : وَاللَّهِ غَلَبْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَرَعَمْتُ أَنَّهُ قَالَ : (فَاحِثٌ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ) .

(رواه البخارى: 1299)

۲۲- بَابُ: مَنْ لَمْ يُظْهِرْ حُزْنَ تَهُ عِنْدَ

الْمُصِيبَةِ

۲۲۱: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ

uss waqt ghar par maujood na the unki biwi ne bachche ko ghusl wa kafan de kar use ghar ke ek ghoshe mein rakh diya jab Abu Talha ؓ ghar aaye to poochha ladke ka kiya haal hai? unki biwi ne jawaab diya ke use araam hai aur mujhe ummeed hai ke use sukoon muyassar huwa hai. Abu Talha ؓ samjhe ke woh sach kah rahi hai raavi ke baqaul Abu Talha ؓ raat bhar apni biwi ke paas rahe aur subah ko ghusl karke baahar jaane lage to biwi ne unhen bataaya ke ladka to faut ho chuka hai phir hazrat Abu Talha ؓ ne subah ki namaaz Rasoolullah ﷺ ke hamraah ada ki aur raat ke maajra ki aap ko khabar di jis par Rasoolullah ﷺ ne farmaya ummeed hai Allah tum donon miyan biwi ko tumhaari iss raat mein barkat dega ek Ansaari shakhs ka bayaan hai ke main ne Hazrat Abu Talha ؓ (ki nasl) se 9 ladke dekhe jo haafiz-e-Qur'an the. (Bukhari:1301)

Fawaaid:Yeh Hazrat Umme Sulaim ke sabr wa isteqlaal ka nateeja tha ke uss waqt jo unke haan bachcha paida huwa uski pusht se 9 bachche haafiz-e-quran paida huye unke elaawah 4 Saabirah Shaakirah Betiyaan bhi Allah Ta'ala ne ataa keen. (Awnul Baari: 2/310)

Baab 23: Irshaad-e-Nabawi ke (Aye Ibraheem) hum teri judaayi se ranjeedah hain

662: Hazrat Anas ؓ se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke saath Abu Saif lohaar ke haan gaye jo hazrat Ibraheem ؓ ka razaayi baap tha to Rasoolullah ﷺ ne hazrat Ibraheem ؓ ko le kar bosa diya aur uske oupar apna munh rakkha uske ba'd dobaar hum Abu Saif ke haan gaye to Hazrat Ibraheem ؓ haalat-e-naza' mein the Rasoolullah ﷺ ki donon aankhon se aansoo bahne lage Abdur Rahmaan bin Auf ؓ ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ ! aap bhi rote hain aap ne farmaya Aye Ibne Auf ؓ ! yeh to ek rahmat hai phir aapne rote huye farmaya aankh

عَنْهُ قَالَ: مَاتَ ابْنُ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبُو طَلْحَةَ خَارِجٌ، فَلَمَّا رَأَتْ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، هَيَّأَتْ شَيْئًا، وَنَحْتَهُ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: كَيْفَ الْغُلَامُ؟ قَالَتْ: قَدْ هَدَأَتْ نَفْسُهُ، وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاحَ. فَبَاتَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا أَنْ يَخْرُجُ اعْلَمْتُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يُسَارِكَ لَكُمْ فِي لَيْلَتِكُمْ). قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: فَرَأَيْتَ لَهَا تِسْعَةَ أَوْلَادٍ كُلُّهُمْ قَدْ قرَأَ الْقُرْآنَ. (رواه البخارى: 1301)

۲۳- باب: قول النبي ﷺ: ((إِنَّا بِكَ لَمَحْزُونُونَ))
۶۶۲: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى أَبِي سَيْفِ الْقَيْنِ، وَكَانَ ظَمْرًا لِابْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَذْرِفَانِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: (يَا ابْنَ عَوْفٍ، إِنَّهَا

ashk baar aur dil ghamgeen hai lekin hum ko zabaan se wahi kahna hai jis se humara maalik raazi ho Aye Ibraheem hum teri judaayi se yaqeenan ranjeedah hain.

(Bukhari:1303)

رَحْمَةً). ثُمَّ اتَّبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ
عَلَيْهِ السَّلَامُ: (إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ
يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا،
وَأَنَا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ
لَمَحْزُونُونَ). (رواه البخارى: ١٣٠٣)

Fawaaid:Matlab yeh hai ke museebat ke waqt aankhon ke ashk baar aur dil ka afsurdah hona ek insaani taqaaza hai jo qaabil-e-ma'afi hai.(Awnul Baari: 2/312)

Baab 24: Mareez ke paas rona.

663: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Hazrat Sa'd bin Ubaadah ؓ bimaar huye to Rasoolullah ﷺ Hazrat Abdur Rahmaan bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqaas aur Abdullah bin Mas'ood ؓ ke saath unki i'yaadat ko tashreef le gaye aur jab aap wahaan pahunche to use apne Ahl-e-Khana ke darmiyaan ghira huwa paaya aap ne poochha kiya inteqaal ho gaya hai? logon ne arz kiya nahin phir aap ro pade aur aap ko rota dekh kar doosre log bhi rone lage uske ba'd aap ne farmaya khabardaar! Allah Ta'ala aankh se aansoo bahaane aur dil mein ranjeedah hone par azaab nahin deta balke aap ne apni zabaan ki taraf ishaarah karke farmaya iski wajah se azaab ya raham karta hai aur be shak mayyat par uske azeezon ke chillaa kar girya wa zaari karne se use azaab kiya jaata hai.(Bukhari:1304)

٢٤- بَابُ: الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمَرِيضِ
٦٦٣: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اشْتَكَى سَعْدُ ابْنُ
عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ
يَعُودُهُ، مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ،
وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَلَمَّا دَخَلَ
عَلَيْهِ، فَوَجَدَهُ فِي غَاشِيَةِ أَهْلِهِ، فَقَالَ:
(قَدْ قَضَى؟). قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ،
فَبَكَى النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمَ
بُكَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بَكَوْا، فَقَالَ: (أَلَا
تَسْمَعُونَ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ
الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ
يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ
أَوْ يَرْحَمُ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذِّبُ بِبُكَاءِ
أَهْلِهِ عَلَيْهِ). (رواه البخارى: ١٣٠٤)

Fawaaid:Jab koyi aisi nishaani zaahir ho jiski wajah se mareez ko zindah rahne ki ummeed na ho to aise haalat mein izhaar-e-afsos aur aansoo bahaana jaayez hai basoorat digar mareez ko tasalli dena chaahiye.

Baab 25: Noha aur girya zaari se mumaani'at aur isse daantna.

664: Hazrat Umme Atiyah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne bai'at lete waqt hum logon se yeh ahad liya tha ke noha na

٢٥- بَابُ: مَا يُنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَالْبُكَاءِ
وَالزَّجْرِ عَنْ ذَلِكَ
٦٦٤: عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ

karengi magar uss ahad ko sirf paanch auraton ne poora kiya ya'ni Umme Sulaim, Umme O'laa, Abu Sabrah ki beti jo mu'aaz ki biwi thin aur mazeed do auraten ya yoon kaha ke Abu Sabrah ki beti, Mu'aaz ki biwi aur ek koyi doosri aurat hai. (Bukhari:1306)

الْبَيْعَةُ أَنْ لَا تَنُوحَ، فَمَا وَفَّتْ مِنْ أَمْرَأَةٍ
غَيْرِ خَمْسٍ نِسْوَةٍ: أُمِّ سَلِيمٍ، وَأُمِّ
الْعَلَاءِ، وَابْنَةَ أَبِي سَبْرَةَ أَمْرَأَةً مُعَاذٍ،
وَأَمْرَأَتَيْنِ، أَوْ ابْنَةَ أَبِي سَبْرَةَ، وَأَمْرَأَةً
مُعَاذٍ وَأَمْرَأَةً أُخْرَى. (رواه البخارى: ١٣٠٦)

Fawaaid: Hazrat Umar ؓ jab kisi ko wafaat ke moqa par ghair sharay'i rota dekhte to use patthar maarte aur uske munh mein mitti thhoonste. (Awnul Baari: 2/315)

Baab 26: Janaazah dekh kar khada hona

665: Hazrat Aamir bin Rabi'a ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya jab tum mein se koyi janaazah dekhe khaah uske saath na jaaye magar khada zaroor ho jaaye hatta ke woh janaazah ko peechhe chod de ya khud uske peechhe ho jaaye ya peechhe chhodne se qabl use zameen par rakh diya jaaye.

(Bukhari:1308)

Fawaaid: Janaazah dekh kar khade hone ka hukm pahle tha Rasoolullah ﷺ ne aakhir kaar iss par amal dar aamad rok diya tha. (Awnul Baari: 2/317)

Baab 27: Janaaze ke liye khada ho to kab baithhe?

666: Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai ke unhon ne Marwaan ؓ ka haath pakda aur woh donon ek janaaze ke saath the aur janaazah rakkhe jaane ke qabl baithh gaye itne mein Hazrat Abu Say'eed Khudri ؓ aa gaye unhon ne Marwaan ؓ ka haath pakad kar kaha uthh khada ho yaqeenan Abu Hurairah ؓ ko ma'loom hai ke Rasoolullah ﷺ ne hamen isse mana farmaya hai iss par hazrat Abu Hurairah ؓ ne farmaya ke iss ne sach kaha hai. (Bukhari:1309)

٢٦٥ - بَابُ: الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ
عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: (إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ جَنَازَةً،
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَاشِيًا مَعَهَا فَلْيَقُمْ حَتَّى
يُخَلِّفَهَا، أَوْ تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوَضَّعَ مِنْ قَبْلِ
أَنْ تُخَلِّفَهُ). (رواه البخارى: ١٣٠٨)

٢٦٦ - بَابُ: مَتَى يَقْعُدُ إِذَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَخَذَ مَرْوَانَ وَهُمَا فِي جَنَازَةٍ، فَجَلَسَا
قَبْلَ أَنْ تُوَضَّعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: قُمْ،
فَقَالَ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: صَدَقَ.

(رواه البخارى: ١٣٠٩)

Fawaaid: Aksar Ahl-e-ilm ka yeh moqif hai ke janaaze ke hamraah jaane waale uss waqt tak na baithhen jab tak use zameen par na rakkha jaaye, Imam Bukhari ne iss hadees par isi tarah unwaan qaayem kiya hai "Jo shakhs janaaze ke saath ho use chaahiye ke zameen par uske rakkhe jaane se pahle na baithhe agar koyi baithh jaaye to use khade hone ke liye kaha jaaye" Nasayi mein hazrat Abu Hurairah aur Hazrat Abu Say'eed ؓ se iski taayeed mein ek hadees bhi marvi hai. (Awnul Baari: 2/318)

Baab 28: Yahoodi ke janaazah ke liye khada hona

667: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hamaare saamne se ek janaazah guzra to Rasoolullah ﷺ kahde ho gaye aur hum bhi khade ho gaye hum ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ ! yeh to ek yahoodi ka janaazah tha aap ne farmaya ke jab tum janaazah dekho to khade ho jaaya karo. (Bukhari:1311)

Fawaaid: Janaazah khaah musalmaan ka ho ya kaafir ka use dekh kar maut ko yaad karna chaahiye ke hamen bhi ek din marna hai alhattah janaaze ko dekh kar khada hona zaroori nahin jaisa ke hazrat Ali رضي الله عنه ke amal aur bayaan se zaahir hota hai. (Awnul Baari: 2/318)

Baab 29: Auraton ke siwa sirf mardon ko janaazah uthhaana chaahiye

668: Hazrat Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jab janaazah (tayyaar karke) rakh diya jaata hai aur log use apne kandhon par uthha lete hain phir agar woh nek hota hai to kahta hai mujh ko jaldi le chalo aur agar nek nahin hota hai to kahta hai haaye afsos! mujhe kahaan liye jaate ho? uski aawaaz insaan ke elaawah har cheez sunti hai kyun ke agar insaan sun le to be hosh ho jaaye.

(Bukhari: 1314)

Fawaaid: Iss par sab Ulmaa ka ittefaaq hai ke janaazah mardon ko hi uthhana chaahiye iske muta'alliq musnad Abi Ya'la mein ek rivaayat bhi hai jiss mein saraahat hai ke auraton ko janaazah nahin uthhaana chaahiye kyun ke woh taba'an kamzor aur naa tawaan hoti hain.

(Awnul Baari: 2/320)

Baab 30: Janaazah ko Jaldi le jaana

669: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya janaazah jaldi le chalo kyun ke agar woh nek hai to tum use khair ki taraf le jaarahe ho aur agar woh bura hai to woh ek buri cheez hai jis ko tum apni gardan se utaar kar sabakdosh hoge. (Bukhari:1315)

٢٨- بَاب: مَنْ قَامَ لِحَنَازَةِ يَهُودِيٍّ

٢٦٤: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ بِنَا جَنَازَةً، فَقَامَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَقُمْنَا لَهُ، فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا جَنَازَةٌ يَهُودِيٍّ؟ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا).

(رواه البخارى: ١٣١١)

٢٩- بَاب: حَمَلِ الرَّجَالِ الْجَنَازَةَ

دُونَ النِّسَاءِ

٢٦٨: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَازَةُ، وَاحْتَمَلَهَا الرَّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ: قَدِ مُونِي، وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الْإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ).

(رواه البخارى: ١٣١٤)

٣٠- بَاب: السَّرْعَةِ بِالْجَنَازَةِ

٢٦٩: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سَوَى ذَلِكَ، فَسَرِّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ).

(رواه البخارى: ١٣١٥)

Fawaaid:Janaaze ko jaldi se le jaane se muraad daudna nahin balke aadat se ziyaadah tez chalna hai Ulma ke nazdeek aisa karna mustahab hai.(Awnul Baari: 2/322)

Baab 31: Janaaze ke saath jaane ki fazeelat

670: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke un se kaha gaya Abu Hurairah رضي الله عنه kahte hain ke jo shakhs janaaze ke saath jaayega use ek qeeraat sawaab milega uss par Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما ne farmaya! Abu Hurairah رضي الله عنه hamen bahut hadeesen sunaate hain. phir Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne bhi Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه ki tasdeeq farmayi aur kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko aisa hi farmate suna hai uss par Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما farmaane lage phir to hum ne bahut se qeeraat ka nuqsaan karliya hai.

(Bukhari:1323,1324)

Fawaaid:Bukhari ki doosri rivaayat mein hai ke jo shakhs mayyat ke dafan tak saath rahta hai use do qeeraat ke baraa bar sawaab milta hai aur yeh do qeeraat do bade pahaadon ki maanind hain.

(Al-Janaayiz:1325)

Baab 32: Qabron par Masjid banaana haraam hai

671: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karti hain ke aap ne apni marz-e-wafaat mein yeh farmaya Allah Ta'ala yahood-wa-Nasaara par la'nat kare ke unhon ne apne paighambaron ki qabron ko sajdah gaah banaa liya Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmaati hain ke agar yeh dar na hota to aap ki qabr-e-mubaarak ko bilkul zaahir kardiya jaata magar mujhe dar hai ke usko bhi sajdah gaah na bana liya jaaye.(Bukhari:1330)

Fawaaid:Rasoolullah ﷺ ka farmaan hai ke meri qabr par eid ki tarah mela na lagaana lekin afsos aaj ka naam nehaad musalmaan iss farmaan-e-Nabawi ﷺ ki khul kar mukhaalifat kar raha hai Allah ka shukr hai ke hukoomat-e-saudiya ne abhi tak iss par control kiya huwa hai.

Baab: 33: Zachgi ke dauraan marne waali aurat ki namaaz-e-janaazah padhna

672: Hazrat Samurah bin Jundub رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne

١٣٢٠ باب: فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
٦٤٠: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ. فَقَالَ: أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَيْنَا. فَصَدَّقَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيضٍ كَثِيرَةٍ.

(رواه البخارى: ١٣٢٣، ١٣٢٤)

١٣٢٢ باب: مَا يُكْرَهُ مِنْ اتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْقُبُورِ
٦٤١: عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: (لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا). قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا. (رواه البخارى: ١٣٣٠)

١٣٢٣ باب: الصَّلَاةُ عَلَى النِّفْسَاءِ إِذَا مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا

٦٤٢: عَنِ سُمْرَةَ بِنْتِ جُنْدَبٍ رَضِيَ

Rasoolullah ﷺ ke peechhe ek aisi aurat ki namaaz-e-janaazah padhi jo dauraan-e-zachgi faut hogayi thi aap uske darmiyaan khade huye the. (Bukhari:1331)

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَّهَا. (رواه البخارى: ١٣٣١)

Fawaaid: Agar mard ka janaazah ho to uske sar ke baraa bar khada hona chaahiye.

(Awnul Baari:2/330)

Baab 34: Namaaz-e-Janaazah mein surah Faatiha padhna

673: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke unhon ne ek dafa janaazaha mein surah faatiha ba aawaaz buland padhi aur kaha ke (main ne iss liye aisa kiya hai) taake tum log jaan lo ke iska padhna sunnat hai.

(Bukhari:1335)

٣٤ باب: قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ

عَلَى الْجَنَازَةِ

٦٤٣: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. (رواه البخارى: ١٣٣٥)

Fawaaid: Chunke janaazah bhi ek namaaz hai iss liye iss mein surah faatiha padhna zaroori hai iss hadees mein iski saraahat maujood hai Nasayi ki rivaayat mein mazeed koyi surat milaane ka bhi zikr hai yeh bhi saraahat hai ke faatiha pahle takbeer ke bad padhi jaaye. (Awnul Baari:2/331)

Baab 35: Murdah jooton ki aawaaz ko (bhi) sunta hai

674: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya jab murdah apni qabr mein rakh diya jaata hai aur uske saathi dafan se faraaghat ke ba'd waapas hote hain to woh unke jooton ki aawaaz sunta hai uss waqt us ke paas do farishte aate hain yeh use baithha kar poochhte hain ke tu uss shakhs ya'ni Muhammad ﷺ ke muta'alliq kiya e'teqaad rakhta tha agar woh kahta hai main gawaahi deta tha ke woh Allah ke bande aur uske Rasool hain to use kaha jaata hai ke tu apne dozakhi maqaam ko dekh iske e'waz Allah Ta'ala ne tujhe jannat mein thhekaana diya hai Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke woh donon maqamaat ko dekhta hai lekin kaafir ya munaafiq ka yeh jawaab hota hai ke main kuchh nahin jaanta jo doosre log kahte the wahi main bhi kah deta tha phir usse kaha jaata hai ke na tune aql se kaam liya aur na ambiyaa ki pairwi ki phir uske donon kaanon

٣٥ باب: الْمَيِّتُ يَسْمَعُ خَفَقَ

النَّعَالِ

٦٤٢: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الرَّعْبُدُ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ، أَتَاهُ مَلَكَانِ فَأَقْعَدَاهُ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ ﷺ؟ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، فَيَقَالُ: أَنْظِرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، أَبَدَلَكَ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ). قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ، أَوْ الْمُنَافِقُ: فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَقَالُ: لَا دَرَيْتَ

ke darmiyaan lohe ke hathode se ek zarb lagaayi jaati hai ke woh cheekh uthhta hai us ki cheekh wa pukaar ko jin wa ins ke elaawah uske aas paas ki tamaam cheezen sunhti hain. (Bukhari:1338)

وَلَا تَلَيْتَ، ثُمَّ يُضْرَبُ بِمِطْرَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَنْ يَلِيهِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ).

(رواه البخارى: ١٣٣٨)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke jis qabr par mayyat ko dafan kiya jaata hai sawaal wa jawaab bhi wahin hote hain phir rahat wa azaab bhi iss qabr mein hai ba'z logon ne barzakhi qabr ka shaakhsaanaah eejaad kiya hai jis ka kutub-e-ahaadees mein koyi suboot nahin hai.

Baab 36: Arz-e-Muqaddas ya kisi aur mutabarrak maqaam mein dafan hone ki aarzoo karna

675: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab malakul maut ko hazrat Moosa عليه السلام ke paas bheja gaya woh un ke paas aaye to unhon ne ek tamaanchah raseed kiya (Jis se uski ek aankh phoot gayi) Farishte ne apne rab ke paas jaakar arz kiya ke tune mujhe ek aise bande ke paas bheja hai jo marna nahin chaahata Allah Ta'ala ne uski aankh durst kardi aur famaya ke Moosa ke paas do baarah jaakar kaho ke woh apna haath ek bail ki peethh par rakkhen to jitne baal unke haath ke neechे aayenge har baal ke badle unhen ek saal ki zindagi di jaayegi uss par hazrat Moosa عليه السلام ne kaha Aye Parwar digaar! phir kiya hoga? Allah ne farmaya phir maut aayegi Moosa عليه السلام ne kaha to phir abhi aa jaaye unhon ne Allah se du'a ki ke unhein ek patthar phenkne ki miqdaar ke baraabar arz-e-muqaddas se qareeb karde raavi kahta hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya agar main wahaan hota to Moosa عليه السلام ki qabr surkh teela ke paas raasta ke kinaare par tumhen dekha deta.

(Bukhari:1339)

Manajaat-e-motarjim: Aarzoo hai dil mein mujhe naseeb kab woh din ho marun main Madinah mein Baqi mein mera madafan ho.

Baab 37: Shaheed ki Namaaz-e-Janaazah

676: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم shuhdaa-e-uhad mein se do do shohdaa

٢٤٥: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَقَفَا عَيْنَهُ فَرَجَعَ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: أُرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ، فَرَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَيْنَهُ، وَقَالَ: ارْجِعْ، فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْتَوْرٍ، فَلَهُ بِكُلِّ مَا غَطَّتْ بِهِ يَدَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَنَةٌ. قَالَ: أَيُّ رَبِّ، ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ: فَالآنَ، فَسَأَلَ اللَّهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمِيَّةً بِحَجْرٍ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (فَلَوْ كُنْتُ تَمَّ لَأُرِيْتُكُمْ قَبْرَهُ، إِلَى جَانِبِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ الْكُتَيْبِ الْأَحْمَرِ).

(رواه البخارى: ١٣٣٩)

٢٤٦: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ

ko ek ek kapde mein rakh kar farmate in mein se qur'an ka ilm kis ko ziyaadah tha? to jab un mein se kisi ki jaanib ishaarah kiya jaata to qabr mein aap use pahle rakhte aur farmaate ke qiyaamat ke din main inke muta'alliq gawaahi dunga aur aap ne unhen isi tarah khon lage huye baghair ghusl diye dafan karne ka hukm diya aur un par namaaz-e-janaazah bhi na padhi. (Bukhari:1343)

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أَحَدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (إِيَهُمْ أَكْثَرُ أَخَذَ الْقُرْآنَ). فإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: (أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُغْسَلُوا، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ. (رواه البخارى: ١٣٤٣)

Fawaaid: Shaheed ki namaaz-e-janaazah to padhi jaa sakti hai zaroori nahin lekin uske liye e'laanat wa ishteharaat na jaaye hain.

Baab 38: Jab koyi Musalmaan Bachcha faut hojaaye to kiya uski namaaz-e-janaazah padhna chaahiye? neez kiya bachche par islam pesh kiya jaaye?

677: Hazrat Uqbah bin Aamir رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ek roz (Madinah se) baahar tashreef laaye aur shudaa-e-Uhad par uss tarah namaaz padhi jaise aap har mayyat par padhte the phir waapas aakar mimbar par khade huye uar farmaya main tumhaara pesh kheema hoon tumhaara gawaah hoon Allah ki qasam main iss waqt apne hauz ko dekh rahaa hoon aur mujhe rooye zameen ke khazaanon ki kunjiyaan ya zameen ki chaabiyaan di gayi hain Allah ki qasam! mujhe tumhaare muta'alliq yeh andesha nahin ke tum mushrik ban jaaoge lekin mujhe yeh dar hai ke tum duniya ki taraf raaghib ho jaaoge. (Bukhari:1344)

٣٨ بَابُ: إِذَا أَسْلَمَ الصَّبِيُّ فَمَاتَ، هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ؟ وَهَلْ يُعْرَضُ عَلَى الصَّبِيِّ الْإِسْلَامُ؟

٦٤٤: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ يَوْمًا، فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ: (إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ، وَمَا أَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا).

(رواه البخارى: ١٣٤٤)

Fawaaid: Imam Nauvi رحمته الله عليه ne kaha hai ke Salaat se muraad yahaan dua' hai ya'ni jaise mayyat ke liye dua' aap kiya karte the aise hi dua' farmaayi. (Awnul Baari:2/241)

678: Hazrat Abdulla bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Hazrat Umar رضي الله عنه Rasoolullah ﷺ ke saath deegar chand logon ke saath mein Ibne Sayyaad ke paas gaye yahaan tak ke unhon ne use bani Maghaalah ke

٦٤٨: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي رَهْطٍ قَبْلَ ابْنِ

ghadhiyon ke qareeb kuchh ladkon ke saath khelta huwa paaya Ibne Sayyaad uss waqt qareeb buloogh tha use Rasoolullah ﷺ ki aamad ka ilm na huwa hatta ke aap ne apne dast-e-mubaarak se use maara phir ibne Sayyaad se farmaya kiya tu iss baat ki shahaadat deta hai ke main Allah ka Rasool hoon? uss ne aapko dekha aur kahne laga main gawaahi deta hoon ke aap anpadh logon ke Rasoolon hain phir ibne Sayyaad ne Rasoolullah ﷺ se poochha aap iss baat ki gawaahi dete hain ke main Allah ka farastaadah hoon? aap yeh baat sun kar uss se alag ho gaye aur farmaya ke main Allah aur uske Rasool par eemaan laata hoon phir aap ne us se poochha ke tu kiya dekhta hai? Ibne Sayyaad bola ke mere paas sachchi jhooti donon khabrein aati hain uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya tujh par mua'amlah mushtabah kardiya gaya hai phir aapne farmaya main ne tere liye ek baat apne dil mein sochi hai bataao woh kiya hai? Ibne Sayyaad ne kaha woh "dukh" hai aap ne farmaya ke dafa hojao tu apni basaat se kabhi aage na badhega hazrat Umar ﷺ ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ mujhe ejaazat deejiye main iski gardan udaadun Rasoolullah ﷺ ne farmaya agar yeh wahi dajjaal hai to tum iss par qaaboo nahin paa sakte aur agar woh nahin to phir uske qatl se koyi faayidah nahin.

Ibne Umar رضي الله عنهما kahte hain uske bad phir ek dafa Rasoolullah ﷺ aur Hazrat Ubai bin K'ab ﷺ uss baagh mein gaye jis mein Ibne Sayyaad tha aap chaahthe the ke ibne Sayyaad se kuchh baaten sunen qabl iske ke woh aap ko dekhe Rasoolullah ﷺ ne use bayin haalat mein dekha ke woh ek chaadar odhe kuchh gunguna raha tha ba wajood ke aap darakhton ki aad mein chal rahe the uski maan ne aap ko dekh liye aur ibne Sayyaad

صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصَّبِيَّانِ، عِنْدَ أُطْمِ بَنِي مُعَاَلَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادِ الْحُلْمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: (تَشْهَدُ أُنَى رَسُولِ اللَّهِ). فَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأَمِيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَتَشْهَدُ أُنَى رَسُولِ اللَّهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: (أَمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ). فَقَالَ لَهُ: (مَاذَا تَرَى؟) قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (خُلِطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ). ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنِّي قَدْ حَبَّأْتُ لَكَ حَبِيئًا). فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُ، فَقَالَ: (إِخْسَاءٌ، فَلَنْ تَعُدَّو قَدْرَكَ). فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلِّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ). وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنِّطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَنْ كَعْبٍ، إِلَى النَّحْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَحْتَلِ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا، قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَأَاهُ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ، يَعْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمَزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ، فَرَأَتْ أُمَّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ يَتَّقِي بِجَدْوَعِ

ko pukara aye saaf! (yeh ibne Sayyaad ka naam hai) yeh Muhammad ﷺ aa gaye jis par ibne Sayyaad uthh baithha Rasoolullah ﷺ ne farmaya agar yeh aurat usko rahne deti to woh apna haal bayaan karta.

(Bukhari:1354,1355)

النُّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافٍ، وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ، هَذَا مُحَمَّدٌ ﷺ، فَفَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَوْ تَرَكَتَهُ بَيْنَ).

(رواه البخارى: ١٣٥٤، ١٣٥٥)

Fawaaid: Ibne Sayyaad madinah mein ek yahoodi nazaad ladka tha Rasoolullah ﷺ ko iski baz alaamaton se shubah huwa ke shaayad aayindah dajjaal ka roop dhaarega Imam Bukhari ka matlab yeh hai ke qareebul buloogh bachche par islam pesh kiya jaa sakta hai

(Awnul Baari:2/344)

679: Hazrat Anas ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek yahoodi ladka Rasoolullah ﷺ ki khidmat kiya karta tha jab woh bimaar huwa to Rasoolullah ﷺ uski i'yaadat ko tashreef le gaye aur uske sirhaane baithh kar farmaya tu Musalmaan ho ja to usne apne baap ki taraf dekha jo uske paas baithha tha uske baap ne kaha Abul Qasim ﷺ ki etaa'at karo, chunaanche woh musalmaan ho gaya tab Rasoolullah ﷺ yeh farmate huye baahar tashreef le aaye Allah ka shukr hai ke usne iss ladke ko aag se bacha liya. (Bukhari:1356)

٦٧٩: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: (أَسْلَمَ). فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدُهُ، فَقَالَ لَهُ: أَطْعَمَ أَبُو الْقَاسِمِ ﷺ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ).

(رواه البخارى: ١٣٥٦)

Fawaaid: Maloom huwa ke mushrik se khidmat li jaa sakti hai aur uski teema daari karna bhi jaayez hai. (Awnul Baari:2/348)

680: Hazrat Abu Hurairah ﷺ se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya har bachcha fitrat-e-Islam par paida hota hai lekin waaledain use yahoodi ya nasraani ya majoosi bana dete hain jis tarah jaanwar sahih wa saalim bachcha janam dete hain kiya tum koyi naak kaan kata dekhte ho? phir Hazrat Abu Hurairah ﷺ yeh aayat telaawat karte "Yeh woh fitrat-e-islam hai jis par Allah ne logon ko paida farmaya hai aur fitrat-e-elaahi mein koyi tabdili nahin ho sakti yahi qaayem rahne waala deen hai."

(Bukhari: 1359)

٦٨٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ، أَوْ يَمَجْسَانِهِ، كَمَا تَنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بِهَيْمَةِ جَمَاعَةٍ، هَلْ تُحْسِنُونَ فِيهَا مِنْ جَدَعَاءَ). ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ﴿فَطَرَتِ اللَّهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ. ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾

(رواه البخارى: ١٣٥٩)

Fawaaid: Matlab yeh hai ke agar waaledain ki ta'leem wa tarbiyyat aur Society ka asar wa rusookh bachche ki fitrat se chhed chhaad na kare to bachcha deen-e-Islam ka pairokaar aur uske ahkaam ka kaarband hoga.

Baab 39: Agar Mushrik mar-te waqt kalima-e-tauheed kah de to (kiya uss ki maghfirat ho sakti hai?)

681: Hazrat Musayyib bin Hazn رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Abu Talib marne laga to Rasoolullah ﷺ uske paas tashreef laaye wahaan uss waqt Abu Jahal bin Hishaam aur Abdullah bin Abi Umayyah bin Mugheerah bhi the Rasoolullah ﷺ ne Abu Taalib se kaha Aye chacha! kalima-e-Tauheed Laailaha illallah kah dijiye to main Allah ke haan tumhaari gawaahi dunga Abu Jahal aur Abdullah bin Abi Umayyah bole Aye Abu Talib! kiya tum apne baap Abdul Muttalib ke tareeqa se phirte ho? Rasoolullah ﷺ to baar baar use kalima-e-tauheed ki talqeen karte rahe aur woh donon bhi apni baat baraabar dohraate rahe hatta ke Abu Taalib ne aakhir mein kaha ke woh Abdul Muttalib ke tareeqe par hain aur **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** kahne se inkaar kar diya jis par Rasoolullah ﷺ ne farmaya ab main tumhaare liye uss waqt tak maghfirat karta rahunga jab tak mujhe iss se mana' na kardiya jaaye uss par Allah Ta'ala ne yeh aayat naazil farmayi ke "Nabi ke liye yeh jaayez nahin ke woh mushrikeen ke liye du'a-e-maghfirat karen agarcheh woh qareebi rishte daar hi hon. (Bukhari: 1360)

Fawaaid: Agar maut ki a'laamaten zaahir na hon aur na hi maut ka yaqeen ho to maut ke waqt eemaan laana faayidah de sakta hai mumkin hai ke Rasoolullah ﷺ ne Abu Talib ko naza' se pahle eemaan ki da'wat di ho. (Awnul Baari: 2/351)

Baab 40: Aalim ka qabr ke paas (baithh kar) naseehat karna jabke uske shaagird ird gird baithhe hon.

682: Hazrat Ali رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ek janaazah ke saath baqi' gharqad mein the ke Rasoolullah ﷺ hamare qareeb tashreef laakar baithh gaye Aap ke haath mein ek chhadi thi Aap ne sar jhuka

٣٩- بَابُ: إِذَا قَالَ الْمُشْرِكُ عِنْدَ الْمَوْتِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

٢٨١: عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ حِزْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوُفَاةَ، جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنَ مُعَيَّرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَبِي طَالِبٍ: (يَا عَمُّ، قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ). فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ، أَتُرْعَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؟، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْزِضُهَا عَلَيْهِ، وَيَعُوذَانِ بِبَيْتِكَ الْمَقَالَةِ، حَتَّى قَالَ أَبُو طَالِبٍ آخِرَ مَا كَلَّمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. وَأَبِي أَنْ يَقُولَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمَّا وَاللَّهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنُكِّ عَنْكَ). فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ).

(رواه البخارى: ١٣٦٠)

٤٠- بَابُ: مَوْعِظَةُ الْمُحَدِّثِ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقُعُودُ أَصْحَابِهِ حَوْلَهُ

٢٨٢: عَنِ عَلِيِّ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيْعِ الْعُرْقَدِ، فَأَتَانَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ، وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ، فَكَسَّ، فَجَعَلَ يَنْكُثُ

liya aur lakdi se neeche kuraidne lage phir farmaya tum mein se koyi aisa jaandaar nahin jiski jagah jannat ya dozakh mein na likkhi ho aur har shakhs ka nek bakht ya bad naseeb hona bhi likkha huwa hai uss par ek shakhs ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! phir hum uss nawishtah par e'temaad karke a'mal na chhod den kyun ke hum mein se jo shakhs khush naseeb hoga woh ahle sa'aadat ke amal ki taraf ruju' karega aur jo shakhs bad bakht hoga woh ahle shaqaawat ke amal ki taraf ruju' kar jaayega Aap ne farmaya ke Say'eed ko amal-e-sa'aadat ki taufeeq di jaati hai aur shaqi ke liye amle shaqaawat aasaan kar diya jaata hai uske ba'd Aap ne yeh aayat telawat farmayi. Phir jo shakhs sadqa dega aur parhez gaari ikhtiyaar karega aur umdah baat ki tasdeeq karega hum use (amle sa'aadat) ki taufeeq denge.(Bukhari: 1362)

Fawaaid:Yeh hadees isbaat-e-taqdeer ke liye ek a'zeem daleel ki haisiyat rakhti hai Rasoolullah ﷺ ke farmaan ka matlab yeh hai ke hum chunke Allah ke bande hain lehaazah bandagi aur uske ahkaamaat ki baja aawari humaara kaam hona chaahiye Allah ki taqdeer ka hamen ilm nahin hai ke uske sahaare amal tark kardiya jaaye.(Awnul Baari:2/354) **Note:** A'mal chhode kaise jaa sakte hain? achchhe aur bure amal to tai shudah hain aur anjaam ka madaar unhen a'amaal par hai. (Alvi)

Baab 41: Khud kashi karne waale ke baare mein kiya aaya hai?

683 : Hazrat Saabit bin Zahhaak رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya jo shakhs islam ke elaawah kisi mazhab ki daanista qasam uthaaye to woh waisa hi hoga jaisa usne kaha hai aur jo shakhs tez hathyaar se apne aap ko maar daale usko usi hathyaar se jahannam mein azaab diya jaayega.

(Bukhari: 1363)

Fawaaid:Imam Bukhari ka maqsad yeh hai ke jab khud kashi karne waala jahannami hai to uski namaaz-e-janaazah na padhi jaaye lekin Nasayi ki rivaayat mein hai ke khud kashi karne waale ki namaaz-e-janaazah Rasoolullah ﷺ ne nahin padhi thi albatta apne sahaba kiram ko uss se nahin roka tha maloom huwa ke asar wa rusookh rakhne waale hazraat aise insaan ki namaaz-e-janaazah na padhen taake doosron ko ibrat ho.(Wallahu A'lam)

684 : Hazrat Jundab رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya ek shakhs ko zakhm lag gaya tha

بِمُخَصَّرَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ، أَوْ مَا مِنْ نَفْسٍ مَنفُوسَةٍ، إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَالْأَقْدُ كُتِبَتْ: شَقِيَّةٌ أَوْ سَعِيدَةٌ). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا تَتَكَلَّمُ عَلَيَّ كِتَابِنَا وَنَدْعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى عَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ؟ قَالَ: (أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ السَّعَادَةِ وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيَسِّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ). ثُمَّ قَرَأَ: (فَأَمَّا مَنْ أُعْطِيَ وَاتَّقَى). (الآية). (رواه البخارى: 1362)

٢١ - بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَاتِلِ النَّفْسِ ٦٨٣ : عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ، كَأَذِيْبًا مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ كَمَا قَالَ. وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ، عُذِّبَ بِهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ). (رواه البخارى: 1363)

٦٨٤ : عَنْ جُنْدَبِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَانَ بَرَجُلٍ

usne apne aap ko maar daala to Allah Ta'ala ne farmaya chunke mere bande ne mujh se sabqat chaahi (pahle apni jaan le li) lehaaza main ne uss par jannat ko haraam kar diya hai. (Bukhari: 1364)

Fawaaid: Ya'ni khud kashi karne waale ne sabr wa himmat se kaam na liya balke apni 'maut parwardigaar ke hawaale karne ke bajaaye jald baazi ka muzaahirah kiya halaanke Allah ne uski maut ke waqt par use khabar nahin kiya tha. lehaaza iss saza ka haqdaar thahra jo hadees mein bayaan huyi hai. (Awnul Baari:2/358)

685 :Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo khud apna gala ghont le woh dozakh mein apna gala ghonta hi rahega aur jo shakhs nezah maar kar khud kashi kar le woh dozakh mein bhi khud ko nezah maarta hi rahe ga. (Bukhari: 1365)

Fawaaid: Agarcheh khud kashi karne waale ki saza yeh hai ke woh jahannam mein rahe lekin Allah Ta'ala ahl-e-tauheed par raham wa karam farmayega aur uss tauheed ki barkat se unhein aakhir kaar jahannam mein se nikaal le ga. (Awnul Baari:2/359)

Baab 42: Logon ka mayyat ki ta'reef karna.

686: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke log ek janaazah le kar guzre to sahaaba kiraam رضي الله عنهم ne uski ta'reef ki uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke uske liye waajib ho gayi uske ba'd doosra janaazah le kar guzre to sahaaba kiraam رضي الله عنهم ne uski buraayi ki to Rasoolullah ﷺ ne farmaya uske liye laazim ho gayi uss par hazrat Umar رضي الله عنه ne kaha ke kiya waajib ho gaya? Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke pahle shakhs ki tum ne ta'reef ki to uske liye jannat waajib ho gayi aur doosre ki tum ne buraayi ki to uske liye jahannam laazim ho gayi kyun ke tum log zameen mein Allah ke taraf se gawaahi dene waale ho. (Bukhari:1367)

Fawaaid: Mustadrak haakim mein hai ke Sahaaba Kiraam رضي الله عنهم ne pahle shakhs ke muta'alliq kaha ke woh Allah aur uske Rasool se muhabbat rakhta tha aur Allah ke ahkaam ke bajaa aawari mein koshish karta tha aur doosre shakhs ke muta'alliq kaha ke woh Allah aur uske Rasoolullah ﷺ se bughz rakhta tha aur gunaaah mein masroof rahata tha. (Awnul Baari:2/360)

687: Hazrat Umar bin Khattaab رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya jis musalmaan ke nek hone ki

جِرَاحٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: بَدْرِنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ، حَرَمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. (رواه البخارى: ١٣٣٦)

٦٨٥ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الَّذِي يَخْتُقُ نَفْسَهُ يَخْتُقُهَا فِي النَّارِ، وَالَّذِي يَطْعُنُهَا يَطْعُنُهَا فِي النَّارِ). (رواه البخارى: ١٣٦٥)

٣٢ - بَابُ: بِنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ
٦٨٦: عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرُّوا بِجَنَازَةٍ فَاتَّسَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَجَبَتْ؟ ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَاتَّسَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: (وَجَبَتْ) فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا وَجَبَتْ؟ قَالَ: (هَذَا أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، وَهَذَا أَتَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ). (رواه البخارى: ١٣٦٤)

٦٨٤ : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَيُّمَا

chaar aadmi gawaahi den to Allah use jannat mein daakhil karega hum logon ne arz kiya aur agar teen aadmi? to aap ne farmaya ke teen aadmi bhi, phir farmaya ke do bhi, phir hum ne ek shakhs ki gawaahi ke muta'alliq aap se daryaافت nahin kiya. (Bukhari:1368)

مُسْلِمٌ، شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ. فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ، قَالَ: (وَأَثَانٍ). ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ.
(رواه البخارى: 1368)

Fawaaid: Ek aadmi gawaahi ke muta'alliq isliye sawaal na kiya ke gawaahi ka nisaab kam az kam do qadmi hain chunaancheh Imam Bukhari ne (Kitabush shaadaat:2643) mein iss hadees se gawaahi ka nisaab saabit kiya hai. (Awnul Baari:2/363)

Baab 43: A'zaab-e-Qabr ka bayaan

688: Hazrat Bara' bin Aazib ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya ke jab musalmaan ko qabr mein baithhaya jaata hai to uske paas farishte aate hain phir woh gawaahi deta hai ke Alla ke elaawah koyi ma'bood barhaq nahin aur hazrat Muhammad ﷺ Allah ke Rasool hain aur yahi matlab hai Allah ke uss qaul ka ke "Allah Ta'ala un logon ko jo eemaan laaye hain mazboot baat par qaayem rakhta hai dunyaawi zindagi mein bhi aur aakhirat mein bhi". (Bukhari:1369)

٣٣- بَابُ: مَا جَاءَ فِي عَذَابِ الْقَبْرِ
٢٨٨: عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا أُقْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَبْرِهِ أُتِيَ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ: (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ).
(رواه البخارى: 1369)

Fawaaid: Qur'an wa hadees se azaab-e-qabr ka suboot milta hai aur ahle sunnat ka iss par ijma' hai aur aqalan bhi iss mein koyi ishkaal nahin hai ke Allah ta'ala jism ke tamaam muntashir ajzaa mein zindagi paida karne par qadir hai agar cheh badan ko darinde kha gaye hon Allah Ta'ala Aan-e-wahid mein unhen jama karne par qudrat rakhta hai ba'z logon ne azaab qabar ko bayin taur par tasleem kiya hai ke zameeni gadhe mein nahin balke barzakhi qabr mein azaab hoga yeh aql wa naql ke khilaaf hai. (Awnul Baari:2/360)

689: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne uss kuwen mein jhaanka jis mein mushrikeen-e-badr mare pade the aur farmaya ke tumhaare maalik ne jo tum se sachcha wa'dah kiya tha kiya woh tumne paa liya aap se arz kiya gaya kiya aap murdon ko pukaarte hain? aap ne farmaya ke tum unse ziyaadah nahin sunte ho albatta woh jawaab nahin de sakte. (Bukhari:1370)

٢٨٩: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَطَّلَعَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيَّ أَهْلَ الْقَلْبِ، فَقَالَ: (وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا). فَقِيلَ لَهُ: أَتَدْعُو أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ: (مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعٍ مِنْهُمْ، وَلَكِنْ لَا يُجِيبُونَ). (رواه البخارى: 1370)

Fawaaid: Imam Bukhari iss hadees se azaab-e-qabr ka isbaat kiya hai woh iss tarah ke jab qaleeb-e-badr mein pade huye murdaaron ka sema' saabit huwa to qabr mein unki zindagi saabit huyi basoorat deegar azaab-e-qabr kis par hoga. (Awnul Baari:2/366)

690: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha ke (Badr ke maqtooleen ke

٢٩٠: عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

muta'alliq) Rasoolullah ﷺ ne sirf yeh farmaya tha ke iss waqt woh jaante hain ke jo main un se kahta tha woh thheek tha aur be shak irshaad-e-baari Ta'ala hai "be shak aap murdon ko nahin suna sakte ho."

(Bukhari: 1371)

Fawaaid: Jumhoor Muhaddiseen ne hazrat Aayeshah رضي الله عنها ke moqif se ittefaaq nahin kiya kyun ke aayat-e-kareema mein sunne ki nahin balke sunaane ki nafi hai ya'ni har waqt jab tum chaaho murdon ko nahin suna sakte magar jab Allah chahe doosre hazrat Aayeshah رضي الله عنها unke liye ilm saabit karti hain jab ilm saabit huwa to sema' mein kiya rukaawat hai? (Awnul Baari:2/367)

691: Hazrat Asmaa bint-e-Abi Bakr رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha ke ek dafa Rasoolullah ﷺ khutbah irshaad farmaane ke liye khade huye to aap ne fitna qabr ka zikr farmay jis se aadmi ki aazmaayish ki jaayegi to usko sun kar musalmaanon ki cheekhen nikal gayin. (Bukhari:1373)

Fawaaid: Nasayi ki rivaayat mein hai ke Fitna-e-Dajjal ki tarah tumhen qabr mein bhi sakht tareen aazmaayish se do chaar kiya jaayega. (Awnul Baari:2/368)

Baab 44: A'zaab-e-Qabr se panaah maangna

692: Hazrat Abu Ayyub رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek din ghuoorb-e-aaftaab ke ba'd Rasoolullah ﷺ baahar tashreef laaye to aap ne ek haulnaak aawaaz suni uss waqt aap ne farmay ke yahoodiyon ko unki qabron mein azaab diya jaaraha hai.

(Bukhari:1375)

Fawaaid: Jab yahoodiyon ke liye azab-e-qabr saabit huwa to mushrikeen ke liye bhi hoga kyun ke unka kufr yahoodiyon ke kufr se kahin ziyadah hai. (Awnul Baari:2/371)

693: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmay ke Rasoolullah ﷺ aksar yeh du'a kiya karte the Aye Allah! Main azab-e-qabr aur azaab-e-jahannam, zindagi aur maut ki kharaabi aur masih dajjal ke fitne se teri panaah chaahata hoon. (Bukhari:1377)

Baab 45: Murde ko subah wa shaam uska thekaana dikhaaya jaata hai

قَالَتْ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ حَقٌّ).

وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمَعُ

الْمَوْتَى﴾. (رواه البخارى: ١٣٧١)

٢٩١: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ الَّتِي يُفْتَنُ فِيهَا الْمَرْءُ، فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ صَحَّ الْمُسْلِمُونَ ضَجَّةً.

(رواه البخارى: ١٣٧٣)

٣٢ - بَابُ: الْعَوْدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
٢٩٢: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمْسُ، فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ: (يَهُودُ تُعَذَّبُ فِي قُبُورِهَا).

(رواه البخارى: ١٣٧٥)

٢٩٣: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَدْعُو: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ

الدَّجَالِ). (رواه البخارى: ١٣٧٤)

٣٥ - بَابُ: الْمَيِّتِ يُعْرَضُ عَلَيْهِ

694 : Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya tum mein se jab koyi mar jaata hai to har subah wa shaam use uska thhekaana dikhaya jaata hai agar woh jannati hai to jannat mein agar dozakhi hai to jahannam mein aur uss se kaha jaata hai yahi tera maqaam hai jab qiyaamat ke din Allah ta'ala tujhe uthhaaye ga. (Bukhari: 1379)

مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
٦٩٤ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ، عُرِضَ عَلَيْهِ
مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ
أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ
مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ قِيَالُ:
هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ). (رواه البخارى: ١٣٧٩)

Fawaaid: Iss Hadees se azaab-e-qabr ka isbaat huwa neez yeh bhi maloom huwa ke jism ke fanaa hone se rooh fanaa nahin hoti. (Awnul Baari:2/371)

Baab 46: Musalmaanon ki nabaaligh aulaad ke muta'alliq jo kaha gaya hai

695 : Hazrat Bara bin Aazib رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab jigar gosha Rasoolullah صلى الله عليه وسلم hazrat Ibraheem رضي الله عنه ki wafaat hyui to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke jannat mein inke liye ek doodh pilaane waali muqarrar kardi gayi (Bukhari: 1382)

٢٦- بَابُ: مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ
الْمُسْلِمِينَ
٦٩٥ : عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
لَمَّا تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ لَهُ مَرْضِعًا فِي
الْجَنَّةِ). (رواه البخارى: ١٣٨٢)

Fawaaid: Hazrat Ibraheem رضي الله عنه jigar gosha Rasoolullah صلى الله عليه وسلم sheer khaargi ki umr mein faut huye to Allah Ta'ala apne paighambar ki azmat ke pesh-e-nazar jannat mein use doodh pilaane waali ka band-o-bast kardiya iss hadees se maloom huwa ke musalmaanon ki aulaad jannat mein hogi. (Awnul Baari:2/371)

Baab 47: Mushrikon ke bachchon ke muta'alliq kiya kaha gaya hai?

696 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se aulaad-e-mushrikeen ke muta'alliq poochha gaya to Aap ne farmaya Allah ne jab unhen paida kiya tha to woh khoob jaanta tha ke woh kaisa amal karenge? (Bukhari: 1383)

٣٧- بَابُ: مَا قِيلَ فِي أَوْلَادِ
الْمُشْرِكِينَ
٦٩٦ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَنْ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: (اللَّهُ، إِذْ
خَلَقَهُمْ، أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ).
(رواه البخارى: ١٣٨٣)

Fawaaid: Kaafiron ki aulaad jo na baalighi mein mar jaaye uske anjaam ke muta'alliq bahut ikhtelaaf hai imam Bukhari ka rujhaan yeh maloom hota hai ke woh jannati hain kyun ke woh gunaah ke baghair masoom mare hain mohtaaf moqif yeh hai ke unke muta'alliq tawaqquf kiya jaaye mazkoorah hadees se bhi iski tayeed hoti hai.

Baab

(باب)

697 : Hazrat Samurah bin Jundab رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم jab namaaz-e-(fajr) se faarigh hote to hamaari taraf munh karke farmaate tum mein se kisi ne aaj raat koyi khaab dekha hai to bayaan kare agar kisi ne koyi khaab dekha hota to woh bayaan kar deta phir jo kuchh Allah chaahata uski ta'beer bayaan karte chunaancheh isi tarah ek din Aap ne hum se poochha kiya tum mein se kisi ne koyi khaab dekha hai? hum ne arz kiya nahin. Aap ne farmaya magar main ne aaj raat do aadmiyon ko khaab mein dekha ke woh mere paas aaye aur mera haath pakad kar mujhe ek muqaddas zameen par le gaye jahaan main kiya dekhta hoon ke ek aadmi baithha hai aur doosra khada hai jis ke haath mein lohe ka aankda hai jise woh baithe huye aadmi ke munh mein daakhil karta hai jo iss taraf ko cheerta huwa uski guddi tak pahunch jaata hai phir uske doosre jabde mein bhi aisa hi karta hai iss arsa mein pahla jabda thheek ho jaata hai aur phir yeh dobarah aise hi kar deta hai main ne poochha yeh kiya baat hai? to un donon ne mujh se kaha aage chalye hum chale to ek aise shakhs ke paas pahunchte jo bilkul chit leta huwa hai aur ek aadmi uske sirhaane par ek patthar liye khada hai woh uss patthar se uska sar phod raha hai jab patthar maarta hai to woh ludhak kar door chala jaata hai aur woh use jaakar utha laata hai aur jab tak uss lete huye shakhs ke paas laut kar aata hai to uss waqt uska sar jud kar achchha ho jaata hai aur jaise pahle tha usi tarah ho jaata hai aur phir use do baarah maarta hai main ne poochha yeh kiya hai? un donon ne kaha aage chalye chunaancheh hum ek gadhe ki taraf chale jo tannoor ki tarah tha uska munh tang aur penda chauda tha uss mein aag jal rahi thi aur uss mein barhana mard auraten hain jab aag bhadakti to sho'lon ke

۶۹۷: عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا). قَالَ: فَإِنْ رَأَى أَحَدٌ قَصَّهَا فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَأَلْنَا يَوْمَافَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا قُلْنَا: لَا، قَالَ: (لَكِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيْانِي فَأَخَذَا بِيَدِي، فَأَخْرَجَنِي إِلَى الْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ بِيَدِهِ كَلْبُوتٌ مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: إِنَّهُ يُدْخِلُ ذَلِكَ الْكَلْبُوتَ فِي شِدْقِهِ حَتَّى يَبْلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِدْقِهِ الْآخَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَيَلْتَمِسُ شِدْقَهُ هَذَا، فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ. قُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ، فَانْطَلِقْنَا، حَتَّى أَتِينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِعٍ عَلَى قَفَاهُ، وَرَجُلٌ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِهِ بِفَهْرٍ، أَوْ صَخْرَةٍ، فَيَشْدُخُ بِهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا صَرَبَهُ تَدَهَّدَهُ الْحَجَرُ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ لِأُخْذِهِ، فَلَا يَرْجِعُ إِلَى هَذَا، حَتَّى يَلْتَمِسَ رَأْسَهُ، وَعَادَ رَأْسَهُ كَمَا هُوَ، فَعَادَ إِلَيْهِ فَصَرَبَهُ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَا: انْطَلِقْ فَانْطَلِقْنَا إِلَى ثَقَبٍ مِثْلِ النَّوْرِ، أَعْلَاهُ صَيِّقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ، يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارًا، فَإِذَا أَقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا، فَإِذَا خَمَدَتْ رَجَعُوا فِيهَا، وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عَرَاةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَا:

saath uchhal padte aur nikalne ke qareeb ho jaate phir jab aag dhimi ho jaati to woh bhi dhadaam se neeche gid padte main ne kaha yeh kaun hain? un donon ne kaha aage chalye chunaancheh hum chale aur ek khooni nahar par pahunche uss mein ek shakhs khada tha aur uske kinaare par doosra aadmi tha jis ke saamne bahut se patthar pade the nahar ke andar waala aadmi jab bahar aana chaahta to kinaare waala aadmi uske munh par zor se patthar maarta ke woh phir apni jagah laut jaata phir aisa hi karta raha jab bhi woh nikalna chaahta to doosra iss zor se patthar maarta ke use apni jagah par lauta deta main ne poochha yeh kiya baat hai? un donon ne kaha aage chalne ke liye kaha hum chaldiye chalte chalte hum ek sarsabz baagh mein pahunche jis mein ek bada sa darakht tha uski jad ke qareeb ek boodha aadmi aur kuchh bachche baithhe the ab achaaanak kiya dekhta hoon ke uss darakht ke paas ek aur aadmi hai jis ke saamne aag hai aur woh use sulga raha hai phir woh donon mujhe uss darakht par chadhaa le gaye aur wahaan unhon ne mujhe ek aise makaan mein daakhil kiya jis se behtar makaan main ne kabhi nahin dekha uss mein kuchh boodhe kuchh jawaan kuchh auraten aur kuchh bachche the phir woh donon mujhe wahaan se nikaal laaye aur darakht ki ek doosri shaakh par chadhaya wahaan bhi ek makaan tha jis mein mujhe daakhil kiya yeh makaan pahle se bhi ziyaadah umdah aur shaandaar tha uss mein bhi kuchh boodhe aur jawaan aadmi maujood the tab main ne un donon se kaha tum ne mujhe raat bhar phiraaya ab main ne jo kuchh dekha hai uski haqeeqat bataao? unhon ne jawaab diya achchha woh shakhs jise Aap ne dekha ke uska jabda cheera jaara tha woh jhoota aadmi tha aur jhooti baaten bayaan kiya karta tha jo usse

انطلق، فأنطلقنا، حتى أتينا على نهرٍ من دمٍ فيه رجل قائم، وعلى وسطِ النهرِ - قال يزيدٌ وهبُ بن جبريرٍ، عن جريرِ بن حازمٍ - وعلى شطِّ النهرِ رجلٌ بين يديه حجارةٌ، فأقبل الرجلُ الذي في النهرِ، فإذا أراد أن يخرجَ رمى الرجلُ بحجرٍ في فيه، فردَّه حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرجَ رمى في فيه بحجرٍ، فیرجع كما كان، فقلتُ: ما هذا؟ قال: انطلق، فانتلقنا، حتى انتهينا إلى روضةٍ خضراءٍ، فيها شجرةٌ عظيمةٌ، وفي أصلها شيخٌ وصبيانٌ، وإذا رجلٌ قريبٌ من الشجرةِ، بين يديه نارٌ يوقدها، فصعدا بي في الشجرةِ، وأدخلاني دارًا، لم أرقط أحسنَ منها، فيها رجالٌ شيوخٌ، وشبابٌ ونساءٌ وصبيانٌ، ثم أخرجاني منها، فصعدا بي الشجرةِ، فأدخلاني دارًا، هي أحسنُ وأفضلُ منها، فيها رجالٌ وشيوخٌ وشبابٌ، قلتُ: طوفتُماني الليلة، فأخبراني عما رأيتُ. قالوا: نعم، أما الذي رأيتَهُ يُشققُ شدقُهُ فكذابٌ، يُحدِّثُ بالكذبةِ، فتحمَلُ عنه حتى تبلغَ الأفاقَ، فيضعُ به إلى يومِ القيامةِ، والذي رأيتَهُ يُشدُّ رأسُهُ، فرجلٌ علمه الله القرآنَ، فنأم عنه بالليلِ، ولمْ يعملْ فيه بالنهارِ،

naqal ho kar tamaam atraaf -e-aalam mein pahunch jaati thin iss liye qiyaamat tak uske saath aisa hi mu'aamla hota rahega aur woh shakhs jise Aap ne dekha ke uska sar kuchla jaaraha hai yeh woh shakhs hai jise Allah Ta'ala ne quran ka ilm diya tha magar woh qur'an ko chhod kar raat bhar sota rahta aur din mein bhi uss par amal nahin karta tha roze qiyaamat tak uske sar par yahi amal hota rahega aur woh log jinhen Aap ne ghade mein dekha woh zaani hain jise Aap ne nahar mein dekha woh sood khor hai woh boodha insaan jo darakht ki jad ke qareeb baithha huwa tha woh hazrat Ibraheem عليه السلام the aur woh chhote bachche unke gird baithhe huye the woh logon ke woh bachche jo buloogh se pahle mar gaye aur jo aadmi aag tez kar rahaa tha woh maalik jahannam ka daarogha the aur woh pahla makaan jis mein Aap tashreef le gaye the aam musalmaanon ka ghar hai aur yeh doosra shaheedon ke liey hai aur main Jibrayeel aur yeh Mikayeel hain ab Aap apna sar uthhaayen main ne sar uthaaya to yakayak dekhta hoon ke mere oupar abar ki tarah koyi cheez hai unhon ne bataya ke yeh Aap ki eqaamat gaah hai main ne kaha mujhe makaan mein jaane do to unhon ne kaha abhi Aap ki kuchh umr baaqi hai agar Aap use poora kar chuke hote to apni rehaayish gaah mein jaa sakte the.

(Bukhari: 1386)

Fawaaid: Iss hadees ko Imam Bukhari apne moqif ki taayeed mein laaye hain ke kuffaar wa mushrikeen ki aulaad jannati hai. (Awnul Baari: 2/380)

Baab 48 : Naa gahaani maut

698 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke ek shakhs ne Rasoolullah ﷺ se arz kiya ke meri waalidah ka achaanak intaqaal ho gaya hai mujhe yaqeen hai ke agar woh bol saktin to zaroor sadqah khairaat kartin kiya main unki taraf se sadqah doon to unhen kuchh sawaab milega? Aap ne farmaya haan milega (Bukhari: 1388)

يُفْعَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي الثَّقَبِ فَهُمْ الزُّنَاةُ، وَالَّذِي رَأَيْتَهُ فِي النَّهْرِ أَكَلُوا الرَّبَا، وَالشَّيْخُ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالصَّبِيَّانُ حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النَّاسِ، وَالَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مَالِكُ حَازِنُ النَّارِ، وَالذَّارُ الْأُولَى الَّتِي دَخَلَتْ دَارَ عَامَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَمَّا هَذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاءِ، وَأَنَا جُبْرِيْلُ، وَهَذَا مِيكَائِيلُ، فَارْفَعْ رَأْسَكَ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلُ السَّحَابِ، قَالَا: ذَاكَ مَنْزِلُكَ، قُلْتُ: دَعَانِي أَدْخُلْ مَنْزِلِي، قَالَا: إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَغْمِلْهُ، فَلَوْ اسْتَغْمَلْتَ آتَيْتَ مَنْزِلَكَ. (رواه البخارى: ١٣٨٦)

٣٨ - بَابُ: مَوْتِ الْفَجَاءَةِ

٦٩٨ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ أُمَّيْ أَفْتَلَيْتَ نَفْسَهَا، وَأَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتَ تَصَدَّقْتَ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ (نَعَمْ). (رواه البخارى: ١٣٨٨)

Fawaaid: Iss hadees se Imam Bukhari ne yeh saabit kiya hai ke momin ke liye naa gahaani maut nuqsan deh nahin hoti kyun ke jab aap ke saamne naa gahaani maut ka zikr huwa to aap ne kisi qism ki naa gawaari ka izhaar nahin kiya albatta aap ne uss se panaah zaroor maangi hai kyun ke uss mein wasiyyat karne ki mohlat nahin milti. (Awnul Baari:2/382)

Baab 49 : Rasoolullah ﷺ, Hazrat Abu Bakr aur Hazrat Umar رضی اللہ عنہما ki qabron ka bayaan

699 : Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ apni marze wafaat mein baar baar izhaar-e-khayaal farmaate ke main aaj kahaan hunga aur kal kaha hunga? aur meri baari ko bahut door khayaal karte the bil aakhir jab mera din aaya to Allah ne Aap ko mere phephde aur seene ke darmiyaan qabz farmaya aur aap mere hi ghar mein dafan huye. (Bukhari:1389)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke ghar mein bhi kisi ko dafan kiya jaa sakta hai ba'z log kahte hain ke Rasoolullah ﷺ darmiyaan mein hain aur daayen baayen hazrat Abu Bakr wa Umar رضی اللہ عنہما hain halaanke aisa nahin hai balke Rasoolullah ﷺ ke pahu mein hazrat Abu Bakr aur uske ba'd Hazrat Umar madfoon hain .

700 : Hazrat Umar bin Khattaab ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah ﷺ ne wafaat paayi to Aap un 6 ashkhaas se raazi the Hazrat Umar ؓ ne Hazrat Usmaan Hazrat Ali Hazrat Talha, Hazrat Zubair Hazrat Abdur-Rahmaan bin Auf aur Hazrat Sa'd bin Abi Waqqaas ؓ ke naam liye. (Bukhari: 1392)

Fawaaid: Ashra-e-Mubashsherah mein se yahi hazraat uss waqt zindah the iss rivaayat mein Say'eed bin Zaid ؓ ka zikr nahin hai halaanke woh bhi zindah the chunke woh aap ke rishta daar the isliye khilaafat ke silsila mein unka naam nahin liya. (Awnul Baari:2/385)

Baab 50: Murdon ko bura bhala kahne ki mumaniy'at ka bayaan

701 : Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya murdon ko bura bhala na kaho kyun ke woh jo kuchh kar chuke hain uss se hum aagosh ho chuke hain. (Bukhari: 1393)

Fawaaid: Marne ke ba'd kisi ko bura bhala kahne ka kiya faayidah hai balke unke azeez wa aqaarib ko takleef dena hai albatta hadees ke raaviyoo par jarah unke marne ke ba'd jaayez hai kyun ke isse hifaazat-e-deen maqsood hai. (Awnul Baari:2/387)

۴۹- بَابُ: مَا جَاءَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ۶۹۹ : وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَتَعَدَّرُ فِي مَرَضِهِ: (أَيَّنَ أَنَا الْيَوْمَ، أَيَّنَ أَنَا غَدًا). اسْتَبْطَاءَ لِيَوْمٍ عَائِشَةَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي، قَبَضَهُ اللَّهُ بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَذَفِنَ فِي بَيْتِي.

(رواه البخاری: ۱۳۷۹)

۷۰۰ : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: تَوَقَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ رَاضٍ عَنْ هَوْلَاءِ النَّفْرِ السِّتَةِ، فَسَمَى السِّتَةَ، فَسَمَى عُثْمَانَ، وَعَلِيًّا، وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. (رواه البخاری: ۱۳۹۲)

۵۰- بَابُ: مَا يُنْهَى عَنْ سَبِّ الْأَمْوَاتِ ۷۰۱ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا). (رواه البخاری: ۱۳۹۳)

Zakaat ke bayaan mein

کِتَابُ الزَّكَاةِ

Baab 1: Farziyyat-e-Zakaat ka bayaan

۱- بَابُ: وَجُوبِ الزَّكَاةِ

Zakaat hijrat ke doosre saal farz huyi aur yeh rukn islam hai iska munkir daayira-e-Islam se khaarj hai haakim-e-waqt ko aise shakhs ke khilaaf jehaad karna chaahiye. Qura'n Kareem mein namaaz ke saath zakaat ka bayaan 82 maqamaat par aaya hai.

702: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne Hazrat Mu'aaz رضي الله عنه ko yaman rawaana kiya to farmaya sab se pahle Ahle Yaman ko iss baat ki da'wat dena ke Allah ke elaawah koyi aur ma'bood barhaq nahin aur main Allah ka Rasool hoon agar woh yeh baat maan len to unse kahna ke Allah ta'ala ne shab wo roz mein un par paanch namaazein farz ki hain agar woh isko bhi tasleem karlen to unhen bataana ke Allah Ta'ala ne un par unke maal ka sadqah bhi farz kiya hai jo unke maaldaaron se liya jaayega aur unke mohtaajon par sarf kiya jaayega. (Bukhari:1395)

۷۰۲: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: (ادْعُهُمْ إِلَى: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَآيِلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ).

(رواه البخارى: ۱۳۹۵)

Fawaaid: Maloom huwa ke agar apne shahar mein zaroorat mand log maujood hon to doosre shahron ko zakaat bhejna khilaaf-e-sharia't hai. (Awnul Baari:2/390)

703: Hazrat Abu Ayyub Anasaari رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek aadmi ne Rasoolullah ﷺ se arz kiya ke aap mujhe koyi aisa kaam bataayen jo mujhe jannat mein le jaaye? logon ne kaha ise kiya ho gaya hai? kyun iss tarah ki baat kar raha hai? Rasoolullah ﷺ ne farmaya kuchh nahin huwa woh zaroorat mand hai use kahne do. achchha suno! Allah ki ibaadat karo, uske saath kisi ko shareek na thhahraao paa bandi se namaaz padho, zakaat do aur rishte daaron ke saath husn-e-sulook se pesh aao. (Bukhari:1396)

۷۰۳: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: (أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ). قَالَ: مَالَهُ مَالَهُ. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَرَبَّ مَالَهُ، تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحِمَ).

(رواه البخارى: ۱۳۹۶)

Fawaaid: Iss hadees se farziyyat-e-zakaat bayin taur par saabit hoti hai ke jannat mein jaana adaayegi zakaat par munhasir hai iska matlab yeh hai ke jo zakaat nahin dega woh jahannam mein jaayega aur jahannam mein jaana ek aisi cheez ke tark se hota hai jo waajib hai.. (Awnul Baari:2/392)

704: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek dehaati Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas aaya aur arz karne laga ke aap mujhe koyi aisa amal bataayen ke agar woh baja laaon to jannat mein daakhil ho jaaon aap ne farmaya ke Allah ki ibaadat karo aur uske saath kisi ko shareek na thahraao, farz namaazen aur muqarrarah zakaat adaa karo aur ramzaan ke roze rakkho dehaati bola mujhe uss zaat ki qasam hai jiske haath mein meri jaan hai main isse ziyaadah nahin karunga jab woh chala gaya to Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya jo shakhs kisi jannati ko dekhna chaahe to woh us shakhs ko dekh le. (Bukhari:1397)

٤٠٣: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: ذُلِّي عَلَى عَمَلٍ، إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ. قَالَ: (تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ). قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا. فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا). (رواه البخارى: ١٣٩٤)

Fawaaid: Iss hadees mein hajj ka zikr nahin shaayad raavi bhool gaya ya usne ikhtesaar se kaam liya hoga. (Awnul Baari:2/393)

705: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki wafaat huyi aur Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه khaleefa bane to kuchh baadiya nasheen arab murtad hokar (munkire zakaat) ho gaye hazrat Abu Bakr Siddeeq رضي الله عنه ne un se jung ladne ka iraadah kiya to hazrat Umar رضي الله عنه ne kaha aap un logon se kyun kar lad sakte hain jab ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya ke mujhe logon se jung karne ka hukm diya gaya hai yahaan tak ke woh لا إله إلا الله ka iqraar karlen to jo shakhs لا إله إلا الله kah de to uss ne yaqeenan apna maal aur apni jaan ko mujh se mahfooz karliya illa yeh ke az roo-e- islam uss par koyi haq waajibul adaa ho phir uska hisaab Allah ke sopurd hai iss par hazrat Abu Bakr رضي الله عنه ne farmaya Allah ki qasam! main har uss shakhs se jung ladunga jo namaaz aur zakaat mein farq karega kyunke zakaat maal ka haq hai (jis ki adaayegi zaroori hai) Allah ki qasam agar woh ek bakri ka bachcha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke zamaana mein dete the aur mujhe na den to main uske na dene par bhi un se jung karunga Hazrat Umar رضي الله عنه

٤٠٥: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا تُوِّفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ). فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهُ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَيَّ. رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنَعِهَا. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ

farmate hain ke Allah ki qasam! yeh baat sirf iss wajah se thi ke Allah Ta'ala ne hazrat Abu Bakr ؓ ka seena khol diya tha aur main samajh gaya ke yahi bar haq moqif hai.

الْحَقُّ.
(رواه البخارى: ١٣٩٩، ١٣٠٠)

(Bukhari:1399,1400)

Fawaaid: Ab bhi baz johlaa ka khayaal hai ke sirf ((لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) kahne se aadmi momin ban jaata hai khaah woh islam ke deegar usoolon se munharif hi kyun na ho iss mein shak nahin ke kalima ekhlaas eemaan ki nishaani hai magar yeh shart hai ke islam ke doosre arkaan ka inkaar na kare agar ek ka bhi munkir hai to woh kaafir daayira- e- islam se khaarj hai uske saath musalmaanon jaisa bartaaon nahin karna chaahiye.

Baab 2: Zakaat na dene waale ka gunaaah

706: Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi ek aur rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ؓ ne farmaya qiyaamat ke din ount pahle se ziyaadah farba aur behtar haalat mein apne maalik ke paas aayenge jabke woh maalik unka haq (zakaat) na ada karta ho phir woh use apne paau se raundenge usi tarah bakriyaan bhi pahle se ziyaadah tawaana aur behtar haalat mein apne maalik ke paas aayengi jab ke woh maalik unka haq na ada karta ho woh use apne khuron se kuchh lengi aur apne seengon se maarengi aap ne farmaya ke unka haq yeh hai ke paani ke ghaat par un se doodh haasil kiya jaaye aur mohtaajon ko pilaaya jaaye neez aap ne farmaya ke tum mein se koyi shakhs bhi qiyaamat ke din bakri ko apni gardan par sawaar karke na laaye bayin haalat ke woh mimya rahi ho aur woh shakhs mujh se kahe ya Muhammad ؓ! (meri sefaarish farmaiye) aur main kahoon ke main tere liye kisi baat ka ikhtiyaar nahin rakhta main to Allah ka hukm pahuncha chuka hoon isi tarah koyi shakhs ount ko apni gardan par sawaar karke na laaye bayin haalat ke woh bilbila raha ho woh shakhs mujh se kahe ya Muhaammad ؓ! (meri shafa'at kijiye) aur main kah doon ke main tere liye kisi baat ka ikhtiyaar nahin rakhta main to Allah ka hukm tumhen pahuncha chuka hoon.

٢-بَابُ: اَنْتُمْ مَانِعِ الزَّكَاةِ
٤٠٦: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: (تَأْتِي الْإِبِلُ عَلَى
صَاحِبِهَا، عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، إِذَا هُوَ
لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ بِأَخْفِهَا،
وَتَأْتِي الْغَنَمُ عَلَى صَاحِبِهَا عَلَى خَيْرِ مَا
كَانَتْ، إِذَا لَمْ يُعْطِ فِيهَا حَقَّهَا، تَطَوُّهُ
بِأَظْلَا فِيهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا)، قَالَ:
(وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَالِ).
قَالَ: (وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا بُعَارٌ،
فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ
لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، قَدْ بَلَغْتُ، وَلَا
يَأْتِي بَبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ،
فَيَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ
لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، قَدْ بَلَغْتُ).
(رواه البخارى: ١٣٠٢)

(Bukhari:1402)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein hai ke Ount use paaun se raundenge aur munh se chapaayenge qiyaamat ke din uske saath mutawaatir yeh sulook kiya jaayega jis ki ta'daad pachaas hazaar saal ke baraa bar hai. (Awnul Baari:2/399)

707: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi ek doosri rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya Allah Ta'ala jise maal wa daulat se nawaaze aur woh uski zakaat ada na kare to uska yeh maal qiyaamat ke din ek ganje saanp ki shakl mein laaya jaayega jis ke donon jabdon se zahrili jhaag nikal rahi hogi aur woh tauq ki tarah uss aadmi ki gardan mein pada hoga aur uski donon baachhen pakad kar kahega main tera maal hoon, main tera khazaanah hoon uske ba'd aap ne yeh aayat padhi. "Jin logon ko Allah ne apne fazl se nawaaza aur phir woh bukhl se kaam lete hain woh iss khiyaal mein na rahen ke yeh bakheeli unke haq mein achchhi hai nahin, yeh unke haq mein nehaayat buri hai jo kuchh woh apni kanjoosi se jama kar rahe hain wahi qiyaamat ke roz unke gale ka tauq ban jaayga." (Bukhari: 1403)

Fawaaid: Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ka iss aayat ka telaawat karna iss baat ki khuli daleel hai ke yeh aayat munkareen-e-zakaat ke muta'alliq naazil huyi hai. (Awnul Baari:2/402)

Baab 3: Jis maal ki zakaat ada kardi jaaye woh kanz nahin hai

708: Hazrat Abu Sa'yeed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya paanch oqiyah se kam chaandhi mein zakaat nahin hai aur paanch ount se kam mein zakaat nahin aur na paanch wasaq se kam (ghallah) mein zakaat hai.

(Bukhari:1405)

Fawaaid: Ek oqiyah 40 dirham ke baraabar hai paanch oqiyah 200 dirham hote jo saadhe 52 tole ke baraabar hain iss se kam miqdaar mein zakaat nahin isi tarah ek wasaq 60 sa' ka hai aur ek sa' 2 kilo 100gm ke baraabar hai paanch wasaq 6 sad 30 kg ke baraabar hai.

Baab 4: Sadqah Halaal kamaayi se hona chaahiye

709: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya jo shakhs halaal ki kamaayi se khujoor ke

٤٠٧ : وَعَنْهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا ، فَلَمْ يُؤِدِّ زَكَاتَهُ ، مِثْلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُجَاعًا أَفْرَعٌ ، لَهُ زَبَيْتَانِ ، يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ ، يَعْنِي شِدْقَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا مَالِكَ ، أَنَا كَنْزِكَ ، ثُمَّ تَلَا : ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ ﴾ (رواه البخارى: ١٢٠٣)

٣- مَا أَدَّى زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَانِزٍ

٤٠٨ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ أَوْاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسِ دَوْدٍ صَدَقَةٌ ، لَيْسَ فِيمَا دُونَ خُمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ) .

(رواه البخارى: ١٢٠٥)

٤- بَابُ : الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبِ طَيْبٍ

٤٠٩ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (مَنْ

baraabar bhi sadqah deta hai. Allah Ta'ala paak wa halaal cheezon ko qubool farmata hai. to Allah Ta'ala use apne daayen haath mein leta hai phir use dene waale ki khaatir badhaata hai jis tarah tum mein se koyi apne ghode ke bachche ko paal kar badhaata hai hatta ke woh khujoor pahaad ke baraabar ho jaati hai. (Bukhari:1410)

Fawaaid:Hadees mein hai ke Allah Ta'ala ke donon haath baa barkat hain un mein se koyi baayaan nahin Ahl-e-Hadees iss qism ki aayaat aur ahaadees ko zaahiri mana par mahmool karte hain unki taaweel ya tahreef nahin karte aur na kisi se tashbeeh dete hain.(Awnul Baari:2/405)

Baab 5: Sadqah dena chaahiye qabl uss zamaana ke jab koyi sadqah na lega

710:Hazrat Haarisah bin wahab رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ se suna aap farma rahe the Aye logo! Sadqah karo kyun ke tum par ek waqt aayega ke aadmi apna sadqah liye huye phirega magar koyi shakhs aisa nahin milega jo usko qubool kare jis ko dene lagega woh jawaab dega agar tu kal laata to main le leta lekin aaj to mujhe iski koyi zaroorat nahin hai.(Bukhari:1411)

Fawaaid:Maloom huwa ke qurb-e-qiyaamat ke waqt aise inqelabaat aayenge ke aaj muhtaaj aadmi kal ameer kabeer ban jaayega isliye waqt ko ghaneemat samajhte huye muhtaaj logon ki maujoodgi mein sadqah wa khairaat karna chaahiye. (Awnul Baari:2/407)

711:Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya qiyaamat uss waqt tak barpa nahin hogi jab tak tumhaare paas maal ki itni faraavaani na ho jaaye ke woh bahne lage aur maal waale ko yeh cheez parishaan karegi ke usko kaun qubool kare? naubot yahaan tak pahunch jaayegi ke ek aadmi kisi ko maal pesh karega to woh jawaab dega mujhe to iski zaroorat nahin hai. (Bukhari:1412)

Fawaaid:Qiyaamat ke qareeb zameen ki tamaam daulat baahar nikal aayegi aur log bahut kam ta'daad mein honge aise haalaat mein kisi ko maal ki zaroorat nahin hogi.

712:Hazrat Adi bin Haatim رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main Rasoolullah ﷺ ke

تَصَدَّقْ بِعَدْلٍ تَمْرَةً مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ فَإِنَّ اللَّهَ يَنْقَبِلُهَا بِمِثْلِهِ، ثُمَّ يُرَبِّبُهَا لِصَاحِبِهَا، كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ). (رواه البخارى: ١٢١٠)

٥ - بَابُ: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الرَّدِّ

٤١٠ : عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ : (تَصَدَّقُوا ، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ ، يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا ، يَقُولُ الرَّجُلُ : لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا) .

(رواه البخارى: ١٢١١)

٤١١ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ ، فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ : لَا أَرَبَ لِي)

(رواه البخارى: ١٢١٢)

٤١٢ : عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ

paas maujood tha ke do aadmi aaye ek ne to ghurbaat wa tangdasti ka shikwah kiya aur doosre ne chori aur daaka zani ki shikaayat ki to Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke raasta ki bad amni to thodi muddat guzregi ke Makkah tak ek qaafah baghair kisi mohaafiz ke jaayega rahi tangdasti to qiyaamat uss waqt tak barpa na hogi yahaan tak ke tum mein se koyi apna sadqah le kar phirega magar use koyi qubool karne waala nahin milega phir (qiyaamat ke din) tum mein se har shakhs Allah ke saamne khada hoga jab ke uske aur Allah ke darmiyaan koyi pardah haayel na hoga aur na hi koyi tarjumaan jo uski guftagu naqal kare phir Allah usse farmayega kiya main ne tujhe maal na diya tha? woh arz karega kyun nahin! phir Allah Ta'ala farmayega kiya mian ne tere paas paighambar na bheja tha? woh arz karega kyun nahin! phir woh apni daayen taraf dekhega to aag ke elaawah use koyi cheez nazar na aayegi aur apni baayen taraf nazar daalega to udher bhi siwa aag ke kuchh nahin hoga lehaazah tum mein se har shakhs ko aag se bachna chaahiye agarcheh khujoor ka tukda hi de agar yeh bhi mumkin na ho to achchhi baat hi kah de (kuyn ke yeh bhi sadqah hai) (Bukhari: 1413)

عَنْ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَهُ رَجُلَانِ، أَحَدُهُمَا يَشْكُو الْعَيْلَةَ، وَالْآخَرُ يَشْكُو قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمَّا قَطْعُ السَّبِيلِ: فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي عَلَيْكَ إِلَّا قَلِيلٌ، حَتَّى تَخْرُجَ الْعَيْرُ إِلَى مَكَّةَ بِغَيْرِ خَفِيرٍ، وَأَمَّا الْعَيْلَةُ: فَإِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، حَتَّى يَطُوفَ أَحَدُكُمْ بِصَدَقَتِهِ، لَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ، ثُمَّ لِيَقْفَنَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، وَلَا تَرْجُمَانِ يَتَرَجَّمُ لَهُ، ثُمَّ لِيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أُوتِكَ مَا لَا؟ فَلِيَقُولَنَّ: بَلَى ثُمَّ لِيَقُولَنَّ: أَلَمْ أُرْسِلَ إِلَيْكَ رَسُولًا؟ فَلِيَقُولَنَّ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ ثُمَّ يَنْظُرُ عَنْ شِمَالِهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، فَلِيَقْفَنَنَّ أَحَدُكُمْ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ).

(رواه البخارى: 1413)

Fawaaid: Iss hadees se un logon ki tardeed hoti hai jo kahte hain ke Allah ki kalaam mein aawaaz aur huroof nahin hain agar aisa hai to bandah kiya sunega aur kiya samjhega.

Baab 6: Aag se bacho agarcheh khujoor ka tukda aur thoda sa sadqah hi kyun na ho

713: Hazrat Abu Moosa Asha'ri رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya logon par ek waqt aayega jis mein aadmi khairaat ka sona liye gasht lagaayega magar koyi lena waala nahin milega aur dekhne mein aayega ke ek mard ke peechhe 40,40 auraten phirengi ke woh unhen apni panaah mein le le darasl yeh iss bena par hoga ke mard kam ho jaayenge aur auraton ki kasrat

٦ - بَابُ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

وَالْقَلِيلِ مِنَ الصَّدَقَةِ

٤١٣: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ، وَيُرَى الرَّجُلَ الْوَّاحِدَ

hogi. (Bukhari:1414)

يَتَّبِعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً يَلْدُنَ بِهِ، مِنْ قَلَّةِ
الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّسَاءِ).

(رواه البخارى: ١٢١٢)

Fawaaid: Qiyaamat ke qareeb auraton ki sharah paidaayish mein ezaafah ho jaayega aur mard kam paida honge ya ladaaiyan kasrat se hongy ke mard maare jaayenge aur auraton ki bohtaata hogi. (Awnul Baari:2/411)

714: Hazrat Abu Mas'ood Ansari رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Raoolullah صلی اللہ علیہ وسلم hamen sadqah ka hukm dete to hum mein se koyi baazaar jaata aur bojh dhota mazdoori mein jo ek mud ghalla milta to usko sadqah kar deta magar aaj yeh haalat hai ke ba'z logon ke paas ek laakh dirham maujood hain. (Bukhari:1416)

٤١٢ : عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرْنَا بِالصَّدَقَةِ، أَنْطَلِقُ أَحَدُنَا إِلَى السُّوقِ، فَيَحَامِلُ، فَيَصِيبُ الْمُدَّ، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمُ الْيَوْمَ لِمِائَةَ أَلْفٍ.
(رواه البخارى: ١٢١٦)

Fawaaid: Sahaaba kiraam رضي الله عنهم ka mehnat wa mazdoori karke ek mud Allah ki raah mein kharch karna hamaare hazaaron aur laakhon rupon se ziyaadah ajr rakhta tha.

715: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke ek aurat sawaal karti huyi aayi jis ke saath uski do betiyaan bhi thin us waqt mere paas ek khujoor ke siwa kuchh na tha main ne wahi khujoor use de di us ne use apni donon betiyon ke darmiyaan taqseem kardiya aur khud usse kuchh na khaaya jab woh chali gayi aur Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم tashreef laaye to main ne aap se iska zikr kiya jis par Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya ke jo shakhs in ladkiyon ki wajah se kisi takleef mein muhtala hoga uske liye yeh ladkiyaan aag se pardah ban jaayengi. (Bukhari:1418)

٤١٥ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ، فَأَعْطَيْتُهَا أَيَّاهَا، فَفَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا، وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَلَى مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ). (رواه البخارى: ١٢١٨)

Fawaaid: Unwaan mein do mazmoon the pahla yeh ke khujoor ka tukda de kar dozakh se najaat hasil karna yeh hazrat Adi Bin Haatim رضي الله عنه ki hadees se saabit huwa aur doosra mazmoon yeh tha ke thoda sa sadqah wa khairaat karna yeh hazrat Aayeshah رضي الله عنها ki is hadees se saabit huwa ke unhon ne ek khujoor bataur sadqah di.

Baab 7: Kaunsa Sadqah Afzal hai?

716: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas ek shakhs aaya aur kahne laga ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم kaunsa sadqah ajr wa sawaab mein sab se behtar hai? aap ne farmaya woh sadqah jo tandurusti ki haalat mein ho jabke tujh par maal

٤ - بَابُ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟

٤١٦ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْبَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ

ki hirs ghaalib ho tujhe naadari ka andeshah bhi ho aur tawangari ki khaahish bhi ho uss waqt ka intezaar na kar jab dam halaq mein aa jaaye to uss waqt kahe ke fulaan ko itna de do aur fulaan ko itna halaanke ab to woh az khud hi fulaan aur fulaan ka ho chuka hoga.

(Bukhari:1419)

صَحِيحٌ شَحِيحٌ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهَلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ).

(رواه البخارى: ١٢١٩)

Fawaaid: Maloom huwa ke sadqah wa khairaat karne mein der nahin karna chaahiye aisa na ho ke bimaari ya maut aa jaaye aise haalaat mein kharch karna chandaan mufeed nahin hai.

Baab:8

717: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai Rasoolullah ﷺ ki kuchh biwiyon ne aap se arz kiya ke wafaat ke ba'd sab se pahle hum mein se aap ko kaun milega? aap ne farmaya jis ka haath tum sab mein lamba hoga chunaancheh unhon ne chhadi le kar apne haath naapne shuru kardiye hazrat Saudah رضي الله عنها ka haath sab se bada nikla (magar sab se pahle Zainab bint-e- Jahash رضي الله عنها ki wafaat huyi) tab hum logon ne samajh liya ke haath ki lambaayi se muraad khairaat karna tha woh hum se pahle Rasoolullah ﷺ se jaa milin unhen sadqah dene ka bahut zauq wa shauq tha. (Bukhari:1420)

Fawaaid: Hazrat Zainab رضي الله عنها apne haath se mehnat mazdoori karti aur jo kuchh kamaati use Allah ki raah mein khairaat kardeti thin. (Awnul Baari:2/416)

Baab 9: Agar naadaanistah taur par kisi maaldaar ko sadqah de diya jaaye?

718: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ek shakhs ne tai kiya ke main aaj sadqah dunga jab woh sadqah lekar nikla to usne (la ilmi) mein ek chor ke haath par rakh diya subah ke waqt logon mein chemi goiyaan hone lagi ke ek chor ko sadqah diya gaya hai uss shakhs ne kaha aye mere ma'bood! ta'reef sirf tere liye hai achchha main aaj phir sadqah dunga chunaancheh woh apna sadqah le kar nikla to ab naadaanista taur par ek zaaniya ko de diya subah ke waqt log phir baaten banaane

٨ - باب

٨١٤ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَيُّنَا أَسْرَعُ بِكَ لِحَوْقًا؟ قَالَ: (أَطْوَلُكُنَّ يَدًا). فَأَخَذُوا قَصَبَةً يَدْرَعُونَهَا، فَكَانَتْ سَوْدَةَ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، فَعَلِمْنَا بَعْدُ: أَنَّهَا كَانَتْ طَوَّلَ يَدِهَا الصَّدَقَةَ، وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لِحَوْقًا بِهِ، وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ.

(رواه البخارى: ١٢٢٠)

٩ - باب: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍّ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

٨١٨ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (قَالَ رَجُلٌ: لَا تَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تَصَدَّقَ عَلَى سَارِقٍ، فَقَالَ: أَلَلَّهُمْ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى زَانِيَةٍ، لِأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا يَدَى زَانِيَةٍ،

lage ke guzishta raat ek zaaniya ko khairaat de di gayi jis par uss shakhs ne kaha aye mere ma'bood! sab ta'reef tere hi liye hai mera sadqah to zaaniya ke haath lag gaya achchha main kuchh aur sadqah dunga chunaancheh woh phir sadqah le kar nikla to iss dafa (anjaane mein) ek maaldaar ke haath par rakh diya subah ke waqt logon mein phir charcha huwa ke ek ameer aadmi ko sadqah diya gaya hai uss shakhs ne kaha aye mere ma'bood! ta'reef sirf tere liye hai mera sadqah ek martabah chor ko mila phir ek badkaar aurat ko aur phir ek maaldaar shakhs ko aakhir yeh maajra kiya hai? chunaancheh use (khaab mein) koyi shakhs mila uss ne bataaya (ke tumhaara sadqah qubool ho gaya hai) jo sadqah chor ko mila to mumkin hai woh chori se baaz aa jaaye isi tarah zaaniya ko jo sadqah mila to shaayad woh zina se ruk jaaye aur maaldaar ko mumkin hai ibrat haasil ho aur jo Allah ne use diya uss mein se kharch kare. (Bukhari:1421)

Fawaaid: Nafli sadqah agar naa daanistah taur par ghair mustahiq ko de diya jaaye to koyi muzaaiqah nahin albatta zakaat waghairah ka muaamlaah iss se alag hai agar zakaat laa shu'oori taur par maaldaar ko de di jaaye jo uska haq daar na ho to maloom hone par dobaarah adaa karna hogi. (Awnul Baari:2/418)

Baab 10: Apne bete ko laa shu'oori taur par sadqah dena

719: Hazrat Ma'n bin Yazeed ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne aur mere baap daada ne Rasoolullah ﷺ se bai'at ki aur phir aap ne hi meri mangni ki aur nikah bhi karaya ek din main aap ke paas yeh muqaddamah le ker gaya ke mere baap Yazeed ؓ ne khairaat ki kuchh asharafiyan nikaal kar masjid mein ek shakhs ke paas rakh din (taake woh unhen taqseem karde) chunaancheh main gaya aur woh ashrafiyaan usse le kar apne ghar chala aaya mere baap ko pata chala to uss ne kaha Allah ki qasam! main ne tujhe dene ka iraadah nahin kiya tha bil aakhir main

فَأَصْحُوا يَتَحَدُّونَ: تُصَدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيِّ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلَى سَارِقٍ، وَعَلَى زَانِيَةٍ؟ وَعَلَى غَنِيِّ، فَأَتَى: فَقِيلَ لَهُ: أَمَا صَدَقْتِكَ عَلَى سَارِقٍ: فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ: فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِيُّ: فَلَعَلَّهُ يَعْتَبِرُ، فَيَنْفِقُ مِمَّا أُعْطَاهُ اللَّهُ)

(رواه البخارى: 1421)

١٠ - بَابُ: إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

٤١٩ : عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ: كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَائِرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهَا بِهَا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: (لَكَ مَا

moqaddamah Rasoolullah ﷺ ke paas laaya to aap ne farmaya: Aye Yazeed! tumhaari niyyat poori hogayi aur Aye Ma'n! jo tum ne liya woh tumhaara hai. (Bukhari:1422)

Fawaaid:Maloom huwa ke baap agar apni aulaad mein se kisi haqdaar ko sadqah wa khairaat deta hai to use ruju' ka haq nahin albatta hiba waghairah mein baap ko waapas lene ka haq badastoor qaayem rahta hai. (Awnul Baari:2/420)

Baab 11: Jo Shakhs khud apne haath se sadqah dene ki bajaaye apne kisi khidmat gaar ko uska hukm de

720: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo aurat apne ghar ke khaane se kuchh khairaat kare basharteke uski niyyat ghar bigaadne ki na ho to jo kuchh khairaat karegi uska sawaab zaroor milega uske shauhar ko bhi kamaane ki wajah se sawaab milega aise hi khazaanchi ko sawaab milega neez kisi ka sawaab doosre ke sawaab ko kam nahin karega. (Bukhari:1425)

Fawaaid:Iss se muraad uss qism ka khaana kairaat karna hai jo der tak rakhne se kharaab ho sakta ho ya aisi khairaat jo khaawind ko naagawaar na guzre aur na hi use ziyaadah nuqsan pahunchne ka andeshah ho. (Awnul Baari:2/422)

Baab 12: Sadqah wahi hai jis ke ba'd bhi aadmi ghani rahe

721: Hazrat Hakeem bin Hizaam رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain aap ne farmaya oupar waala haath neech waale haath se behtar hai aur sadqah ki ibtedaa apne a'yaal se karo behtar sadqah woh hai jis ke dene ke ba'd bhi dene waala ghani rahe aur jo shakhs sawaal karne se parhez karega Allah Ta'ala use bachne ki taufeeq dega aur jo shakhs be niyaazi ikhtiyaar karta hai Allah Ta'ala use be niyaaz kardeta hai. (Bukhari:1427)

Fawaaid:Maqsad yeh hai ke pahle apne bachchon aur azeed wa aqaarib ko khilaana aur unki khabar geeri karna chaahiye iss se faazil ho use khairaat karna chaahiye awwal khuwesh ba'd durwesh. (Awnul Baari:2/442)

722: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne mimbar par khutba ke waqt sadqah dene, sawaal karne

نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا
مَعْنُ). (رواه البخارى: 1422)

١١ - بَابُ: مَنْ أَمَرَ خَادِمَهُ

بِالصَّدَقَةِ وَلَمْ يُنَاوِلْ بِنَفْسِهِ

٤٢٠: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِذَا
أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ
مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ،
وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ، وَلِلْخَازِنِ
مِثْلُ ذَلِكَ، لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ
بَعْضٍ شَيْئًا). (رواه البخارى: 1425)

١٢ - بَابُ: لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرٍ غَنِيِّ

٤٢١: عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (أَلَيْدُ
الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْبَيْدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأُ
بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرٍ
غَنِيِّ، وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ وَمَنْ
يَسْتَعْنِ يُعْنِهِ اللَّهُ).

(رواه البخارى: 1427)

٤٢٢: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ،

aur na karne ka zikr karte huye farmaya oupar waala haath neeche waale haath se kahin behtar hai kyun ke oupar waala haath kharch karne waala aur neeche waala dast-e-sawaali hai. (Bukhari 1429)

وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ
وَالتَّعَفُّفَ وَالْمَسْأَلَةَ: (أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ
مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ
الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ).

(رواه البخارى: ١٤٢٩)

Fawaaid: Jab Insaan mohtaaj ho kar khairaat karega to use apni zarooriyaat ko poora karne ke liye doosron ke saamne apna haath phailaane ki zaroorat padegi aur yahi neecha haath hai jise shari'at ne karaahat ki nazar se dekha hai.

Baab 13: Sadqah ke liye targheeb dena aur uski baabat sefaarish karne ka bayaan

723: Hazrat Abu Moosa رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke paas koyi saayil aata ya aap se kisi zaroorat ka sawaal kiya jaata to aap farmate ke uski daadrasi ke liye sefaarish karo tumhein sawaab milega aur Allah ta'ala apne Rasool ki zabaan par jo chaahta hai jaari farma deta hai. (Bukhari:1432)

١٣ - بَابُ: التَّحْرِيطِ عَلَى

الصَّدَقَةِ وَالشَّفَاعَةِ فِيهَا

٨٢٣: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَاءَهُ
السَّائِلُ، أَوْ طَلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ، قَالَ:
(اشْفَعُوا تُوجَرُوا، وَيَقْضَى اللَّهُ عَلَى
لِسَانِ نَبِيِّهِ ﷺ مَا شَاءَ).

(رواه البخارى: ١٤٣٢)

Fawaaid: Maloom huwa ke zaroorat mand logon ki zarooriyaat ka khayaal rakhna aur unke liye bhaag daud ya sefaarish karna bahut bada sawaab hai kyun ke iss se Allah ki makhloq ko aaraam pahunchta hai aur isse badh kar aur koyi neki nahin. (Awnul Baari:2/427)

724: Hazrat Asmaa bint-e-Abi Bakr رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha ke mujhe Rasoolullah ﷺ ne irshaad farmaya ke tum apne maal par girah na do warna tum par bhi bandish kardi jaayegi ek rivaayat mein hai ke dene mein suhmaar na rakkho warna Allah bhi tumhen usi hisaab se dega.

(Bukhari:1433)

Fawaaid: Jo shaks be hisaab khairaat karta hai Allah use rizq bhi be shumaar dete hain yeh nafli sadqah ke muta'alliq hai.

Baab 14: Apni Iste'ta'at ke mutaabiq sadqah dena

725: Hazrat Asmaa رضي الله عنها se ek aur rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke apne maal ko saint saint kar mat rakkho warna Allah apni rahmt tum se rok lega aur jis qadr mumkin ho kharch karti raho.

١٤ - بَابُ: الصَّدَقَةِ فِيمَا اسْتَطَاعَ

٤٢٥: وَفِي رِوَايَةٍ: (لَا تُوعَى فَيُوعَى
اللَّهُ عَلَيْكَ، ارْضِخِي مَا اسْتَطَعْتِ).

(رواه البخارى: ١٤٣٣)

(Bukhari:1434)

Fawaaid:Allah Ta'ala ka apni rahmat ko rok lene se muraad khair wa barkat ka uthha lena hai.**Baab 15: Jo shakhs bahaalate shirk sadqah kare phir musalmaan ho jaaye**

726 : Hazrat Hakeem Bin Hizaam رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! zamaana-e-jaahiliyat mein ibaadat ki niyyat se jo sadqa deta tha ya ghulaam azaad karta aur silah rahmi karta tha Aap bataayen ke unka koyi sawaab hoga Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke guzishta nekiyon par paaband rahne ki bena par hi to musalmaan huye ho tumhen unka sawaab milega. (Bukhari: 1436)

Fawaaid:Maloom huwa ke agar koyi kaafir musalmaan ho jaaye to use zamaan-e- kufr ki nekiyon ka bhi sawaab milega yeh Allah Ta'ala ki e'naayat hai. (Awnul Baari:2/430)**Baab 16: Khidmat gaar ka sawaab jab woh bahukme aaqa de basharte ke uski niyyat bigaad ki na ho**

727 : Hazrat Abu Moosa رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya woh musalmaan khazaanchi jo amaanat daar ho aur apne aaqa ka hukm jaari karde aur kabhi Aap yoon farmate ke uss ka aaqa jo hukm de use bila kam-o-kaast khushi se doosre ke hawaale karde to woh bhi khairaat karne waalon mein se ek hoga. (Bukhari: 1438)

Fawaaid:Saahib-e-Maal aur uske hukm ki bajaa aawari karne waala donon sawaab mein shareek honge farq yeh hoga ke nokar ko izaafi sawaab nahin milega. jab ke malik ko 10 guna izaafi sawaab bhi diya jaayega..(Awnul Baari:2/431)**Baab 17:Irshaade baari Ta'ala: Jo shakhs sadqah de aur dar jaaye" aur yeh du'a ke Allah kharch karne waale ko ne'mul badal ataa kar"**

728 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jab log subah nikalte hain to do farishte utarte hain

١٥ - بَابُ: مَنْ تَصَدَّقَ فِي

الشَّرْكَ ثُمَّ أَسْلَمَ

٤٢٦ : عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ أَشْيَاءَ، كُنْتُ أَتَحَنُّتُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، مِنْ صَدَقَةٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، وَصَلَّةِ رَحِمٍ، فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَجْرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَسْلَمْتَ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ). (رواه البخارى: ١٣٣٦)

١٦ - بَابُ: أَجْرُ الْخَادِمِ إِذَا

تَصَدَّقَ بِأَمْرِ صَاحِبِهِ غَيْرَ مُفْسِدٍ

٤٢٧ : عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْحَاذِرُ الْمُسْلِمِ الْأَمِينِ، الَّذِي يُنْفِدُ - وَرَبَّمَا قَالَ: يُعْطَى - مَا أَمَرَ بِهِ، كَامِلًا مُوقِرًا، طَيِّبًا بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أَمَرَ لَهُ بِهِ، أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ).

(رواه البخارى: ١٣٣٨)

١٧ - بَابُ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: (فَأَمَّا مَنْ

أَعْطَى وَاتَّقَى) اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقَ مَالٍ خَلْفًا

٤٢٨ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ يَوْمٍ يُصَبِّحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ،

ek kahta hai aye Allah! kharch karne waale ko ne'mul badal aata kar aur doosra kahta hai aye Allah! kanjoos ko tabaahi wa barbaadi se do chaar kar. (Bukhari: 1442)

فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا). (رواه البخارى: ١٢٢٢)

Fawaaid:Doosri hadees mein hai ke kisi bande ka maal Allah ki raah mein dene se kam nahin hota.

Baab 18: Sadqah dene waale aur bakheel ki misaal

729 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke unhon ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko yeh farmate huye suna ke kanjoos aur sakhi ki misaal un do insaanon ki tarah hai jo seene se gardan tak lohe ka libaas pahne huye hain jab sakhi kharch karna chaahata hai to woh libaas khul jaata hai ya uske jism par kushaadah ho jaata hai aur bakheel jab kharch karna chaahata hai to uske libaas ki har kadi apni jagah par jam jaati hai woh har chand use kholna chaahata hai magar woh kushaada nahin hota. (Bukhari: 1443)

١٨- بَابُ: سَثَلِ الْبَحِيلِ وَالْمُنْصَدِّقِ
٤٢٩: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (سَثَلِ الْبَحِيلِ وَالْمُنْفِقِ، كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ، عَلَيْهِمَا جُبْتَانِ مِنْ حَدِيدٍ، مَنْ تَذِيهَهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ: فَلَا يَنْفِقُ إِلَّا سَبَغَتْ، أَوْ وَفَرَتْ عَلَى جَلْدِهِ، حَتَّى تُخْفِيَ بَنَانَهُ، وَتَعْفُو أَثْرَهُ. وَأَمَّا الْبَحِيلُ: فَلَا يَرِيدُ أَنْ يَنْفِقَ شَيْئًا إِلَّا لَرَفَتْ كُلَّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلَا تَتَّسِعُ). (رواه البخارى: ١٢٢٣)

Fawaaid:Matlab yeh hai ke sakhi aadmi ka dil, kharch karne se khush hota hai aur uski tabee'at mein kushaadgi paida hoti hai, jab ke bakheel aadmi ka mua'amlah iske bara'ks hai ya'ni uska seena tang ho jaata hai aur dil mein ghutan paida ho jaati hai. (Awnul Baari:2/434)

Baab 19: Har musalmaan par khairaat karna waajib hai agar na paaye to bhali baat ko amal mein laana khairaat hai

730 :Hazrat Abu Moosa رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya har musalmaan ke liye khairaat karna zaroori hai logon ne arz kiya ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم! agar kisi ko muyassar na ho (to kiya kare?) Aap ne farmaya ke woh apne haath se mehnat karke khud bhi faayidah uthhaaye aur khairaat bhi kare logon ne phir arz kiya agar uski bhi taaqat na hoto kiya kare? Aap ne farmaya woh kisi saahibe haajat aur sitam zadah ki faryaad rasi kare logon ne phir arz kiya agar iski bhi taaqat na ho to kiya kare? Aap ne farmaya ke

١٩- بَابُ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ
٤٣٠: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ). فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: (يَعْمَلُ بِيَدِهِ، فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَصَدِّقُ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: (يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ). قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: (فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ).

achchhi baat par amal kare aur buri baat se baaz rahe to uske liye yahi sadqa hai.

(رواه البخارى: ٢٢٥)

(Bukhari:1445)

Fawaaid: Maloom huwa ke Allah ki makhloq par shafqat wa meharbaani karna chaahiye khaah maal kharch karne se ho ya bhali baat kahne se kam az kam kisi ke muta'alliq buri baat karne se baaz rahna bhi shafqat wa meharbaani hi ki ek qism hai. (Awnul Baari:2/436)

Baab 20: Zakaat ya Sadqah se (kisi zaroorat mand ko) **kis qadar dena chaahiye**

731: Hazrat Umme Atiyah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Naseeba Ansaariyah رضي الله عنها ke paas ek sadqah ki ek bakri bheji gayi unhon ne uss mein se kuchh gosht Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ke paas bhej diya Rasoolullah ﷺ ne (ghar tashreef laakar) poochha ke tumhaare paas kuchh hai? Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne kaha uss bakri ka gosht jo Naseeba رضي الله عنها ne bheja hai bas uske elaawah kuchh nahin hai Aap ne farmaya usko laao kyun ke woh apne maqaam par pahunch chuka hai. (Bukhari: 1446)

Fawaaid: Mulk ke badalne se hukm bhi badal jaata hai kyun ke zakaat ka maal Rasoolullah ﷺ par haraam tha lekin mohtaaj ko jab zakaat mili aur usne bataur tohfa kuchh de diya to aisa karna jaayez hai ab uss par zakaat ke ahkaam nahin rahe. (Awnul Baari:2/437)

Baab 21: Zakaat mein (Naqdi ki bajaaye) deger asbaab ka lena dena

732: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه ne unhein zakaat ke woh ahkaam likh kar diye jo Allah ne apne Rasoolullah ﷺ par naazil farmaye the un mein se yeh bhi tha ke jis kisi par sadqah mein ek baras ki ountni farz ho aur woh uss ke paas na ho aur uske paas do baras ki ountni ho to usse wahi qubool karli jaaye aur sadqah wasool karne waala 20 dirham ya 2 bakriyaan use waapas de aur agar saal bhar ki ountni zakaat mein matloob ho aur woh uske paas na ho balke do baras ka nar ount ho to woh bhi qubool karliya jaaye magar uske saath use kuchh na diya jaaye.

(Bukhari:1448)

٢٠ - بَابُ: قَدْرِ كَمْ يُعْطَى مِنَ

الرِّزْقِ وَالصَّدَقَةِ

٤٣١ : عَنْ أُمِّ عَطِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَعَثَ إِلَى نُسَيْبَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ بِشَاةٍ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟). فَقُلْتُ: لَا، إِلَّا مَا أَرْسَلْتَ بِهِ نُسَيْبَةَ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ فَقَالَ: (هَاتِي، فَقَدْ بَلَغَتْ مَحَلَّهَا).

(رواه البخارى: ١٢٢٦)

٢١ - بَابُ: الْعُرْضِ فِي الرِّزْقِ

٤٣٢ : عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَتَبَ لَهُ أَلْتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ﷺ: (وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتِ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُ بِنْتُ لُبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عَشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَتَايِينَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهَهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لُبُونٍ، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ).

(رواه البخارى: ١٢٢٨)

Fawaaid: Imam Bukhari ke nazdeek sone chaandi ke bajaaye deegar asbaab ka bataur zakaat lena dena jaayez hai jab ke jumhoor iske khilaaf hain Imam Bukhari ki daleel bayin taur hai ke jab waajib se ziyaadah nafees ountni zkaat mein li jaa sakti hai to deegar asbaab ka dena bhi jaayiz thhahra lekin iss daleel mein itna wazan nahin hai kyun ke agar zakaat mein qeemat ka lehaaz hota to mukhtalif jaanwaron ki umr ka ta'ayyun be sood thhaharta hai jab shaare' ne jaanwaron ki umren mutaa'yyan kardin hain to uska saaf matlab hai ke unhi ka adaa karna zaroori hai. (Awnul Baari:2/438)

Baab 22:(Zakaat se bachne ke liye) alag alag maal ko jama na kiya jaaye aur na hi yakjaayi ko mutafarriq kiya jaaye.

733: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه ne unhein zakaat ke muta'alliq woh ahkaam likh kar diye jo Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne muqarrar farmaye the (un mein yeh bhi tha ke) Sadqah ke khauf se mutafarriq maal ko yakja na kiya jaaye aur na yakjaayi maal ko mutafarriq kiya jaaye.

(Bukhari:1450)

Fawaaid: Iski soorat yeh hai ke 3 aadmiyon ki alag alag 40,40 bakriyaan hain aur har ek par ek ek bakri zakaat waajib hai zakaat lene waala jab aaye to woh teenon apni bakriyaan yakja kar den isi soorat mein ek hi bakri dena hogi isi tarah do aadmiyon ki bataur sharaakat 200 bakriyan hain un par 3 bakriyan zakaat waajib hai woh zakaat ke waqt apni bakriyan alag alag kar len taake 2 bakriyan zakaat di jaaye aisa karna mana hai kyun ke yeh ek fareb aur na jaayiz heela giri hai. (Awnul Baari:2/439)

Baab 23: Sahraakat daar (zakaat ka) hissa baraabar baraabar ada karen

734: Hazrat Anas رضي الله عنه se hi ek doosri rivaayat mein hai ke Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه ne unke liye ahkaam-e-zakaat likh kar diye jo Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne muqarrar farmaye the un mein yeh bhi tha ke jo maal do shareekon ka jama ho to woh zakaat ki raqam baqadr hissa baraabar baraabar adaa karen. (Bukhari:1451)

Fawaaid: Iski soorat yeh hai ke do shareekon ki 40 bakriyan hain to ek bakri bataur zakaat dena hogi ab jiske maal se yeh bakri li gayi hai use chaahiye ke woh doosre shareek se uski nisf qeemat wasool kare. (Awnul Baari:2/440) agar ek ki 10 aur ek ki 30 hon to 10 waale ko ek chauthaayi aur 30 waale ko 3 chauthaayi dena hoga.

Baab 24: Ounton ki zakaat

735: Hazrat Abu Sayeed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek dehaati ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se hijrat ke muta'alliq dariyaaft kiya to aap

۲۲ - لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا

يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ

۴۳۳ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، حَشِيَّةَ الصَّدَقَةِ).

(رواه البخارى: ۱۴۵۰)

۲۳ - بَابُ: مَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ

فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوِيَّةِ

۴۳۴ : وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيْطَيْنِ، فَانَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسُّوِيَّةِ).

(رواه البخارى: ۱۴۵۱)

۲۴ - بَابُ: زَكَاةُ الْإِبْلِ

۴۳۵ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ

ne farmaya ke tere liye kharaabi ho hijrat ka mua'amlah bahut sakht hai kiya tere paas kuchh ount hain jin ki tu zakaat ada karta ho usne arz kiya ji haan, aap ne farmaya (phir tujhe hijrt ki zaroorat nahin) daryaaon ke uss paar amal karta rah Allah Ta'ala tere a'maal se kisi cheez ko zaa'e nahin karega.

(Bukhari:1452)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهَجْرَةِ، فَقَالَ: (وَيَحْك)،
إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبْلِ
تُؤَدِي صَدَقَتَهَا). قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:
(فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ
يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا).

(رواه البخارى: ١٤٥٢)

Fawaaid:Matlab yeh hai ke agar insaan faraayiz ki adaayegi mein kotahi nahin karta to jahaan chaahе rahe Allah Ta'ala usse baaz purs nahin karega. (Awnul Baari:2/441)

Baab 25: Jiske maal mein ek saalah ountni sadqah padti ho lekin uske paas na ho (to kiya kare?)

736: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه ne unhen woh faraayiz zakaat likh kar diye jin ka Allah ne apne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko hukm diya tha ya'ni agar kisi ke ounton par zakaat baqadr chahaar saalah bachcha ke farz ho aur uske paas chahaar saalah bachcha na ho balke sah saalah ho to usse sah saalah bachcha le liya jaayega aur uske saath do bakriyan bhi li jaayengi. basharteke aasaani se muyassar hoon basoorat deegar 20 dirham wasool karliye jaayenge aur jis ke zimme sah saalah ho aur uske paas seh saala ki bajaaye chahaar saalah ho to usse chahaar saalah qubool karliya jaayega aur sadqah wasool karne waala use 20 dirham ya 2 bakriyan wapas kare aur agar zakaat mein sah saalah bachcha farz ho aur uske paas sah saalah ki bajaaye do saalah maadah bachcha ho to wahi qubool karliya jaaye aur woh mazed uske saath 20 dirham ya do bakriyan dega aur agar zakaat mein 2 saalah maadah bachcha waajib ho aur uske paas seh saala bachcha maujood ho to wahi le kar 20 dirham ya 2 bakriyan waapas kar di jaayen agar zakaat mein do saalah bachcha waajib ho aur uske paas do saalah ke bajaaye ek saalah maadah bachcha ho to wahi qubool

٢٥ - بَابُ: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ
بِنْتٍ مَخَاضٍ وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ
٤٣٦: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:
كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ
رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ
الْإِبْلِ صَدَقَةَ الْجَذَعَةِ، وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ
جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، وَيَجْعَلُ مَعَهَا
شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ، أَوْ عَشْرَيْنِ
دِرْهَمًا. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ
الْحِقَّةِ، وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ
الْجَذَعَةُ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ،
وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ
شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ
الْحِقَّةِ، وَكَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا بِنْتَ لَبُونٍ،
فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ بِنْتُ لَبُونٍ، وَيُعْطَى شَاتَيْنِ أَوْ
عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ
بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ
مِنْهُ الْحِقَّةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ
دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ
بِنْتَ مَخَاضٍ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ

karliya jaaye lekin woh uske hamraah 20 dirham ya do bakriyan mazeed dega.

(Bukhari: 1453)

Fawaaid:In sooraton mein kami beshi ke taur par 20 dirham ya do bakriyon mein ek ka intekhaab karna dene waale ki zimme daari hai khaah maalik ho ya wosool kunindah lene waala apni marzi se kisi ek ko lene ka majaaz nahin hai. (Awnul Baari:2/437)

Baab 26: Bakriyon ki zakaat ka bayaan

737: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه ne unko (zakaat wasool karne ke liye) Bahrain ki jaanib rawaana kiya to yeh parwaana likh diya tha.

Allah ke naam se jo bada meharbaan nehaayat raham karne waala hai.

Yeh Ahkaam-e-sadqah hain jo Rasoolullah صلوات الله عليه ne musalmaanon par muqarrar farmaye hain aur jin ke muta'alliq Allah ta'ala ne apne Rasoolullah صلوات الله عليه ko hukm diya hai lehaazah jis musalmaan se iss tahreer ke mutaabiq zakaat ka mutaalbah kiya jaaye woh use ada kare aur jis se ziyaadah ka mutaalbah kiya jaaye woh na de 24 ount ya usse kam ta'daad par har 5 mein 1 bakri farz hai 25 se 35 tak yak saalah maadah bachcha shutr, 36 se 45 tak do saalah maadah bachcha shutr 46 se 60 tak sah saalah maadah shutr jo qaabil-e-jufti ho 61 se 75 tak chahaar saalah 76 se 90 tak 2 adad 2 saalah maadah shutr 91 se 120 tak 2 adad seh saalah maadh shutr jo qaabil jufti ho agar iss se ziyaadah hon to har 40 par do saalah maadah shutr aur har 50 par seh saalah maadah shutr aur jis ke paas sirf chaar ount hoon to un par zakaat farz nahin lekin unka maalik agar chaahe to zakaat de sakta hai agar paanch ount hon to un par ek bakri waajib hai bakriyon ki zakaat ke muta'alliq yeh zaabtah hai ke jangal mein charne waali bakriyan jab 40 ho jaayen to 120 tak ek bakri dena hogi 121 se 200 tak 2

مَخَاضٍ، وَيُعْطَى مَعَهَا عَشْرَيْنِ دِرْهَمًا
أَوْ شَاتَيْنِ). (رواه البخارى: ١٢٥٣)

٢٦ - بَابُ: زَكَاةُ الْغَنَمِ
٤٣٤: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَبَا
بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، كَتَبَ لَهُ هَذَا
الْكِتَابِ، لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُسْلِمِينَ،
وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولُهُ، فَمَنْ سَأَلَهَا
مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطَهَا،
وَمَنْ سَأَلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِ:

(فِي أَرْبَعٍ وَعَشْرَيْنِ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا،
مِنَ الْغَنَمِ، مِنْ كُلِّ خَمْسِ شَاةٍ، فَإِذَا
بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسِ
وَتَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أَنْثَى، فَإِذَا
بَلَغَتْ سِتًّا وَتَلَاثِينَ إِلَى خَمْسِ وَأَرْبَعِينَ
فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ أَنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا
وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طُرُوقَةٌ
الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى
خَمْسِ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَدْعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ
- يَعْنِي - سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا
بِنْتُ لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ
إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طُرُوقَتَا
الْجَمَلِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ

bakriyan aur 201 se 300 tak 3 bakriyan dena zaroori hain aur agar 300 se ziyaadah hon to har 100 mein ek bakri dena hogi aur agar bakriyan 40 se kam hon to zakaat nahin haan maalik dena chahe to uski marzi hai chaandi mein zakaat 40waan hissa hai basharteke 200 dirham hon agar 190 dirham hain to un par zakaat nahin haan agar maalik dena chahe to de sakta hai.

(Bukhari:1454)

خَمْسِينَ حَقَّةً، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ فَفِيهَا شَاةٌ.

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ: فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاةٍ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِئَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثٌ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةً الرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.

وَفِي الرِّقَّةِ رُبْعَ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا). (رواه البخارى: 1454)

Fawaaid:Hadees ke aakhir mein ek ek sad nawe ki ta'daad dehaaiyon ke e'tebar se hai matlab yeh hai ke 199 tak koyi zakaat nahin haan jab poore 200 hongy to zakaat waajib hogi.

(Awnul Baari:2/446)

Baab 27: Zakaat mein sirf Sahih wa tandurust jaanwar liya jaaye

738:Hazrat Anas رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Abu Bakr رضي الله عنه ne unhen ek tahreer likh kar di thi jiska hukm Allah ne apne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko diya tha ke zakaat mein boodhi bakri aur a'ib daar jaanwar na nikaala jaaye aur na hi bakra diya jaaye haan agar sadqah wasool karne waala chahe to le sakta hai.

(Bukhari: 1455)

۲۷ - بَابُ: لَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا

السَّلِيمُ

۴۳۸: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنْ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ، الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ صلی اللہ علیہ وسلم: (وَلَا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرَمَةٌ، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلَا تَيْسٌ، إِلَّا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ).

(رواه البخارى: 1455)

Fawaaid:Zakaat ke jaanwar agar sab maadah hain aur afzaayish-e-nasl ke liye nar ki zaroorat ho to nar lene mein koyi muzaayiqah nahin isi tarah koyi u'mdah nasal ka oont, gaaye ya bakri ki zaroorat to nasal kashi ke liye use lena bhi jaayiz hai agarche aib daar hi kyun na ho.

Baab 28: Zakaat mein logon ka umdah maal na liya jaaye

739: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما ki woh rivaayat (702) jis mein Hazrat Mu'aaz ؓ ko Yaman bhejne ka zikr hai pahle guzar chuki hai iss rivaayat mein itna ezaafah hai ke Mu'aaz! tum Ahl-e-Kitab ke paas jaa rahe ho phir baaqi hadees zikr ki jiske aakhir mein hai ke logon ke umdah maal lene se parhez karna. (Bukhari:1458)

٢٨ - بَابُ : لَا تُؤْخَذُ كَرَائِمُ أَمْوَالِ

النَّاسِ فِي الصَّدَقَةِ

٤٣٩ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : حَدِيثٌ بَعَثَ مَعَاذَ إِلَى الْيَمَنِ تَقْدِمَ وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ قَالَ : (إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ ..) وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ : (..) وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ .

(رواه البخارى: ١٢٥٨)

Fawaaid: Yeh isliye hai ke zakaat ke zariye ghurbaa se hamdardi maqsood hai lehaazah aghniyaa par ziyaadati karke maflookul haal se hamdardi karna jaayiz nahin hain yahi wajah hai ke hadees ke aakhir mein farmaan-e-nabawi hai ke mazloom ki bad dua' se bachte rahna.

Baab 29: Apne Rishtah daaron ko zakaat dena

740: Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai unhone farmaya ke Hazrat Abu Talha ؓ Madinah mein tamaam Ansaar se ziyaadah maaldaar the unke khujoor ke baaghaat the unhein sab se ziyaadah pasand bairohaa naami baagh tha jo Masjid-e-Nabawi ke saamne waqe' tha wahaan Rasoolullah ﷺ tashreef le jaate aur uska khushgawaar paani peete the hazrat Anas ؓ farmate hain ke jab yeh aayat naazil huyi: "Tum neki nahin haasil kar sakte jab tak apni marghoob cheezon mein se kharch na karo." to Abu Talha ؓ ne Rasoolullah ﷺ ke saamne khade hokar arz kiya ya Rasoolallah ﷺ Allah Ta'ala farmata hai tum neki ko nahin pahunch sakte jab tak apni pasandeedah cheezen (Allah ki raah mein) kharch na karo aur mera sab se mahboob maal "Bairohaa" hai lehaazah woh aaj se Allah ki raah mein sadqah hai aur main Allah ke haan uske sawaab aur aakhirat mein uske zakheerah hone ka ummeedwaar hoon. ya Rasoolallah ﷺ ! aap use Allah ke hukm ke mutaabiq masraf mein le aayen

٢٩ - بَابُ : الزَّكَاةِ عَلَى الْأَقَارِبِ

٤٤٠ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلِ ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ ، وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْخُلُهَا ، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ . قَالَ أَنَسٌ : فَلَمَّا أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ . قَالَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ : ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ وَإِنْ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَى بَيْرُحَاءَ ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ ، أَرْجُو بَرَهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ ، فَضَعُهَا ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (بَخْ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ،

hazrat Anas ؓ ka bayaan hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya bahut khoob yeh to bahut nafa bakhsh maal hai yeh to waqay'i nafa bakhsh maal hai aur jo kuchh tum ne kaha main ne sun liya mera mashwarah yeh ke tum use apne rishta daaron mein taqseem kardo Hazrat Abu Talha ؓ ne arz kiya ke ya Rasoolallah ﷺ ! Main aap ke hukm ki ta'meel karunga chunaanche Abu Talha ؓ ne use apne rishtah daaron aur chacha zaad bhaiyon mein taqseem kardiya. (Bukhari:1461)

Fawaaid: Rishtah daaron ko khairaat dene se do guna ajr milta hai sadqah khairaat aur silah rahmi karne ka agarcheh yeh nafli sadqah tha taa hum Imam Bukhari ne zakaat ko iss par qiyaas kiya aur aisa karna mutlaqan jaayiz hai bashar teke rishtah daar muhtaaj ho. (Awnul Baari:2/450)

741: Hazrat Abu Sayeed Khudri ؓ ki hadees (531) pahle guzar chuki hai jo Rasoolullah ﷺ ke eid gaah tashreef le jaane ke muta'alliq hai iss rivaayat mein iss qadar ezaafah hai ke jab aap laut kar apne makaan par tashreef laaye to ibne Masood ؓ ki biwi Hazrat Zainab رضي الله عنها aayin aur aap ke paas aane ki ijaazat maangi chunaanche arz kiya gaya ya Rasoolallah ﷺ ! Zainab رضي الله عنها aayi hai to aap ne poochha kaunsi Zainab رضي الله عنها ? arz kiya Ibne Masood ؓ ki biwi, aap ne farmaya achchha unhen ijaazat de do chunaanche ijaazat de di gayi unhon ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ ! aap ne aaj sadqah dene ka hukm diya hai aur mere paas kuchh zewar hai main chaahati hoon ke ise kairaat kardoon magar ibne Mas'ood ؓ ka khayaal hai ke woh aur uske bachche ziyaadah mustahiq hain ke unhen sadqah doon, tab Rasoolullah ﷺ ne farmaya Ibne Mas'ood ؓ ne sahih kaha hai tumhaara khaawind aur tumhaare bachche iske ziyaadah haqdaar hain ke tum unko sadqah do. (Bukhari:1462)

Fawaaid: Maloom huwa ke biwi apne nadaar khaawind par aur maan apne muflis bachche par khairaat kar sakti hai aur use zakat bhi de sakti hai Imam Bukhari ne zakaat ko nafli sadqah par qiyaas kiya hai. (Awnul Baari:2/452)

وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتُ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ). فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفَعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ.

(رواه البخارى: 1461)

٤٣١ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَدِيثُهُ فِي خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى الْمُصَلَّى تَقَدَّمَ، وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ قَالَ: فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ زَيْنَبُ، امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ، فَقَالَ: (أَيُّ الرَّيَانِبِ؟) فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: (نَعَمْ، ائْذِنُوا لَهَا). فَأُذِنَ لَهَا، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكَ وَوَلَدُكَ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ).

(رواه البخارى: 1462)

Baab 30: Musalmaan ke liye apne ghode ki zakaat dena zaroori nahin

742: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke Musalmaan par uske khidmat gaar ghulaam aur uski sawaari ke ghode par zakaat farz nahin hai. (Bukhari: 1463)

Fawaaid: Sahih moqif yahi hai ke ghulaamon aur ghodon par zakaat farz nahin hai agarcheh woh bagharz tijaarat hi kyun na rakkhe hon kyun ke Rasoolullah ﷺ se inki tijaarat ke muta'alliq koyi hadees marvi nahin hai. (Awnul Baari: 2/453)

Baab 31: Yateemon par sadqah

743 : Hazrat Abu Sa'yeed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke ek din Rasoolullah ﷺ mimbar par raunaq afrooz huye jab hum log Aap ke gird baithh gaye to Aap ne farmaya main apne ba'd tumhaare haq mein dunya ki shaadaabi aur uski zebaayish se darta hoon jis ka darwaazah tumhaare liye khol diya jaayega uss par ek shakhs ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! kiya achchhi cheez bhi buraayi paida karegi? Aap khamoosh ho gaye uss shakhs se kaha gaya ke kiya mu'aamla hai tu lab kushaayi kiye jaaraha hai jabke Rasoolullah ﷺ tujh se guftagu nahin farmate uske ba'd hum ne dekha ke Aap par wahi aarahi hai raavi kahta hai ke phir Aap ne chehre mubaarak se paseena saaf kiya aur farmaya saayil kahaan hai? goya Aap ne uski tahseen farmaayi phir farmaya baat yeh hai ke achchhi cheez buraayi to paida nahin karti lekin fasle rabi' aisi ghaas bhi paida karti hai jo jaanwar ko maar daalti hai ya bimaar kardeti hai magar uss sabzah khor jaanwar ko jo yahaan tak khaaye ke uski donon kokh bhar jaayein phir woh dhoop mein aakar let jaaye aur leed aur peshaab kare aur phir charne lage bila shubah yeh maal bhi sar sabz wa sheerin hai aur musalmaan ka behtareen saathi hai magar usse miskeen, yateem aur musaafir

٣٠- بَابُ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ

فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

٤٣٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَيْسَ عَلَى

الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ).

رواه البخارى: (١٢٦٣)

٣١- بَابُ: الصَّدَقَةُ عَلَى الْيَتَامَى

٤٣٢: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَلَسَ ذَاتَ

يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ،

فَقَالَ: (إِنِّي مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْ

بَعْدِي مَا يَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا

وَزَيْنَبِهَا). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

أَوْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ

ﷺ، فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ، تَكَلَّمُ

النَّبِيُّ ﷺ وَلَا يُكَلِّمُكَ؟ فَأَرَيْنَا أَنَّهُ

يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، قَالَ فَمَسَحَ عَنْهُ

الرُّحْضَاءُ، فَقَالَ: (أَيْنَ السَّائِلُ؟).

وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ فَقَالَ: (إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْخَيْرُ

بِالشَّرِّ، وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِئُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ

يُلْمُ، إِلَّا أَكَلَةَ الْخَضِرَاءِ، أَكَلْتُ حَتَّى

إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا، اسْتَقْبَلْتُ عَيْنَ

الشَّمْسِ، فَتَلَطَّ، وَبَالَتْ، وَرَتَعَتْ،

وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَيُعَمَّ

صَاحِبُ الْمُسْلِمِ مَا أُعْطِيَ مِنْهُ

الْمُسْكِينِ وَالْيَتِيمِ وَابْنِ السَّبِيلِ - أَوْ

ko diya jaaye. ya iss qism ki koyi aur baat Rasoolullah ﷺ ne irshaad farmayi aur jo shakhs uss maal ko naahaq lega woh uss shakhs ki tarah hoga jo khaata jaaye magar sair na ho aisa maal qiyaamat ke din uske khilaaf gawaahi dega. (Bukhari: 1465)

Fawaaid: Yeh misaal de kar Rasoolullah ﷺ ne hamen uss haqeeqat se aagaah farmaya hai ke daulat agarcheh Allah Ta'ala ki ne'mat aur achchhi cheez hai magar jab be moqa aur gunaahon mein sarf hogi to yahi daulat azaab ka baais ban jaayegi jaisa ke mosam-e-bahaar ki hari ghaas badi umdah ne'mat hai magar jo jaanwar had se ziyaadah kha jaaye to uske liye yeh zahar-e-qaatil ban jaati hai.

Baab 32: Khaawind aur zer-e- kifaalat yateemon ko zakaat dena

744 : Hazrat Zainab رضي الله عنها zauja-e- Abdullah Bin Mas'ood ﷺ ki hadees (741) pahle guzar chuki hai aur iss tareeq mein itna ezaafah hai, ke unhon ne farmaya main Rasoolullah ﷺ ke paas gayi to main ne darwaaze par ek Ansaari khaatoon ko paaya jo meri tarah ki zaroorat ke liye aayi thi Hazrat Bilaal ﷺ jab hamaare paas se guzre to hamne kaha ke tum Rasoolullah ﷺ se daryaافت karo kiya mere liye yeh kaafi hai ke main apna maal apne shauhar aur zere kifaalat yateemon par kharch kar doon chunaancheh Hazrat Bilaal ﷺ ke daryaافت karne par Aap ne farmaya haan aisa kar sakti hai use dugna sawaab milega ek qaraabat daari ka doosra khairaat dene ka.

(Bukhari: 1466)

Fawaaid: Hadees mein sadaqah ka lafz jo farz sadaqah ya'ni zakaat aur nafil sadaqah ya'ni khairaat donon ko shaamil hai sahih moqif yeh hai ke maal-e-zakaat apne khaawind aur betiyon ka dena jaayiz hai bashar teke woh mohtaaj hon.

745 : Hazrat Umme Salmah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha main ne daryaافت kiya ya Rasoolallah ﷺ! agar main Hazrat Abu Salmah رضي الله عنها ke bachchon par kharch karun to kiya mujhe sawaab milega? jabke woh mere hi bete hain Aap ne farmaya tum un par kharch karo jo kuchh tum un par kharch karogi uska sawaab tumhen zaroor melega. (Bukhari: 1467)

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - وَإِنَّهُ مَنْ يَأْخُذْهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، كَأَلْدَى يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(رواه البخارى: ١٤٦٥)

٣٢- بَابُ: الزَّكَاةُ عَلَى الزَّوْجِ

وَالْأَيَّامِ فِي الْحَجْرِ

٤٣٣: عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثُهَا الْمَتَقَدِّمِ قَرِيبًا، وَقَالَتْ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: أَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ، حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي، فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ، فَقُلْنَا: سَلِ النَّبِيَّ ﷺ: أَيُّجَزِيءُ عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيَّامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: (نَعَمْ لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ). (رواه البخارى: ١٤٦٦)

٤٣٥: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلِي أَجْرٌ أَنْ أَنْفِقَ عَلَى بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، إِنَّمَا هُمْ بَنِيٌّ؟ فَقَالَ: (أَنْفَقِي عَلَيْهِمْ، فَلِكِ أَجْرٌ مِمَّا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ).

(رواه البخارى: ١٤٦٧)

Fawaaid:Agarcheh hadees mein saraahat nahin ke hazrat Umm-e-Salmah رضي الله عنها un yateem bachchon par maal-e-zakaat se kharch karti thin taa hum itna zaroor qadr-e- mushtarik hai ke un par kharch zaroor karti thin.

Baab 33: Irshaade Baari Ta'ala gulaamon ko aazaad karne mein. Qarzdaaron ko najaat dilaane mein aur Allah ki raah mein (maal-e-zakaat kharch kiya jaaye)

746 :Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne ek daf'a sadqah wasool karne ka hukm diya arz kiya gaya ke lbne Jameel, Khalid Bin Waleed aur Abbaas bin Abdul Muttalib رضي الله عنه ne Sadqah nahin diya uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya lbne Jameel to iss wajah se inkaar karta hai ke woh tangdast tha Allah aur uske Rasool ne maaldaar kar diya magar khaalid رضي الله عنه par tum zulm karte ho unhon ne zirhen aur aalaate jang Allah ki raah mein waqf kar rakkhe hain rahe Abbaas bin Abdul Muttalib رضي الله عنه to woh Rasoolullah ﷺ ke chacha hain unki zakaat un par sadqah hai aur uske baraabar aur bhi (meri taraf se hogi)

(Bukhari: 1468)

Fawaaid:Sahih Muslim mein hai ke hazrat Abbas رضي الله عنه ki zakaat balke usse do chand main ada karunga kyun ke chacha, baap hi ki tarah hota hai iss liye apne chacha ki taraf se main khud zakaat ada karunga.(Awnul Baari:2/463)

Baab 34: Sawaal karne se bachna

747 : Hazrat Abu Sa'yeed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai ke ansaar mein se chand logon ne Rasoolullah ﷺ se (maal ka) sawaal kiya to Aap ne de diya unhon ne dobaraah maanga to Aap ne phir de diya yahaan tak ke Aap ke paas jo kuchh tha sab khatm ho gaya bil aakhir Aap ne farmaya mere paas jo maal hoga use tum logon se bacha kar nahin rakkhunga lekin yaad rakkho jo shakhs sawaal karne se bachega Allah use faqro faaqah se bachaayega aur jo shakhs (dunya ke maal se) be niyaaz rahega Allah use ghani kar dega aur jo shakhs sabr karega Allah use saabir banaa dega aur kisi shakhs ko sabr se

٣٣- باب: قول الله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾

٤٣٦ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ، وَخَالِدِ بْنِ وَليِدٍ، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا يَنْقُمُ ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدْ احْتَبَسَ أَذْرَاعَهُ وَأَعْتَدَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: فَعَمُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَهِيَ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَمِثْلُهَا مَعَهَا). (رواه البخارى: ١٤٦٨)

٣٤- بَابُ: الإِسْتِعْفَافِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ

٤٣٧ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ، سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، حَتَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: (مَا يَكُونُ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَذْجِرَهُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنْ

behtar koyi wasi' tar ne'mat nahin di gayi hai. (Bukhari: 1469)

(رواه البخارى: 1469)

Fawaaid: Iss hadees mein sawaal na karne ke teen darje hain pahla yeh ke insaan sawaal se parhez kare lekin isteghnaa ko zaahir na kare, doosra yeh ke makhloq se to be niyaaaz rahe albatta agar use kuchh de diya jaaye to batayyib khaatir qubool kare aur teesra yeh ke dene ke baawajood use qubool na kare yeh aakhri darjah sabr wa sabaat ka hai jo tamaam makaarim-e-akhlaaq ko apne andar samete huye hai. (Awnul Baari:2/464)

478 : Hazrat Abu Sa'yeed رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya qasam hai uss zaat ki jis ke haath mein meri jaan hai tum mein se agar koyi rassi lekar uss mein lakdiyon ka gatthha baandhe aur use apni peethh par laadkar laaye to doosre ke paas sawaal karne se behtar hai (ma'loom nahin) woh use de ya na de. (Bukhari: 1470)

٤٧٨ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتِطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ). (رواه البخارى: 1470)

Fawaaid: Iss hadees mein Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne doosron se sawaal karne ki bade baleegh andaaz mein muzammat farmaayi hai. (Awnul Baari:2/465)

749 : Hazrat Zubair رضي الله عنه se ek aur rivaayat mein hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya agar koyi lakdiyon ka gatthha apni peethh par laadkar laaye aur use farokht kare jiski wajah se Allah Ta'ala uski izzat wa aabroo qaayem rakkhe to yeh uske liye sawaal karne se behtar hai ke log use den ya na de.

٧٤٩ : وفى رواية عن الزبير رضى الله عنه، عن النبي ﷺ قال: فَيَأْتِي بِحِزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعُهَا، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ).

(Bukhari: 1471)

(رواه البخارى: 1471)

Fawaaid: Maloom huwa ke haath se mehnat karke khaana behtareen kamaayi hai waazeh rahe ke may'eeshat ke teen Wosool hain, zaraa'at, tijaarat aur sana'at wa hurufat, in mein pahla darjah zaraa'at ka hai kyun ke iss mein haath se mehnat aur Allah par tawakkal kiya jaata hai. (Awnul Baari:2/466)

750 : Hazrat Hakeem bin Hizaam رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne ek daf'a Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se kuchh maanga to Aap ne mujhe de diya main ne phir maanga to bhi Aap ne de diya main ne phir maanga to Aap ne mujhe phir bhi de diya aur uske ba'd farmaya aye Hakeem رضي الله عنه! yeh maal sabz wa sheerin hai jo shakhs isko sakhaawate nafs ke saath leta hai usko barkat ataa hoti hai aur jo tama' ke saath leta hai usko uss mein barkat nahin di jaati aur aisa aadmi uss shakhs ki tarah hota hai jo khaata to hai

٧٥٠ : عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: (يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَصْرَةٌ حُلُوءَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافٍ نَفْسٌ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ،

magar sair nahin hota neez oupar waala haath neeche waale haath se behtar hai Hazrat Hakeem ﷺ kahte hain main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ qasam uss zaat ki jis ne Aap ko haq de kar bheja hai main Aap ke ba'd kisi se kuchh nahin maangunga yahaan tak ke dunya se chala jaaoun chunaaneh jab Hazrat Abu Bakr ﷺ khalifah huye to woh Hazrat Hakeem ﷺ ko wazifa dene ke liye bulaate rahe magar unhon ne qubool karne se inkaar kiya phir Hazrat Umar ﷺ ne bhi apne daure khilaafat mein unko bula kar wazifa dena chaaha lekin unhon ne inkaar kar diya jis par Hazrat Umar ﷺ ne farmaya musalmaanon! main tumhen gawaah karta hoon ke main ne Hakeem ﷺ ko unka haq pesh kiya magar woh maale ghaneemat se apna haq lene se inkaar karte hain al gharz Hazrat Hakeem ﷺ phir Rasoolallah ﷺ ke ba'd jab tak zindah rahe kisi se kuchh na liya. (Bukhari: 1472)

وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى).
قَالَ حَكِيمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا أُرْزَأُ أَحَدًا
بَعْدَكَ شَيْئًا، حَتَّى أَفَارِقَ الدُّنْيَا.
فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَدْعُو
حَكِيمًا إِلَى الْعَطَاءِ فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ،
ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ
فَيَأْتِي أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، فَقَالَ عُمَرُ:
إِنِّي أَشْهَدُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ
عَلَى حَكِيمٍ، إِنِّي أَعْرَضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ
هَذَا الْفَقْرِ، فَيَأْتِي أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرَزَأُ
حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ حَتَّى تُوْفِيَ.

(رواه البخارى: 1472)

Fawaaid: Zaroorat ke baghair kisi doosre se sawaal karna haraam hai mehnat wa mazdoori par qudrat rakhne waale ke liye bhi yahi hukm hai albattha ba'z hazraat ne teen sharaayet ke saath kuchh gunjaayish paida ki hai israar na kare, apni izzat-e- nafs ko majrooh na hone de aur jis shakhs se sawaal kare use takleef na de agar yeh sharaayat na hon to bilittefaaq haraam hai. (Awnul Baari:2/469)

Baab 35: Jis shakhs ko Allah baghair sawaal aur baghair tama' ke kuchh de (to use qubool karna chaahiye)

751 :Hazrat Umar ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolallah ﷺ mujhe maal dete the to main kahta tha yeh uss shakhs ko den jo mujh se ziyaadah haajat mand ho tab Aap farmaate agar bin maange baghair intezaar kiye tumhaare paas maal aajaaye to le liya karo aur jo aisa na ho uske peechhe mat pado. (Bukhari: 1473)

٣٥- بَابُ: مَنْ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ
مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ
٤٥١ : عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يُعْطِينِي الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ: أَعْطِهِ مَنْ هُوَ
أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ: (خُذْهُ، إِذَا جَاءَ
كَ مِنْ هَذَا الْمَالِ شَيْءٌ) وَأَنْتَ غَيْرُ
مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا
تَتَّبِعْهُ نَفْسَكَ). (رواه البخارى: 1473)

Fawaaid: Sawaal kiye baghair jo mile uska lena jaayiz hai bashar teke maal haraam na ho agar haraam ka yaqeen ho to lena jaayiz nahin agar mushtabah hai to parhez gaari ka taqaazah hai ke iss qism ke maal se bhi ijtenaab kare taa hum lene mein thodi bahut gunjaayish zaroor hai. (Awnul Baari:2/471)

Baab 36: Jo apni daulat badhaane ke liye logon se sawaal kare.

752 :Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs baraabar logon se sawaal karta rahta hai woh qiyaamat ke din iss haal mein aayega ke uske munh par gosht ki booti tak na hogi neez Aap ne farmaya qiyaamat ke din aaftaab itna qareeb aajaayega ke paseena nisf kaan tak pahunch jaayega sab log usi haal mein Hazrat Aadam se faryaad karenge phir Moosa عليه السلام se phir Muhammad ﷺ se.(Bukhari: 1475)

Fawaaid:Sawaal karne ki saza mein uske chehre ki raunaq ko khatm kardiya jaayega sirf haddiyaan hi rah jaayengi aisi bhayaanak aur qabeeh shakl mein qiyaamat ke din Allah ke huzoor pesh hoga.(Awnul Baari:2/472)

Baab 37: Kis qadar maal se ghana (Maaldaari) haasil hoti hai?

753 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya miskeen woh nahin jo logon se sawaal karta phire aur woh use ek ya do luqmen ya ek khujoor ya do khujoooren de den balke miskeen woh hai jis ko baqadre zaroorat cheez na mile na to logon ko uski haalat ma'loom ho ke usko khairaat de saken aur na khud kisi se sawaal karne par aamaadah ho. (Bukhari: 1479)

Fawaaid:Imam Bukhari ka maqsood woh had batlaana hai jiski maujoodgi mein logon se sawaal karna mana hai lekin iss hadees mein iski saraahat nahin hai doosri rivayaat se pata chalta hai ke jiske paas subah wa shaam ka khana maujood hai use doosron se sawaal karne ki ijaazat nahin.

Baab 38: Khujoor ka (darakhton par) andaazah lagaana

754 :Hazrat Abu Humaid Saa'di رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ghazwah-e-tabook mein Rasoolullah ﷺ ke saath the jab Aap waadi Qura mein tashreef laaye to dekha ke ek aurat apne baagh mein hai Aap ne sahaaba kiraam رضي الله عنهم se farmaya ke

٣٦-باب: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ تَكْثُرًا
٤٥٢ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا
يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ
لَحْمٍ) وَقَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ
الْقِيَامَةِ؛ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ
الْأُذُنِ، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَاثُوا
بِأَدَمَ ثُمَّ بِمُوسَى، ثُمَّ مُحَمَّدٍ ﷺ).

(رواه البخارى: ١٢٤٣، ١٢٤٥)

٣٧-باب: حَدُّ الْغِنَى

٤٥٣ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ
الْمُسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ،
تَرُدُّهُ اللَّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ، وَالتَّمْرَةُ
وَالتَّمْرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمُسْكِينُ الَّذِي لَا
يَجِدُ غِنَى يُغْنِيهِ، وَلَا يُفْطَنُ بِهِ
فَيَتَصَدَّقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ
النَّاسَ). (رواه البخارى: ١٢٤٩)

٣٨-باب: خَرَصُ التَّمْرِ

٤٥٤ : عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ
وَادَى الْقُرَى، إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ

andaazah karo (iss mein kitni khujooren hongy) khud Rasoolullah ﷺ ne uska 10 wasaq andaazah lagaaya phir uss aurat se farmaya ke jitni khujooren paida hon unko wazan kar lena phir jab hum tabook pahunchte to Aap ne farmaya aaj raat ko sakht aandhi aayegi iss liye raat koyi khud bhi na uthhe aur jiske paas ount ho use bhi baandh de chunaancheh hum logon ne ounton ko baandh diya phir sakht aandhi aayi ittefaaq se ek shakhs khada huwa to use (tez hawaa ne) tai naami pahaad par phenk diya isi jehaad mein eelah ke baadshaah ne Rasoolullah ﷺ ke liye ek safed khachchar aur odhne ke liye ek chaadar bheji Aap ne iss elaaqa ki hukoomat uske naam likh di phir jab Aap waadi Qura laut kar aaye to Aap ne uss aurat se poochha tumhaare baagh mein khujooron ki kitni paidawaar rahi? usne arz kiya 10 wasaq yahi andaazah Rasoolullah ﷺ ne farmaya tha phir Rasoolullah ﷺ ne farmaya main Madinah jaldi jaana chaahta hoon lehaaza tum mein se jo shakhs jaldi jaana chaahe woh jaldi tayyaar ho jaaye jab Aap ko Madinah nazar aane laga to farmaya yeh taabah hai aur jab Aap ne Uhad ko dekha to farmaya yeh pahaad hai jo hum ko dost rakhta hai aur hum ise dost rakhte hain kiya main tumhein bataaun ke ansaar mein kis ka gharaana behtareen hai? logon ne arz kiya jee haan Aap ne farmaya Qabeela Najjaar (ka gharaana) uske ba'd Bani Abdul Ash Hal phir Bani S'aaeda phir Bani Haaris bin Khazraj ke gharaane aur yoon to ansaar ke tamaam gharaanon mein achchhaayi hai.

(Bukhari: 1481)

لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (أَخْرُصُوا). وَخَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ عَشْرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَهَا: (أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: (أَمَا، إِنَّهَا سَهْتُهُبُ اللَّيْلَةِ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَلَا يَقُومَنَّ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ). فَعَقَلْنَاهَا، وَهَبْتُ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَالْقَتَهُ بِجَبَلٍ طَيِّبٍ. وَأَهْدَى مَلِكٌ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَعْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: (كَمْ جَاءَتْ حَدِيثُكَ؟) قَالَتْ: عَشْرَةَ أَوْسُقٍ، خَرَصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِيَ فَلْيَتَعَجَّلْ). فَلَمَّا قَالَ: الرَّاوى كَلِمَةً مَعْنَاهَا - أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: (هَذِهِ طَابَةٌ). فَلَمَّا رَأَى أَحَدًا قَالَ: (هَذَا جَبِيلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أَخْبَرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الْأَنْصَارِ؟). قَالُوا: بَلَى، قَالَ: (دُورُ بَنِي النَّجَّارِ، ثُمَّ دُورُ عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ، أَوْ دُورُ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ - يَعْنِي - خَيْرًا). (رواه البخارى: 1481)

Fawaaid: Darakhton par lage huye phalon ka kisi tajarbah kaar se andaazah lagaana khars kahlaata hai iss andaaze ka daswaan hissa bataur zakaat wosool kiya jaata hai waazeh rahe ke andaazah kardah miqdaar se uthhne waale ekhrajaat ko minha kardiya jaaye. (Awnul Baari: 2/479)

Baab 39: U'shr uss kheti mein hai jise aabe baaraan ya aabe rawaan se seencha jaaye

755: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya ke jo kheti baarish ya chashme se sairaab ho ya woh zameen jo khud ba khud sairaab ho uss mein 10 waan hissa liya jaaye aur jo kheti kunwen ke paani se seenchi jaaye usse 20 waan hissa liya jaaye. (Bukhari: 1483)

Fawaaid: Doosri ahaadees se maloom hota hai ke paida waar paanch wasaq ya iss se ziyaadah ho iss se kam miqdaar mein ushr nahin hai waazeh rahe ke ek wasaq mein 60 sa' hote hain aur 1 sa' sawa do ser ya 2 kilo aur 100 gm ka hota hai.

Baab 40: Jab khujoor darakhton se toden uss waqt zakaat li jaaye neez kiya bachche ko yoon hi chhod diya jaaye ke woh sadqah khujooron se kuchh le le?

756: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke paas khujooren fasal kat te hi aane lagtin aur aisa hota ke ek shakhs apni khujooren le aata to idhar doosra shakhs apni khujooren le aata iss tarah sadqah ki khujooron ke dher lag jaate ek roz hazrat Hasan aur Hazrat Hussain رضي الله عنهما un khujooron se khelne lage aur un mein se kisi ne kujoor uthha kar apne munh mein daal li jise Rasoolullah ﷺ ne dekh liya to aap ne woh khujoor uske munh se nikaal kar farmaya kiya tumhen ma'loom nahin ke Aal-e-Muhammad ﷺ sadqah nahin khaate?.

(Bukhari:1485)

Fawaaid: Maloom huwa ke chhote bachchon ko bhi haraam khori se bachaaya jaaye aur use bataaya jaaye ke haraam khori kabeerah gunaah hai taake woh badaa hokar ala wajhil baseerat akal-e-haraam se parhez kare. (Awnul Baari:2/482)

Baab 41: Kiya Aadmi apni sadqah di huyi cheez khud khareed sakta hai? albatta doosre ki sadqah di huyi cheez khareedne mein koyi qabaahat nahin.

٣٩- بَابُ: الْعُشْرِ فِيمَا يُسْقَى

مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ وَبِالْمَاءِ الْجَارِي
٤٥٥ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
(فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعَيُونُ، أَوْ كَانَ
عَشْرِيًّا، الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنُّضْحِ
نِصْفُ الْعُشْرِ). (رواه البخارى: ١٢٨٣)

٤٠- بَابُ: أَخَذَ صَدَقَةَ التَّمْرِ عِنْدَ
صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يَتْرُكُ الصَّبِيُّ
فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

٤٥٦ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُؤْتَى
بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ، فَيَجِيءُ هَذَا
بِتَمْرِهِ وَهَذَا مِنْ تَمْرِهِ، حَتَّى يَصِيرَ
عِنْدَهُ كَوْثًا مِنْ تَمْرٍ، فَجَعَلَ الْحَسَنُ
وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَلْعَبَانِ
بِذَلِكَ التَّمْرِ، فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً
فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ، فَقَالَ: (أَمَّا
عَلِمْتُمْ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَا يَأْكُلُونَ
الصَّدَقَةَ). (رواه البخارى: ١٢٨٥)

٤١- بَابُ: هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ،

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَتَهُ غَيْرُهُ
٤٥٤ : عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

757: Hazrat Umar رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne ek dafa Allah ki raah mein sawaari ka ghoda diya jis shakhs ke paas woh ghoda gaya usne use bilkul kharaab aur be kaar kardiya main ne iraadah kiya ke use khareed loon aur main ne yeh bhi khayaal kiya ke woh uss ghode ko sasta bech dega phir main ne Rasoolullah ﷺ se uske muta'alliq daryaaft kiya to aap ne farmaya use mat khareed aur apna sadqah waapas na le agarcheh ek hi dirham mein tujhe de daale kyun ke khariaat de kar waapas lene waala qai karke chaatne waale ki tarah hai. (Bukhari:1490)

Fawaaid: Iss hadees se bazaar se saabit hota hai ke apna diya huwa sadqah khareedna haraam hai lekin kisi doosre ka diya huwa sadqah faqeer se khareeda jaa sakta hai isi tarah apna sadqah agar bataur waraasat mile to use lene mein koyi harj nahin. (Awnul Baari:2/483)

Baab 42: Rasoolullah ﷺ ki Azwaaj-e-Mutahharaat ki laundi ghulaamon ko sadqah dena.

758: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne ek mari huyi bakri dekhi jo Hazrat Maimoona رضي الله عنها ki laundi ko bataur-e-sadqah de di gayi thi Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke tum iski khaal se faayidah kyun nahin uthhate? logon ne arz kiya ke woh to murdaar hai uss par aap ne farmaya ke murdaar ka sirf khaana haraam hai. (Bukhari:1492)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke azwaaj-e-mutahharaat ke ghulaam aur laundiyon ko sadqah dena jaayiz hai albaatah Rasoolullah ﷺ ke azaad kardah ghulaam laundi sadqah waghairah nahin le sakte iski hurmat doosri ahaadees se saabit hai.

Baab 43: Jab Sadqah ki haalat badal jaaye?

759: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ke saamne kuchh gosht laaya gaya jo Hazrat Bareerah رضي الله عنها ko bataur-e-sadqah diya gaya tha aap ne farmaya ke Bareerah رضي الله عنها ke liye sadqah tha lekin hamaare liye hadiyah hai.

حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: (لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَغْطَاكَ بِدَرَاهِمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْتِهِ). (رواه البخارى: 1490)

۴۲- بَابُ: الصَّدَقَةُ عَلَى مَوَالِي

أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ

۷۵۸: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: وَجَدَ النَّبِيُّ شَاةَ مَيْتَةٍ، أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاةٌ لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هَلَّا انْتَفَعْتُمْ بِجُلْدِهَا؟). قَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ قَالَ: (إِنَّمَا حَرَمَ أَكْلِهَا).

(رواه البخارى: 1492)

۴۳- بَابُ: إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ

۷۵۹: عَنِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِلَحْمٍ، تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ). (رواه البخارى: 1495)

(Bukhari:1495)

Fawaaid: Jab sadqah wa khairaat kisi muhtaaj ke paas pahunch gaya aur uska maalik ban gaya to ab khairaat ke hukm se khaarj ho gaya uska aage sadqah dena jaayiz hai. (Awnul Baari:2/486)

Baab 44: Sadqah maaldaaron se wasool karke faqeeron par sarf kiya jaaye khaah woh kaheen hon.

760: Hazrat Mu'aaz رضي الله عنه ki Hadees (702,739) aur unko Yaman bhejne ki baat pahle tazkerah ho chuka hai iss rivaayat mein itna ezaafah hai ke Mazloom ki fariyaad se darna kyun ke uske aur Allah ke darmiyaan koyi aad nahin. (Bukhari:1496)

Fawaaid: Iss hadees mein yeh alfaaz hain ke zakaat maaldaaron se wasool karke unke fuqraa mein taqseem kardi jaaye. Imam Bukhari ise a'am khayaal karte hain ke ek mulk ki zakaat doosre mulk bheji jaa sakati hai jabke deegar muhaddiseen iss se ittefaaq nahin karte haan agar maqaami taur par zaroorat se ziyaadah hoto use doosre shahar mein bheja jaa sakta hai.

Baab 45: Saahib-e-Sadqah ke liye Imam ka Rahmat ki Khaastgari aur du'a karna

761: Hazrat Adbullah bin Abi Aufa رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Nabi kareem ﷺ ki aadat thi ke jab koyi aap ke paas sadqah laata to aap yoon du'a farmate Aye Allah! fulaan ki aulaad par meharbaani farma, chunaanche mere waalid aap ke paas sadqah lekar aaye to aap ne du'a farmaayi Aye Allah Abi Aufa ki aulaad par meharbaani farma. (Bukhari:1497)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ka yeh khaassah hai ke aap doosron par salaah bhejne ke majaaz the hamaare liye aisa karna makrooh hai ke hum kisi ke liye inferaadi taur par yeh lafz istemaal karen masalan Abu Bakr رضي الله عنه kahen kyun ke yeh alfaaz Rasoolullah ﷺ ke liye mahsoos hain. (Awnul Baari:2/486)

Baab 46: Jo maal Samandar se nikaala jaaye (us mein zakaat hai ya nahin?)

762: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Bani Israa'yeel mein se kisi ne ek shakhs se 1000 dinar qarz maange the to usne de diye ittefaaqan woh qarz daar safar mein gaya aur adaaye qarz ki muddat aagayi (darmiyaan mein ek darya haayel tha) to

٣٣- بَابُ: أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْأَعْيَاءِ

وَتُرَدُّ فِي الْفُقَرَاءِ حَيْثُ كَانُوا

٤٦٠: حديث معاذ، وبعثه الى

اليمن تقدم، وفي هذه الرواية: (..)

وَأَتَتْ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

(رواه البخارى: ١٢٩٦)

٣٥- بَابُ: صَلَاةُ الْإِمَامِ وَدُعَائِهِ

لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ

٤٦١: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ

ﷺ إِذَا آتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ:

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ). فَأَتَاهُ أَبِي

بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ

أَبِي أَوْفَى). (رواه البخارى: ١٢٩٤)

٣٦- بَابُ: مَا يُسْتَخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ

٤٦٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: (أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي

إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَنَّ

يُسَلِّفُهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ،

فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ يَجِدْ مَرَكَبًا،

woh darya ki taraf gaya magar usne aisi koyi sawaari na paayi (Jis par sawaar ho kar qarz khaah ke paas aata) Majbooran usne ek lakdi li aur usmen soraakh kiya aur uske andar hazaar dinar rakh kar use darya mein baha diya woh shakhs jis ne qarz diya tha darya ki taraf aa nikla use yeh lakdi nazar aayi to uss ne use apne ghar ke jalwaan ke liye uthha liya phir unhon ne poori hadees bayaan ki (jis ke aakhir mein tha) aur jab usne lakdi ko cheera to uss mein apna maal rakkha huwa paaya.(Bukhrai:1498)

Fawaaid:Imam Bukhari ne iss hadees se un logon ki tardeed ki hai ke jo daryaayi maal mein paanchwaan hissa nikaalna zaroori qaraar dete hain Imam Bukhari ka moqif yeh hai ke dariya ya samandar se jo cheez mile use apni milkiyyat mein lena jaayiz hai aur uss mein kisi qism ka muqarrarah hissah adaa karna zaroori nahin hai.

Baab 47:Madfoon Khazaanah mein 5 waan hissa waajib hai

763:Hazrat Abu Huraiah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jaanwar ka zakhm ma'af hai kunwen mein gir kar marjaane par koyi mu'aawazah nahin aur m'adin (kaan) ka bhi yahi hukm hai albatta defeena milne par 5wan hissa wajib hai.

(Bukhari:1499)

Fawaaid:Imam Bukhari ka moqif yeh hai ke kaan par madfoon khazaane ke ahkaam nahin hain kyun ke Rasoolullah ﷺ ne kaan ke ba'd rikaaz ka hukm alag bayaan kiya hai. (Awnul Baari:2/492)

Baab 48:Irshaad-e-Baari Ta'ala: Tahseeldaaron ko bhi zakaat se hissa diya jaaye neez haakim ko unka muhaasbah karna chaahiye.

764:Hazrat Abu Humaid Sa'di رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne qabeelah Sulaim ki zakaat wasool karne ke liye Qabeela Aasad ke ek shakhs ko muqarrar farmaya jise ibnut-tabayyah kaha jaata tha jab woh aaya to aap ne usse hisaab liya.

(Bhukari:1500)

فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا، فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ أَلْمَالَ.

(رواه البخارى: 1498)

٣٧- بَابُ: فِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ

٤٦٣: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الْعَجَمَاءُ جِبَارٌ، وَالْبُرُّ جِبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جِبَارٌ، وَفِي الرَّكَازِ الْخُمْسُ).

(رواه البخارى: 1499)

٣٨- بَابُ: قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا﴾ وَمُحَاسَبَةٌ

الْمُصَدِّقِينَ مَعَ الْإِمَامِ

٤٦٣: عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ، يُدْعَى ابْنَ اللَّتِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ.

(رواه البخارى: 1500)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke zakaat ki wasooli ke liye tahseel daar muqarrar kiye jaa sakte hain aur unhen tai shudah muaa'wazah dene mein bhi koyi harj nahin hai aur unka muhaasbah karne mein bhi koyi muzaaiqah nahin kyun ke aisa karne se woh khayaanat se baaz rahenge. (Awnul Baari:2/494)

Baab 49:Haakim-e-Waqt ka zakaat ke ounton ko khud apne haath se daagh dena

765:Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ek subah Abu Talha رضي الله عنه ke bete Abdullah رضي الله عنه ko lekar Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke paas gaya taake aap kuchh chabaakar uske munh mein daal den to main ne aap ko iss haal mein paaya ke aap ke haath mein ek daagh dene waala aalah tha aap usse zakaat ke ounton ko daagh rahe the.

(Bukhari:1502)

Fawaaid: Maloom huwa ke jaanwar ko kisi zaroorat ke pesh-e-nazar daagh dena durst hai yeh ek istesnaayi soorat hai kyun ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne bila wajah haiwaan ko takleef dene se mana farmaya hai. (Awnul Baari:2/485)

٣٩ - بَابُ : وَسَمِ الْإِمَامِ إِبْنِ

الصَّدَقَةِ بِيَدِهِ

٤٦٥ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :

عَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَبْدِ اللَّهِ

بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لِيُحَنِّكَهُ، فَوَافَيْتُهُ فِي

يَدِهِ الْمَيْسَمُ، يَسْمُ إِبْنِ الصَّدَقَةِ.

(رواه البخارى: ١٥٠٢)



Sadqah Fitr ke bayaan mein

کتاب صدقة الفطر

Sadqatul Fitr hijrat ke doosre saal ramzaanul mubaarak mein eidul fitr se do din pahle farz huwa. (Awnul Baari:2/896)

Baab 1: Sadqa-e-Fitr ki Farziyyat

766: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne har musalmaan mard aurat chhote bade, azaad aur ghulaam par sadqah fitr ek saa' khujoor ya jau se farz kiya hai aur namaaz ko jaane se qabl uski adaayegi ka hukm diya hai.

(Bukhari:1503)

۱- بَابُ: فَرَضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
 ۷۶۶: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ
 الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
 شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ
 وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ
 الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ
 خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

(رواه البخارى: ۱۵۰۳)

Fawaaid: Sadqah fitr ek saa' hai jiske wazan mein mukhtalif ajnaas ke lehaaz se kami beshi ho sakti hai behtar hai ke sadqah fitr ki adaayegi ke liye mudd ya saa' ka istemaal kiya jaaye waise raayijul waqt wazan 2kilo 100gm hai. neez uski qeemat ada karna Rasoolullah ﷺ se saabit nahin hai.

Baab 2: Eid se pahle Sadqah Fitr ki adaayegi ka bayaan

767: Hazrat Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke zamaana mein eidul fitr ke din apne khane mein se ek saa' ada kiya karte the in dinon hamaari khoraak jau, kishmish, panir aur khujoor thi.

(Bukhari:1510)

۲- بَابُ: الصَّدَقَةِ قَبْلَ الْعِيدِ
 ۷۶۷: عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَخْرِجُ فِي عَهْدِ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ
 طَعَامٍ. وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ،
 وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ. (رواه البخارى: ۱۵۱۰)

Fawaaid: Sadqah fitr ek saa' hi adaa karna chaahiye albatta ghareeb nadaar ke liye nisf saa' ada karne ki gunjaayish hai, aisa karna sahih ahaadees se saabit hai. neez eidul fitr ki namaaz se pahle iski adaayegi zaroori hai agarcheh taqseem ba'd mein kardiya jaaye.

Baab 3: Sadqah Fitr har Aazad ya Ghulaam par waajib hai

768: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne Farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne har chhote bade azad aur ghulaam par sadqah fitr ek saa' khujoor ya ek saa' jau farz kiya hai. (Bukhari:1512)

۳- بَابُ: صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ
 ۷۶۸: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
 قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ
 الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ
 تَمْرٍ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ
 وَالْمَمْلُوكِ. (رواه البخارى: ۱۵۱۲)

Fawaaid: Sadqah Fitr uss jins se adaa kiya jaaye jo saal ke aksar hisse mein bataur khoraak istemaal hoti hai uss jins se behtar bhi bataur fitraana di jaa sakti hai albatta uss se kam tar ko bataur fitraana dena durst nahin. (Awnul Baari:2/503)

Hajj ke bayaan mein

کِتَابُ الْحَجِّ

Hajj-e-Baitullah arkaan-e-islam mein se hai jo chhe hijri ko farz huwa aur iski farziyyat ka munkir kaafir hai badni aur maali istetaa'at ke hote huye zindagi mein ise ek dafa' adaa karna zaroori hai. (Awnul Baari:2/504)

Baab 1: Hajj Ki Farziyyat aur uski fazeelat.

769: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek dafa' Fazal bin Abbaas رضی اللہ عنہما Rasoolullah ﷺ ke peechhe sawaari par baithhe huye the itne mein qabeelah Khasa'm ki ek aurat aayi to Hazrat Fazl ﷺ uski taraf dekhne lage aur woh fazl ﷺ ki taraf dekhne lagi tab Rasoolullah ﷺ ne Fazl ﷺ ka munh doosri taraf pher diya uss aurat ne poochha ya Rasoolallah ﷺ Allah ka fareeza hajj jo uske bandon par aayid hai usne mere boodhe baap ko paaliya hai magar woh sawaari par nahin baithh sakta to kiya main uski taraf se hajj kar sakti hoon? Aap ne farmaya "haan" yeh waaqi'ah hajjatul wida mein pesh aaya tha.

(Bukhari: 1513)

Fawaaid: Iss hadees se yeh bhi maloom huwa ke kisi ma'zoor ki taraf se hajj karna jaayiz hai bashar teke karne waala pahle apna hajj kar chuka ho isi tarah kisi ke marne ke ba'd bhi uski taraf se hajj durust hai.

Baab 2: Irshaad-e-baari Ta'ala:

"Log tere paas door daraaaz raaston se duble ounton par sawaar ya paidal chal kar aayenge taake apne fawaaid haasil karen."

770 : Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko dekha ke Aap zulholaiifa main apni sawaari par sawaar ho jaate aur jab woh Aap ko le kar seedhi khadi ho jaati to Labbaik kaha karte the (Bukhari: 1514)

Fawaaid: Ba'z logon ka khayaal hai ke paidal hajj karna afzal hai Imam Bukhari unki tardeed farmate hain ke Rasoolullah ﷺ ne apni ountni par sawaar ho kar hajj kiya hai aur aap ki pairwi sab se afzal hai. (Awnul Baari:2/507)

۱ - بَابُ: وَجُوبِ الْحَجِّ وَفَضْلُهُ

۷۶۹ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِمْ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِيقِ الْآخَرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَتَبْتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ.

(رواه البخارى: ۱۵۱۳)

۲ - بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿يَأْتُونَكَ

رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾

۷۷۰ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، ثُمَّ يَهْلُ حَتَّى تَسْتَوِيَ بِهِ قَانِمَةٌ.

(رواه البخارى: ۱۵۱۴)

Baab 3: Sawaar ho kar hajj ko jaana

771 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne ountni par sawaar ho kar hajj kiya aur uss ountni par Aap ka saaz-o-samaan bhi lada huwa tha. (Bukhari: 1517)

Fawaaid:Matlab yeh hai ke saade paalaan par sawaar hona sunnat hai uske liye narm wa naazuk gadde aur makhmali takiye talaash karna sunnat ke khilaaf hai hajj ke ada karte waqt jis qadar mushaaqqat hogi unta hi sawaab mein ezaafah hoga. (Awnul Baari:2/508)

Baab 4: Hajj-e-Mabroor ki fazeelat

772 : Ummul Mu'mineen Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! hum samajhte hain ke jehaad sab nek a'amaal se badh kar hai to kiya hum log jehaad na karen? Aap ne farmaya nahin balke (tumhaare liye) umdah jehaad hajj-e-mabroor hai. (Bukhari: 1520)

Fawaaid:Hajj-e-Mabroor ki tareef yeh hai ke woh khaalish Allah ki raza joyi ke liye kiya jaaye us mein namood wa numaayish ka shaaibah na ho aur uss dauraan kisi gunaah ka bhi irtekaab na ho.

773 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate huye suna jo shakhs Allah ke liye hajj kare phir na koyi gunaah ka kaam aur fahash baat kare to woh aisa be gunaah waapas hoga jaise use aaj hi uski maan ne janam diya hai. (Bukhari: 1521)

Fawaaid:Iska matlab yeh hai ke jis tarah bachcha paidaayish ke waqt gunaahon se paak hota hai hajj ke ba'd bhi tamaam gunaah jhad jaate hain lekin huqooqul lbaad ma'af nahin honge isi tarah woh huqooqullah bhi ma'af nahin honge jo usne apne zimma liye the. masalan nazar aur kaffarah waghairah. (Awnul Baari:2/511)

Baab 5: Ahle Yaman ke liye ehraam ki jagah

774 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne ahle Madinah ke liye zulholaifah ko meeqaat banaya ahle Shaam ke liye 'Johfa' ahle Najd ke liye Qarnul manaazil aur ahle yaman ke liye Yalamlam ko meeqaat muqarrar farmaya un maqamaat ke baashindon ke liye bhi jo hajj aur umrah ka iraadah karte huye wahaan se guzren aur jo log in maqamaat ke andar ki

٣- بَابُ: الْحَجَّ عَلَى الرَّحْلِ
٤٤١ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ عَلَى رَحْلٍ، وَكَانَتْ زَامِلَتَهُ. (رواه البخارى: ١٥١٤)

٤- بَابُ: فَضْلِ الْحَجِّ الْمَبْرُورِ
٤٤٢ : عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: (لَا، لَكُنْ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجَّ مَبْرُورًا). (رواه البخارى: ١٥٢٠)

٤٤٣ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (مَنْ حَجَّ لِلَّهِ، فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ). (رواه البخارى: ١٥٢١)

٥- بَابُ: مَهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ
٤٤٤ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتْ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلْمَمَ، هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ

jaanib hain woh jahaan se chalen wahin se ehraam baandhen chunaancheh ahle Makkah, Makkah hi se ehraam baandhen.

(Bukhari: 1530)

الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلَ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. (رواه البخارى: ١٥٣٠)

Fawaaid: Maloom huwa ke agar tejaarat ya kisi aur zaroori kaam ke liye Makkah jaana pade to in maqamaat se ehraam baandhna zaroori nahin yeh paabandi hajji ya umrah karne wale ke liye hai agar aisa aadmi ehraam ke baghair meeqaat se aage badh jaaye to gunahgaar hoga.

Baab 6:

٦-باب

775 : Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne Zulholaifah ke maydaan mein apne ount ko bithhaaya phir wahaan namaaz padhi aur Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما aisa hi kiya karte the. (Bukhari: 1532)

٤٤٥ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِالْبَطْحَاءِ بِيَدِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ. (رواه البخارى: ١٥٣٢)

Fawaaid: Imam Bukhari ne iss hadees par yoon unwaan qaayim kiya "Zul Halaifah mein namaaz padhna" mumkin hai ke Rasoolullah ﷺ hajj ko jaate aur waapas aate waqt uss maydaan mein namaaz padhte hon. (Awnul Baari:2/516)

Baab 7: Rasoolullah ﷺ ka shajrah ke raastah se nikalna

776 : Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ba tareeq shajrah (Madinah se) rawaana huye aur mu'arras ke raastah se (Madinah mein) daakhil huye aur be shak Rasoolullah ﷺ jab (Madina se) Makkah ke liye rawaana hote to Masjid-e-Shajrah mein namaaz padha karte aur jab laut te to Zulholaifah ke nasheebi maydaan mein namaaz padha karte aur raat subah tak wahin qayaam karte.

(Bukhari: 1533)

٤-بَابُ: خُرُوجِ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى طَرِيقِ الشَّجَرَةِ
٤٤٦ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِبَيْدِي الْحُلَيْفَةِ، بِبَطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُضْبِحَ. (رواه البخارى: ١٥٣٣)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke musafir agar kahin baahar se aaye to ittela' diye baghair raat ke waqt apne ghar mein daakhil na ho agar raastah mein raat aa jaaye to wahin shab baashi kare. (Awnul Baari:2/517)

Baab 8: Rasoolullah ﷺ ka farmaan:

"Waadiye Aqeeq ek mubaarak waadi hai"

777 : Hazrat Umar رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko waadiye Aqeeq mein yeh farmaate huye suna aaj raat mere rab ki jaanib se ek aane

٨-بَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ"

٤٤٤ : عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِوَادِي الْعَقِيقِ

waala aaya aur kahne laga ke iss baa barakat waadi mein namaaz padhen aur kahen main ne hajj ke saath umrah ki bhi niyyat ki hai.

(Bukhari: 1534)

يَقُولُ: (أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلَّى فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْتُ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ).

(رواه البخارى: ١٥٣٤)

Fawaaid: "Waadiye Aqeeq" Madinah se chaar meel ke faaslah par baqi' ke qareeb hai. (Awnul Baari:2/518)

778 : Hazrat ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke unhen aakhri shab mein jab Aap zulholaifah mein muqem the ek khaab dekhaaya gaya jis mein kaha gaya ke Aap aaj ek baa barakat maydaan mein hain.

(Bukhari: 1535)

٤٤٨ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : عَنْ النَّبِيِّ ﷺ : أَنَّهُ رَأَى وَهُوَ مُعَرَّسٌ بِذِي الْحَلِيفَةِ، بَيْطَنَ الْوَادِي، قِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بَيْطَحَاءُ مُبَارَكَةٍ.

(رواه البخارى: ١٥٣٥)

Baab 9: (Mohrim ke liye) apne kapdon se teen baar khushbu ka dhona

779 : Hazrat Yal'a bin Umayyah رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne Hazrat Umar رضي الله عنه se kaha ke jis waqt Rasoolullah ﷺ par wahi naazil ho rahi ho Aap mujhe dekhaayen raavi ka bayaan hai ke ek roz Rasoolullah ﷺ maqaame Ji'raana mein the sahaaba kiraam رضي الله عنهم ka ek giroh bhi wahaan haazir tha itne mein ek shakhs ne Aap ke paas aakar poochha ya Rasoolallah ﷺ! Aap uss shakhs ki baabat kiya hukm dete hain? jis ne Umrah ka ehraam baandha magar woh khushbu se aalood tha. iss par Rasoolullah ﷺ kuchh der sukoot farmaya phir Aap par wahi aayi to Hazrat Umar رضي الله عنه ne meri taraf ishaarah kiya jab main aaya to uss waqt Rasoolullah ﷺ ke sar par ek kapda tha jis se Aap par saaya kiya gaya tha main ne apna sar uss kapde ke andar kiya to dekhta hoon ke Rasoolullah ﷺ ka chehra surkh hai aur Aap kharraate le rahe hain raftah raftah jab Aap ki yeh haalat khatm huyi to farmaya woh shakhs kahaan hain jisne Umrah ke muta'alliq sawaal kiya tha? chunaancheh woh shakhs haazir kiya gaya to Aap ne farmaya jo khushbu tujhe

٩ - بَابُ: غَسْلِ الْخُلُوقِ ثَلَاثَ

مَرَّاتٍ مِنَ الثِّيَابِ

٤٤٩ : عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَرَانِي النَّبِيَّ ﷺ حِينَ يُوحَى إِلَيْهِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ. وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ، وَهُوَ مُتَضَمِّحٌ بِطَيْبٍ؟ فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَيَّ فَجِئْتُ، وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أَظْلَمَ بِهِ، فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّرُ الْوَجْهِ، وَهُوَ يَغْطُ، ثُمَّ سَرَى عَنْهُ، فَقَالَ: (أَيْنَ الَّذِي سَأَلَ عَنِ الْعُمْرَةِ؟). فَأْتَيْتُ بِرَجُلٍ، فَقَالَ: (اغْسِلِ الطَّيْبَ الَّذِي بِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَنْزِعْ عَنْكَ

lagi huyi hai use teen daf'a dho daalo aur apna jubbah utaar do aur umrah mein bhi uss tarah karo jaise hajj mein karte ho.

(Bukhari: 1536)

Fawaaid: Iss hadees se maloom hota hai ke ehraam ke waqt khushbu lagana durust nahin lekin agli hadees Aayeshah رضي الله عنها se maloom hota hai ke aap ne "Hajjatul Wida" ke moaqe par ehraam baandhne se pahle khushbu lagayi thi jiske asraat ehraam ke bad bhi dekhe jaa sakte the. (Awnul Baari:2/521)

Baab 10: Ehraam ke waqt khushbu lagaana aur mohrim jab ehraam baandhne ka iraadah kare to kiya pahne.

780 : Ummul Mu'mineen Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main Rasoolullah ﷺ ko ehraam baandhte waqt aur tawaaf-e-ziyaarat se pahle ehraam kholte waqt khushbu laga deti thi.

(Bukhari: 1539)

Fawaaid: Daswin taareekh ko jab Jumrah Uqbah ki rami karli jaaye to ehraam ki paa bandiyaan khatm hojaati hain sirf aurat ke paas jaane par paa bandi rahti hai woh kabhi tawaaf-e-ziyaarat ke ba'd khatm ho jaati hai.

Baab 11: Baalon ko jamaa kar ehraam baandhna

781 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko labbaik pukaarte huye suna jabke Aap apne baalon ko jamaaye huye the. (Bukhari: 1540)

Fawaaid: Ehraam baandhte waqt bayin khayaal ke baal parishaan na ho ya un mein ziyaadah gard o ghubaar na pade baalon ko gond ya kisi aur cheez se jama lena jaayiz hai. arabi zaban mein ise talbeed kahte hain. (Awnul Baari:2/524)

Baab 12: Masjid Zulholaifah ke paas (ehraam baandh kar) LABBAIK pukaarna

782 : Ibne Umar رضي الله عنهما hi se rivaayat hai ke Nabi ﷺ ne Masjid yani Masjid-e-Zulholaifah se talbiyah shuru' kiya. (Bukhari: 1541)

Fawaaid: Waqt-e-talbiyah ke muta'alliq ikhtelaaf hai baz rivaayaat mein hai ke jab aap ountni par sawaar huye to talbiyah kaha baz mein hai ke jab aap Baidaa ki bulandi par pahunche to labbaik kaha yeh ikhtelaaf raaviyon ke apne mushaahidah ki bina par hai albatta Rasoolullah ﷺ ne har sah maqamaat par labbaik kaha hai. (Awnul Baari:2/525)

الْحَبِيَّةُ، وَأَصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجَّتِكَ).

(رواه البخارى: ١٥٣٦)

١٠ - بَابُ: الطَّيِّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَمَا

يَلْبَسُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ

٤٨٠ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،

رُؤِيَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَتْ: كُنْتُ أَطِيبُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ،

وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ.

(رواه البخارى: ١٥٣٩)

١١ - بَابُ: مَنْ أَهْلٌ مُلَبِّدًا

٤٨١ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يُهَيِّئُ مُلَبِّدًا. (رواه البخارى: ١٥٤٠)

١٢ - بَابُ: الْإِهْلَالُ عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي

الْحُلَيْفَةِ.

٤٨٢ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا

أَهْلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ

الْمَسْجِدِ، يَعْنِي: مَسْجِدَ ذِي

الْحُلَيْفَةِ. (رواه البخارى: ١٥٤١)

Baab 13: Hajj mein doosre ke peechhe sawaar hona

783 : Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما se rivaayat hai ke Arafaat se Muzdalfah tak Hazrat Usaamah رضى الله عنه ke hamraah sawaar the phir muzdalfah se Mina tak Aap ne Hazrat Fazl bin Abbaas رضى الله عنهما ko apne peechhe bithhaya. donon ka bayaan hai ke Rasoolullah ﷺ baraabar labbaik kahte rahe yahaan tak ke Aap ne jamrah O'qba ki rami farmaayi. (Bukhari: 1543,1544)

Fawaaid: Iss hadees se sawaari par kisi doosre ko apne peechhe baithhaane ka jawaaz milta hai bashar teke sawaari ka jaanwar uski taaqat rakhta ho. (Awnul Baari:2/526)

Baab 14: Mohrim kis qism ke kapde, chaadar aur tahband pahne.

784 : Hazrat Ibne Abbaas رضى الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ aur Aap ke sahaaba kiraam رضى الله عنهم kanghi karne, tel daalne, tahband pahanne aur chaadar odhne ke ba'd Madinah se rawaana huye aur Aap ne kisi qism ki chaadar aur tahband pahanne ko mana' nahin farmaya albattah za'faraan range huye kapde jin se badan par z'afraan lage un se mana' farmaya algharz subah ke waqt Aap zulholaifah se apni ountni par sawaar huye aur jab maqaame Baidaa mein pahunche to Aap ne aur Aap ke sahaaba kiram رضى الله عنهم ne labbaik kaha aur apni qurbaaniyon ke gale mein qalaade daal diye yeh 25 zulqa'dah ka waaqi'ah hai phir Aap 4 zulhijja ko Makkah Mukarramah pahunche. Ka'ba ka tawaaf kiya aur Safa Marwah ke darmiyaan say'i farmaayi chunke Aap qurbaani ke oont saath laaye the aur unhen qalaadah pahna chuke the iss liye ehraam na khol sake phir Aap Makkah ki bulandi par maqaame hajoon ke paas faro kash huye chunkeh Aap hajj ka ehraam baandhe huye the lehaaza tawaaf-e-qudoom ke ba'd phir Ka'ba ke qareeb nahin gaye yahaan tak Arafaat se waapas aaye aur Aap ne apne

١٣ - بَابُ: الرُّكُوبِ وَالْإِزْدَافِ فِي

الْحَجِّ

٤٨٣ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَدَّفَ النَّبِيَّ ﷺ، مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمَزْدَلِفَةِ، إِلَى مِنَى، فَكَلَاهُمَا قَالَ: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. (رواه البخارى: ١٥٢٣، ١٥٢٤)

١٤ - بَابُ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنْ

الْقِيَابِ وَالْأَرْدِيَةِ وَالْأُزْرِ

٤٨٣ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنْطَقَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ، بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ وَأَدَهَنَ، وَلَبَسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ، هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَبْنِ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَرْدِيَةِ وَالْأُزْرِ تَلْبَسُ، إِلَّا الْمَرْغَفَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الْجِلْدِ، فَأَصْبَحَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهْلٌ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، وَقَلَّدَ بَدَنَتَهُ، وَذَلِكَ لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، فَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَحِلَّ مِنْ أَجْلِ بُدْنِهِ، لِأَنَّهُ قَلَّدَهَا، ثُمَّ نَزَلَ بِأَعْلَى مَكَّةَ عِنْدَ الْحُجُونِ وَهُوَ مُهَلٌّ بِالْحَجِّ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،

sahaaba kiraam ﷺ ko hukm diya ke woh ka'ba ka tawaaf aur Safa Marwah ki say'i karen phir apne baal katarawa daalen aur ehraam khol len yeh hukm unhin logon ko diya jin ke paas qurbaani ka jaanwar na tha. jise pahle se qalaadah pahna diya gaya ho aur jiske saath uski biwi ho to woh uske liye halaal hai iss tarah khushbu aur deegar libaas bhi ab halaal hai. (Bukhari: 1545)

Baab 15: Labbaik ka bayaan

785 : Hazrat Abudllah bin Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ iss tarah talbiyah kahte the, " Main haazir hoon aye Allah! main haazir hoon main phir haazir hoon tera koyi shareek nahin main haazir hoon, tere hi liye ta'reef hai tu hi jumla ne'maton aur baadshaahat ka maalik hai tera koyi shareek nahin. (Bukhari: 1549)

Fawaaid: Ba'z rivayaat se pata chalta hai ke talbiyah ke alfaaz mein ezaafah karna jaayiz hai taahum Rasoolullah ﷺ ke talbiyah par iktefa karna behtar hai. talbiyah ke ikhtetaam par Rasoolullah ﷺ par durood padhna, jannat ka sawaal aur jahannam se panaah maangna bhi ba'z rivayaat mein aaya hai. (Awnul Baari:2/533)

Baab 16: Sawaari par sawaar hote waqt talbiyah se pahle tamheed wa tasbeeh aur takbeer kahna.

786 : Hazrat Anas رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne Madinah mein zohar ki chaar raka'at padhin aur hum log Aap ke saath the phir zulholaifah mein Asr ki do raka'at padh kar raat wahin rahe subah ke waqt wahaan se sawaar huye aur jab sawaari Bidaa mein pahunchi to Aap ne **Al Hamdulillah, Subhaanallah** aur **Allaahu Akbar** kaha phir Aap ne hajj aur umrah donon ke liye labbaik kaha aur logon ne bhi hajj aur umrah donon ke liye Labbaik kaha jab hum Makkah pahunchte to Aap ne logon ko ehraam se baahar hone ka hukm diya to unhon ne ehraam khol daala yahaan tak 8win Zulhijja ka din aagaya phir unhon ne

ثُمَّ يُقَصِّرُوا مِنْ رُؤُوسِهِمْ، ثُمَّ يَحْلُوا، وَذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ بَدَنَةٌ قَلْدَهَا، وَمَنْ كَانَتْ مَعَهُ أَمْرَاتُهُ فَهِيَ لَهُ حَلَالٌ، وَالطَّيْبُ وَالنَّيِّبُ.

(رواه البخارى: ١٥٢٥)

١٥ - بَابُ: التَّلْبِيَّةِ

٤٨٥ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (لَيْتِكَ اللَّهُمَّ لَيْتِكَ، لَيْتِكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ لَيْتِكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لِأَشْرِيكَ لَكَ). (رواه البخارى: ١٥٢٩)

١٦ - بَابُ: التَّحْمِيدِ وَالتَّسْبِيحِ

وَالتَّكْبِيرِ قَبْلَ الْإِهْلَالِ عِنْدَ

الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ

٤٨٦ : عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ، بِالْمَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْخُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ بَاتَ بِهَا حَتَّى أَصْبَحَ، ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، حَمِدَ اللَّهَ وَسَبَّحَ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَهْلَلَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ، وَأَهْلَلَ النَّاسَ بِهِمَا، فَلَمَّا قَدِمْنَا، أَمَرَ النَّاسَ فَحَلُّوا، حَتَّى كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ أَهْلُوا بِالْحَجِّ. قَالَ:

hajj ka ehraam baandha Hazrat Anas رضي الله عنه ne khade farmate hain ke Rasoolullah ﷺ ne khade ho kar kayi oont apne haath se zabah farmaye aur Madinah Manawwarah mein Aap ne seenghon waale do khoobsurat mendhe qurbaan kiye. (Bukhari: 1551)

Fawaaid: Daur-e-jaaheliyyat mein yeh ek rasam chali aarahi thi ke hajj ke mahinon mein umrah karne par paabandi thi Rasoolullah ﷺ ne iss rasam ko khatm kiya aur apne sahaaba kiraam ko in mahinon mein umrah karne ka hukim diya. (Awnul Baari:2/553)

Baab 17: Qiblah ru ho kar ehraam baandha

787 : Hazrat ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke woh zulholaifah mein talbiyah kahte aur haram mein pahunch kar use mauqoof kar dete aur maqaam-e-Tuwa ke paas pahunch kar shab basar karte the subah ki namaaz padhne ke ba'd wahin ghusl karte aur kaha karte the ke Rasoolullah ﷺ ne aisa hi kiya hai. (Bukhari: 1553)

Fawaaid: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما arz-e-haram pahunch kar talbiyah mauqoof kar dete aur tawaaf wa say'i mein mashghool ho jaate phir jab baitullah ke tawaaf aur safa wa marwah ki sayi' se faarigh ho jaate to talbiyah shuru kar dete jaisa ke ibne khuzaimah ki rivaayat mein saraahat hai. (Awnul Baari:2/536)

Baab 18: Mohrim jab waadi mein utre to labbaik kahe.

788 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya goya main us waqt Moosa عليه السلام ko dekh raha hoon ke woh labbaik kahte huye nasheeb mein utar rahe hain.

(Bukhari:1555)

Fawaaid: Maloom huwa ke nasheeb wa faraaaz mein utarte chadte waqt talbiyah kahna paighambaron ki sunnat hai. (Awnul Baari:2/537)

Baab 19: Jis shakhs ne zamaanae nabawi mein Rasoolullah ﷺ ke misl ehraam baandha

789 : Hazrat Abu Moosa رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mujhe Rasoolullah ﷺ ne meri qaum ki taraf yaman bhejha to main wahaan se aise waqt waapas aaya jab Aap Bat,haa mein the Aap ne mujh se poochha

وَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بَدَنَاتٍ بِيَدِهِ قِيَامًا،
وَذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ
كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ.

(رواه البخارى: ١٥٥١)

١٤ - بَابُ: الْإِهْلَالُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
٤٨٤: عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّهُ كَانَ يُلَبِّي مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَإِذَا
بَلَغَ الْحَرَمَ أَمْسَكَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا
طُوًى بَاتَ فِيهِ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ
أَغْتَسَلَ، وَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
فَعَلَ ذَلِكَ. (رواه البخارى: ١٥٥٣)

١٨ - بَابُ: التَّلْبِيَّةُ إِذَا انْحَدَرَ فِي الْوَادِي
٤٨٨: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَّا
مُوسَى: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، إِذَا انْحَدَرَ فِي
الْوَادِي يُلَبِّي).

(رواه البخارى: ١٥٥٥)

١٩ - بَابُ: مَنْ أَهَلَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ
ﷺ كَاهَالِهِ
٤٨٩: عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى قَوْمٍ
بِأَيْمَنٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ، فَقَالَ:

tum ne kaunsa ehraam baandha hai? main ne arz kiya ke Rasoolullah ﷺ ke misl ehraam baandha hai Aap ne farmaya kiya tumhaare paas qurbaani hai main ne arz kiya nahin phir main ne Aap ke hukm ke mutaabiq baitullah ka tawaaf kiya aur safa marwah ki say'i ki phir Aap ne ehraam kohl dene ka hukm diya to main ne ehraam khol diya phir main apne ghar waalon mein se ek aurat ke paas aaya usne mere baalon mein kanghi ki ya sar dhoya jab Hazrat Umar ؓ khaleefah huye to farmaane lage agar hum kitabullah par amal karte hain to woh hamein hajj aur umrah poora karne ka hukm diti hai irshaade baari Ta'ala hai:

"Hajj aur Umrah ko Allah ke liye poora karo"

aur agar hum Rasoolullah ﷺ ki sunnat par amal karein to Aap ne qurbaani se pahle ehraam nahin khola. (Bukhari:1559)

Fawaaid: Hazrat Umar ؓ ki raaye thi ke hajj ke ehraam ko umrah ke ehraam mein nahin badalna chaahiye lekin Rasoolullah ﷺ ke farmaan ke muqaable mein hazrat Umar ؓ ki raaye se ittefaaq nahin kiya jaa sakta phir Rasoolullah ﷺ ne isliye ehraam khola tha ke aap ke saath qurbaani ka jaanwar tha bahar haal Rasoolullah ﷺ ki hadees ke muqaable mein kisi ki raaye ko qubool nahin karna chaahiye. (Awnul Baari:2/539)

Baab 20: Irshaade Baari Ta'ala:

"Hajj ke chand mu'ayyan mahine hain"

790 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ki hajj se muta'alliq hadees (780) pahle guzar chuki hai iss rivaayat mein itna ezaafah hai ke Aap ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke hamraah hajj ke mahinon hajj ki raaton aur hajj ke ehraam mein nikle phir hum ne maqaame Sarf mein padaau kiya Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmati hain ke phir aap apne sahaaba kiram ؓ ke paas tashreef laaye aur farmaya tum mein se jis ke paas qurbaani ka jaanwar na ho aur woh iss ehraam se umrah karna chahe to main chahta hoon ke woh aisa kare magar jis ke saath qurbaani ho woh aisa na kare Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmaati hain ke Aap ke ashaab mein se ba'z ne iss hukm se faaidah uthaaya aur ba'z ne na uthaya Hazrat

(بِمَا أَهَلَّتْ). قُلْتُ: أَهَلَّتْ كَمَا هَلَّالِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: (هَلَّ مَعَكَ مِنْ هَذِي؟). قُلْتُ: لَا، فَأَمَرَنِي فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرَّةِ، ثُمَّ أَمَرَنِي فَأَحَلَّتْ، فَأَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي، فَمَشَطْتَنِي، أَوْ غَسَلَتْ رَأْسِي.

فَقَدِمَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، قَالَ اللَّهُ: ﴿وَاتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحْرَ الْهَدْيِ (رواه البخارى: ١٥٥٩)

٢٠ - بَابُ : قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :

﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾.....

٤٩٠ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدِيثُهَا فِي الْحَجِّ قَدْ تَقَدَّمَ، قَالَتْ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَلِيَالِي الْحَجِّ، وَحُرْمِ الْحَجِّ، فَنَزَلْنَا بِسَرِفٍ، قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: (مَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَعَهُ هَدْيٌ، فَأَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَلَا). قَالَتْ: فَلَا يَحِلُّ بِهَا وَالسَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ، قَالَتْ:

Aayeshah رضى الله عنها farmaati hain ke Rasoolullah ﷺ aur Aap ke kuchh sahaaba kiraam sahibe haisiyat the jin ke paas qurbaani ka jaanwar tha woh umrah nahin kar sakte the raavi ne uske ba'd poori hadees zirk ki hai. (Bukhari: 1560)

فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الْهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

(رواه البخارى: ٤٩٦٠)

Fawaaid: Hajj ke mahine yeh hain shawwaal, zula'adah aur zulhijjah ke ibtedaayi 10 din, isse pahle hajj ka ehraam baandhna mana' hai. (Awnul Baari:2/540)

Baab 21: Hajje tamatto' qeraan aur mufrad aur jiske paas qurbaani na ho uske liye hajj ko faskh karke umrah bana dene ka bayaan

791 : Hazrat Aayeshah رضى الله عنها hi se ek rivaayat mein hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke hamraah (Madinah se) nikle to sirf hajj karne ka iraadah tha lekin jab hum ne Makkah pahunch kar ka'ba ka tawaaf kar liya to Rasoolullah ﷺ ne hukm farmaya jo shakhs qurbaani ka jaanwar saath le kar na aaya ho woh ehraam khol de. chunaancheh jo log qurbaani saath na laaye the woh ehraam se baahar ho gaye chunkeh Aap ki azwaaje mutahharaat رضى الله عنهن bhi qurbaani ka jaanwar saath na laayi thin to unhon ne bhi ehraam khol diya Hazrat Safiyah رضى الله عنها ne kaha mera khayaal hai ke meri wajah se logon ko ruk jaana padega Aap ne farmaya A'qra Halqa (baanjh ganji) kiya toone qurbaani ke din tawaaf nahin kiya tha Safiyah kahti hain main ne kaha haan kiya tha Aap ne farmaya phir kuchh harj nahin rawaana ho jaao. (Bukhari: 1561)

٢١ - بَابُ: التَّمَتُّعُ وَالْإِفْرَادُ وَالْإِفْرَادُ بِالْحَجِّ وَقَسْحُ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ

٤٩١ : وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ أَنْ يَحِلَّ، فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقِ الْهَدْيِ، وَنَسَاؤُهُ لَمْ يَسْفِنْ فَأَحْلَلْنَ، قَالَتْ صَفِيَّةُ: مَا أَرَانِي إِلَّا حَابَسْتَهُمْ، قَالَ: (عَقْرَى حَلَقَى، أَوْ مَا طُفَّتْ يَوْمَ النَّحْرِ؟). قَالَتْ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: (لَا بَأْسَ أَنْفِرِي).

(رواه البخارى: ١٥٦١)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ne un sahaaba kiraam ko jo qurbaani saath nahin laaye the Umrah kerke ehraam khol dene ka hukm diya to usse hajj-e-tamatto' ko faskh karke umrah kar dene ka jawaaz saabit huwa. (Awnul Baari:2/542)

792 : Hazrat Aayeshah رضى الله عنها se hi ek doosri rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum hajjatul wida' ke saal Rasoolullah ﷺ ke hamraah jab rawaana huye to hum mein se ba'z ne sirf umrah ka ehraam baandha tha

٤٩٢ : وَعَنْهَا - فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى - قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ، فَمِنَّا مَنْ أَهَلَ

aur ba'z logon ne hajj aur umrah donon ka aur ba'z ne sirf hajj ka albattah Rasoolullah ﷺ ne hajj ka ehraam baandha tha to jisne sirf hajj ka ya hajj aur umrah donon ka ehraam baandha tha usne 10 taareekh se pahle ehraam nahin khola. (Bukhari: 1562)

بِعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ، وَأَهْلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَ بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، لَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ.

(رواه البخارى: ١٥٦٢)

Fawaaid: Iss rivaayat se hajj ki teenon aqsaam (afraad, tamatto' aur qeraan) ka suboot milta hai. (Awnul Baari:2/543)

793 : Hazrat Usmaan ؓ se rivaayat hai ke unhon ne (apni khilaafat mein) hajje tamatto' aur qeraan (hajj aur umrah ekhatthha karne) se mana' kiya Hazrat Ali ؓ ne jab dekha to hajj wa umrah donon ka ek saath ehraam baandha aur kaha "Labbaik bi'Umraati wa hajj" phir farmaya main Rasoolullah ﷺ ki sunnat ko kisi ke kahne se nahin chhodunga. (Bukhari: 1563)

٤٩٣ : عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتَعَةِ، وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ أَهْلًا بِهِمَا: بَيَّكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَّعِ سُنَّةَ النَّبِيِّ ﷺ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

(رواه البخارى: ١٥٦٣)

Fawaaid: Hazrat Usmaan ؓ ka hajj-e-tamatto' aur hajj-e-qeraan se mana karna apne ijtehaad ki wajah se tha iss liye Hazrat Ali ؓ ne uss par amal nahin kiya balke farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke farmaan ko kisi ke qaul se chhoda nahin jaa sakta nasayi ki ek rivaayat se maloom hota hai ke hazrat Usmaan ؓ ne isse ruju' karliya tha. (Awnul Baari:2/542)

794 : Hazrat Ibne Abbaas رضى الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya log samajhte the ke hajj ke zamaane mein umrah karna bahut bada gunaah hai aur woh (apni taraf se) maahe muharram ko safar kar lete aur kahte ke jab oont ki peethh ka zakhm achchha ho kar uska nishaan mit jaaye aur safar guzar jaaye us waqt umrah halaal hai jab Rasoolullah ﷺ aur Aap ke sahaaba kiraam zulhijjah ki chauthi tareekh ki subah ko hajj ka ehraam baandhe huye Makkah pahunche aur Aap ne sahaaba kiraam ko hukm diya ke woh iss ehraam ko khatm karke uski bajaaye umrah ka ehraam baandhen to yeh baat un logon ko giraan guzri aur kahne lage ya Rasoolallah ﷺ! umrah karke hamaare liye kiya cheez halaal hogi Aap ne farmaya ke sab cheezen halaal hain (Bukhari: 1564)

٤٩٣ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحْرَمَ صَفْرًا، وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَأَ الدَّبْرُ، وَعَفَا الْأَثْرُ، وَأَنْسَلَخَ صَفْرُ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اغْتَمَرَ. قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةِ مَهْلَيْنِ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: (حِلُّ كُلُّهُ).

(رواه البخارى: ١٥٦٤)

Fawaaid: Muta'addid ahaadees se saabit hota hai ke Rasoolullah ﷺ hajj-e-qeraan ki niyyat se ehraam baandhe huye the lekin makkah pahunch kar aap ne iss khaahish ka izhaar kiya ke main qurbaani saath na laaya hota to iss ehraam ko umre se badal leta aur hajj-e-tamatto' karta aur iss se maloom hota hai ke hajj-e-tamatto' afzal hai. (Awnul Baari:2/547)

795 : Ummul Momineen Hazrat Hafsa رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! logon ko kiya huwa ke unhon ne umrah karke ehraam khol diya hai aur aap ne umrah karke ehraam nahin khola Aap ne farmaya ke main ne apne baal jamaa liye the aur qurbaani ke gale mein qalaadah pahna diya tha iss liye jab tak qurbaani na karoon ehraam nahin khol sakta.

(Bukhari: 1566)

Fawaaid: Isse bhi yahi maloom hota hai ke Rasoolullah ﷺ hajj-e-qeraan ki niyyat se ehraam baandhe huye the. (Awnul Baari:2/548)

796 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unse ek shakhs ne hajj-e- tamatto' ke muta'alliq daryaaft kiya aur kaha ke logon ne mujhe isse man'a kiya hai unhon ne tamatto' karne ka hukm diya woh shakhs kahta hai ke main ne khaab mein dekha jaise koyi shakhs mujh se kah raha hai tera hajj mabroor aur tera umrah maqbool huwa woh shakhs kahta hai ke main ne Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se iss khaab ka tazkirah kiya to unhon ne farmaya yeh Rasoolullah ﷺ ki sunnat hai. (Bukhari: 1567)

797 : Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unhon ne Rasoolullah ﷺ ke saath hajj kiya jabke Aap uss waqt qurbaani ke jaanwar saath laaye the aur tamaam sahaaba kiraam ﷺ ne hajje mufrad ka ehraam baandha tha Aap ne un se farmaya ke tum log ka'ba ka tawaaf aur Safa Marwah ki sa'yi karke ehraam khol do aur baal katarwa do phir usi tarah ehraam ke baghair thhahre raho jab aathhwin tareekh ho to Makkah se) hajj ka ehraam baandh lo aur jis ehraam mein tum aaye the usko tamatto' kar do sahaaba kiram ﷺ ne arz kiya hum use kis tarah tamatto' karden kyun ke hum ne to

٤٩٥ : عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ، وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ: (إِنِّي لَبَدْتُ رَأْسِي، وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرُ). (رواه البخارى: ١٥٦٢)

٤٩٦ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التَّمَتُّعِ وَقَالَ: نَهَانِي نَاسٌ عَنْهُ، فَأَمَرِي بِهِ، قَالَ الرَّجُلُ: فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ لِي: حَجٌّ مَرُورٌ، وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: سُنَّةُ النَّبِيِّ ﷺ. (رواه البخارى: ١٥٦٤)

٤٩٧ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ سَاقِ الْبُدْنِ مَعَهُ، وَقَدَّ أَهْلُوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا، فَقَالَ لَهُمْ: (أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ، بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَصَّروا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالًا، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَاهْلُوا بِالْحَجِّ، وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتَعَةً). فَقَالُوا: كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتَعَةً.

ehraam baandhte waqt sirf hajj ka naam liya tha Aap ne farmaya jo kuchh main tumhen hukm deta hoon use baja laao agar main qurbaani ka jaanwar na laaya hota to main bhi aisa hi karta jaisa tumhen hukm deta hoon lekin main kiya karoon jab tak qurbaani apne thhikaane ko na pahunch jaaye koyi cheez mujh par halaal nahin ho sakti (jo ehraam mein haraam thi) chunaancheh sahaaba kiraam ﷺ ne aisa hi kiya.

(Bukhari: 1568)

Fawaaid: Ba'z logon ka khayaal tha ke hajj-e-tamatto' mein sawaab kam milta hai hazrat Jaabir ﷺ ki iss rivaayat se inki tardeed hoti hai kyun ke hajj-e-tamatto' tamaam aqsaam-e-hajj se afzal hai aur sawaab mein ziyaadah hai.

Baab 22: Hajj-e-tamatto' ka bayaan

798 : Hazrat Imran bin Hussain ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ne Rasoolullah ﷺ ke zamaane mein tamatto' kiya hai aur khud qura'n mein bhi iska hukm naazil huwa hai magar ek shakhs ne apni raaye se jo chaaha woh kah diya. (Bukhari: 1571)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke sahaaba kiram ahkaam mein ijtehaad karte the lekin nass-e-sarih ke muqaablah mein iss ijtehaad ki koyi haisiyyat nahin. (Awnul Baari: 2/553)

Baab 23: Makkah Mukarramah mein kidhar se daakhil huwa jaaye?

799 : Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ buland ghaati ke maqaame kada se jo Bat, haa mein hai Makkah mein daakhil huye aur nichli ghaati ki taraf se nikle the. (Bukhari: 1575)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ hajj ko jaate huye makkah mein ek raastah se daakhil hote to faraaghat ke ba'd doosre raastah se nikalte jaisa ke eid ke moq'e par raastah badalte the taake donon raaste gawaahi den. (Awnul Baari: 2/554)

Baab 24: Makkah aur uski emaaraton ki fazeelat

800 : Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ se Hateem ke muta'alliq poochha ke kiya woh bhi ka'ba mein hai? Aap ne farmaya haan main ne arz kiya phir un logon ne use ka'ba mein kyun na daakhil kiya? Aap ne

وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ؟ فَقَالَ: (افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ، فَلَوْلَا أَنِي سَفْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ، وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ). فَفَعَلُوا.

(رواه البخارى: ١٥٦٨)

٢٢ - بَابُ: التَّمَتُّعُ

٤٩٨ : عَنْ عِمْرَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ. (رواه البخارى: ١٥٤١)

٢٣ - بَابُ: مِنْ أَيْنَ يَدْخُلُ مَكَّةَ

٤٩٩ : عَنْ ابْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاءٍ، مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبُطْحَاءِ، وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. (رواه البخارى: ١٥٤٥)

٢٤ - بَابُ: فَضْلِ مَكَّةَ وَبُنْيَانِهَا

٨٠٠ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْجَدْرِ، أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: (نَعَمْ). قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يَدْخُلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ:

farmaya ke tumhaari qaum ke paas maal kam tha main ne arz kiya darwaazah itna ouncha kyun hai? Aap ne farmaya tumhaari qaum ne iss liye kiya ke jise chaahen ka'ba mein daakhil hone den aur jisko chaahen rok den agar tumhaari qaum ka zamaana jaahiliyat qareeb ke na hota aur unke dilon par nagawaari ka mujhe andeshah na hota to main Hateem ko ka'ba ke andar shaamil kar deta aur uska darwaazah zameen ke muttasil bana deta. (Bukhari: 1584)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke ba'z auqaat logon ke jazbaat ka ehteraam karna zaroori hota hai basharteke kisi farz ki adaayegi mein kotaahi na ho. (Awnul Baari: 2/557)

801: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi ek rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya agar tumhaari qaum ka zamaane jaahiliyat abhi abhi taazah na hota to main ka'ba ko munhadim karke jo hissa usse khaarj kar diya gaya hai usko phir uss mein shaamil kardeta aur darwaazah ko zameen se mila deta aur uss mein ek sharqi aur ek gharbi do darwaaze bana deta al gharz main use Hazrat Ibraheem عليه السلام ki buniyaadon ke mutaabiq istawaar karta.

(Bukhari: 1586)

Baab 25: Makkah ke gharon mein weraasat ka jaari hona aur unki khareed -o-farokht karna neez Masjid-e-Haram mein logon ka baraabar haqdaar hona.

802: Hazrat Usaamah bin Zaid رضي الله عنها se rivaayat hai ke unhon ne hajjatul wida' mein jaate waqt arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! Aap Makkah waale apne ghar mein kahaan nuzool farmayenge? Aap ne farmaya ke Aqeel ne hamare liye koyi jaayedaad ya makaan kahaan chhoda hai? Aqeel aur Talib to Abu Talib ke waaris thhahre Hazrat Ja'far رضي الله عنه unki kisi cheez ke waaris huye na Ali رضي الله عنه kyun ke donon musalmaan ho gaye the aur uss waqt Aqeel aur Talib kaafir the.

(إِنَّ قَوْمَكَ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةَ).
قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ:
(فَعَلَّ ذَلِكَ قَوْمُكَ، لِيَدْخُلُوا مَنْ
شَاؤُوا وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاؤُوا، وَلَوْ أَنَّ
قَوْمَكَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ،
فَأَخَافُ أَنْ تُسَكَّرَ قُلُوبُهُمْ، أَنْ أُدْخَلَ
الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنَّ الصِّقَّ بَابُهُ
بِالْأَرْضِ). (رواه البخارى: ١٥٨٤)

٨٠١: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ،
لَوْ أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثٌ عَهْدِ
بِجَاهِلِيَّةٍ، لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهَدِمَ،
فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجُ مِنْهُ، وَالزَّرْقَتَهُ
بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا
وَبَابًا غَرْبِيًّا، فَبَلَّغْتُ بِهِ أَسَاسَ
إِبْرَاهِيمَ). (رواه البخارى: ١٥٨٦)

٢٥ - بَابُ: تَوْرِيثُ دُورِ مَكَّةَ وَبَيْعِهَا
وَشِرَائِهَا وَأَنَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ سَوَاءٌ

٨٠٢: عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَ
تَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟
فَقَالَ: (وَهَلْ تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ،
أَوْ دُورٍ؟) وَكَانَ عَقِيلٌ وَرَثَ أَبَا
طَالِبٍ، هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرْتَهُ جَعْفَرٌ
وَلَا عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا شَيْئًا، لِأَنَّهَا
كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ

Fawaaid: Makkah Mukarramah ke makanaat mein weraasat chalti hai kyun ke unke muta'alliq huqooq-e-milkiyat saabit hain janaab Abu Talib ke 4 bete the Aqeel, Talib, Ali aur Ja'far, Hazrat Ali aur Ja'far رضی اللہ عنہما musalmaan hogaye Talib jang-e-badr mein mara gaya Aqeel ko apne baap Abu Talib ki tamaam jaayedaad mil gayi chunke yeh jaayedaad Hashim ki thi jo Abdul Muttalib ko muntaqil hoyi usne apne tamaam beton mein taqseem kardi uss mein Rasoolullah ﷺ ke baap Abdullah ka bhi hissah tha lekin aap ne fath-e-makkah ke bad un mu'amlaat ko qaayem rakha taake logon ke dermiyaan nafrat paida na ho. (Awnul Baari:2/561)

Baab 26: Rasoolullah ﷺ ka Makkah mein utarna

803 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha jab Rasoolullah ﷺ ne Makkah aana chaaha to irshaad farmaya hamaara moqaam Inshaa Allah kal ko khaif bani kenaanah mein hoga jahaan mushrikon ne kufr par ade rahne ka aapas mein muaa'hidah kiya tha ya'ni Muhassab mein utrenge aur yeh waaqi'ah yoon tha ke quraish aur kenaanah ne bani Haashim aur bani Abdul Muttalib ke khilaaf qasam uthha kar qaraar daad paas ki thi ke unke saath na munaakihat karengi aur na unke haath koyi cheez bechenge jab tak woh Rasoolullah ﷺ ko hamaare supurd na karden. (Bukhari: 1590)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ne padaau ke liye uss maqaam ka intekhaab Allah ka shukr ada karne ke liye farmaya ke ek woh bhi waqt tha ke aap majboor wa maqhoor the aaj Allah ne aap ko Makkah ki hukoomat de di hai. (Awnul Baari:2/563)

Baab 27: Ka'ba ka giraana

804 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya ka'ba ko chhoti chhoti pindliyon waala ek Habshi (qiyaamat ke qareeb) munhadim kardega. (Bukhari: 1591)

Fawaaid: Jab qiyaamat ke qareeb yeh waaqi'ah roo numa hoga aur yeh un aayaat ke khilaaf nahin jin mein Makkah ko amn ka shahar qaraar diya gaya hai kyun ke qiyaamat ke waqt ka'ba kiya har cheez tabaah wa barbaad ho jaayegi. (Awnul Baari:2/565)

Baab 28: Irshaad-e-Baari Ta'ala: "Allah ne makaan mohtaram Ka'ba ko logon ke qiyaam ka zariy'a banaaya aur maahe haraam ko bhi"

۲۶ - بَابُ : نَزُولِ النَّبِيِّ ﷺ مَكَّةَ
 ۸۰۳ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ، حِينَ أَرَادَ
 قُدُومَ مَكَّةَ : (مَنْزِلْنَا عَدَاءَ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ،
 بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا
 عَلَى الْكُفْرِ) . يَعْنِي ذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا
 وَكِنَانَةَ ، تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ
 وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ :
 أَنْ لَا يَنَاسِكُحُوهُمْ وَلَا يَأْبَعُوهُمْ ، حَتَّى
 يُسَلِّمُوا إِلَيْهِمُ النَّبِيَّ ﷺ .

(رواه البخاری: ۱۵۹۰)

۲۸ - بَابُ : هَدْمُ الْكَعْبَةِ
 ۸۰۴ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (يُخْرَبُ
 الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ) .

(رواه البخاری: ۱۵۹۱)

۲۸ - بَابُ : قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (جَعَلَ
 اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا
 لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ)

805 : Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai unhon ne farmaya ke log ramzaan ke roze farz hone se pahle aashoorah ka rozah rakkha karte the aur uss roz ka'ba ko ghilaaf pahnaaya jaata tha phir jab Allah Ta'ala ne ramzaan ke roze farz kar diye to Rasoolullah ﷺ ne farmaya ab jo aashoorah ka rozah chaahе rakkhe aur jo na rakhna chaahе woh na rakkhe. (Bukhari: 1592)

٨٠٥ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانُوا يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ رَمَضَانَ، وَكَانَ يَوْمًا تُسْتَرُ فِيهِ الْكَعْبَةُ، فَلَمَّا فَرَضَ اللَّهُ رَمَضَانَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَهُ فَلْيَصُومْهُ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يَتْرُكَهُ فَلْيَتْرُكْهُ). (رواه البخارى: ١٥٩٢)

Fawaaid: Iss hadees mein baitullah ki azmat ko bayaan kiya gaya hai ke aa'shoorah ke din use ghilaaf pahnaaya jata tha. (Awnul Baari:2/566)

806 : Hazrat Abu Sa'yeed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya ke yaajooj majooj ke khurooj ke ba'd bhi khana-e-ka'ba ka hajj aur umrah hota rahega. (Bukhari: 1593)

٨٠٦ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَيَحْجَنَّ الْبَيْتَ وَلَيَعْتَمِرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ). (رواه البخارى: ١٥٩٣)

Fawaaid: Imam Bukhari ne ek doosri rivaayat ko bhi bayaan kiya hai ke qurb-e- qiyaamat ke waqt baitullah ka hajj mauqoof ho jaayega in donon mein ta'aruz nahin hai kyun ke halaakat-e-yajooj majooj ke bad hajj hota rahega phir itna kufr phaillega ke hajj wa umrah mauqoof ho jaayega. (Awnul Baari:2/567)

Baab 29: Inhedaam-e-Ka'ba ki peshen goyi.

807 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain Aap ne farmaya goya main uss siyah faam shakhs ko dekh rahaa hoon jo ka'ba ka ek ek patthar ukhaad phenkega. (Bukhari: 1590)

٢٩ - بَابُ: هَدْمُ الْكَعْبَةِ
٨٠٧ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَانِي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجْرًا حَجْرًا). (رواه البخارى: ١٥٩٥)

Fawaaid: Yeh waaqia' hazrat Eisa عليه السلام ke dobaraah aane aur wafaat paane ke ba'd hoga jab ke qur'aani ta'limaat ko seenon se uthha liya jaayega. (Awnul Baari:2/569)

Baab 30: Hajre Aswad ke muta'alliq jo bayaan kiya gaya hai?

808 : Hazrat Umar رضي الله عنه se rivaayat hai ke woh tawaaf karte waqt hajre aswad ke paas aaye aur use bosa de kar kaha be shak main jaanta hoon ke tu ek patthar hai kisi ko nafa' wa nuqsaa nahin pahuncha sakta agar main ne Rasoolullah ﷺ ko tujhe bosa dete huye

٣٠ - بَابُ: مَا ذُكِرَ فِي الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ
٨٠٨ : عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبَّلَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ

na dekha hota to main bhi tujhe bosa na deta. (Bukhari: 1597)

يُقْبَلُكَ مَا قَبِلْتُكَ.

(رواه البخارى: ١٥٩٧)

Fawaaid: Hazrat Umar رضي الله عنه sirf itteba' ki niyyat se hajr-e-aswad ko bosa dete the iss se maloom huwa ke qabron ki chaukhat ya unki zameen ko choomna bida't aur jehaalat ke kaam hain.

Baab 31: Jo shakhs (hajj ya umrah mein) ka'ba ke andar daakhil nahin huwa.

809 : Hazrat Abdullah bin Abi Aufa رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne Umrah kiya to ka'ba ka tawaaf kiya aur maqaame Ibraheem ke peeche do raka'at namaaz padhi Aap ke saath ek aadmi tha jo Aap ko logon se chhupaaye huye tha phir ek shakhs ne Abdullah bin Aufa رضي الله عنه se poochha kiya Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ka'ba ke andar tashreef le gaye the to unhon ne nafi mein jawaab diya.

(Bukhari: 1600)

٣١- باب: مَنْ لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ
٨٠٩: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ فَطَافَ بِأَبْيَتِ، وَصَلَّى خَلْفَ
الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَهُ مَنْ يَسْتُرُهُ مِنَ
النَّاسِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَدْخَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: لَا.

(رواه البخارى: ١٦٠٠)

Fawaaid: Yeh Umratul Qaza ka waaqia'h hai Rasoolullah صلى الله عليه وسلم uss waqt baitullah ke andar iss liye tashreef nahin le gaye ke uss waqt mushrikeen ki hukoomat thi aur baitullah mein be shumaar but rakkhe huye the. Fath-e-Makkah ke waqt aap ne Makkah ko buton se paak kiya aur andar daakhil huye. (Awnul Baari:2/574)

Baab 32: Jis shakhs ne Ka'ba ke konon mein 'Allahu Akabar' kaha.

810 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم jab hajj ke liye tashreef laaye to Aap ne ka'ba ke andar daakhil hone se inkaar kar diya kyun ke andar but rakkhe huye the phir Aap ke hukm se unhein nikaal diya gaya aur sahaaba kiram رضي الله عنهم ne Hazrat Ibraheem عليه السلام aur Ismaayeel عليه السلام ki woh tasweeren bhi nikaal din jinke haathon mein paanse the Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya Allah un logon ko halaak kare Ibraheem aur Ismaayeel ne kabhi paanson se qura' andaazi nahin ki phir Aap ne ka'ba ke andar 'Allahu Akbar' kaha lekin namaaz nahin padhi.

(Bukhari: 1601)

٣٢- باب: مَنْ كَبَّرَ فِي نَوَاحِي الْكَعْبَةِ
٨١٠: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا
قَدِمَ، أَبِي أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ
الْآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأَخْرَجُوا
صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي
أَيْدِيهِمَا الْأَرْزَامَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: (قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، أَمَا وَاللَّهِ قَدْ
عَلِمُوا أَنَّهُمَا لَمْ يَسْتَفْسِمَا بِهَا قَطُّ).
فَدَخَلَ الْبَيْتَ، فَكَبَّرَ فِي نَوَاحِيهِ، وَلَمْ
يُصَلِّ فِيهِ. (رواه البخارى: ١٦٠١)

Fawaaid: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما ko namaaz padhne ka ilm na tha iss liye inkaar kiya hai wa gar na soorat-e-haal hazrat Bilaal رضي الله عنه ke bayaan ke mutaabiq yeh hai ke aap ne baitullah ke andar do nafil padhe the waazeh rahe ke hazrat Bilaal رضي الله عنه Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke hamraah the. (Awnul Baari:2/576)

Baab 33:(Tawaaf mein) Ramal ki Ibtada kaise huvi.

811:Hazrat Ibne Abbaas رضى الله عنهما se hi rivaayat hai unhon ne framaya ke Rasoolullah ﷺ aur aap ke Sahaaba kiram jab makkah tashreef laaye to mushrikeen ne yeh kahna shuru kardiya ke ab yahaan ek giroh aane wala hai jis ko Yasrib (Madinah) ke bukhaar ne kamzor kardiya hai. uss par Rasoolullah ﷺ ne apne Sahaaba kiram ko hukm diya ke tawaaf ke pahle teen chakkaron mein ramal karen aur donon ruknon ke darmiyaan ma'mooli chaal se chalen aur aap ko yeh hukm dene mein ke woh saat chakkaron mein akad kar chalen logon par aasaani ke elaawah koyi amr maan'e na tha.(Bukhari:1602)

Fawaaid:Halaanke akad kar chalna takabbur ki alaamat hai lekin uss waqt kaafiron par ro'ib daalna maqsood tha iss liye Allah ko yeh amal itna pasand aaya ke use hamesha ke liye sunnat qaraar de diya.

Baab 34: Jab koyi makkah aaye to pahle tawaaf mein sab se pahle Hajr-e-Aswad ko choome aur teen chakkaron mein Ramal kare (Akad kar chale)

812:Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko dekha ke jab aap Makkah tashreef laate to tawaaf shuru karte waqt pahle Hajr-e-Aswad ko bosa dete aur saat chakkaron mein se pahle teen mein zara akad kar chalte. (Bukhari:1603).

Fawaaid:Ramal sirf mardon ke liye hai woh bhi zaroori nahin agar rah jaaye to iski qaza laazim nahin hai. (Awnul Baari:2/579)

Baab 35: Hajj aur Umre mein Ramal karna

813:Hazrat Umar رضى الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ab hamein Ramal ki kiya zaroorat hai? yeh to hum ne mushrikeen ko apni taaqat dekhaane ke liye kiya tha aur ab Allah Ta'ala ne unhen halaak kardiya hai phir

۳۳- بَابُ: كَيْفَ كَانَ بَدَأَ الرَّمْلِ

۸۱۱: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالَ

الْمُشْرِكُونَ: إِنَّهُ يَقْدُمُ عَلَيْكُمْ وَقَدْ

وَهَتَّتَهُمْ حُمَى يَثْرِبَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ

ﷺ أَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، وَلَمْ

يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا لِأَشْوَاطِ

كُلِّهَا إِلَّا الْإِبْقَاءَ عَلَيْهِمْ.

(رواه البخارى: ۱۶۰۲)

۳۳- بَابُ: اسْتِلامُ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ

وَيَرْمُلُ ثَلَاثًا

۸۱۲: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

حِينَ يَقْدُمُ مَكَّةَ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ

الْأَسْوَدَ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ: يَخْبُ ثَلَاثَةَ

أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ. (رواه البخارى: ۱۶۰۳)

۳۰- بَابُ: الرَّمْلِ فِي الْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ

۸۱۳: عَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ

قَالَ: فَمَا لَنَا وَالرَّمْلَ، إِنَّمَا كُنَّا رَاءَ بِنَا

بِهِ الْمُشْرِكِينَ، وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ، ثُمَّ

kahne lage ke jo kaam Rasoolullah ﷺ ne kiya hai hamein use chhodna nahin chaahiye.

(Bukhari:1605)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke Rasoolullah ﷺ ki itteba' har cheez se moqaddam hai khaah uski i'llat hamaare dimaagh mein aaye ya naaye. (Awnul Baari:2/580)

814: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab se main ne Rasoolullah ﷺ ko in do ruknon ko choomte dekha hai uss waqt se main ne un ke bose ko tark nahin kiya khaah diqqat ho ya sahoolat.

(Bukhari:1606)

قَالَ: شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ. (رواه البخارى: ١٦٠٥)

٨١٤: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا تَرَكَتُ اسْتِلاَمَ هَدْيَيْنِ الرُّكْنَيْنِ، فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ، مُنْذُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا.

(رواه البخارى: ١٦٠٦)

Fawaaid: Hajr-e-Aswad ka bosa lena chaahiye agar yeh na ho sake to haath ya chhadi laga kar use choomna chaahiye agar aisa bhi mumkin na ho uski taraf ishaarah karke tawaaf shuru karde ishaare ke waqt haathon ko choomna dursut nahin.

Baab 36: Chhadi se Hajr-e-Aswad ko chhoona

815: Hazrat Ibne Abbas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne Hajjatul Wida' mein apne ount par sawaar ho kar tawaaf kiya aap chhadi se hajr-e-aswad ka istelaam farmate.

(Bukhari:1607)

٣٦- بَابُ: اسْتِلاَمِ الرُّكْنِ بِالْمُحَجِّينِ
٨١٥: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمُحَجِّينِ.

(رواه البخارى: ١٦٠٧)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein hai ke Hajr-e-Aswad ko chhadi laga kar use choomte the. (Awnul Baari:2/582)

Baab 37: Hajr-e-Aswad ko bosa dena

816: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke un se ek aadmi ne Hajr-e-Aswad ko bosa dene ke muta'alliq poochha to unhon ne farmaya ke main ne Rasoolullah ﷺ ko use haath lagaate aur bosa dete dekha hai uss shakhs ne kaha achchha bataaiye agar majma ziyaadah ho aur log mujh par ghaalib aa jaayen to kiya karoon? Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما ne farmaya iss qism ki agar magar yaman mein rahne do main ne Rasoolullah ﷺ ko use bosa dete huye aur choomte huye dekha hai.

(Bukhari:1611)

٣٧- بَابُ: تَقْبِيلِ الْحَجَرِ
٨١٦: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبِلُهُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَرَأَيْتَ إِنْ رُحِمْتُ، أَرَأَيْتَ إِنْ غَلِبْتُ؟ قَالَ: اجْعَلْ أَرَأَيْتَ بِالْيَمَنِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ وَيُقْبِلُهُ.

(رواه البخارى: ١٦١١)

Fawaaid: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما کی itteba'-e-sunnat se maloom hota hai ke Rasoolullah ﷺ ke qaul wa amal ke muqaablah heelon aur bahaanon ki koyi hasiyat nahin hai balke eemaan ki nishaani yeh hai ke hadees sunne ke fauran bad uss par amal shuru kardiya jaaye.

Baab 38: Jis Shakhs ne Makkah aate hi ka'ba ka tawaaf kiya qabl iske ke apne thhikaane par jaaye.

817: Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai ke jab Rasoolullah ﷺ Makkah tashreef laaye to pahla kaam yeh kiya ke wazoo karke tawaaf farmaya sirf tawaaf karne se Umrah nahin huwa tha aap ke ba'd Hazrat Abu Bakr aur Hazrat Umar رضی اللہ عنہما ne bhi aisa hi Hajj kiya. (Bukhari:1614)

Fawaaid: B'az logon ka khayaal hai ke Umrah karte waqt sirf Baitullah ka tawaaf karne ke bad mohrim halaal ho jaata hai. Imam Bukhari unki tardeed karte hain ke jab tak safa marwah ki say'i na kare Umrah mukammal nahin hoga.

818: Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما se marvi Rasoolullah ﷺ ke tawaaf ki hadees (812) abhi abhi guzri hai iss rivaayat mein itna ezaafah hai ke aap tawaaf ke bad dogaanah ada karte phir Safa Marwah ke darmiyaan sa'yi karte the. (Bukhari:1616)

Baab 39: Dauraan-e-Tawaaf guftagu karna.

819: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ka'ba ka tawaaf kar rahe the uss dauraan aap ka guzar ek aise shakhs par huwa jis ne apna haath tasmah ya dhaage ya kisi aur cheez ke zariye doosre shakhs se baandh rakkha tha. Rasoolullah ﷺ ne usko apne haath se kaat diya phir farmaya ke haath pakad kar ise le chalo.

(Bukhari:1620)

Fawaaid: Tawaaf agarcheh namaaz ki tarah hai taaham uss mein guftagu karna jaayiz hai yeh guftagu fuzool aur lachar na ho balke kisi deeni gharz ke liye ho imam Bukhari ne iss hadees se dauraan tawaaf kalaam karna saabit kiya hai. (Awnul Baari:2/586)

Baab 40: Ka'ba ka Tawaaf koyi barhana aadmi na kare aur na hi koyi mushrik hajj ko aaye.

۳۸- بَابُ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ إِذَا

قَدِمَ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَيْتِهِ

۸۱۷: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ - حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ

ﷺ - أَنَّهُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ طَافَ، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ

عُمْرَةً. ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا مِثْلَهُ. (رواه البخارى: ۱۶۱۴)

۸۱۸: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا: حَدِيثَ طَوَافِ النَّبِيِّ ﷺ

تَقَدَّمَ قَرِيْبًا، وَزَادَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: أَنَّهُ

كَانَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ

الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. (رواه البخارى: ۱۶۱۶)

۳۹- بَابُ: الْكَلَامُ فِي الطَّوَافِ

۸۱۹: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ وَهُوَ يَطُوفُ

بِالْكَعْبَةِ بِإِنْسَانٍ، رَبَطَ يَدَهُ إِلَى إِنْسَانٍ،

يَسِيرُ أَوْ يَحِيْطُ أَوْ بَشَىءٍ غَيْرِ ذَلِكَ،

فَقَطَعَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: (قُدِّدُهُ

بِيَدِهِ). (رواه البخارى: ۱۶۲۰)

۴۰- بَابُ: لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ

عُرْيَانٌ وَلَا يَحُجُّ مُشْرِكٌ

820: Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke Hajjatul wida' se pahle Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne Hazrat Abu Bakr رضی اللہ عنہ ko ek saal Ameer-e-Hajj banaaya unhon ne mujhe 10win Zulhijja ko chand aadmiyon ke saath logon mein yeh munaadi karne ko bheja ke iss saal ke bad na koyi mushrik hajj kare aur na koyi barhana shakhs ka'ba ka tawaaf kare. (Bukhari:1622)

۸۲۰ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعَثَهُ - فِي الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوُدَاعِ - يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنَى، فِي رَهْطٍ يُؤَدِّنُ فِي النَّاسِ، أَلَّا يَلْحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكًا، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانًا.
(رواه البخارى: ۱۶۲۲)

Fawaaid: Daur-e-Jaahiliyyat mein ek himaayat yeh the ke jin kapdon mein gunaaah karte thi unhein tawaaf karne se pahle utaar dete aur baitullah ka tawaaf bilkul nanga karte the Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne iss se mana farma diya maloom huwa ke tawaaf mein namaaz ki tarah satar poshi zaroori hai. (Awnul Baari:2/588)

Baab 41: Jo shakhs pahla tawaaf karke phir ka'ba ke qareeb na gaya aur na usne (dobaarah) tawaaf kiya yahaan tak ke arafaat se ho aaya.

821 : Hazrat Abdullah bin Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم Makkah mein tashreef laaye ka'ba ka tawaaf kiya Safa Marwah ke darmiyaan say'i farmaayi phir Arafah se waapsi ke waqt tak Aap ka'ba ke qareeb nahin gaye. (Bukhari: 1625)

۴۱ - بَابُ: مَنْ لَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ وَلَمْ يَطُفْ حَتَّى يَخْرُجَ إِلَى عَرَفَةَ وَيَرْجِعَ بَعْدَ الطَّوَافِ الْأَوَّلِ
۸۲۱ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلَمْ يَقْرَبِ الْكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. (رواه البخارى: ۱۶۲۵)

Fawaaid: Matlab yeh hai ke agar koyi tawaaf-e-qudoom ke bad apni masroofiyaat ke pesh-e-nazar woqoof-e-Arafaat se pahle Baitullah Haazri nahin deta aur na hi nafil tawaaf karta hai to uss par koyi qadghan nahin hai aur na hi tawaaf par paa bandi hai. (Awnul Baari:2/589)

Baab 42: Haajiyon ko paani pilaana.

822 : Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Hazrat Abbaas bin Abdul Muttalib رضی اللہ عنہ ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se Mina ki raaton mein Makkah rahne ki ejaazat chaahi kyun ke woh haajiyon ko paani pilaaya karte the Aap ne unhen ejaazat dedi.

(Bukhari: 1634)

۴۲ - بَابُ: سَقَايَةُ الْحَاجِّ
۸۲۲ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: أَنْ يَبِيَّتَ بِمَكَّةَ، لَيْلَى مَنَى، مِنْ أَجْلِ سَقَاتِهِ، فَأُذِنَ لَهُ. (رواه البخارى: ۱۶۳۴)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke haaji ke liye 11win, 12win aur 13win raat ka Mina mein guzaarna zaroori hai agar koyi ma'qool u'zr ho to baahar rahne ki ijaazat hai isi tarah agar 12 taareekh ko maghrib se pahle pahle Mina se waapas aa jaaye to 13win raat ko Mina mein guzaarna saaqit ho jaata hai. (Awnul Baari:2/590)

823 : Hazrat ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne Sabeel ke paas tashreef laakar paani talab farmaya to Hazrat Abbaas رضي الله عنهما ne apne bete Fazl رضي الله عنهما se kaha ke apni maan ke paas jao aur Rasoolullah ke liye mashroob le aao Aap ne farmaya ke mujhe yahi paani pilaao Hazrat Abbaas رضي الله عنهما ne arz kiya ya Rasoolullah ﷺ! log iss mein haath daalte hain Aap ne farmaya tum mujhe isi mein se pilaado chunaancheh Aap ne uss mein se piya phir aabe zam zam ke paas aaye wahaan log paani pilaane ka kaam kar rahe the Aap ne farmaya apne kaam mein masroof raho tum achchha kaam kar rahe ho phir farmaya agar yeh darna hota ke tum maghloob ho jaaoge to yaqeenan main sawaari se utar kar rassi apne kandhon par rakh leta aur paani bharta. (Bukhari: 1635)

Fawaaid: Maloom huwa ke jo cheez aam logon ki nafa rasaani ke liye waqf ho iss se maaldaar aur faqeer donon faiz yaab ho sakte hain. (Awnul Baari:2/593)

824 : Hazrat ibne Abbaas رضي الله عنهما se hi rivaayat hai ke main ne Rasoolullah ﷺ ko zam zam ka paani pilaaya jo Aap ne khade ho kar piya ek aur rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ uss din ount par sawaar the. (Bukhari: 1637)

Fawaaid: Iss hadees se khade ho kar paani peene ka jawaaz milta hai aur zam zam ka paani bayin haalat nash karna mustahab hai. (Awnul Baari:2/594)

Baab 43: Safa Marwah (ke darmiyaan say'i) ka waajib hona.

825 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke unke bhaanje U'rwah bin Zubair رضي الله عنه ne usse irshaad-e-Baari Ta'ala-"Be shak Safa aur Marwah Allah ki nishaaniyon mein se hain jo shakhs ka'ba ka hajj ya umrah kare to uss par koyi gunaah nahin ke woh Safa Marwah ki say'i kare." ke muta'alliq sawaal kiya aur kaha ke isse to yeh ma'loom hota hai ke agar Safa Marwah ki say'i na kare to

٨٢٣ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَ إِلَى السِّقَايَةِ فَاسْتَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَضْلُ، اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ، فَأْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا. فَقَالَ: (اسْقِنِي) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ فِيهِ. أَتَى زَمْزَمَ، وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا، فَقَالَ: (أَعْمَلُوا، فَإِنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ). ثُمَّ قَالَ: (لَوْلَا أَنْ تُغْلَبُوا لَنَزَلْتُ، حَتَّى أَضَعَ الْحَبْلَ عَلَى هَذِهِ). يَعْنِي: عَاتِقَهُ، وَأَشَارَ إِلَى عَاتِقِهِ.

(رواه البخارى: ١٦٣٥)

٨٢٤ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ هُوَ قَائِمًا. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ. (رواه البخارى: ١٦٣٧)

٣٣- بَابُ: وَجُوبِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
٨٢٥ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَأَلَهَا ابْنُ أُخْتِهَا عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا

kisi par kuchh gunaah nahin Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne farmaya aye mere bhaanje! tune ghalat baat kahi agar Allah ka yeh matlab hota to yeh aayat-e-kareema yoon hoti unke tawaaf karne mein koyi harj nahin dar asl yeh baat hai ke aayat-e-kareema ansaar ke baare mein naazil huyi woh islam laane se pahle manaat ke liye ehraam baandha karte the jis ki maqaam mushallal ke qareeb ibaadat karte the iss liye un mein se jo shakhs ehraam baandhta to woh Safa Marwah ke darmiyaan say'i karna gunaah samajhta jab yeh log musalmaan huye to unhon ne Rasoolullah ﷺ se iski baabat daryaaft farmaaya aur kaha ya Rasoolallah ﷺ hum log to Safa Marwah ke darmiyaan say'i ko bura samajhte the. phir Allah ne yeh aayat naazil farmaayi ke "Safa aur Marwah donon Allah ki nishaaniyan hain" aakhir aayat tak Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne to Safa Marwah ki say'i ko jaari farmaya iss liye ab koyi say'i ko tark nahin kar sakta.

(Bukhari: 1643)

Fawaaid: Sahih Muslim mein hai ke Allah ki qasam! uss shakhs ka hajj na mukammal hai jo Safa Marwah ki say'i nahin karta isse maloom huwa ke say'i karna hajj ka ek rukn hai.

(Awnul Baari:2/598)

Baab 44: Safa Marwah ke darmiyaan say'i karne ke baare mein kiya aaya hai?

826 :Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab pahla tawaaf karte to teen chakkaron mein daud kar chalte aur chaar chakkaron mein aam rafataar ikhtiyaar farmate aur jab Safa Marwah ke darmiyaan say'i karte to waadi ke nasheeb mein daud kar chalte.

(Bukhari:1644)

وَالْمَرْوَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتھا عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا، يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفاء والمروة، فلما أسلموا، سألوا رسول الله ﷺ عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: ﴿إِنَّ الصفا والمروة من شعائر الله﴾.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الطَّوْفَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوْفَ بَيْنَهُمَا. (رواه البخارى: ١٦٤٣)

٤٣ - باب: ما جاء في السعي بين

الصفا والمروة

٨٢٦ : عَنْ أَبِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوْفَ الْأَوَّلَ حَبًّا ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفا وَالْمَرْوَةِ. (رواه البخارى: ١٦٤٣)

Fawaaid: Tawaaf ki yeh kaifiyat sirf tawaaf-e-qudoom mein ikhtiyaar ki jaaye neez Safa se Marwah tak ek chakkar aur Marwah se Safa tak doosra chakkar hai isi tarah saat chakkar lagaaye jaayen ab shanaakht ke liye daud ne ke maqaam mein sabz tyuoben lagi huyi hain.

(Awnul Baari:2/599)

Baab 45: Haayizah, tawaaf ka'ba ke elaawah deegar tamaam af'aale hajj baja laaye.

427: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ aur Aap ke sahaaba kiram ﷺ ne hajj ka ehraam baandha Rasoolullah ﷺ aur Hazrat Abu Talha ﷺ ke elaawah kisi ke saath qurbaani ka jaanwar nahin tha aur Hazrat Ali رضي الله عنه Yaman se aaye the unke saath bhi qurbaani ka jaanwar tha Hazrate Ali رضي الله عنه ne kaha ke main ne ehraam baandhte waqt yeh niyyat ki thi jo ehraam Rasoolullah ﷺ ka hai wahi mara hai uss moqe par Rasoolullah ﷺ ne apne ashaab ﷺ ko hukm diya ke woh sab iss ehraam ko hajj ke baajaye umrah ka karden aur tawaaf karke baal katarwaalen phri qurbaani saath laane waalon ke elaawah sab ehraam khol den uss par sahaaba ne arz kiya hum Mina iss haalat mein jaayen ke hamaare a'zaaye tanaasul se mani tapak rahi ho uss guftagu ki ettela' jab Rasoolullah ﷺ ko pahunchi to Aap ne farmaya agar mujhe pahle se ma'loom hota jo ab ma'loom huwa hai to main apne saath qurbaani ka jaanwar na laata agar mere saath qurbaani ka jaanwar na hota to main bhi ehraam khol deta. (Bukhari: 1651)

Fawaaid: Iss hadees ke aakhir mein hai ke "phir aisa huwa ke hazrat Aayeshah رضي الله عنها ko haiz aagaya unhon ne baitullah ka tawaaf ke elaawah tamaam manaasik-e-hajj poore kiye aur makhsos ayyaam se faraaghat ke ba'd baitullah ka tawaaf kiya, iss tarah baab se poori munaasibat waazeh hoti hai.

Baab 46: 8win Zulhijjah ko haaji namaaz-e-zohar kahaan padhe?.

828: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai un se kisi ne poochha ke mujhe Aap koyi aisi baat bataayen jo Aap ko Rasoolullah ﷺ ki yaad ho ya'ni Aap ne 8win zulhijjah ko Zohar aur

٢٥- باب: تَقْضَى الْحَائِضُ
الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ
٢٨٤: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْلَ النَّبِيِّ ﷺ هُوَ
وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ
مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ
وَقَدِيمَ عَلِيٍّ مِنَ الْيَمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ،
فَقَالَ: أَهَلَّتْ بِمَا أَهَلَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ،
فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا
عُمْرَةً، وَيَطُوفُوا، ثُمَّ يَقْصِرُوا وَيَحْلُوا
إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ، فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ
إِلَى مِنَى وَذَكَرْنَا أَحَدِنَا يَقْطُرُ مِئْيَا، فَبَلَغَ
النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ
أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْ لَا
أَنْ مَعِيَ الْهَدْيُ لَأَحَلَّتْ).

(رواه البخارى: ١٦٥١)

٢٦- باب: أَيَّنْ يُصَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ
٨٢٨: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ:
أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:

Asr ki namaaz kahaan padhi thi? unhon ne kaha Mina mein, uss ne poochha ke kooch ke roz namaaze Asr kahaan padhi thi? unhon ne kaha mohassab mein jaakar phir Hazrat Anas رضي الله عنه ne kaha ke tere liye apne hukkaam ki pairwi karna hai. (Bukhari: 1653)

أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟
قَالَ: بِمَنَى، قَالَ: فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ
يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ: بِالْأَبْطَحِ، ثُمَّ قَالَ
أَنْسَ: أَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ أُمْرَاؤُكَ.

(رواه البخارى: ١٢٥٣)

Fawaaid:Bukhari ki doosri rivaayat mein hazrat Anas رضي الله عنه ka jawaab bayin alfaaz manqool hai" ke dekh jahaan tere haakim log namaaz padhen wahaan tu bhi ada kar" isse maloom huwa ke kisi mustahab kaam ko amal mein laane ke liye haakim-e-waqt aur jama'at ul muslimen ki mukhaalifat nahin karna chaahiye.(Awnul Baari:2/604)

Baab 47: Arafah ke din rozah rakhne ka bayaan.

829 : Hazrat Ummul Fazl رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Arafah ke din logon ko Rasoolullah ﷺ ke roze mein shak tha to main ne Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein ek mashroob bheja to Aap ne use nosh jaan farmaya. (Bukhari: 1658)

٣٤- بَابُ: صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ
٨٢٩ : عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: شَكَ النَّاسُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي
صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، فَبَعَثْتُ إِلَى النَّبِيِّ
عَلَيْهِ السَّلَامُ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ.

(رواه البخارى: ١٢٥٨)

Fawaaid:Muslim ki rivaayat mein hai ke Arafah ke din rozah rakhne se do saal ke gunah maaf ho jaate hain lekin haaji ke liye behtar hai ke woh Arafah ke din rozah na rakkhe taake manaasik-e-hajj adaa karne mein kamzori paida na ho ba'z rivaayaat mein haaji ke liye uss din rozah rakhne ki nahin bhi waarid hai.(Awnul Baari:2/605)

Baab 48:Arafah ke liye din theek dopahar ke waqt rawaana hona.

830 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke woh Arafah ke din zawaale aafaaab ke ba'd tashreef laaye aur hujjaaj ke dere ke paas pahunch kar zor se aawaaz di to hajjaaj kism mein rangi huyi chaadar odhe baahar nikla aur kahne laga aye Abdur Rahmaan kiya baat hai? unhon ne kaha ke agar tumhen sunnat ki pairwi matloob hai to abhi chalna chaahiye hujjaaj bola bilkul isi waqt? unhon ne kaha haan hujjaaj ne kaha mujhe itni mohlat den ke main apne sar par paani bahaaloon phir chalta hoon, Ibne Umar رضي الله عنهما apni sawaari se neeche utre yahaan tak Hajjaaj faarigh ho kar bahar nikla aur rawaana huwa to Saalim bin Abdullah ne jo apne baap ke saath the usse kaha agar tu sunnat ki pairvi chaahata hai to khutba

٣٨- بَابُ: التَّهْجِيرُ بِالرَّوَّاحِ يَوْمَ عَرَفَةَ
٨٣٠ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّهُ: جَاءَ يَوْمَ عَرَفَةَ، حِينَ رَأَتْ
الشَّمْسُ، فَصَاحَ عِنْدَ سُرَادِقِ
الْحَجَّاجِ، فَخَرَجَ وَعَلَيْهِ مَلْحَفَةٌ
مُعْصَفَرَةٌ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: الرَّوَّاحُ إِنْ كُنْتُ
تُرِيدُ السُّنَّةَ، قَالَ: فَأَنْظِرْنِي حَتَّى
أُفِيضَ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَخْرَجَ، فَنَزَلَ
حَتَّى خَرَجَ الْحَجَّاجُ، فَسَارَ، فَقَالَ لَهُ
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ- وَكَانَ مَعَ أَبِيهِ-:
إِنْ كُنْتُ تُرِيدُ السُّنَّةَ فَأَقْصِرِ الْخُطْبَةَ
وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى عَبْدِ

mukhatasar padhna aur waqoof mein jaldi karna yeh sunkar Hajjaaj Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما ki taraf dekhne laga jab Abullah bin Umar رضي الله عنهما ne dekha to usse kaha Saalim sachh kahta hai aur Abdul Malik ne Hajjaaj ko likh kar bheja tha ke hajj mein Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما ki mukhaalifat na karna. (Bukhari: 1660)

اللَّهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: صَدَقَ وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ قَدْ كَتَبَ إِلَيَّ الْحَجَّاجِ: أَنْ لَا يُخَالِفَ ابْنَ عُمَرَ فِي الْحَجِّ. (رواه البخارى: ١٦٦٠)

Fawaaid: Maloom huwa ke Arafah ke din sooraj dhalte hi Zohar aur Asr ko jam'a kar ke padh lena chaahiye agar namaaz ki tayyaari karne, (Masalan ghusl waghairah) mein kuchh der bhi ho jaaye to chandaan harj nahin. (Awnul Baari:2/608)

Baab 49: Arafat mein thhaharne ke liye jaldi karna

Iss unwaan ke tehat guzishta hadees No.730 ke peshe nazar kisi aur hadees ka indaraaj nahin kiya gaya.

٢٩ - بَابُ: التَّعْجِيلِ إِلَى الْمَوْقِفِ

Fawaaid: Pichhli hadees main hai ke "agar tu sunnat ki itteba' karna chaata hai to khutbah mukhtasar padhna aur waqoof mein jaldi karna" inhi alfaaz se un'waan saabit hota hai. iss unwaan ke tehat imam Bukhari ne likkha hai ke iss baab mein bhi wahi hadees likhne ka Program tha jise imam Maalik ne imam ibne Shehaab Zuhri se bayaan kiya hai lekin main chahta hoon ke iss kitab mein wahi hadees laaun jo bila faayedah mukarrar na ho.

Baab 50: Maydaan-e-Arafat mein thhaharna

831 : Hazrat Jubair bin Mut'im رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke qabl az islam ek daf'a musalmaan hone se pahle mera ount gum hogaya main Arafah ke din use dhoondne nikla to main ne Rasoolullah ﷺ ko Arafat mein thhahre huye dekha main ne dil mein kaha ke Allah ki qasam! yeh to qaume Hums se hain (jo hudoode haram se baahar nahin aate) phir yahaan inka kiya kaam? (Bukhari: 1664)

٥٠ - بَابُ: الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ٨٣١ : عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَضَلَّتْ بَعِيرًا لِي، فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا بِعَرَفَةَ، فَقُلْتُ: هَذَا وَاللَّهِ مِنَ الْحُمْسِ، فَمَا شَأْنُهُ هَاهُنَا. (رواه البخارى: ١٦٦٣)

Fawaaid: Hums Hemaasat se mushtaq hai, jis ka man'a sakhti hai Quraish ko Hums kahne ki wajah yeh thi ke woh apne deen mein sakhti se kaam lete the. usi sakhti ki wajah se woh hudoode-e-Haram se baahar nahin nikalte the hazrat Jubair bin Muti'm رضي الله عنه ko iss liye ta'ajjub huwa ke uss ne Rasoolullah ﷺ ko dauraan-e-hajj hudoode-e- Haram se baahar maydaan-e-Arafat mein waqoof karte dekha. (Awnul Baari:2/609)

Baab 51: Arafat se laut te waqt kis tarah chalna chaahiye

832 : Hazrat Usaamah bin Zaid رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unse daryaافت kiya gaya ke hajjatul wida' mein waapsi ke waqt

٥١ - بَابُ: السَّيْرِ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ ٨٣٢ : عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ: عَنْ سَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ

Rasoolullah ﷺ ki raftaar kaisi thi to unhon ne bataya ke Arafaat se rawaangi ke waqt 'aam raftaar se chalte the aur jab maydaan aa jaata to tez ho jaate the raavi kahta hai ke nas uss tez raftaari ko kahte hain jo aam raftaar se ziyaadah hoti hai. (Bukhari: 1666)

Fawaaid: Chunke Muzdalfah mein aakar maghrib aur Isha ki namaaz ko jama kar ke padhna hota hia iss liye Arafaat se laut te waqt zara jaldi chalna masnoon hai. (Awnul Baari: 2/611)

Baab 52: Arafaat se laut te waqt Rasoolullah ﷺ ka sukoon wa itmenaan ke muta'alliq hukm dena aur kode se ishaarah farmana

833 : Hazrat ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke woh Rasoolullah ﷺ ke saath Arafah ke din waapas huye to Rasoolullah ﷺ ne apne peechhe shoro ghul aur oun ton ko maarne peetne ki aawaaz suni to Aap ne apne kode se unki taraf ishaarah farmaya aur hukm diya ke logo! sukoon qaayem rakkho oun ton ko daudaane mein koyi neki nahin hai. (Bukhari: 1671)

Fawaaid: Matlab yeh hai ke jo tez raftaar apni ya jaanwaron ki takleef ka baay'is ho woh kisi soorat mein qaabil-e-ta'reef nahin. (Awnul Baari: 2/612)

Baab 53: Jis ne kamzor ghar waalon ko raat pahle bhej diya woh muzdalfah mein thhahren, du'a karein aur chaand ghuroob hote hi unko aage (Mina) rawaana kar diya.

834 : Hazrat Asma binte Abi Bakr رضي الله عنهما se rivaayat hai ke woh muzdalfah mein raat ke waqt utrin aur namaaz padhne khadi ho gayin phir ek ghadi tak namaaz padhti rahin faraaghat ke ba'd poochha aye bete! kiya chaand ghuroob ho gaya uss ne kaha haan ho gaya unhon ne kaha to phir kooch karo chunaancheh hum rawaana huye yahaan tak ke Hazrat Asma رضي الله عنهما ne Mina pahunch kar rami ki phir subah ki namaaz waapas aakar apne maqaam par adaa ki raavi ka bayaan hai ke main ne unse kaha ke mere khayaal ke

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حِينَ دَفَعَهُ؟
قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنْقَ، فَإِذَا وَجَدَ
فَجَوْهَةً نَصَّ. قَالَ الرَّأْيِيُّ: وَالنَّصُّ فَوْقَ
الْعَنْقِ. (رواه البخاري: ١٦٦٦)

٥٢ - بَابُ: أَمْرُ النَّبِيِّ ﷺ بِالسَّكِينَةِ
عِنْدَ الْإِفَاصَةِ وَإِشَارَتُهُ إِلَيْهِمْ بِالسَّوْطِ
٨٣٣ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ
عَرَفَةَ، فَسَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ وَرَاءَهُ زَجْرًا
شَدِيدًا، وَضَرْبًا لِلْإِبِلِ، فَأَشَارَ بِسَوْطِهِ
إِلَيْهِمْ، وَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، عَلَيْكُمْ
بِالسَّكِينَةِ، فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالِإِضَاعِ).
(رواه البخاري: ١٦٤١)

٥٣ - بَابُ: مَنْ قَدَّمَ صَعْفَةَ أَهْلِهِ
بَلِيلٍ، فَيَقْفُونَ بِالْمُرْدَلْفَةِ وَيَدْعُونَ،
وَيُقَدِّمُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ
٨٣٤ : عَنِ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا نَزَلَتْ لَيْلَةَ
جَمْعٍ عِنْدَ الْمُرْدَلْفَةِ، فَقَامَتْ تُصَلِّي،
فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ، هَلْ
غَابَ الْقَمَرُ؟ قَالَ: لَا، فَصَلَّتْ سَاعَةً
ثُمَّ قَالَتْ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ،
قَالَتْ: فَارْتَحِلُوا، فَارْتَحِلْنَا وَمَضِينَا،
حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ، ثُمَّ رَجَعَتْ
فَصَلَّتِ الصُّبْحَ فِي مَنْزِلِهَا، قَالَ:

mutaabiq humne jaldi se kaam liya hai aur andhere mein hi kankariyan maar di hain Hazrat Asma رضي الله عنها ne jawaab diya mere bete! Rasoolullah ﷺ ne auraton ko iski ejaazat de di hai. (Bukhari: 1679)

فَقُلْتُ لَهَا: يَا هَتَّاءُ، مَا أَرَأَانَا إِلَّا قَدْ عَلَسْنَا، قَالَتْ: يَا بَنِي، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أِذِنَ لِلظُّعْنِ.

(رواه البخاري: ١٦٧٩)

Fawaaid: 10win ki raat Muzdalfah mein guzaarna zaroori hai albattah bachchon, auraton aur kamzor logon ko ejaazat hai ke woh thodi der muzdalfah thhahar kar Mina rawaana ho jaayen.

835 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum muzdalfah mein utre to Hazrat Saudah رضي الله عنها ne Rasoolullah ﷺ se ejaazat maangi ke logon ke hujoom se pahle hi rawaana ho jaayen kyun ke woh zara sust raftaar thin Aap ne unko ejaazat dedi chunaancheh woh logon ke hujoom se pahle hi nikal khadi huyin aur hum log subah tak wahin thhahre rahe aur Rasoolullah ﷺ ke saath waapas huye kaash! main ne bhi Rasoolullah ﷺ se ejaazat li hoti to achchha tha jaise ke Saudah رضي الله عنها ne li thi. (Bukhari: 1681)

٨٣٥ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: نَزَلْنَا الْمُزْدَلِفَةَ، فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِيَّ ﷺ سَوْدَةَ، أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَكَانَتْ امْرَأَةً بَطِيئَةً، فَأِذِنَ لَهَا، فَدَفَعَتْ قَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ، وَأَقْمَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا نَحْنُ، ثُمَّ دَفَعْنَا بِدَفْعِهِ، فَلَانَ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنْتِ سَوْدَةَ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ. (رواه البخاري: ١٦٨١)

Fawaaid: Doosri rivaayat mein hai kaash! main (Aayeshah رضي الله عنها) namaaz-e-Fajr Mina mein padhti aur logon ke azdehaam se pahle rami jemaar karleti. (Awnul Baari: 2/616)

Baab 54: Namaaz-e-Subh muzdalfah hi mein padhna.

836: Hazrat Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai ke woh jab muzdalfah aaye to unhon ne do namaazein adaa kin har namaaz ke liye alag alag azaan aur eqaamat kahi aur do namaazon ke darmiyaan khana khaaya phir jab subah namudaar huyi to Fajr ki namaaz padhi uss waqt itna andhera tha ke koyi kahta Fajr ho gayi aur koyi kahta abhi Fajr nahin huyi faraaghat ke ba'd Abdullah bin Ma'sood رضي الله عنه ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya yeh donon namaazen maghrib wa isha iss maqaam (muzdalfah) mein apne waqt hataadi gayi hain logon ko chaahiye ke muzdalfah mein uss waqt daakhil hon jab andhera ho jaaye phir Fajr ki namaaz uss waqt se padhen phir Abdullah bin Mas'ood

٥٤ - بَابُ: مَنْ يُصَلِّي الْفَجْرَ بِجَمْعٍ ٨٣٦ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قَدِمَ جَمْعًا فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ، كُلَّ صَلَاةٍ وَحَدَّهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ، وَالْعِشَاءُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، قَائِلٌ يَقُولُ طَلَعَ الْفَجْرُ، وَقَائِلٌ يَقُولُ لَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ حَوَّلْنَا عَنْ وَقْتِهِمَا، فِي هَذَا الْمَكَانِ، الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَلَا يَقْدُمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتَمُوا، وَصَلَاةَ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةَ). ثُمَّ وَقَفَ حَتَّى

thhahre rahe yahaan tak ke raushni ho gayi phir kahne lage agar Ameerul Mu'mineen (Hazrat Usmaan ؓ iss waqt Mina ki taraf rawaana hote to sunnat ke mutaabiq amal karte raavi kahta hai ke mujhe yeh ilm nahin ke Hazrat Ibne Mas'ood ؓ ka yeh qaul pahle huwa ya hazrate Usmaan ؓ ka kooch pahle huwa aur ibne Masood ؓ baraabar talbiyah kahte rahe hatta ke qurbaani ke din jamrah uqbah ko kankariyan maarin. (Bukhari: 1683)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke namaazon ko jama karne waala darmiyaan mein khana waghairah kha sakta hai aur kuchh der aaraam bhi kar sakta hai kyun ke unke darmiyaan iss qadar faaslah qaabil-e-moaakhzah nahin hai. (Awnul Baari:2/617)

Baab 55: Muzdalfah se kab rawaana hona chaahiye?

837: Hazrat Umar ؓ se rivaayat hai ke unhon ne Fajr ki namaaz muzdalfah mein padhi phir thhahre rahe aur farmane lage ke mushrikeen tulu'-e-aaftaab ke ba'd yahaan se kooch karte aur tulu'-e-aaftaab ke intazaar mein yeh kahte aye sabeer! aaftaab tujh par zaahir ho lekin Rasoolullah ﷺ ne unki mukhaalifat farmayi phir Hazrat Umar ؓ ne tulu'-e aaftaab se pahle wahaan se kooch kar diya. (Bukhari: 1684)

Fawaaid: Sabeer Muzdalfah mein ek bahut bada pahaad hai jo Arafaf ko jaate waqt daayen jaanib aur Mina jaate waqt baayen jaanib padta hai. (Awnul Baari:2/619)

Baab 56: Qurbaani ke oonton par sawaar hona

838: Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne ek shakhs ko dekha ke woh qurbaani ke oont ko haank raha tha, aap ne farmaya uss par sawaar ho jaa, uss ne arz kiya ke yeh to qurbaani ka oont hai. aap ne farmaya uss par sawaar ho jaa doosri yaa teesri martabah farmaya tujh par afsos uss par sawaar ho jaa. (Bukhari:1689)

Fawaaid: Maloom huwa ke qurbaani ke oonton par sawaari karna jaayez hai khaah koyi u'zr na bhi ho imam Bukhari ne isse yeh bhi saabit kiya hai ke waqf a'am se khud faayidah lena jaayez hai. (Awnul Baari:2/623)

أَسْفَرَ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفَاضَ الْآنَ أَصَابَ السَّنَةَ. فَمَا أَدْرِي: أَقَوْلُهُ كَانَ أَسْرَعَ أَمْ دَفَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَلْبِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ.

(رواه البخارى: ١٦٨٣)

٥٥ - بَابُ: مَتَى يُدْفَعُ مِنْ جَمْعِ ٨٣٧ : عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى بِجَمْعِ الصُّبْحِ، ثُمَّ وَقَفَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقَ نَبِيرٌ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

(رواه البخارى: ١٦٨٣)

٥٦ - بَابُ: رُكُوبِ الْبَدَنِ ٨٣٨ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً، فَقَالَ: (ارْكَبْهَا). فَقَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، فَقَالَ: (ارْكَبْهَا). قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَةٌ، قَالَ: (ارْكَبْهَا وَيَلْكَ) فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ.

(رواه البخارى: ١٦٨٩)

Baab 57: Jo shakhs qurbaani ka jaanwar hamraah le kar gaya.

839: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne hajjatul wida ke moqa par hajj ke saath Umrah milaya tha aur qurbaani ki thi huwa yoon ke Zulholaifah se qurbaani ka jaanwar apne saath le gaye the aur Rasoolullah ﷺ ne ibteda mein Umre ke ehraam ke saath Labbaik kaha ba'd azin hajj ka labbaik kaha to logon ne bhi Rasoolullah ﷺ ke saath hajj ko umre ke saath mila kar faaidah haasil kiya un mein se kuchh log qurbaani ke jaanwar saath laaye the jab ke kuchh logon ke saath qurbaani ke jaanwar nahin the chunaancheh Rasoolullah ﷺ jab Makkah tashreef laaye to logon se irshaad farmaya ke jis shakhs ke paas qurbaani ka jaanwar hai uske liye koyi aisi cheez jo ba haalat-e-ehraam haraam thi halaal na hogi hatta ke apne hajj se faarigh ho jaaye aur jo shakhs qurbaani ka jaanwar saath nahin laaya woh ka'ba ka tawaaf karke Safa Marwah ki sayi' kare phir apne baal katarwaa kar ehraam khol de uske bad phir hajj ka ehraam baandhe aur labbaik kahe jis mein qurbaani dene ki taaqat na ho woh teen roze ayyaam-e-hajj mein aur saat roze apne ghar pahunch kar rakkhe ya'ni kul 10 roze rakkhe. (Bukhari:1691)

Fawaaid: Behtar hai ke yaum-e-Arafah se pahle teen roze rakh le kyun ke uske ba'd khane peene ke din hain baaqi saat roze apne ghar pahuch kar rakkhe raaste mein rakhna durust nahin hai. (Awnul Baari:2/627)

Baab 58: Jis shakhs ne Zul Holaifah pahunch kar Asha'ar (Qurbaani ki kohaani ko zakhm lagaya) aur taqleed yani un ke gale mein patta daala phir ehraam baandha.

840: Hazrat Miswar bin Makhramah aur Marwaan رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ zamaana Hudaibiyah mein ek hazaar se zaayed sahaaba ke saath

٥٧ - بَابُ: مَنْ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ
٨٣٩: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
حَجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ،
وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي
الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَهْلَ
بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهْلَ بِالْحَجِّ، فَتَمَتَّعَ النَّاسُ
مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ،
فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ
الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ
النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ (مَنْ كَانَ
مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِنَسِيٍّ حَرَمٍ
مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ
مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيُطِفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا
وَالْمَرْوَةِ، وَلْيَقْصِرْ وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ يَهْلُ
بِالْحَجِّ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ
إِلَى أَهْلِهِ). (رواه البخاري: ١٦٩١)

٥٨ - بَابُ: مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي
الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ

٨٤٠: عَنِ الْمُسَوْرِ بْنِ مَخْرَمَةَ
وَمَرْوَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: خَرَجَ
النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ
فِي بَضْعِ عَشْرَةِ مِائَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ،

Madinah Munawwarah se rawaana huye jab Zul holaifah pahunche to Rasoolullah ﷺ ne apni qurbaani ke jaanwaron ko qalaadah pahnaaya aur un ka asha'ar kiya phir Umrah ka ehraam baandha.(Bukhari:1694,1695)

حَتَّىٰ إِذَا كَانُوا بِإِذَى الْحُلَيْفَةِ، قَلَّدَ النَّبِيُّ ﷺ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَهُ، وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ.

(رواه البخارى: ١٦٩٤، ١٦٩٥)

Fawaaid:Qurbaani ke jaanwaron ko a'laamat ke taur par aisa kiya jaata tha taake arab log un se ta'aarruz na karen aur i'zzat wa ehteraam ki nazar se dekhen jin hazraat ne aisa karne se man'a kiya hai woh bahut door ki kaudi laaye hain. (Awnul Baari:2/629)

Baab 59:Jis ne apne haath se qalaadah pahnaaya

841:Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhen khabar pahunchi ke hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنها kahte hain jo k'aba mein qurbaani ka jaanwar bheje to uss par woh tamaam cheezein haraam ho jaati hain jo hajj karne waale par hoti hai yahaan tak ke woh qurbaani zabah kardi jaaye Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne farmaya ke jo Ibne Abbaas رضي الله عنها kahte hain woh sahih nahin hai main ne Rasoolullah ﷺ ki hadi (qurbaani) ke qalaade khud apne haath se banaaye phir Rasoolullah ﷺ ne apne haathon se un qalaadon ko pah naaya aur mere waalid-e-mohtaram ke saath unhen rawaana kiya magar koyi cheez jo Allah ne Rasoolullah ﷺ ke liye halaal farmayi thi woh aap par jaanwaron ki qurbaani tak haraam nahin huyi.(Bukhari:1700)

٥٩ - بَابُ: مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ
٨٣١ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:
أَنَّهُ بَلَغَهَا: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: مَنْ أَهْدَى هَدْيًا،
حُرِّمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ، حَتَّى
يُنْحَرَ هَدْيُهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهَا: لَيْسَ كَمَا قَالَ، أَنَا قَتَلْتُ قَلَائِدَ
هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي، ثُمَّ
قَلَّدَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي، ثُمَّ بَعَثَ
بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ
الْهَدْيُ. (رواه البخارى: ١٤٠٠)

Fawaaid:Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنها ke moqif ki bunyaad mahaz qiyaas tha jise hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne Rasoolullah ﷺ ke amal se rad kardiya. logon ne bhi hazrat Aayeshah رضي الله عنها ke moqif se ittefaaq kiya aur hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنها ke fatwe ko tark kardiya.(Awnul Baari:2/631)

Baab 60:Bakriyon ko Qalaadah pahnaana

842:Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi ek rivaayat hai ke ek dafa Rasoolullah ﷺ ne chand bakriyaan bataur qurbaani rawaana kin aur inhi ki ek doosri rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ne bakriyon ko Qalaadah pahnaaya aur apne ghar mein baghair ehraam ke rahe the. (Bukhari:1701,1702)

٦٠ - بَابُ: تَقْلِيدِ الْغَنَمِ
٨٣٢ : وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي
رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى غَنَمًا،
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا: أَنَّهُ ﷺ قَلَّدَ الْغَنَمَ
وَأَقَامَ فِي أَهْلِهِ حَلَالًا.

(رواه البخارى: ١٤٠١، ١٤٠٢)

Fawaaid:Nishaani ke taur par qurbaani ki bakriyon ko haar pahnaana jaayez hai lekin unka ash'aar karna bilittetfaaq durust nahin hai kyun ke woh iski mutahammil nahin hain neez baalon ki kasrat ki wajah se ash'aar zaahir bhi nahin hota.(Awnul Baari:2/632)

Baab 61:Oun se Qalaade tayyaar karna

843:Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne qurbaani ki bakriyon ke qalaade uss oun se banaaye the jo mere paas maujood thi. (Bukhari:1705)

٦١ - بَابُ: الْقَلَائِدِ مِنَ الْعِهْنِ
٨٣٣ : وفى رواية عنها قالت: فتلث
قلائدها من عهن كان عندي.
(رواه البخارى: ١٤٠٥)

Fawaaid:B'az logon ka khayaal hai ke qurbaani ke haar waghairah zameeni paida waar kapaas waghairah se banaaye jaayen hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne unki tardeed farmayi hai ke oun aur resham waghairah se banaaye jaa sakte hain.(Awnul Baari:2/633)

Baab 62:Qurbaani ki jholen tak Khairat kardene ka bayaan

844: Hazrat Ali رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke mujhe Rasoolullah ﷺ ne yeh hukm diya tha ke jo ount qurbaani ke taur par zabah kiye hain unki jholen aur khaalen sadqah kardoon. (Bukhari:1707)

٦٢ - بَابُ: الْجِلَالِ لِلْبُذْنِ
وَالْتَصَدُّقِ بِهَا
٨٣٤ : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَتَصَدَّقَ
بِجِلَالِ الْبُذْنِ الَّتِي نَحَرْتُ
وَبِجُلُودِهَا. (رواه البخارى: ١٤٠٤)

Fawaaid:Iss hadees mein ikhtesaar hai haqeeqat yeh hai ke hajjatul wida ke moqe par Rasoolullah ﷺ ne qurbaani ke taur par 100 ount zabah kiye. hazrat Ali رضي الله عنه ko unka gosht, khaalen, aur jholen taqseem karne ka hukm diya.

Baab 63:Apni Biwiyon ki taraf se unke kahe baghair Gaaye zabah karna

845:Hazrat Aaishah رضي الله عنها ki yeh rivaayat (791) ke hum Zul-Qa'dah ko Rasoolullah ﷺ ke hamraah Madinah se rawaana huye pahle guzarchuki hai iss tareeq main itna izaafah hai ke qurbaani ke din hamaare saamne gaaye ka gosht laaya gaya to main ne poochha ke yeh gosht kaisa hai? laane wale ne kaha Rasoolullah ﷺ ne apni biwiyon ki taraf se qurbaani ki hai. (Bukhari:1709)

٦٣ - بَابُ: ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ
نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ
٨٣٥ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
لِحَمْسِ بَقَيْنِ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، تَقَدَّمَ
وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ زِيَادَةٌ: فَدَخَلَ عَلَيْنَا
يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟
قَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
أُرْوَاجِهِ. (رواه البخارى: ١٤٠٩)

Fawaaid:Iss se maloom huwa ke agar koyi shakhs doosre ki taraf se uski ejaazat ya uske ilm mein laaye baghair koyi kaar-e-khair sar anjaam deta hai to use sawaab pahuchta hai neez iss mein gaaye waghairah ki qurbani mein sharaakat ka suboot bhi faraaham hota hai.

(Awnul Baari:2/636)

Baab 64: Mina mein Rasoolullah ﷺ ke maqaam-e-qurbaani par qurbaani karna

846: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke woh Rasoolullah ﷺ ki jaaye qurbaani par qurbaani karte the.

(Bukhari:1710)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ke Nahar ka maqaam jamrah uqbah ke qareeb masjid-e- khaif ke paas tha taa hum Mina mein har jagah qurbaani ki jaa sakti hai. (Awnul Baari:2/637)

Baab 65: Ount ka paaun baandh kar qurbaani karna

847: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unhon ne ek shakhs ko dekha jo qurbaani ke ount bithha kar zabah kar raha tha to unhon ne farmaya ke ise uthha aur ek paaun baandh kar khda karke zabah kar yeh paabandi sunnat-e-Muhammadiya hai. (Bukhari:1713)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke khelaaf-e-sunnat kaam hota dekh kar khamoosh nahin rahna chaahiye balke sunnat ki wazaahat zaroori hai.

Baab 66: Qurbaani se Qasaab ko (bataur-e-ujrat) koyi cheez na dena.

848: Hazrat Ali رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke mujhe Rasoolullah ﷺ ne hukm diya tha ke main qurbaani ke ounton ki nigraani karoon aur Qasaab ko unki koyi cheez ujrat na doon. (Bukhari:1716)

Fawaaid: Qasaab ko bataur ujrat khaal waghairah nahin dena chaahiye balke use apni taraf se mua'awazah diya jaaye taa hum khairaat ke taur par gosht waghairah dene mein koyi harj nahin. (Awnul Baari:2/638)

Baab 67: Qurbaani ke Jaanwaron se kiya khayen aur kiya khairaat karen

849: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum apni qurbaani ka gosht Mina mein teen din se ziyaadah na khaate the lekin Rasoolullah ﷺ ne hamen ejaazat dete huye farmaya ke

٦٣ - بَابُ: النَّحْرُ فِي مَنْحَرِ النَّبِيِّ

ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْى

٨٣٦: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يُنْحَرُ فِي الْمَنْحَرِ. يَعْنِي: مَنْحَرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (رواه البخارى: ١٧١٠)

٦٥ - بَابُ: نَحْرُ الْإِبِلِ مُقَيَّدَةً

٨٣٧: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ رَأَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَخْبَدَتْهُ يَنْحَرُهَا، قَالَ: ابْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ. (رواه البخارى: ١٧١٣)

٦٦ - بَابُ: لَا يُعْطَى الْجَزَارَ مِنَ

الْهَدْيِ شَيْئًا

٨٣٨: عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى الْبُذْنِ، وَلَا أُعْطَى عَلَيْهَا شَيْئًا فِي جِزَارَتِهَا. (رواه البخارى: ١٧١٦ م)

٦٧ - بَابُ: مَا يَأْكُلُ مِنَ الْبُذْنِ وَمَا

يَتَصَدَّقُ

٨٣٩: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُذْنِنَا فَوْقَ ثَلَاثِ مَنَى، فَرَخَّصَ لَنَا

khaao aur zaad-e-raah ke taur par saath bhi le jaao chunaancheh hum ne khaaya aur saath bhi laaye. (Bukhari:1719)

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: (كُلُوا وَتَزَوَّدُوا).
فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. (رواه البخارى: 1719)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ne teen din se ziyaadah qurbaani ka gosht rakhne se mana' farmaya tha chunaancheh yeh hukm mazkoorah hadees se mansookh huwa aur qurbaani ka gosht zaad-e-raah ke taur par der tak rakhne ki ejaazat morahmat huyi. (Awnul Baari:2/639)

Baab 68: Ehraam kholte waqt sar mundwaana aur katarwana

٢٨ - بَابُ: الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ
الإِحْلَالِ

850: Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne apne hajj mein sar ko mundwaaya tha (Bukhari:1726)

٨٥٠ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
عَنْهُمَا قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي
حَجَّتِهِ. (رواه البخارى: 1726)

Fawaaid: Hadees se maloom huwa ke sar mundwaana katarwaane se afzal hai lekin auraton ke liye sar mundwaana jaayiz nahin woh apni choti ke chand ek baal le len.

851: Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya: Aye Allah! Sar mundwaane waalon par meharbaani farma, Sahaaba Kiram ﷺ ne arz kiya : Ya Rasoolallah ﷺ ! baal katrwaane waalon par bhi, aap ne phir yahi farmaya: Aye Allah! sar mundwaane waalon par rahmat naazil farma, Sahaaba Kiram ﷺ ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ ! baal katarwaane waalon par bhi. tab aap ne farmaya ke baal katarwaane waalon par bhi raham farma. (Bukhari:1727)

٨٥١ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (أَلَيْسَ أَرْحَمَ
الْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: (وَالْمُقَصِّرِينَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَلَيْسَ أَرْحَمَ
الْمُحَلِّقِينَ). قَالُوا: (وَالْمُقَصِّرِينَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (وَالْمُقَصِّرِينَ).
(رواه البخارى: 1727)

Fawaaid: Tamaam sar ko mundwaana chaahiye tabhi dua'-e-nabawi ka haqdaar hoga iss se yeh bhi maloom huwa ke mashru kaam karne waale ke liye khair wa barkat ki dua karna mustahab hai. (Awnul Baari:2/642)

852: Hazrat Abu Hurairah رضى الله عنه se bhi aisi hi rivaayat hai magar uss mein lafz irham ke bajaaye Aghfir hai jis ko aap ne teen dafa kaha aur chauthi baar farmaya ke baal katarwaane waalon ki bhi bakhshish farma.

٨٥٢ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: (اعْفِرْ) بَدَلُ:
أَرْحَمُ), قَالَهَا: ثَلَاثًا، قَالَ:
(وَلِلْمُقَصِّرِينَ). (رواه البخارى: 1728)

(Bukhari:1728)

Fawaaid: Agar hajj se chand din qabl umrah kiya jaaye aur aundesah ho ke 10win tareekh tak baal nahin ug sakenge to aise haalaat mein umrah karne wale ke liye baal katarwaana afzal hai taake hajj ke moqa par baalon ka halaq ho sake. (Awnul Baari:2/643)

853: Hazrat Ameere Mua'awiyah رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne ek dafa Rasoolullah ﷺ ke baal qainchi se katre the. (Bukhari:1730)

٨٥٣ : عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَصَّرْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

بِمَشْقَصٍ. (رواه البخارى: ١٤٣٠)

Fawaaid:Yeh waaqiah umrah qaza ya umrah je'raana ka hai kyun ke hajjatul wida mein aap ne Mina mein halaq karaya tha. (Awnul Baari:2/644)

Baab 69:Kankariyan maarna.

854:Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما se rivaayat hai ke un se kisi shakhs ne poochha ke jamron ko kankariyaan kis waqt maaroon? unhon ne jawaab diya ke jab tumhaara imam rami kare to uss waqt tum bhi rami karo aur uss ne do baarah yahi baat poochhi to unhon ne farmaya ke hum intezaar karte rahte jab aaftaab dhal jaata to kankariyaan maarte the. (Bukhari:1746)

Fawaaid:10win taareekh ko kankariyaan maarne ka afzal waqt chaasht hai aur baaqi ayyaam mein zawaal-e-aaftaab ke ba'd hai.

Baab 70:Waadi ke nasheb se kankariyaan maarna.

855:Hazrat Abdullah bin Mas'ood رضى الله عنهما se rivaayat hai ke unhon ne waadi ke nasheb se jaakar kankariyaan maarin to un se kaha gaya kuchh log to oupar hi se khade ho kar rami karte hain unhon ne farmaya qasam uss Allah ki jis ke elaawah koyi m'abood barhaq nahin hai! yeh uss shakhs ke rami karne ki jagah hai jis par surah baqarah naazil huyi thi. (Bukhari:1747)

Fawaaid:Saayil ne jamrah uqbah ko kankariyaan maarne ke muta'alliq sawaal kiya waazeh rahe ke uss waqt Makkah Mukarramah baayen jaanib aur Arafah daayen jaanib ho aur jamrah ke saamne khada ho kar rami ki jaaye.(Awnul Baari:2/647)

Baab 71:Har Jamrah par saat saat kankariyaan maari jaayein.

856:Hazrat Abdullah bin Mas'ood رضى الله عنهما se hi rivaayat hai ke jab woh bade jamrah (Uqba) ke paas pahunche to unhon ne kaba ko apni baayen taraf aur Mina ko apni daayen taraf kar liya aur use saat kankariyan maari aur farmaya ke iss tarah uss shakhs ne kankariyan mari thin jis par surah baqarah naazil huyi thi ﷺ. (Bukhari:1748)

٦٩ : بَابُ : رَمَى الْجِمَارِ
٨٥٣ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَتَى أُرْمَى الْجِمَارِ؟ قَالَ : إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهِ ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ ، قَالَ : كُنَّا نَتَحَيَّنُ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمِينَا .
(رواه البخارى: ١٤٣٦)

٤٠ - بَابُ : رَمَى الْجِمَارِ مِنْ بَطْنِ

الْوَادِي

٨٥٥ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا؟ فَقَالَ : وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، هَذَا مَقَامُ الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ .
(رواه البخارى: ١٤٣٤)

٤١ - بَابُ : رَمَى الْجِمَارِ بِسَبْعِ

حَصِيَّاتٍ

٨٥٦ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى الْجِمْرَةِ الْكُبْرَى ، فَجَعَلَ الْيَبْتَ عَنْ يَسَارِهِ ، وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ ، وَرَمَى بِسَبْعِ ، وَقَالَ : هَكَذَا رَمَى الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ .

(رواه البخاری: ۱۷۴۸)

Fawaaid: Jamrah Uqbah chand ek baaton mein doosre jamraat se mumtaaz hai ek yeh ke 10win taareekh ko sirf us ko rami ki jaati hai doosre uski rami bawaqt chaasht hai teesre yeh ke uske paas du'a nahin karna chaahiye. (Awnul Baari:2/649)

Baab 72: Narm Zameen par Qiblah ru kahade hokar pahle aur doosre jamre ko kankariyaan maarna.

857: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke woh (Masjid-e-Khaif ke) qareeb waale jamrah ko saat kankariyaan maarte aur har kankari ke bad takbeer kahte the phir aap aage badhte aur narm zameen par pahunch kar qiblah ru khade ho jaate aur der tak haath uthhaa kar du'a karte phir darmiyaani jamre ko kankariyaan maarte uske ba'd baayen jaanib narm wa hamwaar zameen par chale jaate aur qiblah ru khade ho kar der tak haath uthha kar du'a karte rahte aur yoon der tak khade rahte phir waadi ke nasheb se jamrah uqba ko rami karte aur uske paas na thhaharte aur waapas aa jaate aur farmate ke main ne Rasoolullah ﷺ ko aisa karte dekha hai. (Bukhari: 1751)

۷۲- بَابُ: إِذَا رَمَى الْجَمْرَتَيْنِ

يَقُومُ وَيُسْهَلُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ

۸۵۷: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهَلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرْمِي الْوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشَّمَالِ فَيَسْتَهْلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ الْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُهُ.

(رواه البخاری: ۱۷۵۱)

Fawaaid: B'az rivaayaat mein hai ke hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما surah Baqarah padhne ki miqdaar wahaan khade nehaayat khushu se dua karte rahte isse yeh bhi maloom huwa ke kankariyaan yakbaar hi na phenk di jaayen balke akeli akeli kankari maari jaaye.

(Awnul Baari:2/650)

Baab 73: Tawaaf-e-wid'a ka bayaan.

858 : Hazrat ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke logon ko hukm diya gaya ke unka aakhri waqt baitullah ke paas ho (ya'ni tawaaf-e-wida' karen) magar haiz waali auraton ko (yeh tawaaf) ma'af hai.

(Bukhari: 1755)

۷۳- بَابُ: طَوَافُ الْوَدَاعِ

۸۵۸: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفِيَ عَنِ الْحَائِضِ. (رواه البخاری: ۱۷۵۵)

Fawaaid: Tawaaf-e-wada ka doosra naam tawaaf-e-sadar bhi hai aur yeh bhi zaroori hai neez yeh bhi maloom huwa ke sehat-e-tawaaf ke liye tahaarat shart hai. (Awnul Baari:2/652)

859 : Hazrat Anas رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke Rasoolullah ne wadiye Mohassab mein

۸۵۹: عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

Zohar Asr, Maghrib aur Isha ki namaaz padhi uske ba'd thodi der neend ki phir sawaar ho kar baitullah gaye aur tawaaf kiya.

(Bukhari: 1756)

اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَكَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. (رواه البخارى: 1756)

Fawaaid: Waadiye Mohassab Makkah aur Mina ke darmiyaan ek wasi' maydaani elaaqah hai use bat, haa aur khaif bani kenaanah ubi kahte hain. (Awnul Baari: 2/652)

Baab 74: Agar tawaaf-e-ziyaarat kar lene ke ba'd aurat ko haiz aa jaaye?

٤٢ - بَابُ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ

860 : Hazrat ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke haayizah ko tawaaf-e-efaaazah ke ba'd Makkah se jaane ki ejaazat hai raavi ka bayaan hai ke main ne Hazrat ibne Umar رضي الله عنهما ko yeh kahte suna ke ejaazat nahin hai lekin ba'd main un se suna ke Rasoolullah ﷺ ne haayizah ko rukhsat di hai. (Bukhari: 1760, 1761)

٨٦٠ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُحِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَحَّصَ لَهَا.

(رواه البخارى: 1760, 1761)

Fawaaid: Hazrat Umar, Ibne Umar aur Zaib bin Saabit رضي الله عنهما ka yeh moqif tha ke haayizah ke liye bhi tawaaf-e-wida' karna zaroori hai lekin hazrat Zaid aur ibne Umar رضي الله عنهما ne iss moqif se ruju' karliya tha albattah hazrat Umar رضي الله عنهما ka ruju' saabit nahin unka yeh moqif iss hadees ke khilaaf hai. (Awnul Baari: 2/653)

Baab 75: Waadiye mohassab mein thhaharna.

861 : Hazrat ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke wadiye mohassab mein thhaharna koyi ibaadat nahin hai woh sirf ek maqaam hai jahaan Rasoolullah ﷺ yoon hi thhare the. (Bukhari: 1866)

٤٥ - بَابُ: الْمَحَصَّبِ
٨٦١ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
لَيْسَ التَّحْصِيبُ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا هُوَ
مَنْزِلُ نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.
(رواه البخارى: 1866)

Fawaaid: Matlab yeh hai ke waadiye-Mohassab mein thhaharna arkaan-e-hajj se nahin hai balke Rasoolullah ﷺ iss khayaal se wahaan thhare ke wahaan se Madinah ko rawaangi aasaan hogi chunke aap ne wahaan qiyaam farmaya iss liye uska ehtemaam mustahab hai aap ke ba'd shaikhain رضي الله عنهما bhi wahaan thhare. (Awnul Baari: 2/654)

Baab 76: Dukhoole Makkah se pahle zi tuwa mein thhaharna aur Makkah se laut te waqt uss bat, haa mein padaau karna jo zulholaifah mein hai.

862 : Hazrat ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke jab woh Makkah jaate to zi tuwa mein

٤٦ - بَابُ: النَّزُولِ بِبَدْيِ طَوَى
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ وَالنُّزُولِ
بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِبَدْيِ الْحَلِيفَةِ إِذَا
رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ

padaau karte raat wahin basar karte subah hoti to Makkah mein daakhil hote aur jab Makkah se waapas hote to bhi zi tuwa mein raat guzaarte subah tak wahin rahte aur zikr karte the ke Rasoolullah ﷺ bhi aisa karte the. (Bukhari: 1769)

٨٦٢ : عَنْ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَقْبَلَ بَاتٍ بِدِي طُوى، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ دَخَلَ، وَإِذَا نَفَرَ مَرَّ بِدِي طُوى وَبَاتَ بِهَا حَتَّى يُصْبِحَ، وَكَانَ يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. (رواه البخارى: ١٧٦٩)

Fawaaid: Imam Bukhari ne iss hadees par yoon unwaan qaayem kiya hai "Makkah se laut te waqt bhi zi Tuwa mein padaau karna" Saahibe tajreed ke unwaan ke tehat Imam Bukhari jo hadees laate hain uss mein yeh wazaahat maujood hai ke Rasoolullah ﷺ hajj ya umrah se laut kar Madinah aate to apni ountni ko uss maydaan bat,haa mein bithhate jo Zul holaifah mein hai.



Umrah ke bayaan mein

کتاب العمرة

Baab 1: Farziyat-e-Umrah aur uski fazeelat

863: Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya ek Umrah doosre Umrah tak ke darmiyaan gunaahon ka kaffaarah hota hai aur maqbool hajj ka silah to siwaaye jannat ke kuchh nahin hai.

(Bukhari:1773)

۱ - بَابُ: وَجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلُهَا

۸۶۳: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: (الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ). (رواه البخاری: ۱۷۷۳)

Fawaaid: Imam Bukhari ke nazdeek hajj ki tarah umrah bhi farz hai lekin mazkoorah hadees se iski farziyat waazeh nahin hoti balke woh ahaadees jin mein arkaakn-e-islam bayaan huye hain un mein hajj ka zikr hai umre ko un mein bayaan nahin kiya gaya hai. wallahu A'lam (Awnul Baari:2/659)

Baab 2: Hajj se pahle Umrah karna.

864: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke un se qabl az hajj Umrah karne ki baabat daryaaft kiya gaya to unhon ne farmaya ke iss mein koyi qabaahat nahin kyun ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne hajj se pahle Umrah kiya hai. (Bukhari:1774)

۲ - بَابُ: مَنِ اعْتَمَرَ قَبْلَ الْحَجِّ ۸۶۴: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ. وَقَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ.

(رواه البخاری: ۱۷۷۴)

Baab 3: Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne kis qadar Umre kiye?

865: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai un se poochha gaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne kitne Umre kiye hain? to unhon ne jawaab diya ke chaar jin mein ek maah-e-Rajab mein kiya tha saayil kahta hai ke main ne Hazrat Aaishah رضی اللہ عنہا se arz kiya amma jaan! aap ne Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما ki baat ko suna hai? Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا ne poochha woh kiya kahte hain? saail bola woh kahte hain ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne chaar Umare kiye hain jin mein ek Rajab mein kiya tha Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا ne farmaya Allah Ta'ala Abu Abdur Rahman رضی اللہ عنہما par raham kare aap ne koyi Umrah nahin kiya jis mein woh maujood

۳ - بَابُ: كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم ۸۶۵: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم? قَالَ: أَرْبَعًا: إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَ السَّائِلُ: فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: يَا أُمَّةَ الْأَسْمَعِيِّينَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَتْ: مَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. قَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي

na hon (phir woh bhool gaye) Rajab mein to aap ne koyi Umrah bhi nahin ada farmaya.(Bukhari:1776)

رَجَبٍ قَطُّ. (رواه البخارى: ١٧٧٦)

Fawaaid: Iss mein koyi shak nahin hai ke Rasoolullah ﷺ ne maahe Rajab mein koyi umrah nahin kiya sahih muslim mein hai ke hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما ne hazrat Aayeshah رضى الله عنها ki baat sun kar haan ya nahin mein koyi jawaab nahin diya balke khaamoosh ho gaye.

(Awnul Baari:2/661)

866: Hazrat Anas رضى الله عنه se rivaayat hai un se poochha gaya ke Rasoolullah ﷺ ne kitne Umre kiye? to unhon ne kaha chaar ek Umrah to Hudaibiyah jo Zul Qa'dah mein kiya jab ke Mushrikeen ne aapko waapas kardiya umrah aaindah saal zul qa'dah mein kiya jab ke aap ne mushrikeen se Sulah farmaayi teesra Umrah Ji'raana jab maal-ghaneemat taqseem kiya. mera khayaal hai ke yeh maale ghaneemat Hunain ka tha. (chautha hajj ke saath) phir main ne poochha ke aap ne hajj kit ne kiye to jawaab diya sirf ek. (Bukhari: 1778)

٨٦٦ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ: كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعًا: عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ حَيْثُ صَالَحَهُمْ، وَعُمْرَةَ الْجِعْرَانَةِ إِذْ قَسَمَ غَنِيمَةً - أَرَاهُ - حَتَّى نِيَّ. قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.

(رواه البخارى: ١٧٧٨)

867: Hazrat Anas رضى الله عنه ne doosri rivaayat mein yoon farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne ek to woh Umrah kiya tha jis se mushrikeen ne aap ko waapas kardiya tha phir aaindah saal Qaza ka Umrah, teesra Zul Qa'dah mein aur chautha Umrah hajj ke saath ada farmaya.

٨٦٧ : وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ حَيْثُ رَدُّوهُ، وَمِنَ الْقَابِلِ عُمْرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَعُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ.

(Bukhari:1779)

(رواه البخارى: ١٧٧٩)

Fawaaid: Doosre umre ko umratul qaza iss liye kaha jaata hai ke yeh quraish se sulah aur un se ek faislah ke nateeja mein huwa tha yeh naam iss liye nahin rakha gaya ke chunka mushrikeen ne pahle umrah se rok diya tha to aap ne batuar qaza adaa kiya ho jaisa ke aammattunnas mein mashhoor hai balke jis umrah se roka gaya tha use shumaar kar ke chaar umre hote hain.(Awnul Baari:2/662)

868: Hazrat Bara' bin Aazib رضى الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne hajj karne se pahle Zul Qadah mein do Umre ada farmaye.

٨٦٨ : عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْجَّ

(Bukhari:1781)

مَرَّتَيْنِ. (رواه البخارى: ١٧٨١)

Fawaaid: Iss hadees mein do umre bayaan huye hain raavi ne woh umrah jo hajj ke saath kiya tha aur jis umrah se aap ko rok diya tha un donon ko shumaar nahin kiya waazeh ho ke teen umre maah-e-zulqa'dah mein adaa kiye gaye, chautha umrah hajj ke saath aur zulhijjah mein kiya tha.

Baab 4: Tana'yeem se Umrah karna

869: Hazrat Abdur Rahman bin Abi Bakr رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne unhein hukm diya ke Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ko apne saath sawaar kar ke le jaayein aur unhen maqaam-e-Tan'yeem se Umrah kara laayen aur Hazrat Suraaqah bin Malik bin Jo'sham رضي الله عنهما se uss waqt mile jab aap jamrah Uqbah par kankariyaan maar rahe the usne aap se poochha kiya yeh hajj ko faskh karke Umrah karna aap ke liye hi makhsos hai aap ne farmaya nahin yeh hamesha ke liye hai. (Bukhari:1785)

Fawaaid: Hazrat Suraaqah bin Maalik رضي الله عنهما ka sawaal hazrat Jaabir رضي الله عنهما se marvi ek lambi hadees ka hissa hai. hazrat Abdur Rahmaan bin Abi Bakr رضي الله عنهما ki hadees mein iska zikr bukhari main nahin hai saahibe tajreed ko chaahiye tha ke yoon kahte ek rivaayat jo hazrat Jaabir رضي الله عنهما se marvi hai uss mein yoon hai.

Baab 5: Hajj ke ba'd Qurbaani ke baghair Umrah karna

870: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se jo hadees (791,792,869,) Hajj ki baabat hai woh kayi dafa mukammal naqal ho kar guzar chuki hai. (Bukhari:1784)

Fawaaid: B'az logon ka khayaal hai ke maahе zulhijjah mein hajj ke b'ad bhi agar koyi umrah ka ehraam baandhta hai to use qurbaani dena hogi imam saahab iski tardeed farmaate hain ke hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne hajj ke b'ad jo umrah kiya tha uss mein koyi qurbaani, fidyah ya roze ada nahin kiye.

Baab 6: Umrah ka sawaab baqadr mushaqqat hai

871: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi ek rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne un se Umrah ki baabat farmaya ke uska sawaab baqadr kharch ya tumhaari mushaqqat ke mutaabiq diya jaayega. (Bukhari:1787)

Fawaaid: Baqadr mushaqqat sawaab mein kami beshi ka qaay'edah kulliyah nahin kyun ke ba'z ibadaat mein mushaqqat kam hoti hai lekin zamaan-o-makaan ke lehaaz se sawaab ziyaadah milta hai jaise shab-e-qadr mein ibadaat karna ya masjid-e-haraam mein namaaz ada karna. (Awnul Baari:2/670)

٣- بَابُ: عُمْرَةِ التَّنْعِيمِ

٨٦٩: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ وَيُعِمِّرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ. (رواه البخارى: ١٤٨٣)

وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ بِالْعُقَيْبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَا، فَقَالَ: أَلَكُمُ هَذِهِ خَاصَّةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ).

(رواه البخارى: ١٤٨٥)

٥- بَابُ: الاَعْتِمَارِ بَعْدَ الْحَجِّ بَعِيرٍ هَدَى

٨٤٠: حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الْحَجِّ، تَكَرَّرَ كَثِيرًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ (برقم: ٢١٣) (رواه البخارى: ١٤٨٣)

٦- بَابُ: أَجْرُ الْعُمْرَةِ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

٨٤١: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا فِي الْعُمْرَةِ: (وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفْسِكَ أَوْ نَصَبِكَ).

(رواه البخارى: ١٤٨٤)

Baab 7: Umrah karne Waala Ehraam se kab azaad hota hai?

872: Hazrat Asma Binte Abi Bakr Siddeeq رضي الله عنها se rivaayat hai ke woh jab maqaame-hajoon se guzratin to kahtin Allah apne Rasoolullah ﷺ par rahmaten naazil farmaye be shak hum aap ke hamraah uss maqaam par utre the un dinon hum halke phulke the hamaari sawaariyaan bhi kam aur zaad-e-raah bhi thoda tha. main ne aur meri bahan Aayeshah رضي الله عنها ne Zubair رضي الله عنه aur fulaan falaan shakhs ne Umrah kiya hum ne ka'ba ka tawaaf karke ehraam khol diya phir hum ne doosre waqt hajj ka ehraam baandha.

(Bukhari:1796)

Fawaaid: Iss hadees mein hai ke hum ne ka'ba ka tawaaf karke ehraam khol diya iska matlab yeh nahin hai ke Safa aur Marwah ki say'i nahin ki thi kyun ke mufassal hadees mein baitullah ke tawaaf ke ba'd Safa Marwah ki say'i ka bhi zikr hai. (Awnul Baari:2/673)

Baab 8: Jab koyi hajj, Umrah ya jehaad se laute to kiya du'a padhe?

873: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ jehaad ya hajj wa Umrah se laut te to har bulandi par teen dafa Allahu Akbar kahte phir yeh du'a padhte. Allah ke elaawah koyi mabood barhaq nahin woh ek hai uska koyi shareek nahin uski hukoomat hai wahi ta'reef ke sazawaar hai aur woh har cheez par qudrat rakhne waala hai hum safar se lautne waale hain tauba karne waale apne maalik ki bandagi karne wale uske huzoor sajdah rez hone waale apne parwar digaar ki ta'reef karne waale jis ne apna wa'da sachcha kar dikhlaya apne bande ki madad farmayai uss akele ne afwaaj-e-kuffar ko shikast se do chaar kardiya. (Bukhari:1797)

Fawaaid: Yeh du'a jehaad aur hajj ke safar ke liye hi khaas nahin balke har safar se waapsi par padhi jaa sakti hai jo Allah ki eta'at ke liye ikhtiyaar kiya gaya ho. (Awnul Baari:2/675)

Baab 9: Aane waale haajiyon ka istaqbaal karna aur teen aadmiyon ka sawaari par baithhna

٤- بَابُ: مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ

٨٤٢ : عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهَا كَانَتْ كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُّونَ تَقُولُ: صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ، لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَاهُنَا وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خِفَافٌ. قَلِيلٌ ظَهَرْنَا قَلِيلَةً أَرْوَادُنَا، فَاعْتَمَرْتُ أَنَا وَأُخْتِي عَائِشَةُ وَالزَّبِيرُ وَقِلَافٌ وَقِلَافٌ، فَلَمَّا مَسَحْنَا الْبَيْتَ أَحَلَلْنَا، ثُمَّ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعُشِيِّ بِالْحَجِّ. (رواه البخارى: ١٤٩٢)

٨- بَابُ: مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْحَجِّ

أَوْ الْعُمْرَةِ أَوْ الْغَزْوِ

٨٤٣ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ غَزْوٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُكَبِّرُ عَلَى كُلِّ شَرْفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِسُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ).

(رواه البخارى: ١٤٩٤)

٩- بَابُ: اسْتِقْبَالُ الْحَاجِّ الْقَادِمِينَ

وَالثَّلَاثَةَ عَلَى الدَّابَّةِ

874: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ Makkah tashreef laaye to bani Abdul Muttalib ke chand ladke aapke istaqbaal ke liye gaye un mein se ek ko aap ne apne aage aur ek ko apne peechhe sawaari par bithha liya. (Bukhari:1798)

Fawaaid: Yeh unwaan hajj ke liye jaane waalon aur hajj se waapas aane waalon ka istaqbaal karna donon mawaaqe' par mushtamal hai. (Awnul Baari:2/676)

Baab 10: (Musaafir ka) zawaal ke bad ghar mein dakhil hona.

875: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ apne ghar waalon ke paas safar se bawaqt shab waapas na aate the ya to subah ke waqt aate ya bad az zawaal tashreef laate the. (Bukhari:1800)

Fawaaid: Raat ke waqt aachanak ghar aane se iss liye mana' farmaya ke mabaadan koyi naa gawaar cheez dekhe jo baahami nafrat-o-kudoorat ka baay'is ho. (Awnul Baari:2/678)

876: Hazrat Jaabir رضي الله عنه se rivayaat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne (Safar se) raat ko apne ghar aane se man'a farmaya hai. (Bukhari:1801)

Baab 11: Madinah ke Qareeb pahunch ne par sawaari ko tez kardena.

877: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ jab kisi safar se Madinah waapas aate aur Madinah ki raahon ko dekhte to (fart-e-shauq) se apni oountni ko tez kar dete aur agar koyi aur sawaari hoti to use bhi edi lagaate ek rivaayat mein itna ezaafah hai ke Madina3h Munawwarah se muhabbat ki wajah se aisa karte the. (Bukhari:1802)

Fawaaid: Yeh hadees Madinah Munawwarah ki fazeelat par dalaalat karti hai neez isse watan ki muhabbat aur isse ta'alluq khaatir ki mashrooy'at bhi saabit hoti hai. (Awnul Baari:2/678)

Baab 12: Safar bhi goya ek qism ka azaab hai

878: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke

٨٧٤ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ، اسْتَقْبَلْتَهُ أُعْيَلِمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَحَمَلَتْ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ. (رواه البخاری: ١٧٩٨)

١٠ - بَابُ: الدُّخُولِ بِالْعِشِيِّ
٨٧٥ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ، كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا غَدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً. (رواه البخاری: ١٨٠٠)

٨٧٦ : عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيْلًا. (رواه البخاری: ١٨٠١)

١١ - بَابُ: مَنْ أَسْرَعَ نَاقَتَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ

٨٧٧ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ، فَأَبْصَرَ دَرَجَاتِ الْمَدِينَةِ، أَوْضَعَ نَاقَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ دَابَّةً حَرَّكَهَا. وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ حُبِّهَا. (رواه البخاری: ١٨٠٢)

١٢ - بَابُ: السَّفَرِ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ
٨٧٨ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (السَّفَرُ

aap ne farmaya safar azaab ka ek hissa hai jo khaane peene aur sone ko mauqoof kar deta hai lehaazah jab safar ki zaroorat poori ho jaaye to apne ghar jaldi waapas aana chaahiye. (Bukhari:1804)

قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ
طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ، فَإِذَا قَضَى
نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ).

(رواه البخارى: 1804)

Fawaaid:Kitabul Hajj mein iss hadees ko shaayad iss liye bayaan kiya gaya hai ke hajj waghairah se faraaghat ke ba'd insaan ko apne ghar rawaana hone mein jaldi karna chaahiye, iss ke muta'alliq hazrat Aayeshah رضى الله عنها se ek hadees bhi marvi hai.

(Awnul Baari:2/679)



Hajj wa Umrah se roke jaana

کتاب المَحْصِرِ و جزاء الصيد

Baitullah ka tawaaf ya waqoof-e-Arafah ke darmiyaan rukaawat aa jaane ko ehsaar kaha jaata hai yeh rukaawat Hajj aur Umrah donon mein ho sakti hai.

Baab 1: Jab Umrah karne waale ko rok diya jaaye.

879: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ko (Hudaibiyah par) rok diya gaya to aap ne apna sar mundwaaya, apni biwiyon se sohbat ki aur qubraani ke jaanwaron ko zabah kiya phir aaindah saal (naya) Umrah kiya. (Bukhari: 1809)

۱ - بَابُ: إِذَا أُحْصِرَ الْمُعْتَمِرُ

۸۷۹ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَحَلَقَ رَأْسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، نَحَرَ هَدْيَهُ، حَتَّى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا.

(رواه البخاری: ۱۸۰۹)

Fawaaid: Iss hadees se Imam Bukhari un logon ki tardeed karna chaahate hain jin ka moqif hai ke rukaawat ki wajah se ehraam khol dena sirf hajj ke saath khaas hai Umrah mein ehraam nahin kholna chaahiye kyun ke hajj ka waqt muqarrar hai jab ke Umrah to kisi waqt bhi kiya jaa skta hai.

Baab 2: Hajj se roke jaana

880: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai woh kaha karte the kiya tumhen Rasoolullah ﷺ ki sunnat kaafi nahin hai tum mein se agar koi Hajj se rok diya jaaye to use chaahiye ke Baitullah ka tawaaf kare phir Safa Marwah ki say'i kare phir har cheez se halaal ho jaaye aaindah saal hajj kare aur qurbaani kare agar qurbaani muayassar na ho to roze rakkhe. (Bukhari: 1810)

۲ - بَابُ: الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّ

۸۸۰ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ إِنْ حِيسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

(رواه البخاری: ۱۸۱۰)

Fawaaid: Hajj mein rukaawat ka matlab yeh hai ke waqoof-e-Arafah na ho sakta ho. Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما ne Hajj ki rukaawat ko Umre ki rukaawat par qiyaas kiya hai ba zaahir yeh ma'loom hota hai ke Ibne Umar رضی اللہ عنہما ke nazdeek hajj ya umrah ka mashroot ehraam baandhna durust nahin haalaan ke digar hazrat ne usko jaayez rakkha hai. (Awnul Baari: 2/683.)

Baab 3: Jab roka jaaye to sar mundwaane se pahle qurbaani kare.

881: Hazrat Miswar bin Makhramah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne (Jis saal

۳ - بَابُ: النَّحْرِ قَبْلَ الْحَلْقِ فِي الْحَضَرِ

۸۸۱ : عَنِ الْمِسْوَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ قَبْلَ أَنْ

Umrah se rok diye gaye the) pahle qurbaani ki phir sar mundawaaya aur apne Sahaaba kiraam ﷺ ko bhi uska hukm diya tha.

(Bukhari:1811)

Fawaaid:Baz logon ka khayaal hai ke ehsaar ki soorat mein qurbaani ko Harm-e- Ka'ba bheja jaaye jab wahaan zabah ho jaaye to phir ehraam kholne ki ejaazat hai jab ke mazkoorah hadees se un ki tardeed hoti hai ke jahaan ehsaar ho wahin ehraam khol de aur qurbaani kare. (Awnul Baari:2/685)

Baab 4: Jis Aayat mein Allah Ta'ala ne sadqah ka hukm diya hai usse muraad chhe miskinon ko khana khilaana hai.

882: Hazrat Ka'b bin U'jrah ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Hudaibiyah mein Rasoolullah ﷺ mere qareeb khade huye to mere sar se juyen gir rahi thin aap ne farmaya juyen tumhen takleef deti hong? main ne arz kiya haan! aap ne farmaya ke apna sar mundwaa do hazrat Kab ﷺ farmate hain ke yeh aayat-e-kareema mere hi haq mein naazil huyi. "phir jo koyi tum mein se bimaar ho jaaye ya uske sar mein koyi takleef ho to uss par fidyah waajib hai roze rakh le ya sadqah de ya qurbaani kare" uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya teen din roze rakkho ya ek farq (teen saa') anaaj chhe miskeenon ko sadqah karo ya qurbaani muyassar ho use zabah karo. (Bukhari:1815)

Fawaaid:Qur'an mein mutlaq rozon aur mutlaq sadqah ka zikr tha hadees ne tafseer kardi ke roze teen din aur sadqah chhe miskeenon ko khana khilaana hai neez aayat mein kisi cheez ko bajaa laane ka ikhtiyaar uss shakhs ko hai jise qurbaani bhi muyassar ho basoorat deegar sirf rozon aur sadqah mein ikhtiyaar hoga. (Awnul Bari:2/687)

Baab 5: Fidyah mein har Miskeen ko nisf sa' diya jaaye.

883: Hazrat Ka'b bin U'jrah ﷺ se hi ek rivaayat mein hai unhon ne farmaya yeh aayat khaas mere haq mein naazil huyi magar hukm ke lehaaz se tum sab logon ke liye aam hai. (Bukhari:1816)

Fawaaid:Iss Hadees ke aakhir mein hai ke har Miskeen ko nisf sa' ke lehaaz se chhe Miskeenon ko khana khilaa, khana anaaj aur khujooron mein se kisi ka bhi ho sakta hai. (Aaunul Bari:2/688)

يَخْلِقُ، وَأَمْرٌ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ.

(رواه البخارى: ١٨١١)

٣- بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿أَوْ صَدَقَةٍ﴾ وَهِيَ إِطْعَامُ سِتَّةِ مَسَاكِينَ
٨٨٢ : عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ بِالْحُدَيْبِيَّةِ وَرَأْسِي يَتَهَا فُتْ
قَمَلًا، فَقَالَ: (يُؤْذِبُكَ هُوَ أَمْكَ؟).
قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَأَخْلِقْ رَأْسَكَ، أَوْ
قَالَ: اخْلِقْ). قَالَ: فِي نَزَلَتْ هَذِهِ
الآيَةُ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ
أَذَى مِنْ رَأْسِهِ﴾ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: (صُمُّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ
تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ أَنْسُكْ
بِمَا تَيَسَّرَ). (رواه البخارى: ١٨١٥)

٥- بَابُ: الإِطْعَامِ فِي الْفِدْيَةِ

نِصْفِ صَاعٍ

٨٨٣ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ
قَالَ: نَزَلَتْ فِي خَاصَّةٍ، وَهِيَ لَكُمْ
عَامَّةً. (رواه البخارى: ١٨١٦)

Shikaar aur uske misl deegar afa'al ki jaza

**Baab 1: Jab koyi Ghair mohrim shikaar
kare aur mohrim ko tohfa de to woh
use kha sakta hai.**

884: Hazrat Abu Qataadah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Hudaibiyah ke saal Rasoolullah ﷺ ke saath rawaana huye aur aap ke tamaam ashaab رضي الله عنهم ne ehraam baandh liya magar main ne ehraam na baandha phir humen khabar mili ke maqaam-e-Ghaiqah mein dushman maujood hai lehaazah hum uski taraf chal diye mere saathiyon ne ek jangli gadha dekha to woh ek doosre ko dekh kar hanse main ne nazar uthhayi to use dekha aur uske peechhe ghoda daudaaya aur use zakhmi karke gira liya phir main ne apne saathiyon se madad chaahi lekin unhon ne koyi madad na ki bil aakhir hum sab ne uska gosht khaaya humen andesha huwa ke mabaadan hum Rasoolullah ﷺ se juda rah jaayen lehaaza main kabhi apne ghode ko tez chalaata aur kabhi aahista aahista mujhe nisf shab ek shakhs mila jis se main ne poochha ke tu ne Rasoolullah ﷺ ko kahaan chhoda hai? usne kaha Rasoolullah ﷺ Ta'hin (chashmah) par chhoda tha aur aap ka maqmaam-e-Suqya mein qailoolah karne ka iraadah tha yeh poochh kar main phir chala aur aap se jald jaa mila main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! mujhe aap ke ashaab رضي الله عنهم ne bheja hai aur woh aap ko salam-e-rahmat arz karte hain unhen yeh andeshah hai ke kahin dushman unhen aap se juda na karde lehaaza aap un ka intezaar farmayen to aap ne aisa hi kiya phir main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! main ne ek jangli gadha shikaar kiya tha jis ka mere paas kuchh gosht hai to Rasoolullah ﷺ

کتاب جزاء الصيد ونحوه

۱ - بَابُ: إِذَا صَادَ الْحَلَالُ فَهُدَى

لِلْمُحْرِمِ الصَّيْدِ، أَكَلَهُ

۸۸۴ : عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: انْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ، فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أُحْرَمْ أَنَا فَأَنْبَأْنَا بِعَدْوِ بَغِيْقَةَ، فَتَوَجَّهْنَا نَحْوَهُمْ، فَبَصُرَ أَصْحَابِي بِحِمَارٍ وَحَشٍ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَضْحَكُ إِلَى بَعْضٍ، فَتَظَرْتُ فَرَأَيْتُهُ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ الْفَرَسَ فَطَعَنْتُهُ فَأَثْبَتَهُ، فَاسْتَعْتَهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ لَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَحَشِينَا أَنْ نَقْتَطِعَ، أَرْفَعُ فَرَسِي شَاوًا وَأَسِيرُ عَلَيْهِ شَاوًا، فَلَقَيْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: أَيَّنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؟ فَقَالَ: تَرَكْتُهُ بَتَعْمَنَ، وَهُوَ قَائِلُ السُّقْيَا، فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى آتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَؤُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشَوْا أَنْ يَفْتَطِعَهُمُ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْتَظَرُهُمْ، فَفَعَلَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَصَدْنَا حِمَارَ وَحَشٍ، وَإِنَّ عِنْدَنَا مِنْهُ فَاصِلَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (كُلُوا). وَهُمْ مُحْرِمُونَ. (رواه البخارى: ۱۸۲۱)

ne apne sahaaba kiram ﷺ se farmaya ke khaao halaan ke woh sab mohrim the.

(Bukhari:1821)

Fawaaid: Mohrim par khud shikaar karne ya uske liye ta'aawun karne par paa bandi hai agar Mohrim shikaar ka jaanwar amdan ya sahwani qatl kare to uss par fidyah pad jaata hai agar shikaar ke silsilah mein mohrim ne koyi ta'aawun na kiya ho to shikaar ka gosht tanaawul karne mein koyi harj nahin (Awnul Baari2/691) bashar teke shikaar usi ki khaatir na kiya gaya ho. (Alvi)

Baab 2: Mohrim shikaar maarne mein ghair mohrim ki madad na kare.

885: Hazrat Abu Qataadah ﷺ se hi ek rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum log Rasoolullah ﷺ ke saath maqaam-e-Qaaha mein Madine se teen meel ke faasla par the hum mein se koyi ehraam baandhe huye aur koyi baghair ehraam ke tha phir baaqi hadees bayaan farmayi: (Bukhari:1823)

۲- بَابُ: لَا يُعِينُ الْمُحْرِمُ الْحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ
۸۸۵: وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْقَاحَةِ، مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثٍ، وَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ، فَذَكَرَ الْحَدِيثُ.
(رواه البخاری: ۱۸۲۳)

Fawaaid: Iss Hadees mein hai ke Abu Qataadah ﷺ ka ghoda gir gaya to unhon ne iss silsile mein apne saathyon se ta'aawun talab kiya unhon ne jawaab diya ke chunke hum haalat-e-Ehraam se hain iss liye tera ta'aawun nahin kar sakte.

Baab 3: Mohrim shikaar ki taraf iss gharz se ishaarah na kare ke ghair Mohrim uska shikaar karle.

886: Hazrat Abu Qataadah ﷺ se hi ek doosri rivaayat mein hai ke jab tamaam ashaab ﷺ Rasoolullah ﷺ ke paas aaye to aap ne farmaya ke tum mein se kisi ne usko jangli gadhe par hamle ka hukm diya tha ya uski jaanib ishaarah kiya tha? unhon ne arz kiya nahin! phir aap ne farmaya uska baqiyah gosht khaao. (Bukhari:1824)

۳- بَابُ: لَا يُشِيرُ الْمُحْرِمُ إِلَى الصَّيْدِ لِكَيْ يَصْطَادَهُ الْحَلَالَ
۸۸۶: وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُمْ فَلَّمَا اتَّوَا رَسُولَ ﷺ قَالَ: (أَمِنَكُمْ أَحَدٌ أَمْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟) قَالُوا: لَا، قَالَ: (فَكُلُّوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا). (رواه البخاری: ۱۸۲۴)

Fawaaid: Hazrat Abu Qataadah ﷺ ki uss rivaayat mein hai ke sahaaba kiraam ﷺ jangli gadhe ko dekh kar hans pade, yeh hansna ishaarah ke liye na tha balke izhaar-e -ta'ajjub ke taur par tha. (Awnul Baari:2/690)

Baab 4: Jab koyi shakhs mohrim ko zindah jangli gadha hadya de to mohrim use qubool na kare.

887 : Hazrat Abdullah bin Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Hazrat Sa'b bin Jasaamah Laisi رضي الله عنه ne ek jangli gadha Rasoolullah ﷺ ko hadya pesh kiya uss waqt Aap maqaame

۴- بَابُ: إِذَا أَهْدَى لِلْمُحْرِمِ حِمَارًا وَحَشِيًّا لَمْ يَقْبَلْ
۸۸۷: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَهْدَى

Abwa ya maqaame waddaan mein the to Aap ne use waapas kar diya lekin jab Aap ne uske chehre par afsur dagi dekhi to farmaya ke humne yeh sirf iss liye waapas kiya hai ke hum mohrim hain. (Bukhari: 1825)

لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِمَارًا وَحَشِييًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بَوْدَانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ: (إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَا حُرْمٌ).

(رواه البخارى: ١٨٢٥)

Fawaaid:Yeh jangli gadha aur phir iska gosht iss liye waapas kiya tha ke use aap ke liye shikaar kiya gaya tha maloom huwa ke kisi maqool wajah se hadyah waapas kiya jaa sakta hai lekin uske liye zaroori hai ke uski wajah bayaan kardi jaaye taake hadyah dene waale ki hauslah shikni na ho. (Awnul Bari:2/698)

Baab 5: Mohrim Haram mein kin jaanwaron ko maar sakta hai.

888 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke paanch jaanwar aise mozi hain ke unhen haram mein bhi maar diya jaaye kawwa,cheel, bichchhu, chooha aur kaatne waala kutta.

(Bukhari: 1829)

٥- بَابُ: مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ فِي الْحَرَمِ ٨٨٨ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ، كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَاةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَارَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ). (رواه البخارى: ١٨٢٩)

Fawaaid:Har mozi jaanwar ka qatl bahaalat-e-ehraam jaayez hai isse yeh bhi maaloome huwa ke waajibul qatl mujrim agar Haram mein panaah guzin ho jaaye to use kaifar-e-kirdaar tak pahunchaane mein koyi harj nahin hai. (Awnul Bari:2/702)

889 : Hazrat Abdullah bin Ma'sood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke saath Mina ki ek ghaar mein the itne mein surah Mursalaat Aap par naazil huyi jiski Aap telaawat farmaane lage aur main bhi Aap se sun kar yaad karne laga aur Aap ka ruye mubaarak telaawat se abhi tar-o-taazah tha ke achaanak ek saanp hum logon par kooda to Rasoolullah ﷺ ne farmaya use maar daalo chunaanche humne usko maarne ki jaldi ki magar woh nikal gaya tab Rasoolullah ﷺ ne farmaya jis tarah tum uske zarar se bachaa liye gaye ho usi tarah woh bhi tumhaare zarar se bachaa liya gaya hai. (Bukhari: 1830)

٨٨٩ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَارِ بَمْنَى، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿وَالْمُرْسَلَاتُ﴾ وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا، وَإِنِّي لَأَتَلَقَاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا، إِذْ وَتَبْتُ عَلَيْنَا حَيَّةٌ، فَقَالَ فَدَهَبَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَقِيَتْ شَرُّكُمْ، كَمَا وَقِيْتُمْ شَرُّهَا).

(رواه البخارى: ١٨٣٠)

Fawaaid:Ek rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ne mohrim ko bamaqaam-e-Mina saanp maarne ka hukm diya tha jis se maloom huwa ke yeh waaqiah bahaalat-e- Ehraam pesh aaya. (Awnul Bari:2/703)

890 : Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا Rasoolullah ﷺ ki ahliya mohtarma se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne chipkali ki baabat farmaya yeh mozi jaanwar hai magar main ne nahin suna ke Aap ne usko maar daalne ka hukm diya ho. (Bukhari: 1831)

Fawaaid: Doosri rivaayaat se maloom hota hai ke Rasoolullah ﷺ ne chipkali ko maarne ka hukm diya hai balke uske maarne se naved-e-sawaab bhi sunaayi hai.

(Awnul Baari:2/704)

Baab 6: Makkah Mukarramah mein jang jaayez nahin.

891 : Hazrat ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne fatah-e-Makkah ke roz farmaya ab hijrat baaqi nahin rahi albatta jehaad qaayem aur niyyat baaqi rahegi aur jab tum se jehaad ke liye nikalne ko kaha jaaye to nikal khade ho.

(Bukhari: 1834)

Fawaaid: Iss hadees mein hai ke Allah Ta'ala ne Makkah Mukarramah ki hurmat ko zameen wa aasmaan ki paidaayish ke din se barqaraar rakkha hai aur qiyaamat tak qaayem rahegi.

Baab 7: Mohrim ke liye puchhne lagwaane ka bayaan.

892 : Hazrat ibne Buhainah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne maqaam-e-Lahy Jamal mein ba haalate ehraam apne sar ke darmiyaan puchhne lagwaaye. (Bukhari: 1836)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke mohrim ke liye khoon nikalwaana, Operation karaana, rag katwaana aur daant nikalwaana jaayez hai basharteke kisi hukm-e-imtenaa'yi ka murtaakib na ho.

Baab 8: Mohrim ka nikaah karna.

893 : Hazrat ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne ba haalate ehraam Hazrat Maimoonah رضی اللہ عنہا se nikaah farmaya. (Bukhari: 1837)

Fawaaid: Imam Bukhari ka moqif yeh maloom hota hai ke mohrim nikaah kar sakta hai Imam saahab ke iss moqif se ittefaaq nahin kiya jaa sakta hai kyun ke Rasoolullah ﷺ ne mohrim ko aisa karne se mana farmaya hai jaisa ke sahih Muslim mein hai hazrat Maimoonah رضی اللہ عنہا aur unke ghulaam abu Raafe' رضی اللہ عنہ ka bayaan bhi hazrat ibne Abbaas رضی اللہ عنہما ki iss rivaayat ke khilaaf hai iss bena par yeh rivaayat marjooh ya qaabil-e-taaweel hai.

(Awnul Bari:2/707)

۸۹۰ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
رَوَى النَّبِيُّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
قَالَ لِلزَّوْجِ: (فَوَيْسِقُ). وَلَمْ أَسْمَعَهُ
يَأْمُرُنَا بِقَتْلِهِ. (رواه البخارى: ۱۸۳۱)

۶ - بَابُ: لَا يَحِلُّ الْقِتَالُ بِمَكَّةَ

۸۹۱ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ افْتَسَحَ
مَكَّةَ: (لَا هَجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَثِيَّةٌ،
وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَاَنْفِرُوا).

(رواه البخارى: ۱۸۳۳)

۷ - بَابُ: الْحِجَامَةُ لِلْمُحْرِمِ

۸۹۲ : عَنِ ابْنِ بُهَيْنَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ،
بِلَحْيِ جَمَلٍ، فِي وَسْطِ رَأْسِهِ.

(رواه البخارى: ۱۸۳۶)

۸ - بَابُ: تَزْوِيجُ الْمُحْرِمِ

۸۹۳ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ
وَهُوَ مُحْرِمٌ. (رواه البخارى: ۱۸۳۷)

Baab 9: Mohrim ka nahaana.

894 : Hazrat Abu Ayyub Ansaari ؓ se rivaayat hai ke un se poochha gaya ke Rasoolullah ﷺ ba haalate ehraam sar kis tarah dhoya karte the? Abu Ayyub ؓ ne apna haath kapde par rakh kar use itna neechhe kiya ke mujhe Aap ka sar nazar aane laga phir ek shakhs se paani daalne ko kaha usne Aap ke sar par paani daala to unhon ne apne sar ko donon haathon se hilaaya haathon ko aage laaye aur peechhe le gaye aur kaha main ne Rasoolullah ﷺ ko aisa hi kiya karte dekha hai. (Bukhari: 1840)

Fawaaid: Mohrim ke liye ghusl-e-janaabat to bilittetfaaq jaayez hai albattah ghusl-e-nazaafat mein ikhtelaaf hai iss hadees ka aaghaaz yoon hai ke hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما aur hazrat Misawar bin Mkhramah ؓ ka mohrim ke liye sar dhone ke muta'alliq ikhtelaaf huwa to unhon ne hazrat Ayyub Ansari se uske muta'alliq daryaaft kiya. (Aunul Bari:2/708)

Baab 10: Makkah aur Haram mein baghair ehraam daakhil hona.

895 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ fatah-e-Makkah ke saal Makkah mein daakhil huye to Aap ke sar par ke khud tha Aap ne use utaara to ek shakhs Aap ke paas aakar kahne laga ibne Khatal kaafir Ka'ba ke pardon mein latka huwa hai Aap ne farmaya use wahin qatl kardo.

(Bukhari: 1846)

Fawaaid: Maloom huwa ke dushman ke mutawaqqa hamle ke pesh-e-nazar hifaazati iqdamaat karna tawakkal ke khilaaf nahin neez Haram-e-Makkah mein sharay'i hudood qaayem ki jaa sakti hai. (Awnul Baari:2/712)

Baab 11: Mayyat ki taraf se hajj aur nazr ka poora karna neez mard ka aurat ki taraf se hajj karna.

896 : Hazrat ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai qabeelah Johaina ki ek aurat Rasoolullah ﷺ ke paas haazir huyi aur arz kiya ke meri maan ne hajj karne ki mannat maani thi lekin woh hajj se pahle hi faut ho gayi kiya main uski taraf se hajj karoon? Aap

۹ - بَابُ: الْأَعْتَسَالِ لِلْمُحْرِمِ

۸۹۴ : عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثُّوبِ فَطَاطَأَهُ حَتَّى بَدَأَ لِي رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ: اصْبُبْ، فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ. (رواه البخارى: ۱۸۴۰)

۱۰ - بَابُ: دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بغيرِ إِحْرَامِ

۸۹۵ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ خَطْلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: (اقْتُلُوهُ). (رواه البخارى: ۱۸۴۶)

۱۱ - بَابُ: الْحَجِّ وَالنَّدْوَرِ عَنِ الْمَيِّتِ وَالرَّجُلِ يَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَةِ

۸۹۶ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ، جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ،

ne farmaya haan tu uski taraf se hajj kar, bhala bata agar teri maan par kuchh qarz hota to use ada karti? phir Allah ka qarz bhi ada karo uski adaayegi to bahut zaroori hai.

(Bukhari: 1852)

أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ ذَيْنَ أَكُنْتُ قَاضِيَةً عَنْهَا؟ أَقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ). (رواه البخارى: ١٨٥٢)

Fawaaid: Allah ka haq ada karne mein mard -wa-aurat sab aagaye ya'ni mard ka aurat ki taraf se aur aurat ka mard ki taraf se hajj karna bilittetfaaq jaayez hai. iss se maloom huwa ke mayyat ki taraf se hajj karna jaayez hai. (Awnul Baari:2/713)

Baab 12: Bachchon ka hajj karna.

897 : Hazrat Saayib bin Yazeed رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mujhe Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke saath hajj karaaya gaya tha jabke main uss waqt saat bars ka tha.

(Bukhari: 1858)

١٢ - بَابُ: حَجُّ الصِّبْيَانِ
٨٩٤ : عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حُجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ.
(رواه البخارى: ١٨٥٨)

Fawaaid: Sahih Muslim mein hai ke ek aurat ne apna bachcha uthha kar Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se daryaaft kiya ke iska hajj sahih hai? Aap صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya "haan tujhe uska sawaab milega" iss se maloom huwa ke bachche ka hajj mashru' hai lekin yeh hajj farz ko saaqit nahin karega balke buloogh ke ba'd farz hajj karna hoga. (Awnul Bari:2/715)

Baab 13: Auraton ka Hajj karna

898: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم hajj se waapas huye to Umm-e-Sinaan رضي الله عنها se farmaya tumhen hajj se kis baat ne roka tha? usne arz kiya ke fulaan shakhs ya'ni shauhar ke hamaare paas do ount paani bharne ke liye the ek par to woh hajj ko chale gaye aur doosra zameen sairaab karne ke liye tha aap ne farmaya: (achchha tum Umarh kar lo) ramzaan mein jo Umrah kare woh mere saath hajj ke baraabar hota hai.

(Bukhari:1863)

١٣ - بَابُ: حَجُّ النِّسَاءِ
٨٩٨ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ حَجَّتِهِ، قَالَ: لَأَمْ سِنَانُ الْأَنْصَارِيَّةِ: (مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ؟). قَالَتْ: أَبُو فُلَانٍ، تَعْنِي زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا. قَالَ: (فَإِنَّ عُمْرَةَ فِي رَمَضَانَ تَقْضَى حَجَّةً مَعِي). (رواه البخارى: ١٨٦٣)

Fawaaid: Iska matlab yeh nahin hai ke ramzaan mein umrah karne se hajj farz ki zaroorat nahin rahegi, iss hadees mein sirf sawaab ko bayaan kiya gaya hai aur logon ko ramzaanulmubaarak mein umrah karne ki targheeb di gayi hai. (Awnul Bari:2/716)

899: Hazrat Abu Sa'yeed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke saath 12 ghazwaat mein shareek huye farmaate hain ke main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se 4 baaten suni hain jo mujhe bahut achchhi aur bhali maloom hoti hain ek yeh ke koi aurat do

٨٩٩ : عَنِ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ثِنْتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَالَ: أَرْبَعٌ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَتَمَّجَنِّي وَأَنْقَنِي (أَنَّ لَوَا

din ka safar baghair mahram ya khaawind ke na kare, Eidul fitr aur Eidul azha ka rozah na rakkha jaaye aur namaaz-e-Asr ke ba'd ghuroob-e-aaftaab tak aur subah ki namaaz ke ba'd tuloo'-e-aaftaab tak koyi namaaz nahin padhna chaahiye aur teen masjidon mein masjid-e-haraam aur meri masjid aur masjid-e-aqsa ke elaawah kisi ki doosri masjid ki taraf rakht-e-safar na baandha jaaye.(Bukhari:1864)

تَسَافِرُ امْرَأَةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ لَيْسَ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا صَلَاةٌ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى).

(رواه البخارى: ١٨٦٤)

Fawaaid:Auraton ke hamraah safar-e-hajj mein mahram ka hona zaroori hai jo auratain kisi ajnabi ko mahram banaakar hajj par jaati hain woh do chand gunaah ka irtekaab karti hain ek to hadees ki mukhaalifat doosre jhoot ki la'nat aisa karna sawaab ke bajaaye gunaah kamaana hai.

Baab 14: Jo shakhs Ka'ba tak paidal jaane ki mannat maane.

١٢ - بَابُ: مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

900:Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne ek boodhe ko dekha jo apne do beton ke sahaare chal raha tha aap ne poochha ise kiya huwa hai? logon ne arz kiya ke iss ne paidal jaane ki nazr maani hai aap ne farmaya yeh apni jaan ko takleef de raha hai Allah isse be niyaaz hai phir aap ne use hukm diya ke sawaar ho kar jaaye.

٩٠٠ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى شَيْخًا يَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ، قَالَ: (مَا بَالُ هَذَا؟) قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْدِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ). وَأَمْرُهُ أَنْ يَرْكَبَ.

(Bukhari:1865)

(رواه البخارى: ١٨٦٥)

Fawaaid:Rasoolullah ﷺ ne use apni nazr poora karne ka hukm nahin diya kyun ke aise haalat mein sawaar ho kar hajj karna paidal hajj karne se ziyaadah fazeelat rakhta hai ya iss liye ke uss mein paidal chalne ki sakat na thi. (Awnul Bari:2/720)

901:Hazrat U'qbah bin Aamir ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke meri bahan ne baitullah tak paidal jaane ki nazar maani aur mujhe hukm diya ke Rasoolullah ﷺ se iski baabat sawaal karoon chunaancheh main ne Rasoolullah ﷺ se sawaal kiya to aap ne farmaya ke woh paidal bhi chale aur sawaar bhi ho jaaye.

٩٠١ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَذَرْتُ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، وَأَمَرْتَنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَفْتَيْتُ لَهَا، فَقَالَ ﷺ: (لَتَمْشِيَ وَلَتَرْكَبَ).

(Bukhari:1866)

(رواه البخارى: ١٨٦٦)

Fawaaid:Ek rivaayat mein hai ke woh kazori ki benaa par uss nazr ko poora karne se 'aajiz thi Rasoolullah ﷺ se uski kamzori ke muta'alliq shikaayat bhi ki gayi tab aap ne yeh hukm saadir farmaya. (Awnul Bari:2/721)

Fazaail-e-Madinah ke bayaan mein

كتاب فضائل المدينة

۱ - بَابُ حَرَمِ الْمَدِينَةِ

Baab 1: Madinah ke haram ka bayaan

902: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya Madinah fulaan maqaam se fulaan maqaam tak haram hai yahaan ka darakht na kaata jaaye aur na uss mein kisi bida't ka irtekaab kiya jaaye jis ne yahaan koyi bida't paida ki uss par Allah, Farishton aur sab logon ki la'nat hai. (Bukhari:1867)

۹۰۲ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يَقْطَعُ شَجْرَهَا، وَلَا يُحَدِّثُ فِيهَا، مَنْ أَحَدَّثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ حَدَثٌ، لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ). (رواه البخارى: ۱۸۶۷)

Fawaaid: Ek rivaayat mein hai ke yeh la'nat zadgi har shakhs ke liye hai jo bid'at ka irtekaab kare ya kisi bid'ati ko apne haan panaah de maloom huwa ke bid'at ek aisa sangeen jurm hai ke aadmi iss qism ke murtakib ko panaah dene par bhi mal'oon ho jaata hai.

903: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya Madinah ke donon pathrile maqaamon ka darmiyaani hissa meri zabaan par qaabil-e-ehteraam thhahraaya gaya hai raavi kahta hai ke Rasoolullah ﷺ qabeela bani Haarisah ke paas tashreef le gaye aur farmaya ke main samajhta hoon tum log haram se baahar ho gaye ho phir aapne idhar udhar dekh kar farmaya nahin tum haram ke andar hi ho. (Bukhari:1869)

۹۰۳ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (حُرْمٌ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ عَلَى لِسَانِي). قَالَ: وَآتَى النَّبِيُّ ﷺ بَنِي حَارِثَةَ، فَقَالَ: (أَرَأَيْكُمْ يَا بَنِي حَارِثَةَ قَدْ خَرَجْتُمْ مِنَ الْحَرَمِ). ثُمَّ التَفَّتْ فَقَالَ: (بَلْ أَنْتُمْ فِيهِ). (رواه البخارى: ۱۸۶۹)

Fawaaid: Jabal-e-E'ir se le kar Jabl-e-Saur tak ka elaaqah haram-e-madinah mein shaamil kiya gaya hai waazeh rahe ke jabal-e-saur uhad ke pichhli jaanib ek chhoti se pahaadi hai jise Madinah ke baashinde khoob pahchaante hain. (Awnul Baari:2/724)

904: Hazrat Ali رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hamaare paas kuchh nahin magar kitabullah ya phir yeh saheefa jo Rasoolullah ﷺ se manqool hai (uss mein hai) ke Madinah pahaad e'ir se fulaan jagah tak qaabil-e-ehteraam hai lehaazah jo shakhs uss mein koyi nayi baat (bida't ya dast daraazi) karega ya nayi baat karne waale ko jagah dega uss par Allah, Farishton aur sab logon ki la'nat hai uski na nafil ibaadat qubool hogi aur na koyi farz idaadat neez farmaya ke musalmaanon mein paas ahad ki

۹۰۴ : عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عُنَدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحَدَّثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحَدِّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ). وَقَالَ: ذِمَّةٌ

zimmedaari ek mushtarkah zimmedaari hai ab jo koyi musalmaan ahad tode uss par Allah, Farishton aur sab insaanon ki la'nat hai uska nafil qubool hoga na farz aur jo shakhs (Aazaad kardah ghulam) apne aqaanon ki ejaazat ke baghair kisi qaum se muaa'hidah mawalaat karega uss par bhi Allah, Farishton aur sab insaanon ki la'nat hai uski na koyi nafil ibaadat qubool hogi aur na farz ibaadat. (Bukhari:1870)

Fawaaid: Iss hadees se un rawaafiz shee'a ki bhi tardeed hoti hai jo da'wa karte hain ke Rasoolullah ﷺ ne raaz daari ke taur par Hazrat Ali ﷺ ko kuchh baaten irshaad farmaayin thin aur wassiyaten bhi ki thin. (Awnul Bari:2/730)

Baab 2: Madinah ki fazeelat aur uska bure aadmiyon ko nikaalna.

905 : Hazrat Abu Hurairah ﷺ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke mujhe ek aisi basti men jaane ka hukm huwa jo doosri bastiyon ko apne andar jazb kar legi log use yasrib kahte hain haalaanke uska sahih naam Madinah hai woh bure aadmiyon ko uss tarah nikaal degi jaise bhatti lohe ki maill kuchail nikaal deti hai. (Bukhari:1871)

Fawaaid: Iss hadees mein Madinah Munawwarah ki fazeelat bayaan ki gayi hai ke yeh deegar shahron ka paaya takht aur darul hukoomat ban jaayega chunaancheh aap ki yeh peshain goyi harf ba harf poori huyi. Madinah ek muddat tak Iraan, Tooran, Misr, aur Shaam ka darul khilaafah raha.

Baab 3: Madinah ka ek naam Taabah hai

906 : Hazrat Abu Humaid ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke saath tabook se laut kar Madinah ke qareeb pahunche to Aap ne farmaya ke yeh Taaba ya'ni paak maqaam hai. (Bukhari: 1872)

Fawaaid: Madinah Munawwarh ke kayi ek naam hain jo uske sharf -o- Manzilat par dalaalat karte hain. Taabah, Tayyabah, aur Taayib, inka ishteqaaq ek hi hain kyun ke ise shirk wa bid'at se paak qaraar diya gaya aur uski feza aur aab-o-hawa ko khush gawaar bana diya gaya. (Awnul Bari:2/734)

الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بَعِيرٍ إِذْ نِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ). (رواه البخارى: ١٨٤٠)

٢ - بَابُ: فَضْلُ الْمَدِينَةِ وَأَنَّهَا تَنْفِي النَّاسِ

٩٠٥ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَمْرٌ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقَرْيَ، يَقُولُونَ يَثْرِبُ، وَهِيَ الْمَدِينَةُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكَبِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ).

(رواه البخارى: ١٨٤١)

٣ - بَابُ: الْمَدِينَةُ طَابَةٌ

٩٠٦ : عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ (السَّاعِدِيِّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ تَبُوكَ. حَتَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (هَذِهِ طَابَةٌ).

(رواه البخارى: ١٨٤٢)

Baab 4: Jo shakhs Madinah se nafrat kare.

907 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko yeh farmate huye suna hai ke ek zamaanah mein log Madinah ko bahut achchhi haalat mein chhod denge aur wahaan siwaaye awaafi ya'ni parindon aur khoraak ke taalib darindon ke aur koyi na rahega aur aakhir main qabeela Mozaina ke do charwahe Madinah aayenge iss liye ke apni bakriyon ko haank kar le jaayen woh Madinah ko wahshi jaanwaron se bhara huwa paayenge jab woh sanoiyatul wada' pahunchenge to munh ke bal gir jaayenge.

(Bukhari: 1874)

Fawaaid: B'az rivayaat se pata chalta hai ke qurb-e-qiyaamat ke waqt Madinah Munawwarah viraan ho jaayega yahaan darinde aur bhediyeon ka qabzah hoga ek doosri hadees mein hai ke qiyaamat ke nazdeek Madinah aakhri basti hogi jo tabaahi wa barbaadi se do chaar hogi. (Awnul Bari:2/738)

908 : Hazrat Sufyaan bin Abi Zuhair رضي الله عنه se rivaayat hai ke main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko yeh farmaate huye suna jab Yaman fatah hoga to kuchh log apne ounton ko haankte huye aayenge aur apne ahle khaana ko aur jo unka kahaa maanenge unhein sawaar karke Madinah se le jaayenge haalaanke woh jaan len to Madinah unke liye behtareen jagah hai aur jab Shaam fatah hoga tab bhi ek jamaa'at apne ount haankti aayegi aur apne ahl-o- a'yaal ko aur un logon ko jo unka kahna maanenge (Madinah se) laad kar le jaayengi kaash woh log jaante ke Madinah unke liye behtar hai isi tarah Iraaq fatah hoga to bhi kuchh log apne jaanwar haankte aayenge aur Madinah se apne ahl-o- ayaal aur muta'alliqeen ko nikaal kar le jaayenge kaash woh jaante ke Madinah unke liye behtar tha. (Bukhari: 1875)

Fawaaid: Madinah Munawwarah se nikal kar kisi doosre shahar mein aabaad hone waala woh shakhs qaabil-e-muzammam hai jo nafrat wa karaahat karte huye yahaan se chala jaaye albattah apni kisi zaroorat ke pesh-e-nazar yahaan se jaane waala iss wa'yeed se khaarj hai. (Awnul Bari:2/740)

۴- بَابُ: مَنْ رَغِبَ عَنِ الْمَدِينَةِ
 ۹۰۷ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ:
 (يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ،
 لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ - يُرِيدُ عَوَافِي
 السَّبَاعِ وَالطَّيْرِ - وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ
 رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ،
 يَنْعِقَانِ بَعْنَمَهُمَا فَيَجِدَانَهَا وَحُوشًا،
 حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ خَرَا عَلَى
 وَجُوهِهِمَا).

(رواه البخارى: ۱۸۷۴)

۹۰۸ : عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (تُفْتَحُ الْيَمَنُ،
 فَيَأْتِي قَوْمٌ يَيْسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ
 بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ
 لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ الشَّامُ،
 فَيَأْتِي قَوْمٌ يَيْسُونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ
 بِأَهْلِيهِمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ
 لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ).

(رواه البخارى: ۱۸۷۵)

Baab 5: Eemaan Madinah ki taraf simat aayega.

909 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya (qiyaamat ke qareeb) eemaan Madinah ki jaanib uss tarah simat kar aa jaayega jis tarah saanp apne bil ki taraf simat jaata hai.

(Bukhari: 1876)

Fawaaid: Eemaan ka sar chashmah Madinah Munawwarah se phoota bil aakhir Madinah mein hi eemaan ko panaah milegi log apne eemaan ko bachaane ke liye kashaan kashaan Madinah ki taraf hijrat karke aayenge Allah Ta'ala hamein Madinah Munawwarah mien shahaadat ki maut ata farmaaye.

Baab 6: Jo ahle Madinah se fareb kare uska gunaaah.

910 : Hazrat Sa'd ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rassolullah ﷺ ko yeh farmaate huye suna jo shakhs ahle Madinah se fareb karega woh iss tarah ghul jaayega jaise namak paani mein ghul jaata hai.

(Bukhari: 1877)

Fawaaid: Muslim ki ek hadees mein hai ke ahle Madinah ke saath fareb karne waale ko Allah Ta'ala aag mein iss tarah pighlaa dega jis tarah namak paani mein pighal jaata hai iss se maloom hota hai ke iss saza ka ta'alluq aakhrat se hai. (Awnul Bari:2/743)

Baab 7: Mahallaat-e-Madinah ka bayaan.

911 : Hazrat Usaamah bin Zaid رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ Madinah ke mahallaat mein se kisi mahal par chadhe to farmaya kiya tum woh dekhte ho jo main dekh rahaa hoon? be shak main tumhaare gharon mein fitnon ke maqamaat iss tarah dekh rahaa hoon jaise baarish ka qatra girne ki jagah nazar aati hai ya'ni woh fitne kasrat mein baarish ki tarah hongee.

(Bukhari: 1878)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ka yeh farmaan hoo bahoo poora huwa jab se fitnon ki aad mein hazrat Umar ؓ shaheed kiye gaye uss waqt se gambhir fitnon ka aaghaaz huwa chunaanah hazrat Usmaan ؓ ki mazloomannah shahaadat unhi fitnon ka nateejaah saabit huyi.

Baab 8: Dajjaal Madinah ke andar daakhil nahin ho sakega.

912 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai

٥- بَابُ: الْإِيمَانُ يَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ
٩٠٩ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ، كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا).

(رواه البخارى: ١٨٧٦)

٦- بَابُ: إِثْمٌ مَنْ كَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ
٩١٠ : عَنْ سَعْدِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلَّا أَنْسَاعَ، كَمَا يَنْسَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ).

(رواه البخارى: ١٨٧٧)

٧- بَابُ: آطَامُ الْمَدِينَةِ
٩١١ : عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُطْمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ: (هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟، إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بَيْوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ).

(رواه البخارى: ١٨٧٨)

٨- بَابُ: لَا يَدْخُلُ الدَّجَالُ الْمَدِينَةَ
٩١٢ : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya ke Madinah mein dajjaal ka ro'ab wa khauf daakhil nahin hoga uss waqt Madinah ke saat darwaaze honge aur har darwaaze par do farishte pahra denge.

(Bukhari: 1879)

Fawaaid:Rasoolullah ﷺ ke ahad-e-mubaarak mein Madinah ke ird gird faseel na thi aur na hi uss mein darwaaze nasab the ab Madinah aur ahle Madinah ki hifaaizat ke liye yeh kaam shuru ho chuka hai.

913 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai, unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya "Madinah ke darwaazon par farishte pahra denge wahaan na to marz-e-ta'oon daakhil hogi aur na hi dajjaal aayega".(Bukhari: 1880)

Fawaaid:Allah Ta'ala ne ahle Madinah ko ta'oon ki waba aur fitnah dajjal se mahfooz rakkha hai yeh Rasoolullah ﷺ ki du'aon ka nateeja hai ke Allah Ta'ala ne Madinah ko aam wabaayi afaton se mahfooz rakkha hai. (Awnul Baari:2/746)

914 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya har shahar mein dajjaal ka guzar hoga magar Makkah aur Madinah mein kyun ke unke har raaste par farishte saff basta pahra denge phir madinah apne makeenon ko teen baar khoob zor se hila dega aur Allah har munaafiq wa kaafir ko uss mein se nikaal dega. (Bukhari: 1881)

Fawaaid:Yeh hadees un ahaadees ke khilaaf nahin jin mein hai ke Madinah mein dajjaal ka ro'ab daakhil nahin hoga kyun ke yeh zalzale to munaafiqeen ko nikaalne ke liye honge taake Madinah Munawwarah ko unki najaasat se paak kiya jaaye(Awnul Bari:2/749)

915 : Hazrat Abu Sa'yeed Khudri ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne hamen dajjaal ke muta'alliq ek lambi hadees bayaan farmaayi uss hadees mein yeh bhi tha ke dajjaal aayega aur Madinah se baahar ek shureli zameen mein thhahrega kyun ke uss par Madinah ke andar aana to haraam kar diya gaya hai phir ahle Madinah se woh shakhs uske paas jaayega jo uss

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانَ). (رواه البخارى: ١٨٧٩)

٩١٣ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ، لَا يَدْخُلُهَا الطَّاغُوتُ وَلَا الدَّجَالُ). (رواه البخارى: ١٨٨٠)

٩١٤ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطُوهُ الدَّجَالُ، إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ، لَيْسَ لَهُ مِنْ نِقَابِهَا نَقَبٌ إِلَّا عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ صَافِينَ يَحْرُسُونَهَا، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةَ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ). (رواه البخارى: ١٨٨١)

٩١٥ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثًا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ، فَكَانَ فِيهَا حَدِيثًا بِهِ أَنْ قَالَ: (يَأْتِي الدَّجَالُ، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةَ، فَيَسْزُلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي بِالْمَدِينَةَ،

waqt ke tamaam logon se behtar hoga woh kahega main gawaahi deta hoon ke tuhi woh dajjaal hai jiske muta'alliq Rasoolullah ﷺ ne hamen hadees bayaan farmaayi thi dajjaal kahega bataao agar main uss shakhs ko qatal kar ke use dobaraah zindah kardun to kiya tum phir bhi meri uloohiyat mein shak karoge? log kahenge nahin chunaancheh dajjaal uss shakhs ko qatl kar dega aur phir zindah kardega jab dajjaal use dobaraah zindah karega to woh shakhs kahega Allah ki qasam! ab to main aur ziyaadah tere haal se waaqif ho gaya hoon dajjaal kahega ke main phir use qatal karta hoon magar phir woh uss par qaaboo na paa sakega. (Bukhari:1882)

فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ، الَّذِي حَدَّثَنَا عَنْكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيثُهُ. فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا نُمَّ أَحْيَيْتُهُ هَلْ تَشْكُونُ فِي الْأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لَا، فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ، فَيَقُولُ حِينَ يُحْيِيهِ: وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَشَدَّ مِنِّي بَصِيرَةً الْيَوْمَ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَقْتُلُهُ. فَلَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِ).

(رواه البخارى: ١٨٨٢)

Fawaaid: Dajjaal mein itni taqat nahin ke woh kisi ko maar kar dobaraah zindah kar sake kyun ke Ahayya-eMauta to Allah ki sifat hai lekin Allah Ta'ala ahle eemaan ko aazmaane ke liye dajjaal ke haathon yeh karishma zaahir karega taake ahle eemaan aur munaafiqeen ke darmiyaan khatt-e-imiyaaz saabit ho.

Baab 9: Madinah bure aadmi ko nikaal deta hai.

916 : Hazrat Jaabir ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek e'raabi Rasoolullah ﷺ ke paas aaya aur Aap se Islam par bai'at ki aur woh doosre roz bukhaar mein mubtala ho gaya aur Aap ke paas aakar kahne laga Aap apni bai'at waapas le len Rasoolullah ﷺ ne teen daf'a inkaar karte huye farmaya ke Madinah bhatti ki tarah hai ke woh buri cheezon ko nikaal deti hai aur umdah cheez ko khaalis kar deti hai. (Bukhari: 1883)

٩ - بَابُ: الْمَدِينَةُ تَنْفِي الْخَبَثِ
٩١٦ : عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَبَايَعَهُ
عَلَى الْإِسْلَامِ، فَجَاءَ مِنَ الْعَدُوِّ
مَحْمُومًا، فَقَالَ: أَقْلَبِي، فَأَبَى ثَلَاثَ
مِرَارٍ، فَقَالَ: (الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي
خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طَبِيبَهَا).

(رواه البخارى: ١٨٨٣)

Fawaaid: Madinah Munawwarah ka yeh wasf aam nahin balke Rasoolullah ﷺ ke zamaana ke saath khaas tha ke aap ke ahd-e-mubaarak mein madinah se nafrat karte huye wahi nikalta tha jis ke dil mein eemaan ka shaayibah tak na hota tha ahd-e-resaalat ke ba'd be shumaar sahaaba kiram ne da'wat -o-tableegh ki khaatir Madinah ko khaira baad kah diya tha. (Awnul Bari:2/752)

Baab 10:

917 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya aye Allah jitni barkat tune Makkah mein rakkhi hai usse dugni barkat

١٠ - بَابُ

٩١٧ : عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (اللَّهُمَّ اجْعَلْ

Madinah mein karde. (Bukhari: 1885)

بِالْمَدِينَةِ ضِعْفِي مَا جَعَلَتْ بِمَكَّةَ مِنَ
الْبَرَكَاتِ. (رواه البخارى: ١٨٨٥)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ki iss du'a ka nateejah yeh hai ke wahaan khaane peene ki ek cheez se aisi sairabi hasil hoti hai ke doosri shahron mein iss tarah ki do teen cheezen tanaawul karne se bhi nahin hoti chunaankeh agli hadees mein iski wazaahat maujood hai. (Awnul Bari:2/754)

Baab 11:

باب ١١

918: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah ﷺ Madinah Munawwarah tashreef laaye to Hazrat Abu Bakr ﷺ aur Hazrat Bilaal ﷺ ko bukhaar aa gaya ab Hazrat Abu Bakr ﷺ ko jab bukhaar aata to yeh sh'er padhte.

٩١٨ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
الْمَدِينَةَ وَعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، فَكَانَ
أَبُو بَكْرٍ إِذَا أَخَذَتْهُ الْحُمَّى يَقُولُ:

ghar mein apne subah karta hai har ek farde bashar

كُلُّ امْرَأٍ مِمْصِحٍّ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ
أَذْنَى مِنْ شِرَاكٍ نَعْلُهُ وَكَانَ بِلَالٌ إِذَا
أُقْلِعَ عَنْهُ الْحُمَّى يَرْفَعُ عَقِيرَتَهُ يَقُولُ:

maut uski jooti ke tasme se hai nazdeek tar aur Hazrat Bilaal ﷺ ka jab bukhaar utarta to ba aawaaz buland yeh sh'er kahte

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَ لَيْلَةً
بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْ خِرٌّ وَجَلِيلٌ؟

kaash phir Makkah ki waadi mein rahoon main ek raat

وَهَلْ أَرَدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجْنَنَةٍ؟
وَهَلْ يَبْدُونَ لِي شَامَةً وَطَفِيلٌ

sab taraf aage hon wahaan jaleel wa azkhar nabaat

قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنُ شَبِيَةَ بِنَ رَبِيعَةَ،
وَعْتَبَةَ بِنَ رَبِيعَةَ، وَأُمِّيَةَ بِنَ خَلْفٍ، كَمَا

kaash phir dekhon main shaamah kaash phir dekhun tafeel aur piyun paani majinna ke jo hain aabe hayaat

أَخْرَجُونَا مِنْ أَرْضِنَا إِلَى أَرْضِ الْوُبَاءِ.
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (اللَّهُمَّ

"Aye Allah Shaiba bin Rabi'a' U'tbah bin Rabia' Umayyah bin Khalf par teri la'nat ho jinhon ne hamaare mulk se hamen nikaal kar ek wabaayi zameen ki taraf dhakel diya"

حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَحُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ
أَشَدَّ، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَفِي

Yeh sun kar Rasoolullah ﷺ ne farmaya: "Aye Allah Madinah ki mohabbat iss tarah hamaare dilon mein daal de jis tarah hum Makkah se mohabbat karte hain balke uss se bhi ziyaadah Aye Allah! hamaare saa' aur mud mein barkat farma aur Madinah ki aab-o-hawa hamaare liye achchi kar de aur iska bukhaar johfa ki taraf bhej de Hazrat

مُدَّنَا، وَصَحِّحْهَا لَنَا، وَانْقُلْ حُمَاهَا
إِلَى الْجُحْفَةِ). قَالَتْ: وَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ

وَهِيَ أَوْبَاءُ أَرْضِ اللَّهِ، قَالَتْ: فَكَانَ
بُطْحَانٌ يَجْرِي نَجْلًا، تَعْنِي مَاءَ آجِنًا.

(رواه البخارى: ١٨٨٩)

Aayeshah رضی اللہ عنہا farmati hain ke jab Madinah aaye to woh Allah ki zameenon mein sab se ziyaadah wabaayi zameen thi aur uss waqt waadi but,haan mein badboo daar aur badmazah paani bahta tha.

(Bukhari: 1889)

Fawaaid: Jaleel aur azkhar do qism ki ghaas ka naam hai neez shaamah aur tafeel do pahaad hain, jab Rasoolullah ﷺ Makkah se hijrat karke Madinah aaye to uss waqt Madinah ek sakht wabaayi aab-wo-hawa ki lapet mein tha chunaancheh Madinah mein aane waale sakht bukhaar mein muftala ho jaate Rasoolullah ki du'a se yeh waba johfah muntaqil ho gayi jo uss waqt musrikeen ki basti thi aur Madinah ki feza aur aab-o-hawa badi khusgawaar ho gayi. (Awnul Bari:2/756)

Du'a

Imam Bukhari ne kitabul Hajj ko sayyadna Umar Farooq رضی اللہ عنہ ki ek mahboob du'a se khatm kiya hai: Aye Allah mujhe apne raastah mein shahaadat naseeb farma aur meri maut tere mahboob Rasoolullah ﷺ ke shahar mein waaqe ho "Allah Ta'ala ne iss du'a ko harf ba harf sharf-e-qubooliyat se nawaaza chunaancheh Madinah Munawwarah 26 Zul hijjah 23 hijri baroz budh subah ki namaaz padhaate huye shaheed huye aur Rasoolullah ﷺ ke saath Hujrah mubaarak mein unhi dafan kiya gaya. (رضی اللہ عنہ) Bandah a'ajiz mutarjim bhi basad ajz-o-niyaaz du'a karta hai ke aye Allah! hamen bhi shahaadat ki maut apne mahboob ke shahar Madinah mein naseeb farma.



Roze ke bayaan mein

Baab 1: Roze ki fazeelat

919: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya rozah (jahannam se) ek dhaal hai lehaazah rozedaar ko chaahiye ke woh na to fahash kalaami kare aur na hi jaahilon jaisa kaam kare agar koyi shakhs usse lade ya use gaali de to usko do martabah kah de ke main roze se hoon uss zaat ki qasam jiske haath mein meri jaan hai ke roze daar ke munh ki bu Allah ke nazdeek kastoori ki khushbu se ziyaadah behtar hai Allah ka irshaad hai ke roze daar apna khana peena aur apni khaahish mere liye chhodta hai lehaazah rozah mere hi liye hai aur main hi uska badlah dunga aur har neki ka sawaab das guna hai. (Bukhari: 1894)

Fawaaid: Rozah daar ke munh ki bu kastoori ki khushbu se ziyaadah behtar hai aur shaheed ke khoon ki bu ko mushk qaraar diya gaya hai haalaanke shaheed Allah ki raah mein jaan ka nazraanah pesh karta hai iski wajh yeh hai ke rozah Islam ka rukn aur farz-e-a'in hai jab ke jehaad farz-e-kifaaya hai yeh tafaawut isi wajh se hai. (Awnul Bari: 2/761)

Baab 2: Rayyaan roze daaron ke liye hai.

920: Hazrat Sahal رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya ke jannat ka ek darwaazah hai jise Rayyaan kahte hain qiyaamat ke din rozah daar usse daakhil honge unke elaawah doosra koyi uss mein se daakhil na hoga aawaaz di jaayegi rozah daar kahaan hain? to woh uthh khade honge unke sewa aur koyi uss mein se daakhil nahin hoga jab woh daakhil ho jaayenge to use band kar diya jaayega koyi aur uss mein se daakhil na hoga. (Bukhari: 1896)

Fawaaid: Rayyaan ka ma'na sairaabi hai chunke rozah daar dnya mein Allah ke liye bhook aur piyaas bardaasht karte the iss liye unhein e'zaaz wo ehteraam ke saath uss sairaabi ke darwaze se guzaara jaayega aur wahaan se guzarte waqt unhein aisa mashroob pilaaya jaayega ke phir kabhi piyaas mahsoos nahin hogi. (Aunul Bari: 2/766)

کتاب الصوم

۱-بَابُ: فَضْلِ الصَّوْمِ

۹۱۹: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الصَّيَّامُ جَنَّةٌ، فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ، وَإِنْ أَمَرُوهُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمُسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّيَّامِ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بَعْشَرٍ أَمْثَالِهَا). (رواه البخارى: ۱۸۹۴)

۲-بَابُ: الرِّيَّانِ لِلصَّائِمِينَ

۹۲۰: عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرِّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ أَيْنَ الصَّائِمُونَ، فَيَقُومُونَ لَا يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ، فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ). (رواه البخارى: ۱۸۹۶)

921 : Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya jo shakhs Allah ki raah mein baar baar kharch karega to use jannat ke darwaazon se bulaaya jaayega aur farishte kahenge aye Allah ke bande! yeh darwaazah behtar hai phir namaaziyon ko namaaz ke darwaazah se bulaaya jaayega aur mujaahideen ko jehaad ke darwaaze se aawaazdi jaayegi aur roze daaron ko baab-e-Rayyaan se pukaara jaayega aur sadqah dene waalon ko sadqah ke darwaaze se andar aane ki da'wat di jaaye gi Hazrat Abu Bakr رضی اللہ عنہ ne arz kiya ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم! mere maan baap Aap par qurbaan hon jo shakhs un sab darwaazon se pukaara jaayega? use to koyi zaroorat na hogi to kiya koyi shakhs un sab darwaazon se pukaara jaayega to Aap ne farmaya haan mujhe ummeed hai ke tum un logon mein se hoge. (Bukhari: 1897)

Fawaaid: Iss Hadees se qata'yi taur par Hazrat Abu Bakr رضی اللہ عنہ ka jannati hona saabit hota hai balke Anbiyaa ke ba'd Ahl-e-Jannat mein se a'ala aur afzal honge ke farishte unhein jannat ke har darwaaze se andar aane ki da'wat denge.

922: Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya jab Ramzaan aata hai to jannat ke darwaaze khul jaate hain. (Bukhari 1898)

923: Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se hi ek rivaayat mein hai unhon ne kaha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya jab maah-e-Ramzaan aata hai to aasmaan ke darwaaze khul jaate hain aur dozakh ke darwaaze band kardiye jaate hain aur shayaateen ko jakad diya jaata hai.

(Bukhari:1899)

Fawaaid: Ab sawaal paida hota hai ke ramzaan mein jab shayaateen ko paaband salasil kardiya jaata hai to rooye zameen par Allah ki naafarmaani kyun hoti hain? to iska jawaab yeh hai ke aulaad-e-aadam ko gumraah karne wali kayi quwwaten mutaharrik hain sirf ek quwwat ko be bas kardiya jaata hai.

۹۲۱: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: (مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرِّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ). فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يَا أَبَايَ أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَلَيَّ مِنْ دُعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: (نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ).

(رواه البخارى: ۱۸۹۷)

۹۲۲: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: (إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ).

(رواه البخارى: ۱۸۹۸)

۹۲۳: وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم: (إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَتَحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَغُلِقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ).

(رواه البخارى: ۱۸۹۹)

Baab 3: Ramzaan kaha jaaye ya maahe ramzaan aur ba'z hazraat ne donon tarah jaayez khayaal kiya hai.

924: Hazrat Ibne Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate suna ke jab tum ramzaan ka chaand dekho to rozah rakkho aur jab tum shawwaal ka chaand dekho to rozah mauqoof kar do agar matl'a abr aalood ho to uske liye ya'ni ramzaan ka andaazah kar lo (30 din poore kar lo) (Bukhari:1900)

Fawaaid: Ek Hadees mein hai ke ramzaan chunke Allah ka naam hai iss liye akela lafz ramzaan istemaal na kiya jaaye. Imam Bukhari iski tardeed farmaate hain aur mazkoorah hadees ke zay'eef hone ki taraf ishaarah karte hain.

Baab 4: Jis shakhs ne bahaalat-e-Rozah jhoot bolna aur fareb karna tark na kiya.

925: Hazrat Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs jhoot aur fareb kaari na chhode to Allah Taa'la ko iski zaroorat nahin ke sirf rozah ke naam se woh apna khaana peena chhod de. (Bukhari:1903)

Fawaaid: Rozah ka maqsad yeh hai ke insaan parhez gaar aur taqwa she'aar ban jaaye agar yeh maqsad haasil nahin hota to rozah nahin balke faaqah kashi hai. (Awnul Baari: 2/773)

Baab 5: Jab kisi Rozah daar ko gaali di jaaye to kiya jaayez hai ke kah de "Main rozah daar hoon"

926: Hazrat Abu Hurairah رَضِيَ اللهُ عَنْهُ se hi marvi hadees (919) pahle guzar chuki hai ke (Allah Ta'ala farmate hain) Ibne Aadam ke tamaam a'amaal uske liye hain magar rozah khaas mere liye hai aur main khud hi uska badlah dunga iss hadees ke aakhir mein aap ne farmaya ke rozah daar ke liye do musarratein hain jin se woh khush hota hai ek to rozah kholte waqt khush hota hai doosre jab woh apne maalik se milega to rozah ka sawaab dekh kar khush hoga.

(Bukhari:1904)

۳-بَابُ: هَلْ يُقَالُ رَمَضانٌ أَوْ شَهْرُ رَمَضانٍ وَمَنْ رَأَى ذَلِكَ كُتِلَهُ

۹۲۴: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ). يَعْنِي: هِلَالَ رَمَضانٍ.

(رواه البخاری: ۱۹۰۰)

۴-بَابُ: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فِي رَمَضانٍ

۹۲۵: عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ).

(رواه البخاری: ۱۹۰۳)

۵-بَابُ: هَلْ يَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ إِذَا شُتِمَ

۹۲۶: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحَدِيثُ الْمَتَقَدِّمُ: (كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّيَامَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ). وَقَالَ فِي آخِرِهِ: (لِلصَّائِمِ فَرْحَانٌ يَفْرَحُهُمَا: إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ، وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ).

(رواه البخاری: ۱۹۰۴)

Fawaaid: Iss hadees mein hai ke agar koyi shakhs rozah daar ko gaali de ya usse lade to woh use kah de ke main rozah se hoon.

Baab 6: Jo shakhs tajarrud ki wajah se badkaari ka andeshah rakkhe to woh roze rakkhe.

927 : Hazrat Abdullah bin Ma'sood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke saath the Aap ne farmaya jo shakhs nikah ki qudrat rakhta ho woh nikaah kare kyun ke yeh aadmi ki nigaah ko neecha rakhta hai aur sharamgaah ko badkaari se bachaata hai aur jo shakhs uski qudrat na rakhta ho woh rozah rakkhe kyun ke yeh uske liye khasi karne ka hukm rakhta hai ya'ni quwwate shahwaaniya kamzor kar deta hai. (Bukhari: 1905)

Fawaaid: Chand roze rakhne ke ba'd shahwat ke kamzor hone ka a'mal shuru hota hai kyun ke aaghaaz kaar mein haraarath ghurezi ke josh se shahwat ziyaadah maloom hoti hai. (Awnul Baari:2/775)

Baab 7: Farmaan-e-Nabawi ke ramzaan ka chaand dekho to rozah rakkho aur shawwaal ka chaand dekho to rozah mauqoof kar do.

928 : Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaaya mahina 29 din ka bhi hota hai lehaaza tum chaand dekh lo to rozah rakkho aur agar matla' abr aalood ho to 30 ki ginti poori karlo. (Bukhari: 1907)

Fawaaid: Tamaam logon ka chaand dekhna zaroori nahin balke do qaabil-e-e'tebaar aadmiyon ka dekhna hi kaafi hai balke ramzaan ke liye to ek mo'tabar aadmi ki gawaahi bhi kaafi hai. (Awnul Baari:2/776)

929 : Hazrat Umme Salmah رضي الله عنها se rivaayat hai ke ek daf'a Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne ek maah ke liye apne biwiyon se tark-e-ta'alluq ki qasam uthhaayi jab 29 din guzar gaye to subah sawere ya dophar ko Aap unke paas tashreef le gaye arz kiya gaya ke Aap ne to qasam uthhaayi thi ke ek maah tak na

٦-بَابُ: الصَّوْمِ لِمَنْ خَافَ عَلَى

نَفْسِهِ الْعُزُوبَةَ

٩٢٧: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ: (مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأُحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). (رواه البخاری: ١٩٠٥)

٤-بَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ((إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَافْطِرُوا))

٩٢٨: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ).

(رواه البخاری: ١٩٠٤)

٩٢٩: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا عَدَا، أَوْرَاحَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: (إِنَّ الشَّهْرَ

jaaounga Aap ne farmaya mahina 29 din ka bhi hota hai. (Bukhari: 1910)

Baab 8: Eid ke donon mahine kam nahin hote.

930 : Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya eid ke do mahine (ramzaan aur zulhijjah) kam nahin hote.(Bukhari: 1912)

Baab 9:Irshaad-e-nabawi: ke"hum log

Fawaaid:Matlab yeh hai ke donon mahine khaah 29 ke hon ya 30 ke sawaab 30 dinon ka hi milta hai sawaab mein kami nahin aati.

hisaab wa kitab nahin jaante"

931 : Hazrat ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya hum ummi log hain hisaab wo kitab nahin jaante mahina iss tarah aur kabhi us tarah hota hai ya'ni kabhi 29 ka aur kabhi 30 ka hota hai.

(Bukhari: 1913)

Fawaaid:Hamaari ibaadaat ko khuli aur waazeh alaamaton ke saath marboot kiya gaya hai chunaancheh iss scienci daur mein badi badi door beenon se chaand bar aamad karna aur phir "Wahdat-e-Ummat" ki aad mein tamaam mamaalik-e- islamiyah mein ek hi din ramzaan ka aaghaaz ya eid ka ehtemaam karna fitrat-e-islam ke khelaaf hai Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne apne haathon se ishaarah karke iss fitri saadgi ki taraf ishaarah farmaya hai.

Baab 10: Koyi shakhs ramzaan se ek ya do din pahle (istaqbaali) rozah na rakkhe.

932 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya tum mein se koyi shakhs ramzaan se ek ya do din pahle rozah na rakkhe lekin agar koyi shakhs apne ma'mool ke rozah rakhta ho to rakh le. (Bukhari: 1914)

Fawaaid:Ma'loom huwa ke istaqbaal-e-ramzaan ke pehs-e-nazar ramzaan se pahle roze rakhna jaayez nahin hai. (Awnul Baari:2/783)

يَكُونُ تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا).

(رواه البخارى: ١٩١٠)

٨-بَابُ: شَهْرًا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ

٩٣٠: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (شَهْرَانِ لَا

يَنْقُصَانِ، شَهْرًا عِيدٍ رَمَضَانَ وَ

ذُو الْحِجَّةِ). (رواه البخارى: ١٩١٢)

٩-بَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا

نُكْتَبُ وَلَا نَحْسَبُ))

٩٣١: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّا

أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نُكْتَبُ وَلَا نَحْسَبُ،

الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا). يَعْنِي مَرَّةً

تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ.

(رواه البخارى: ١٩١٣)

١٠-بَابُ: لَا يَتَقَدَّمَنَّ رَمَضَانَ بِصَوْمِ

يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ

٩٣٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَتَقَدَّمَنَّ

أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ،

إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا،

فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ).

(رواه البخارى: ١٩١٤)

Baab 11: Irshaad-e-Baari Ta'ala:
"Tumhaare liye roze ki raat apni biwiyon ke paas jaana halaal kar diya gaya hai woh tumhaare liye aur tum unke liye libaas ho"

933 : Hazrat Bara bin Aazib ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke sahaaba kiram ؓ ka yeh dastoor tha ke jab koyi rozah se hota aur iftaar ke waqt woh iftaar karne se pahle so jaata to phir baaqi raat mein kuchh na kha sakta aur na doosre din yahaan tak ke shaam ho jaati ek din Qais bin Sirmah Ansaari ؓ rozah se the iftaar ka waqt aaya to apni ahliya ke paas aaye aur unse poochha kiya tumhaare paas kuchh khaana hai? unhon ne kaha nahin lekin main jaati hoon aur tumhaare liye khane ka band-o-bast karti hoon woh saara din mehnat mazdoori karte the un par neend ghaalib aagayi aur so gaye phir jab unki ahliya aayin to unhein soya huwa dekh kar kahne lage haaye tumhaari mahroomi doosre din dopahar ko bhook ke maare be hosh ho gaye yeh waaqi'ah Rasoolullah ﷺ se zikr kiya gaya to uss waqt yeh aayat naazil huyi.

"Tumhaare liye roze ki raat apne biwiyon ke paas jaana halaal kar diya gaya hai"

iss par sahaaba kiraam ؓ bahut khush huye yeh bhi aayat naazil huyi"Raaton ko khaao piyo yahaan tak ke siyaahi shab ki dhaari se sapedah subah ki dhaari numayaan nazar aajaaye" (Bukhari: 1915)

Fawaaid: Musalmaanon ne roze ke muta'alliq yeh dastoor ahle kitab ko dekh kar jaari kiya tha woh bhi shaam ko sone ke ba'd rozah shuru kar dete aur khana peena mamnu' ho jaata. (Awnul Baari: 2/787)

Baab 12: Irshaad-e-Baari Ta'ala raaton ko khaao piyo yahaan tak ke tumhen shab ki siyaah dhaari se sapedah sehar ki dhaari numayaan nazar aaye.

934 : Hazrat A'di bin Haatim ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab yeh aayat naazil

۱- قول الله جل ذكره:

﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾

۹۳۳: عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ إِذَا كَانَ

الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارَ، فَنَامَ

قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ

حَتَّى يُمَسِيَ، وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ

الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ

الْإِفْطَارَ أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدَكَ

طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ

لَكَ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ، فَعَلَبَتْهُ

عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ

قَالَتْ: حَيِّبَةٌ لَكَ. فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ

غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ

فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ

الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ

لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾

(رواه البخارى: ۱۹۱۵)

۱۲- باب: قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا

وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾

۹۳۴: عَنِ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ

huyi yahan tak ke safed dhaaga siyaah dhaaga se tumhaare liye waazeh ho jaaye, to main ne ek siyaah aur ek safed rassi le kar un donon ko apne takyah ke neechे rakh liya aur raat ko uthh kar unko dekhta raha lekin mujh ko kuchh ma'loom na huwa chunaancheh main subah Rasoolullah ﷺ ke paas gaya aur Aap se uska zikr kiya Aap ne farmaya siyaah dhaaga to shab ki siyaahi aur safed dhaaga subah ki safedi hai.

(Bukhari: 1916)

عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿حَتَّىٰ يَتَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ عَمَدْتُ إِلَىٰ عِقَالِ أَسْوَدٍ وَإِلَىٰ عِقَالِ أَبْيَضٍ، فَجَعَلْتُهُمَا تَحْتِ وَسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَيِّنُ لِي، فَغَدَوْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: (إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ).

(رواه البخارى: ١٩١٦)

Fawaaid: Maloom huwa ke sehri der se karna chaahiye yeh baat khelaaf-e-sunnat hain ke aadhi raat sehri kha kar insaan so jaaye balke masnoon yeh hai ke tuloo'-e-fajr se thoda waqt pahle sehri se faarigh ho. (Awnul Baari:2/791)

Baab 13: Sehri aur namaaz-e-fajr mein ketna waqfah hona chaahiye?

935 : Hazrat Zaid bin Saabit ﷺ se rivaayat hai unhon ne kaha hum ne Rasoolullah ﷺ ke saath sehri khaayi phir Aap subah ki namaaz ke liye khade huye Aap se daryaaft kiya gaya ke uss waqt azaan aur sehri ke darmiyaan kitna faasla tha? unhon ne kaha 50 aayaat ki telaawat ke baraabar waqfa tha.

(Bukhari: 1921)

١٣-بَابُ: قَدْرُ كَمِّ بَيْنَ السَّحُورِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ

٩٣٥: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً. (رواه البخارى: ١٩٢١)

Fawaaid: Maloom huwa ke sehri der se karna chaahiye yeh baat khelaaf-e-sunnat hai ke aadhi raat sehri kha kar insaan so jaaye balke masnoon yeh hai ke tuloo'-e-fajr se thoda waqt pahle sehri se faarigh ho. (Awnul Baari:2/791)

Baab14: Sehri baa'yis-e-barkat hai magar waajib nahin.

936: Hazrat Anas ﷺ se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke sehri khaaya karo kyun ke sehri mein barkat hoti hai. (Bukhari: 1923)

١٤-بَابُ: بَرَكَةُ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيْجَابٍ

٩٣٦: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَسَحَّرُوا. فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً.

(رواه البخارى: ١٩٢٣)

Fawaaid: Doosri rivaayat mein hai ke sehri zaroor ki jaaye khaah paani ka ghont pi kar ya khujoor aur munaqqah ke chand daane khaa kar hi kyun na ho isse rozah rakhne mein quwwat paida hoti hai. (Awnul Baari:2/792)

Baab 15: Agar koyi shakhs din ko roze ki niyyat kare.

937: Hazrat Salmah bin Akwa' رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne ek shakhs ko aashoora ke din yeh munaadi karne ke liye bheja ke aaj jis shakhs ne kuchh khaaliya hai woh shaam tak mazeed na khaaye ya farmaya ke roze rakkhe aur jis ne na khaaya ho woh shaam tak na khaaye (yeh farziyat-e-ramzaan se pahle ki baat hai) (Bukhari: 1924)

Fawaaid: Imam Bukhari ka ghaaliban yeh moqif hai ke roze ke liye raat se niyyat karna zaroori nahin hai lekin jumhoor ulma ne iss se ittefaaq nahin kiya hai kyun ke mazkoorah hadees aa'shoora se muta'alliq hai jo farz nahin farzi rozah ki raat se niyyat karne ke muta'alliq ek sahih hadees sunan nasayi mein marvi hai albattah nafli roze ki niyyat din ke waqt bhi ki jaa sakti hai. (Awnul Baari: 2/794)

Baab 16: Rozah daar subah ko bahaalat-e- Janaabat ho to kiya kare?.

938: Hazrat Aayeshah aur hazrat Umm-e-Salmah رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ kabhi biwiyon ki muqaaribat ki wajah se Subah tak bahaalat-e-Janaabat rahte phir ghusl karte aur rozah rakh lete.

(Bukhari: 1925)

Fawaaid: Junbi aadmi rozah rakhne ke ba'd ghusl kar sakta hai lekin afzal yeh hai rozah se pahle ghusl kare tangi waqt ke pesh-e-nazar ghusl muakkhhar karna jaayiz hai. (Awnul Baari: 2/796)

Baab 17: Rozah daar ke liye mubaashirat

939: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ rozah ki haalat mein kabhi bosa lete aur mubaashirat karte (yani saath let jaate) the magar aap apni khaahish par tum se ziyaadah qaboo yaaftah the. (Bukhari: 1927)

Fawaaid: Matlab yeh hai ke agar kisi rozah daar ko apne aap par wasooq aur control ho ke biwi se bos-o-kinaar karne se tahreek-e-shahwat paida nahin hogi to uske liye jaayez hai basoorat deegar jaayez nahin mabaadan apne aap par qaabu na rakhte huye jema' kar baithhe. (Awnul Baari: 2/799)

Baab 18: Rozah daar agar bhool kar khaa pi le.

940: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke

١٥- بَابُ: إِذَا نَوَى بِالنَّهَارِ صَوْمًا
٩٣٧: عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ رَجُلًا
يُنَادِي فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ: (إِنَّ
مَنْ أَكَلَ فَلَيْتَمَّ، أَوْ فَلَیْصُمْ، وَمَنْ لَمْ
يَأْكُلْ فَلَا يَأْكُلْ).

(رواه البخاری: ١٩٢٤)

١٦- بَابُ: الصَّائِمُ يُصْبِحُ جُنْبًا
٩٣٨: عَنْ عَائِشَةَ وَ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ
يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ، وَهُوَ جُنْبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ
يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ.

(رواه البخاری: ١٩٢٥)

١٧- بَابُ: الْمُبَاشِرَةُ لِلصَّائِمِ
٩٣٩: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبَلُ وَيَبَاشِرُ
وَ هُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِزَوْجِهِ.

(رواه البخاری: ١٩٢٧)

١٨- بَابُ: الصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ
شَرِبَ نَاسِيًا
٩٤٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

aap ne farmaya agar koyi shakhs bhool kar khaa pi le to woh apne rozah ko poora kare kyun ke yeh Allah ne usko khilaaya pilaaya hai. (Bukhari:1933)

Fawaaid: Doosri rivaayat mein hai ke yeh Allah Ta'ala ka rizq hai jo use diya gaya hai imam Malik ke elaawah tamaam mohaddiseen ne iss hadees ke muwaafiq faislah diya hai ke bhool kar khaane peene se rozah nahin toot ta aur na hi qaza dena padti hai balke taiseer aur rafa harj ka bhi yahi taqazah hai. (Awnul Baari:2/800)

Baab 19: Jab koyi Ramzaan mein Jima' kare aur uske paas bhi kuchh na ho use sadqah mile to usse kaffarah de.

941: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek dafa hum Rasoolullah ﷺ ke paas baithhe the itne mein ek shakhs ne aakar arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! main barbaad ho gaya hoon aap ne poochha kyun kiya huwa? uss ne arz kiya ke main ne bahaalat-e-rozah apni biwi se sohbat karli hai aap ne farmaya kiya tujhe ghulaam muyassar hai jies tu azad karde? uss ne arz kiya nahin aapne farmaya kiya tu musalsal do maah ke roze rakh sakta hai? usne arz kiya nahin aap ne farmaya kiya tu 60 miskeenon ko khana khila sakta hai? usne arz kiya nahin Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه kahte hain ke phir woh Rasoolullah ﷺ ke paas thhahra raha hum bhi sab iss tarah baithhe the ke Rasoolullah ﷺ ke paas khujooron se bhara huwa tokra laaya gaya aap ne farmaya ke saayil kahaan hai? uss ne arz kiya main haazir hoon aap ne farmaya yeh lo aur ise khairaat kar do uss ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! khairaat to uss par karoon jo mujh se ziyaadah mohtaaj ho Allah ki qasam! Madinah ke do tarafah pathreele kinaaron mein koyi ghar mere ghar se ziyaadah mohtaaj nahin yeh sun kar Rasoolullah ﷺ itna hanse ke aap ke daant mubarak khul gaye phir aap ne farmaya ise apne ghar waalon hi ko khila do.

(Bukhari:1936)

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَ شَرِبَ فَلَيْتَمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ). (رواه البخارى: ١٩٣٣)

١٩ - بَابُ: إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْءٌ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَلْيَكْفِرْ ٩٣١: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ (مَا لَكَ؟) قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ؟. قَالَ: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟) قَالَ: لَا. قَالَ: فَمَكَتْ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ. فَبِينَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، وَ الْعَرَقُ الْمِكْتَلُ، قَالَ: (أَيُّنَ السَّائِلِ؟). فَقَالَ أَنَا. قَالَ: (خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ). فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟. فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا، يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ، أَهْلُ بَيْتِ أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي. فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ: أَطْعَمُهُ أَهْلَكَ).

(رواه البخارى: ١٩٣٦)

Fawaaid: Jumhoor Mohaddiseen ka moqif yeh hai ke muflis aur naadaari ki wajah se kaffarah saaqit nahin hota Rasoolullah ﷺ ne woh khujooren sadqah ke taur par use enaayat ki thin taake woh use apne ahl-o-ay'aal ko khilaaye use kaffarah se sabak dosh nahin kiya. (Awnul Baari:2/807)

Baab 20: Rozah daar ka puchhne lagaana ya use qai aana.

942: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne haalat-e-Ehraam aur haalat-e-Rozah mein puchhne lagwaaye hain. (Bukhari:1938)

۲۰- بَابُ: الْحِجَامَةُ وَالْقِيءُ لِلصَّائِمِ
۰۳۲: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِخْتَجَمَ وَهُوَ
مُحْرِمٌ، وَاخْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ.

(رواه البخارى: ۱۹۳۸)

Fawaaid: Imam Bukhari ka moqif yeh hai ke singi lagwane aur qai karne se rozah nahin toot ta qai ke muta'alliq jo daanistah ya ghair daanistah ka farq kiya jaata hai woh sahih nahin iss silsile mein jo rivaayat pesh ki jaati hai woh bhi me'yaar-e- sehat par poori nahin utarti.

Baab 21: Safar mein Rozah rakhna ya iftaar karna.

943: Hazrat Ibne Abi Aufa رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ek safar mein Rasoolullah ﷺ ke hamraah the shaam ke waqt aap ne ek shakhs se farmaya utar kar mere liye sattu tayyaar kar uss ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! abhi to aaftaab ki raushni hai aap ne farmaya utar aur mere liye sattu ghol, uss ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! abhi to sooraj ki raushni hai aap ne farmaya utar ke sattu tayyaar kar chunaancheh woh utra aur aap ke liye sattu tayyaar kiye aap ne unhein nosh farmaya phir apne haath se mashriq ki jaanib ishaarah karke farmaya jab idhar se raat ka andhera shuru ho jaaye to rozah daar ko iftaar karna chaahiye. (Bukhari:1941)

۲۱- بَابُ: الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ وَالْإِفْطَارِ
۹۴۳: عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ:
(انزِلْ فَاجِدْ لِي) قَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، الشَّمْسُ؟. قَالَ: (انزِلْ فَاجِدْ
لِي). قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الشَّمْسُ؟.
قَالَ: (انزِلْ فَاجِدْ لِي). فَنَزَلَ
فَجَدَّحَ لَهُ فَشَرِبَ، ثُمَّ رَمَى بِيَدِهِهَا
هُنَا، ثُمَّ قَالَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ أَقْبِلْ مِنْ
هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ).

(رواه البخارى: ۱۹۴۱)

Fawaaid: Safar mein rozah rakhne ya na rakhne ke muta'alliq mohtaata moqif yeh hai ke agar kisi qism ki takleef ka andeshah nahin hai to rozah rakhna behtar hai aur agar jismaani taaqat nahin ya aaindah use jismaani taur par nuqsan dah saabit ho sakta hai to iftaar karna afzal hai. (Awnul Baari:2/810)

944: Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai Rasoolullah ﷺ ki zaujah mohtarmah se rivaayat hai Hamzah bin Amr Aslami رضی اللہ عنہ ne Rasoolullah ﷺ se daryaaft kiya ke main safar mein rozah rakkhoon? aur woh aksar rozah rakkha karte the aap ne farmaya tujhe ikhtiyaar hai rozah

۹۴۴: عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ حَمْرَةَ بْنَ عَمْرٍو
الْأَسْلَمِيَّ، قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَأَصُومُ فِي
السَّفَرِ؟. وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، فَقَالَ:

rakkho ya iftaar karo.(Bukhari:1943)

(إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ).

(رواه البخارى: ١٩٣٣)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein wazaahat hai ke saayil ne daryaافت kiya ke ya Rasoolallah ﷺ ! dauraan-e-safar mein apne andar rozah rakhne ki himmat paata hoon kiya rozah rakhne mein koyi harj hai? to aap ne farmaya Allah ki taraf se yeh ek rukhsat hai jo ise qubool karta hai us ne achchha kiya aur jo rozah rakhta hai uss par koyi qadghan nahin. (Awnul Baari:2/811)

Baab 22: Jab Ramzaan mein kuchh din rozah rakkhe phir safar kare.

945: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ Ramzaan mein Makkah ki taraf rawaana huye uss waqt aap roze se the jab maqaam-e-Kadeed mein pahunche to aap ne rozah iftaar kar diya logon ne bhi rozah chhod diya.

(Bukhari:1944)

Fawaaid: Maloom huwa ke rozah rakhne ke ba'd agar safar ka aaghaaz kiya jaaye to dauraan-e-safar iska poora karna zaroori nahin. (Awnul Baari:2/812)

Baab 23:

946: Hazrat Abu Darda رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum kisi safar mein Rasoolullah ﷺ ke hamraah nikle garmi aisi sakht thi ke uski shiddat se aadmi apne sar par haath rakh leta tha iss wajah se hum mein koyi shakhs rozah se na tha. sirf Rasoolullah ﷺ aur hzrat Abdullah bin Rawaah رضي الله عنه rozah daar the. (Bukhari:1945)

Fawaaid: Iss hadees se yahi saabit hota hai ke safar mein rozah rakhna aur tark karna donon jaayez hain. (Awnul Baari:2/813)

Baab 24: Irshaad-e-Nabawi ke (sakht garmi mein) dauraan-e-safar rozah rakhna neki nahin hai.

947: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنہما se rivaayat unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ek safar mein the aap ne ek shakhs ke gird hujoom dekha jo uss shakhs par saaya kiye huye tha aap ne poochha yeh kaun hai?

٢٢-بَابُ: إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ

رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ

٩٣٥: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى

مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ، حَتَّى بَلَغَ

الْكُدَيْدِ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ النَّاسُ.

(رواه البخارى: ١٩٣٣)

٢٣-بَابُ

٩٣٦: عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي

بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ، حَتَّى يَضَعَ

الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ،

وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ

ﷺ وَأَبْنِ رَوَاحَةَ.

(رواه البخارى: ١٩٣٥)

٢٤-بَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ:

((لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ))

٩٣٧: عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي

سَفَرٍ، فَرَأَى زَحَامًا وَرَجُلًا قَدْ ظَلَّلَ

logon ne kaha yeh rozah daar hai aap ne farmaya safar mein rozah rakhna neki nahin hai. (Bukhari:1946)

عَلَيْهِ، فَقَالَ: (مَا هَذَا؟) فَقَالُوا: صَائِمٌ،
فَقَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي
السَّفَرِ). (رواه البخارى: ١٩٢٦)

Fawaaid:Yeh hadees un logon ki daleel hai jo dauraan-e-safar iftaar karna zaroori khayaal karte hain haalaanke iss hadees se yeh saabit hota hai ke jise safar mein rozah rakhne se takleef hoti ho uske liye iftaar afzal hai.(Awnul Baari:2/814)

Baab 25:Sahaaba kiraam dauraan-e-safar koyi kisi par Rozah rakhne na rakhne par aib na lagaata tha.

948:Hazrat Anas Bin Malik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha hum Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke hamraah safar kiya karte the rozah rakhne waala na rakhne waale par aur rozah iftaar karne waala roze daar par aib na lagata tha.(Bukhari:1947)

٢٥- بَابُ: لَمْ يَعْيبْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ
٩٢٨: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَسَافِرُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْيبِ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا
الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ.
(رواه البخارى: ١٩٢٤)

Fawaaid:Iss hadees se un logon ki tardeed hoti hai jinka moqif hai ke dauraan-e- safar rozah rakhna be sood aur la haasil hai.(Awnul Baari:2/816)

Baab 26: Agar koyi mar jaaye aur uske zimme roze hon.

949:Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya jo shakhs mar jaaye aur uske zimme roze hon to uska waris uski taraf se roze rakkhe.
(Bukhari: 1952)

٢٦- بَابُ: مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ
٩٢٩: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ مَاتَ
وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ).
(رواه البخارى: ١٩٥٢)

Fawaaid:B'az Fuqhaa ka khayaal hai ke mayyat ki taraf se rozah nahin rakhna chaahiye balke fidyah dena chaahiye jabke iss hadees se maloom hota hai ke mayyat ki taraf se wali ko rozah rakhna chaahiye aur jo rivaayaat iske khilaaf hain woh me'yaar-e-sehat par poori nahin utarti.(Awnul Baari:2/819)

950:Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek shakhs Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke paas aakar arz karne laga ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم ! meri maan faut hogayi hai uske zimme ek maah ke roze the kiya main uski taraf se roze rakh sakta hoon? aap ne farmaya haan Allah ka qarz adaayegi ka ziyaadah istehqaaq rakhta hai.

٩٥٠: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ
وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟
قَالَ: (نَعَمْ، فَذَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ
يُقْضَى). (رواه البخارى: ١٩٥٣)

(Bukhari:1953)

Fawaaid: Imam Bukhari ne ibne Abbaas رضى الله عنهما ki iss hadees ko mukhtalif turq se bayaan kiya hai kisi mein hai ke poochhne waala mard tha, kisi rivaayat mein daryaaft karne waali aurat hai koyi ek maah ke rozon ka zikr karta hai kisi mein 15 din ke rozon ka bayaan hai lekin in ikhtelaafaat se hadees mein koyi nuqs nahin aata mumkin hai ke mukhtalif waaqe'aat hon aur sawaal karne waale muta'ddid hon baharhaal itni baat zaroor hai ke mayyat ki taraf se rozah bhi rakkha jaa sakta hai aur hajj bhi kiya jaa sakta hai.

Baab 27: Rozah daar ko kis waqt rozah iftaar karna chaahiye?

951: Hazrat Ibne Abi Aaufa رضى الله عنه ki yeh hadees (944) ke Rasoolullah ﷺ ne unko farmaya ke utar kar hamare liye sattu tayyaar karo. abhi abhi pahle guzarchuki hai iss rivaayat mein aap ka irshaad-e-giraami hai jab tum dekho ke raat iss taraf se aagayi hai to rozah daar ko chaahiye ke rozah iftaar kare aur aap ne apni ungli se mashriq ki taraf ishaarah farmaya. (Bukhari: 1956)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke iftaari jaldi karna chaahiye nazariya ehtiyaat ke pesh-e-nazar iftaari mein der karna ahl-e-kitab ki aadat hai jin ki mukhaalifat karne ka hukm hai. (Awnul Baari: 2/821)

Baab 28: Iftaar mein jaldi karna afzal hai.

952: Hazrat Sahal bin Sa'd رضى الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke log hamesha neki par rahenge jab tak woh rozah jaldi iftaar karte rahenge. (Bukhari: 1957)

Fawaaid: Shee'a aur rawaafiz ne chunke yahoodiyat ki kokh se janam liya hai iss liye woh bhi rozah iftaar karne ke liye sitaaron ke chamakne ka intezaar karte rahte hain Rasoolullah ﷺ ne iss amal ko khair wa barkat se khaali qaraar diya hai. (Awnul Baari: 2/821)

Baab 29: Agar Rozah Iftaar karne ke ba'd sooraj nikal aaye.

953: Hazrat Asmaa Binte Abi Bakr رضى الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke zamaana mein ek din matla' abr aalood tha hum ne rozah iftaar kar liya phir uske ba'd sooraj nikal aaya.

(Bukhari: 1959)

Fawaaid: Ab uss roze ke muta'alliq kiya hukm hai? ba'z fuqhaa kahte hain ke uski qaza di jaaye yani bad mein rozah rakkha jaaye lekin iski koyi daleel nahin hai albattah yeh zaroor hai ke jab tak din ghuroob na ho koyi cheez istemaal nahin karni chaahiye. hazrat Umar رضى الله عنه se sahih taur par yahi manqool hai ke aisi haalat mein qaza nahin hai kyun ke yeh aisa hai jaisa kisi ne bhool kar khaa pi liya ho. (Awnul Baari: 2/821)

۲۷- بَابُ: مَتَى يَجِلُّ فِطْرُ الصَّائِمِ

۹۵۱: حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَقَوْلُ

النَّبِيِّ ﷺ لَهُ: (أَنْزَلَ فَاجِدَحَ لَنَا).

تَقَدَّمَ قَرِيْبًا، وَقَالَ فِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ:

(إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ

أَفْطَرَ الصَّائِمُ). وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ قَبْلَ

الْمَشْرِقِ. (رواه البخارى: 1956)

۲۸- بَابُ: تَعْجِيلُ الْإِفْطَارِ

۹۵۲: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ

(عَنْهُمْ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

(لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا

الْفِطْرَ). (رواه البخارى: 1957)

۲۹- بَابُ: إِذَا أَفْطَرَ فِي رَمْضَانَ ثُمَّ

طَلَعَتِ الشَّمْسُ

۹۵۳: عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى

عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ

الشَّمْسُ. (رواه البخارى: 1959)

Baab 30: Bachchon ke roze ka bayaan

954: Hazrat Rabi' binte Muawwiz رضى الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne aashoora ke din subah ko Ansaar ki bastiyon mein yeh paighaam bheja ke jis ne aaj rozah na rakkha ho woh bhi baaqi din kuchh na khaaye aur jis ne rozah rakkha ho woh roze se rahe hazrat Rabi' رضى الله عنها farmati hain iss hukm ke bad hum aashoora ka rozah rakhte aur apne bachchon ko bhi rakhaaya karte aur unhein bahlaane ke liye hum ruyi ki gudiyaan bana dete jab koyi un mein se khaane ke liye rota to hum use woh khilauna de dete yahaan tak ke iftaar ka waqt aa jaata. (Bukhari:1960)

Fawaaid: Agarcheh bachche par rozah farz nahin hai taa hum use aadat daalne ke liye rozah rakhne ka hukm diya jaaye taake ibadaat uski ghutti mein shaamil ho jaayen. (Awnul Baari:2/825)

Baab 31: Subah tak wisaal karna ya'ni sehri tak kuchh na khana.

955: Hazrat Abu Say'eed Khudri رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate suna logo! tum wisaal na karo jab tum mein se koyi wisaal ka iraadah kare to subah tak kare usse ziyaadah na kare.

(Bukhari:1963)

Fawaaid: Iss hadees ke aakhir mein hai sahaaba ne daryaaft kiya ya Rasoolullah ﷺ aap kyun wisaal karte hain? aap ne farmaya ke mujhe mera rab khilaata hai aur pilaata hai iss se maloom huwa ke wisaal karna aap ki khusoosiyat hai doosron ko iski ejaazat nahin. (Awnul Baari:2/827)

Baab 32: Kasrat se wisaal karne waale ko saamaan-e-ibrat banaana.

956: Hazrat Abu Hurairah رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne rozon mein wisaal karne se mana farmaya to musalmanon mein se ek shakhs ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! aap to wisaal karte hain aap ne farmaya tum mein se kaun shakhs merei tarah hai? main raat ko sota hoon to mera Allah mujhe khilaa deta hai lekin jab

٣٠- بَابُ: صَوْمِ الصَّبِيَّانِ

٩٥٤: عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الْأَنْصَارِ: (مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلَيْتَمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُصِّمْ). قَالَتْ: فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدَهُ، وَنُصَّوْمُ صَبِيَّانَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَغْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ.

(رواه البخارى: ١٩٦٠)

٣١- بَابُ: الْوِصَالِ إِلَى السَّحْرِ

٩٥٥: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (لَا تُوَاصِلُوا، فَإِنَّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ حَتَّى السَّحْرِ).

(رواه البخارى: ١٩٦٣)

٣٢- بَابُ: التَّنْكِيلِ لِمَنْ أَكْثَرَ

الْوِصَالِ

٩٥٦: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ فِي الصَّوْمِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (وَأَيْكُمْ مِثْلِي، إِنِّي أَبِيثُ

woh log wisaal se ba'z na aaye to aap ne unke saath ek din kuchh na khaaya doosre din bhi kuchh na khaaya phir eid ka chaand nikal aaya aap ne farmaya agar chaand zaahir na hota to main tum se aur ziyaadah rozah rakhwaata goya aap ne unhen sazaa dene ke liye farmaya jab woh wisaal ke rozon se ba'z na aaye.

ek rivaayat mein yeh hai phir aap ne farmaya kaam utna hi zimma lo jitni tum mein taaqat ho. (Bukhari:1965,1966)

Fawaaid: Allah ta'ala ke khilaane pilaane se muraad yeh hai ke woh aap ke andar iss qadar quwwat-e-sairaabi paida kar deta hai ke khaane peeni ki zaroorat hi nahin rahti. (Awnul Baari:2/829)

Baab 33: Agar koyi apne bhai ko nafli rozah tod dene ki qasam de.

957: Hazrat Abu Johaifah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne hazrat Salmaan رضي الله عنه aur hazrat Abu Darda رضي الله عنه mein bhaayi chaarah karaa diya tha chunaancheh ek din Hazrat Salmaan رضي الله عنه hazrat Abu Darda رضي الله عنه se milne gaye to unhon ne Umme Darda رضي الله عنها ko nehaayat paraagandah haalat mein dekha unhon ne usse poochha tumhaara kiya haal hai? woh bolin ke tumhaare bhaayi Abu Darda رضي الله عنه ko dunya ki zaroorat hi nahin itne mein hazrat Abu Darda رضي الله عنه bhi aa gaye unhon ne Hazrat Salmaan رضي الله عنه ke liye khaana tayyaar kar waaya phir hazrat Salmaan رضي الله عنه se kaha tum khaao main to roze se hoon hazrat Salmaan رضي الله عنه ne kaha jab tum nahin khaaoge main bhi nahin khaaunga bil aakhir Abu Darda رضي الله عنه ne khaana khaaya jab raat huyi to hazrat Abu Darda رضي الله عنه namaaz ke liye uthhe to Hazrat Salmaan رضي الله عنه ne kaha so jaao, chunaancheh woh so gaye thodi der ba'd phir uthhne lage to hazrat Salmaan رضي الله عنه ne kaha abhi so raho jab aakhir shab huyi to Hazrat Salmaan رضي الله عنه ne kaha ab uthho chunaancheh donon ne namaaz padhi hazrat Salaam رضي الله عنه ne hazrat Abu Darda رضي الله عنه se

يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ). فَلَمَّا أَبَوَا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوَصَالِ، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوْا الْهَلَالَ، فَقَالَ: (لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُمْ). كَالْتَنكِيلِ لَهُمْ حِينَ أَبَوَا أَنْ يَنْتَهُوا. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ لَهُمْ: (فَاكْلُفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ).

(رواه البخارى: ١٩٦٥، ١٩٦٦)

٣٣ - بَابُ: مَنْ أَقْسَمَ عَلَىٰ أَخِيهِ

لِيُفْطِرَ فِي التَّطَوُّعِ

٩٥٧: عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ سَلْمَانَ وَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَرَزَّ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلْ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ، فَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ، فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ سَلْمَانُ: قُمْ الْآنَ، فَصَلِّ يَا، فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَآتَى النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ

kaha be shak tum par tumhaare rab ka bhi haq hai neez tumhaari jaan ka aur tumhaari ahliya ka bhi tum par haq hai lehaaza tumhein sab ke huqooq adaa karne chaahiyen phir hazrat Abu Darda ؓ

Rasoolullah ﷺ ke paas aaye aur aap se yeh sab muaamla bayaan kiya to aap ne farmaya Salmaan ؓ ne sach kaha hai.

(Bukhari:1968)

Fawaaid:Sahiah Ibn Khuzaimah mein hai ke hazrat Salmaan ؓ ne Abu Darda ko qasam di ke rozah tod kar mere saath khaana khaao iss se maloom huwa ke nafli rozah kisi ma'qool wajah se toda jaa sakta hai aur iska poora karna zaroori nahin agar koyi bila wajah nafli rozah khatm karta hai to use qaza dena hogi. (Awnul Baari:2/834)

Baab 34: Sha'baan mein roze rakhna.

958: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ nafli roze iss qadar rakhte ke hum kahten ab kabhi aap rozah tark nahin karenge aur jab chhod dete to hamein khayaal hota ke ab aap kabhi rozah nahin rakkhenge aur main ne Rasoolullah ﷺ ke ramzaan ke elaawah kisi aur mahina ke poore roze rakhte huye nahin dekha aur main ne aap ko sha'baan se ziyaadah kisi aur mahine mein roze rakhte nahin dekha. (Bukhari:1969)

Fawaaid:Maahe sha'baan mein kasrat se isliye roze rakhte the ke iss mahine mein Allah ki taraf bandon ke aamaal uthhaaye jaate hain jaisa ke Nasayi mein hai. (Awnul Baari:2/837)

959: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ek doosri rivaayat mein kuchh ziyaadah alfaaz hain ke aap farmaya karte the aye logo! utni hi ibaadat karo jo qaabil-e-bardaasht ho kyun ke Allah sawaab dene se nahin thakta yahaan tak ke tum khud ibaadat karne se ukta jaaoge Rasoolullah ﷺ ko wahi namaaz pasand thi jo agarcheh thodi ho magar paa bandi se ada ho chunaancheh jab koyi namaaz padhte the to uss par paa bandi se hameshgi karte the. (Bukhari:1970)

Fawaaid:E'tedaal ke saath munaasib auqaat mein jo kaam paa bandi se kiya jaaye wahi paaye takmeel ko pahunchta hai wagar na daud kar chalne waala hameshah thhokar khaa kar gir padta hai e'tedaal ke saath kaam karne se nafs mein paakeezgi aur khud e'temaadi bhi paida hoti hai. (Awnul Baari:2/838)

ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (صَدَقَ سَلْمَانُ). (رواه البخارى: ١٩٦٨)

٣٢ - بَابُ: صَوْمِ شَعْبَانَ
٩٥٨: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ
حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى
نَقُولَ لَا يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا
رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي
شَعْبَانَ. (رواه البخارى: ١٩٦٩)

٩٥٩: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي
رِوَايَةٍ زِيَادَةً وَكَانَ يَقُولُ: (خُذُوا مِنْ
الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُ
حَتَّى تَمَلُّوا. وَ أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ
ﷺ مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْتُ، وَكَانَ
إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَاوِمًا عَلَيْهَا.
(رواه البخارى: ١٩٤٠)

Baab 35: Rasoolullah ﷺ ke rozah rakhne aur na rakhne ka bayaan.

960: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke un se Rasoolullah ﷺ ke rozon ke muta'alliq poochha gaya to unhon ne jawaab diya jab main chaahta ke kisi mahinah mein Rasoolullah ﷺ ko bahaalate rozah dekhoon to aap ko rozah daar dekh leta jab chaahta aap ko iftaar ki haalat mein dekhoon to usi haal mein dekh leta iss tarah raat ko jab chaahta aap ko namaaz mein khada huwa aur jab chaahta aapko soya huwa dekh leta aur main ne koyi reshama aur makhmal Rasoolullah ﷺ ki hatheliyon se ziyaadah narm nahin dekha aur na main ne koyi mushk aur ambar Rasoolullah ﷺ ke paseena ki khushbu se ziyaadah khusbu daar soongha. (Bukhari:1973)

Fawaaid: I'baadaat mein miyaanah rawi aur e'tedaal iss liye tha ke ibaadat karne waale aasaani ke saath aap ke usway-e-hasanah par a'mal paira ho sakein agar cheh aap iltezaam aur paabandi ke saath yeh ibaadat baja laane ki taaqat rakhte the. (Awnul Baari:2/840)

961: Hazrat Abdullah bin Amr bin Aas رضي الله عنه ki Hadees (596) guzar chuki hai

٣٥- بَابُ: مَا يُدْكَرُ مِنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ وَإِفْطَارِهِ

٩٦٠: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَحَبُّ أَنْ أَرَاهُ مِنَ الشَّهْرِ صَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مُفْطِرًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مِنَ اللَّيْلِ قَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتُهُ، وَلَا مَسْسُتَ خَزْرَةَ وَلَا حَرِيرَةَ الْيَنِّ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَا شِمْمَتَ مَسْكَةٍ وَلَا عَبِيرَةَ أُطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

(رواه البخارى: ١٩٤٣)

٩٦١: حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ابْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تَقَدَّمَ.

(رواه البخارى: ١١٣١)

Fawaaid: Hazrat Abdullah bin Amr bin A'as رضي الله عنه kasrat se roze rakkha karte the to aap ne use e'tedaal ke saath roze rakhne ki talqeen ki thi chunaancheh hazrat Abdullah ﷺ jab boodhe ho gaye to kaha karte the kaash! main Rasoolullah ﷺ ke kahne par amal karke rukhsat qubool kar leta.

Baab 36: Jism ka bhi roze mein haq hai

962: Hazrat Abdullah bin Amr bin Aas رضي الله عنه se hi rivaayat hai iss rivaayat mein itna ezaafah hai ke jab woh boodhe ho gaye to kaha karte the kaash main ne Rasoolullah ﷺ ki ejaazat qubool ki hoti. (Bukhari:1975)

٣٦- بَابُ: حَقُّ الْجِسْمِ فِي الصَّوْمِ

٩٦٢: وَقَالَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ بَعْدَ مَا كَبِرَ: يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ ﷺ.

(رواه البخارى: ١٩٤٥)

Fawaaid: Hazrat Abdullah bin Amr bin A'as رضي الله عنه ek din rozah rakhte aur ek din iftaar karte the budhaape ke waqt yeh paabandi dushwaar hoyi kahne lage ke kaash mein ne aap ki ejaazat qubool ki hoti kyun ke ab mujh se utne roze nahin rakkhe jaate.

Baab 37: Rozah rakhne mein biwi ke haq ki ri'ayat karna.

963: Hazrat Abdullah Bin Amr Bin Aas رضي الله عنه se hi ek doosri rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ne jab Dawood عليه السلام ke roze ka zikr kiya to farmaya woh dushman se muqaablah ke waqt raah-e-faraar na ikhtiyaar karte the. Hazrat Abdullah رضي الله عنه ne kaha ya Rasoolallah ﷺ! koyi hai jo meri taraf se iss baat ki zimmedaari qubool kare (ke main Maydaan-e-jung se nahin bhaagunga) raavi kahta hai ke Rasoolullah ﷺ ne yeh do baar farmaya jis ne hamesha roze rakkhe uds ne rozah rakkha hi nahin. (Bukhari:1977)

Fawaaid: Iss hadees mein yeh alfaaz bhi hain ke teri jaan aur tere biwi bachchon ka bhi tujh par haq hai.

Baab 38: Jo koyi (bahaalat-e-rozah) kisi se milne gaya aur wahaan rozah na toda.

964: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya Rasoolullah ﷺ Hazrat Umme Sulaim رضي الله عنها ke paas gaye to unhon ne aap ke liye khujooren aur ghi pesh kiya aap ne farmaya apna ghi koze mein aur khujooren bartan mein waapas daal do kyun ke main roze se hun phir aap ne ghar ke ek gosha mein khade ho kar farz namaaz ke e'laawah koyi namaaz adaa ki Umme Sulaim رضي الله عنها aur un ke deegar ghar waalon ke liye du'a farmayi hazrat Umme Sulaim رضي الله عنها ne arz kiya mera ek khaas azeez hai (uske liye) farmaya kaun hai? arz kiya aap ka khaadim Anas رضي الله عنه, Hazrat Anas رضي الله عنه kahte ke aap ne dunya wa aakhirat ki koyi bhalaayi nahin chhodi jis ki mere liye du'a na ki ho aap ne farmaya Aye Allah! ise maal wa aulaad ata farma aur ise barkat de chunaancheh dekh lo main tamaam Ansaar se ziyaadah maaldar hoon aur mujh se meri beti Omaina رضي الله عنها bayaan karti thi ke Hajjaaj ke basrah aane ke waqt tak 120 se kuchh ziyaadah mere

٣٧ - بَابُ: حَقُّ الْأَهْلِ فِي الصَّوْمِ
٩٦٣: وفي رواية عنه: أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ صِيَامَ دَاوُدَ قَالَ: (.....) وَكَانَ لَا يَغْفِرُ إِذَا لَا قَى). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ لِي بِهِذِهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا صَامَ مِنْ صَامِ الْأَبَدِ. مَرَّتَيْنِ.

(رواه البخارى: ١٩٤٤)

٣٨ - بَابُ: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَمْ يَفْطُرْ
عِنْدَهُمْ

٩٦٤: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى أُمِّ سَلِيمٍ، فَاتَتْهُ بِتَمْرٍ وَسَمْنٍ، قَالَ: أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فِي سِقَائِهِ، وَتَمْرَكُمْ فِي وَعَائِهِ، فَإِنِّي صَائِمٌ). ثُمَّ قَامَ إِلَى نَاحِيَةِ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى غَيْرَ الْمَكْتُوبَةِ، فَدَعَا لَأُمِّ سَلِيمٍ وَأَهْلِ بَيْتِهَا، فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي خَوِصَّةً، قَالَ: (مَا هِيَ؟). قَالَتْ: خَادِمُكَ أَنَسٌ، فَمَا تَرَكَ خَيْرَ آجِرَةٍ وَلَا دُنْيَا إِلَّا دَعَا لِي بِهِ، (اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ مَالًا، وَوَلَدًا، وَبَارِكْ لَهُ). فَإِنِّي لَمِنَ أَكْثَرِ الْأَنْصَارِ مَالًا. وَحَدَّثَنِي ابْنَتِي أُمَيَّةُ: أَنَّهُ دُفِنَ لِصَلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجِ الْبَصْرَةِ بِضِعِّ وَ عَشْرُونَ وَمِائَةً.

haqeeqi bachche dafan ho chuke the.

(Bukhari:1982)

(رواه البخارى: 1982)

Fawaaid: Jab Hajjaaj bin Yusuf Basrah mein aaya to uss waqt hazrat Anas ؓ ki umr kuchh oupar 80 baras ki thi aur aap 100 baras ki umr mein faut huye aap ka ek baagh tha jo saal mein do dafa' phal laata tha aap ki aulaad jo zindah rahi woh 100 se mutajaawuz thi.

(Awnul Baari:2/844)

Baab 39: Mahinah ke aakhir mein roze rakhna.

965: Hazrat Imran bin Hussain رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne kisi se poochha aye Abu fulaan! kiya toone iss mahine ke aakhir mein roze rakkhe? uss ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! nahin, aap ne farmaya jab tum ramzaan ke rozon se faarigh ho jao to do din rozah rakh lena ek rivaayat mein hai ke aap ne farmaya sha'baan ke aakhir mein do roze nahin rakkhe? (Bukhari:1983)

Fawaaid: Ek doosri hadees mein hai ke ramzaan se pahle ek do din ka rozah rakhna mana hai yeh uss soorat mein hai jab bataur-e-istaqbaal rakkhe jaayein agar istaqbaal ki niyyat na ho to aakhir sha'baan ke roze rakhne mein koyi qabaahat nahin. (Awnul Baari:2/846)

Baab 40: Juma ke din rozah rakhna.

966: Hazrat Jaabir ؓ se rivaayat hai un se daryaaft kiya gaya ke aaya Rasoolullah ﷺ ne juma' ke din rozah rakhne se mana farmaya hai? unhon ne kaha, haan. (Bukhari: 1984)

967: Hazrat Jowairiyah Binte Haaris رضي الله عنهما se rivaayat hai juma ke din Huzoor-e- Akram ﷺ un ke ghar tashreef le gaye to woh roze se thin aap ne poochha kiya toone kal bhi rozah rakkha tha? unhon ne arz kiya: nahin! aap ne farmaya kiya tu kal aaindah rozah rakhna chaahati hai? unhon ne arz kiya: nahin! aap ne farmaya phir rozah iftaar karde. (Bukhari:1986)

Fawaaid: Sif Juma' ka rozah rakhna mana hai agar ek din pahle ya ba'd saath milaa liya jaaye to koyi harj nahin yeh iss liye mana farmaya ke yahoodiyon se mushaabihat na ho kyun ke woh jis din apni ibaadat gaahon mein jama hote hain sif uss din ka rozah rakhte hain. (Awnul Baari:2/847)

٣٩- بَابُ الصَّوْمِ آخِرَ الشَّهْرِ
٩٦٥: عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ
رَجُلًا، فَقَالَ: يَا أَبَا فَلَانَ، أَمَا صُمْتَ
سَرَرَ هَذَا الشَّهْرِ. قَالَ الرَّجُلُ: لَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ
يَوْمَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ قَالَ: (مَنْ
سَرَرَ شَعْبَانَ). (رواه البخارى: 1983)

٤٠- بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
٩٦٦: عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
قِيلَ لَهُ: أَنْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ
صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ.
(رواه البخارى: 1984)

٩٦٧: عَنْ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ،
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ
عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهِيَ صَائِمَةٌ،
فَقَالَ: أَصُمْتَ أُمْسٍ؟. قَالَتْ: لَا،
قَالَ: (اتْرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي عَدًّا؟).
قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَأَفْطِرِي.
(رواه البخارى: 1986)

Baab 41: Rozah ke liye koyi din muqarrar kiya jaa sakta hai?

968: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai un se sawaal kiya gaya aaya Rasoolullah ﷺ ibaadat ke liye kuchh dinon ki takhsees farmaate the unhon ne farmaya ke nahin, aap ki ibaadat daayemi huwa karti thi aur tum mein se kaun hai jo Rasoolullah ﷺ ke baraabar taaqat rakhta ho. (Bukhari:1987)

Fawaaid: Imam Bukhari ka matlab yeh hai ke kisi din ko muta'yyan kar ke paa bandi ke saath rozah rakhna durust nahin lekin peer aur jum'eraat ka rozah to khud Rasoolullah ﷺ rakkha karte the shaayad Imam Sahab ke nazdeek yeh ahaadees sahih nahin hongy. Wallahu A'lam

Baab 42: Ayyaam-e-Tashreeq mein rozah rakhna.

969: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها aur Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Ayyaam-e-tashreeq mein rozah rakhne ki ejaazat nahin digayi magar ush shakhs ko jise (Ayyaam-e-hajj mein) qurbaani ka jaanwar na mile. (Bukhari:1997,1998)

Fawaaid: Hajj-e-Tamatto' karne wale ko agar hadi muyassar na ho to Ayyaam-e-tashreeq ke roze rakhne mein qabaahat nahin iske elaawah doosron ko in dinon rozah nahin rakhna chaahiye kyun ke yeh din khaane peene aur Allah ke zikr ke liye makhsoos hain. (Awnul Baari:2/850)

Baab 43: Aashoora ke din rozah rakhna.

970: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke zamaana jaahiliyyat mein quraish aashoora ke din rozah rakkha karte the aur Rasoolullah ﷺ bhi uss din rozah rakhte aur jab aap Madinah Munawwarah tashreef laaye tab bhi aap ne yeh rozah rakkha aur logon ko bhi rozah rakhne ka hukm diya lekin jab ramzaan ke roze farz huye to aashoora ka rozah ikhtiyaari kardiya gaya. ab jis ka dil chahe uss din rozah rakh le aur jis ka ji chahe na rakkhe. (Bukhari:2002)

Fawaaid: Aa'shoora 10win moharram ko kahte hain iss din ka rozah rakhna mustahab hai albattah yahoodiyon ki mukhaalifat ke pesh-e-nazar ek din pahle ya ba'd ka rozah saath rakh liya jaaye Rasoolullah ﷺ ne iss khahish ka izhaar kiya tha ke agar main zindah raha to agle saal 9win moharram ka rozah bhi rakkhunga lekin aap pahle hi apne Rafeeq-e-A'ala se jaa mile waazeh rahe ke hazrat Nooh عليه السلام se yeh din qaaibl-e-ehteraam hai hazrat Nooh عليه السلام ki kashti bhi isi din joodi pahaad par langar andaaz huyi thi iss liye woh bhi iss din ka rozah rakhte the.

٣١ - هَلْ يُخْصُّ مِنَ الْأَيَّامِ شَيْئًا

٩٦٨: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَخْتَصُّ مِنَ الْأَيَّامِ شَيْئًا؟ قَالَتْ: لَا،
كَانَ عَمَلَهُ دِيمَةً، وَأَيُّكُمْ يُطِيقُ مَا كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُطِيقُ.

(رواه البخارى: ١٩٨٤)

٣٢ - بَابُ: صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

٩٦٩: عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمُ قَالَا: لَمْ يُرْخَّصْ فِي أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ أَنْ يُصْمَنَ، إِلَّا لِمَنْ يَجِدُ
الْهَدْيَ. (رواه البخارى: ١٩٩٤، ١٩٩٨)

٣٣ - بَابُ: صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

٩٧٠: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ
قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ
صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ
رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ
شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

(رواه البخارى: ٢٠٠٢)

971: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah ﷺ Madinah Munawwarah tashreef laaye to aap ne yahudiyon ko aashoora ka rozah rakhte dekha aap ne poochha yeh rozah kiya hai? unhon ne jawaab diya yeh ek achchha din hai yani iss din Allah ne Bani Israyeel ko unke dushman se najaat di thi to hazrat Moosa عليه السلام ne rozah rakkha tha aap ne farmaya main tum se ziyaadah Hazrat Moosa عليه السلام se ta'alluq rakhta hoon chunaancheh aap ne us din ka rozah rakkha aur logon ko bhi rakhne ka hukm diya. (Bukhari:2004)

٩٧١: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: (مَا هَذَا؟). قَالُوا: يَوْمَ صَالِحٍ، هَذَا نَجَّى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى. قَالَ: (فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ). فَصَامَهُ وَ أَمَرَ بِصِيَامِهِ. (رواه البخارى: ٢٠٠٤)

Fawaaid: Paa bandi ke saath rozah rakhne ka yeh hukm ramzaanul mubaarak ke roze farz hone se pahle ka tha.

Namaaz-e-Taraawih ke bayaan mein

کتاب صلاة التراويح

Lafz Taraawih "Tatwiha" ki jama aur raahatun se mushtaq hai chunaancheh log iss namaaz mein har chahaar gaanah ke ba'd thodi der ke liye aaraam karte the iss liye unhein taraawih kaha jaata hai iska naam tahajjud, qiyaamullail aur qiyaam-e-ramzaan bhi hai iski ta'daad 11 raka't hai Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaahat hai ke Rasoolullah ﷺ ramzaan aur ghair-e-ramzaan mein 11 rak'at se zaayed nahin padha karte the Rasoolullah ﷺ ki sunnat ke pesh-e-nazar hamaara moqif yeh hai ke iss adad-e-masoon par izaafah na kiya jaaye hazrat Umar ؓ ne bhi isi sunnat ko zindah karte huye 11 rak'at padhaane ka ehtemaam kiya tha Rasoolullah ﷺ se 20 rak'at padhne ki jumlaah rivaayaat zayeef aur naa qaabil-e- e'tebaar hain.

Baab 1: Ramzaan mein taraawih padhne ki fazeelat.

972: Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ek dafa nisf shab mein ghar se baahar tashreef le gaye aur aap ne masjid mein namaaz padhi to kuchh logon ne bhi aap ke peechhe namaaz adaa ki yeh hadees (423,424) kitabussalat mein guzar chuki hai magar in donon rivaayaat mein kuchh lafzi ihtelaaf hai aur iss rivaayat ke aakhir mein hai ke Rasoolullah ﷺ ki wafaat tak yahi kaifiyat qaayim rahi. (Bukhari:2012)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ne sirf chand din bajama'at namaaz-e-taraawih padhaane ka ehtemaam kiya phir log in feraadi taur par padh lete the hazrat Umar ؓ ne un longon ko ek imam hazrat Ubai bin Ka'b ؓ par jama kardiya Moatta Imam Maalik mein hai ke unhen 11 rak'at padhne ka hukm diya.

Baab 2: Shab-e-Qadr ko aakhri saat raaton mein talaash karna chaahiye.

973: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai Rasoolullah ﷺ ke chand ashaab ko lailatul qadr ramzaan ke aakhri haftah mein bahaalat-e-khaab dekhaayi gayi to Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke main tumhaare khaabon ko dekhta hoon woh sab iss baat par muttafiq huye hain ke shab-e-qadr ramzaan ki aakhri raaton mein hai lehaazah jo koyi lailatul qadr ka mutalaashi ho woh use aakhri saat raaton

۱- بَابُ: فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

۹۷۲: عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ. تَقْدِمُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، وَبَيْنَهُمَا مُخَالَفَةٌ فِي اللَّفْظِ، وَقَالَ فِي آخِرِ هَذِهِ الرَّوَايَةِ: فَتَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

(رواه البخارى: ۲۰۱۲)

۲- بَابُ: التَّيْمَاسِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي

السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ

۹۷۳: عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّبَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ).

mein talaash kare. (Bukhari:2015)

(رواه البخارى: ٢٠١٥)

Fawaaid: Jab Aakhri 7 raaton mein dekhaayi gayi to 21win aur 23win raat daakhil na hogi jin rivaayaat mein aakhri 10 raaton ka zikr hai in mein 21win aur 23win shaamil hogi.

974: Hazrat Abu Sa'yeed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke saath ramzaan ke dermiyaani ashrah mein e'tekaaf kiya aur aap 20win taareekh ki subah ko e'tekaaf gaah se) baahar tashreef laaye aur hum se mukhaatib ho kar farmaya mujhe lailatul qadr khaab mein dekhaayi gayi thi magar mujhe bhula di gayi hai ya yeh farmaya ke main bhool gaya lehaazah ab tum use aakhri a'shrah ki taaq raaton mein talaash karo main ne khaab mein aisa dekha goya keechad mein sajdah kar raha hoon iss liye jis shakhs ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke saath e'tekaaf kiya hai woh phir laut aaye aur e'tekaaf kare chunaankeh hum laut aaye aur uss waqt aasmaan par abr ka nishaan tak na tha lekin achaanak baadal mandlaaya aur itna barsa ki masjid ki chhat tapakne lagi aur woh khujoor ki shaakhon se bani huyi thi phir namaaz qaayem ki gayi to main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko keechad mein sajdah karte huye dekha yahaan tak ke aapki pashaani mubarak par main ne mitti ka nishaan dekha. (Bukhari:2016)

٩٧٤ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَحَطَبْنَا، وَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيْتُهَا، أَوْ نُسِيْتُهَا، فَالْتَمِسُوهُمَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فِي الْوَيْتِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَلْيَرْجِعْ. فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ حَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَسْجُدُ فِي الْمَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

(رواه البخارى: ٢٠١٦)

Fawaaid: Lailatul qadr ramzaan ke aakhri a'shrah ki taaq raaton mein hai iski kayi ek a'laamaten hain jo guzarne ke ba'd zaahir hoti hain masalan iss din sooraj ki she'aayen tez nahin hotin iss raat sitaare nahin toot te aur din mo'tadil hota hai. (Awunl Baari:2/875)

Baab 3: Laylatul Qadr ko aakhri 10 taaq raaton mein ibaadat ki haalat mein talaash karna.

975: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya ke laylatul Qadr ko ramzaan ke aakhri ashrah mein talaash karo jab 9 ya 7 ya 5 raaten baaqi rah jaayen yani 21win, 23win, aur 25win raat ko.

(Bukhari:2021)

٣ - بَابُ: تَحَرَّى لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْتِ مِنْ الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فِي عِبَادَةِ
٩٧٥ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: (الْتَمِسُوهُمَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فِي تَاسِعَةِ تَبْقَى،

فِي سَابِعَةِ تَبْقَى، فِي خَامِسَةِ تَبْقَى).

(رواه البخارى: ٢٠٢١)

Fawaaid: Iss hadees ke mutaabiq 21win, 23win, aur 25win raat muraad hai jabke 29 dinon ka mahina ho agar 30 dinon ka mahina ho to taaq raatein nahin balke juft hongy sahih yeh hai ke taaq raaten muraad hain.

976: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se hi ek rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke Laylatul Qadr aakhri ashrah mein hoti hai jabke 9 raaten guzar jaayen ya 7 raaten baaqi rahen. (Bukhari:2022)

٩٤٦: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي رِوَايَةٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

(هِيَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ). يَعْنِي لَيْلَةَ

القدر. (رواه البخارى: ٢٠٢٢)

Fawaaid: 9 raaten guzar jaane se muraad 29win raat hai aur 7 raatein baaqi rahne se muraad 30win raat hai iss raat ki ta'ayyun mein khaasa ihtelaaf hai ibaadat guzar ko chaahiye ke woh aakhri a'shrah ki taaq raatein ibaadat se guzaare.

Baab 4: Ramzaan ke aakhri ashrah mein ibaadat karna.

977: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ramzaan ke aakhri ashrah mein ibaadat ke liye kamar basta ho jaate, shab bedaari farmate aur apne ghar waalon ko bhi bedaar rakhte the. (Bukhari:2024)

٢- بَابُ: الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ

الْأَوَّخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

٩٤٤: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ

الْعَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيَّقَطَ

أَهْلَهُ. (رواه البخارى: ٢٠٢٣)

Fawaaid: Maqsad yeh hai ke aakhri ashrah mein khoob ibaadat karte huye guzaara jaaye Rasoolullah ﷺ iss a'shrah mein apni biwiyon se alag ho jaate aur bistar ko lapet dete khoob kamar bastah ho kar in raaton ka qiyaam karte. (Awnul Baari:2/879)



E'tekaaf ke bayaan mein

كتاب الاعتكاف

E'tekaaf yeh hai ke aadmi ramzaan ka aakhri a'shrah ibaadat ke liye masjid mein guzaare waise to saal ke tamaam dinon main e'tekaaf karna jaayiz hai albattah ramzaanul mubaarak mein e'tekaaf karna sunnat-e-muakkadah hai iss ke liye zaroori hai ke khaah mard ho ya a'urat masjid mein e'tekaaf kiya jaaye.

Baab 1: Aakhri a'shrah mein e'tekaaf karna neez e'tekaaf har masjid mein durust hai.

978: Hazrat Aaishah رضي الله عنها Rasoolullah ﷺ ki zaujah mohtarmah se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ramzaan ke aakhri a'shrah mein paa bandi se e'tekaaf karte the yahaan tak Allah Ta'ala ne aap ko uthhaliya phir aap ke ba'd aapki azwaj-e-motahhiraat e'tekaaf karti rahin. (Bukhari:2026)

Fawaaid: E'tekaaf ke liye iss shart par tamaam u'lma ka ittefaaq hai ke masjid mein hona chaahiye aksar muddat ki had nahin hai lekin kam az kam ek din zaroor ho. (Awnul Baari:2/881)

Baab :2 Zaroorat ke waqt ghar mein daakhil hona.

979: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ba haalat-e-e'tekaaf masjid mein rahte huye apna sar mubaarak meri taraf jhuka dete to main aapke kanghi kardeti thi aur jab aap mo'takif hote to ghar mein bila zaroorat tashreef na laate. (Bukhari:2029)

Fawaaid: Zaroorat se muraad qazaa-e-haajat hai jaisa ke hadees ke raavi imam zohri ne iski tafseer ki hai maloom huwa ke agar masjid mein baitul khala waghairah ka intezaam na ho to iss qism ki zaroorat ke liye apne ghar aana jaayiz.

Baab 3: Sirf Raat bhar ke liye e'tekaaf karna.

980: Hazrat Umar رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek dafa unhon ne Rasoolullah ﷺ se poochha main ne zamaana jaahiliyyat mein, baitullah mein ek raat ka e'tekaaf baithhne ki nazar maani thi aap ne farmaya to phir apni nazar

١- باب: الْأَعْتِكَافِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّخِرِ وَالْأَعْتِكَافِ فِي الْمَسَاجِدِ كُلِّهَا

٩٤٨: عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِيَ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ. (رواه البخارى: ٢٠٢٦)

٢- باب: لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا

لِحَاجَةٍ

٩٤٩: وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَدْخُلَ عَلَيَّ رَأْسَهُ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَرْجِلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

(رواه البخارى: ٢٠٢٩)

٣- باب: الْأَعْتِكَافِ لَيْلًا

٩٨٠: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي

poori kar.(Bukhari:2032)

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: (فَأَوْفٍ
بِنْدِرِكٍ). (رواه البخاري: ٣٠٣٢)

Fawaaid: Maloom huwa ke etekaaf mein rozah shart nahin hai kyun ke raat ko rozah nahin ho sakta. (Awnul Baari: 2/883)

Baab 4: E'tekaaf ke liye Masjid mein khime lagaana.

981: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne e'tekaaf ka iraadah farmaya aur jab aap uss jagah pahunche jahaan e'tekaaf karna chaahte the to wahaan chand khime dekhe ya'ni woh hazrat Aayeshah, hazrat Hafsah aur hazrat Zainab رضي الله عنهن ke khime the phir aap ne farmaya kiya tum in mein neki samajhti ho? phir aap laut aaye aur e'tekaaf na kiya yahaan tak ke maah-e-shawwaal mein 10 rozah e'tekaaf farmaya: (Bukhari:2034)

٣- باب: الأُخْبِيَّةُ فِي الْمَسْجِدِ
٩٨١: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ،
فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي
أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيهِ، إِذَا أُخْبِيَّةٌ: خِبَاءُ
عَائِشَةَ، وَخِبَاءُ حَفْصَةَ، وَخِبَاءُ زَيْنَبَ،
فَقَالَ: (الْبِرُّ تَقْوُلُونَ بِهِنَّ). ثُمَّ
انْصَرَفَ فَلَمْ يَعْتَكِفَ، حَتَّى اعْتَكَفَ
عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.
(رواه البخاري: ٢٠٣٢)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein hai ke Shawwaal ke aaghaaz mein e'tekaaf kiya iss se bhi yeh saabit hota hai ke e'tekaaf ke liye rozah shart nahin hai. (Awnul Baari: 2/885)

Baab 5: Kiya Mo'takif apni kisi zaroorat ke pesh-e-nazar masjid ke darwaaze tak aa sakta hai?.

982: Hazrat Safiyah رضي الله عنها zaujah Rasoolullah ﷺ se rivaayat hai ke jab Rasoolullah ﷺ ramzaan ke aakhri a'shrah mein masjid mein mo'takif the to woh aap ki ziyaarat ke liye aayin aur kuchh der aap ﷺ se guftagu ki phir uthh kar jaane lagin to Rasoolullah ﷺ bhi unhen pahunchaane ke liye saath hi uthhe jab woh masjid ke darwaaze ke qareeb Ummeh Salmah رضي الله عنها ke darwaaze ke paas pahunche to Ansaar ke do aadmi udhar se guzre unhon ne Rasoolullah ﷺ ko salaam kiya to aap ne un se farmaya thhahar jaao. yeh Safiyah binte Huy رضي الله عنها thin un donon ne kaha subhaanallah! ya Rasoolallah ﷺ! (Kiya hum aap par bad gumaan hain?) aur unhein yeh

بَاب: هَلْ يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ لِحَوَائِجِهِ
إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ
٩٨٢: عَنْ صَفِيَّةَ رُوحِ النَّبِيِّ ﷺ
وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا جَاءَتْ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ تَزْوُرُهُ فِي اعْتِكَافِهِ فِي
الْمَسْجِدِ، فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ
رَمَضَانَ، فَتَحَدَّثَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، ثُمَّ
قَامَتْ تَنْقَلِبُ، فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ مَعَهَا
يَقْلِبُهَا، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ بَابَ الْمَسْجِدِ
عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ، مَرَّ رَجُلَانِ مِنَ
الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ، فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ: (عَلَى
رِسْلِكُمَا، إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُبَيْبٍ).
فَقَالَا: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ،

cheez bahut shaaq guzri to aap ne farmaya shaytaan khon ki tarah insaan mein gardish karta hai mujhe andesha huwa ke mabaadan tumhaare dilon mein koyi waswasah daal de.(Bukhar:2035)

وَكَبَّرَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِّ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَيْئًا). (رواه البخارى: ٢٠٣٥)

Fawaaid: Maloom huwa ke insaan ko tohmat ke maqamaat se parhez karna chaahiye aur apni izzat wa naamoos ki hifaazat mein koyi kasar na uttha rakkhe.

Baab 6: Ramzaan ke darmiyaani a'shrah mein e'tekaaf karna.

983: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ har ramzaan 10 din e'tekaaf kiya karte the magar wafaat ke saal aap ﷺ ne 20 din e'tekaaf farmaya tha.(Bukhari:2044)

٦ - باب: الاعتكاف في العشر

الأوسط من رمضان

٩٣٨: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا.
(رواه البخارى: ٢٠٣٣)

Fawaaid: Imam Bukhari ka matlab yeh hai ke e'tekaaf ke liye agarcheh aakhri a'shrah afzal hai lekin zaroori nahin hai isse pahle bhi e'tekaaf kiya jaa sakta hai.



Khareed wa Farokht ke bayaan mein**كتاب البيوع**

Qeemat ke e'waz kisi cheez ko doosre ki milkiyat karna "Bai" kahlaata hai dar asl inteqaal milkiyat ki do aqsam hain. ikhtiyaari aur ghair ikhtiyaari, Ghair ikhtiyaari inteqaal milkiyat wiraasat mein hota hai phir ikhtiyaari ki bhi do qismen hain agar mo'aawazah ke saath hai to bai aur agar mo'aawazah ke baghair hai to zindagi mein diya jaaye to hibah, maut ke ba'd inteqaal milkiyat ho to use wasiyat kahte hain, ba'i ke jawaaz par musalmaanon ka ijma' hai.

Baab 1: Irshaad-e- baari Ta'ala "jab juma' ki namaaz ho jaaye to zameen mein phail jaao!

984: Hazrat Abdur Rahmaan bin Auf رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab hum Madinah aaye to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne mere aur Sa'd bin Rabi' رضي الله عنه ke darmiyaan bhaayi chaarah karaadiya hazrat Sa'd bin Rabi' رضي الله عنه ne mujh se kaha main tamaam Ansaar se ziyaadah maaldaar hoon tumhen apna nisf maal deta hoon aur meri donon biwiyon ko dekh lo jis ko tum pasand karo main use talaaq deta hoon jab uski i'ddat poori guzar jaaye to usse nikah kar lena hazrat Abdur Rahman bin Auf رضي الله عنه ne kaha mujh ko iski zaroorat nahin yahaan koyi baazaar hai jahaan tijaarat hoti ho? unhon ne kaha haan Qainuqa' ek baazaar hai, Hazrat Abdur Rahmaan bin Auf رضي الله عنه subah ko baazaar gaye aur kuchh paneer kama kar le aaye phir woh rozaanah bagharz tijaarat baazaar jaane lage kuchh din ba'd Hazrat Abdur Rahmaan bin Auf رضي الله عنه Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ki khidmat mein aaye to unke libaas par zard khusbu ka rang tha Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne poochha kiya tum ne nikaah kiya hai? unhon ne kaha haan. Aap ne farmaya kis se? unhon ne arz kiya ek Ansaari khatoon se, Aap ne farmaya tum ne use kitna mahar diya? unhon ne arz kiya ek guthhli baraabar sona diya hai ya yeh kaha ke ek sone ki guthhli phir Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya waleema karo agarcheh ek bakri se hi ho. (Bukhari:2048)

١ — باب: مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الْآيَةَ
٩٨٤ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: سَعْدُ بْنُ الرَّبِيعِ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا، فَأَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِي، وَأَنْظُرَ أَيَّ زَوْجَتِي هَوَيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا، فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا، [قَالَ:] فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيهِ تِجَارَةٌ؟ قَالَ: سُوْقٌ قَيْنُقَاعَ، [قَالَ:] فَغَدَا إِلَيْهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَاتَى بِأَقِطٍ وَسَمْنٍ، ثُمَّ تَابَعَ الْغَدُوَّ، فَمَا لَيْتَ أَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَيْهِ أَثَرُ الصُّفْرَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (تَزَوَّجْتُ؟) قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: (وَمِنْ؟). قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: (كَمْ سُقَّتْ إِلَيْهَا؟). قَالَ: زِنَةٌ نَوَادِيَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ نَوَادِيَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ). (رواه البخارى: ٢٠٤٨)

Fawaaid: Imam Bukhari ne iss hadees se yeh saabit kiya hai ke Rasoolullah ﷺ ke zamaana mein ba'z Sahaaba kiraam peshwa tijaarat se munsalik the jis se khareed wa farokht ka jawaaz milta hai neez hibah waghairah se maal haasil karna sahaaba kiraam ka matma' nazar na tha balke unhon ne tijaarat ko zariah ma'aash banaya. (Awnul Baari:3/5)

Baab 2: Halaal waazeh hai aur Haraam zaahir hai aur in donon ke darmiyaan kuchh shubah ki cheezen hain.

985: Hazrat No'maan bin Basheer رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya halaal zaahir hai aur haraam bhi zaahir hai aur unke darmiyaan kuchh shubah ki cheezen hain jis shakhs ne uss cheez ko tark kar diya jis mein gunaah ka shubah ho to woh uss cheez ko badarjah aula chhod dega jis ka gunaah hona zaahir ho aur jis ne shubah ki cheez par jur'at ki to woh jald hi aisi baat mein muftala ho sakta hai jis ka gunaah hona zaahir hai gunaah goya Allah ki charagaah hain jo apne jaanwar charagaah ke ird gird charaayega jald hi uska charagaah mein pahunchna mumkin hoga.

(Bukhari:2051)

Fawaaid: Mushtabah cheezon se muraad woh hain jin ki haden halaal wa haraam donon se milti hon aur ba'z log inki hillat wa hurmat ka faislah na kar sakein fi nafsehi woh mushtabah nahin hotin kyun ke Allah Ta'ala ne apna Rasool bhej kar deen ki zarooriyaat se hamein aagaah kar diya hai parhez gaari yahi hai ke insaan shukook wa shubhaat waali cheezon se bhi alag thalag rahe. (Awnul Baari:3/6)

Baab 3: Shub,haat ki tafseer.

986: Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai unhon ne farmaya ke U'tbah bin Abi Waqqaas ne apne bhaayi hazrat Sa'd bin Abi Waqqaas رضی اللہ عنہ se yeh wasiyyat ki thi ke Zama'h ki laundi ka beta mere nutfah se hai tum use apne qabzah mein le lena hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا farmaati hain ke Fatah- e-Makkah ke saal Hazrat Sa'd bin Abi Waqqaas رضی اللہ عنہ ne use le liya aur kaha ke yeh mera bhatija hai mere bhaayi ne ise lene ki mujhe wasiyyat ki thi uss waqt Abd bin Zam'ah khada huwa aur kahne laga yeh to mera bhaayi hai ya'ni mere baap ki laundi ka beta hai aur usse paida huwa hai aakhir donon jhagad te jhagad te Rasoolullah ﷺ ke paas aaye hazrat

۲ - باب - الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ

وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

۹۸۵ : عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

(الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ ، وَبَيْنَهُمَا

أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شَبَّهَ

عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ

اتَّكَرَكَ ، وَمَنْ اجْتَرَ عَلَى مَا يَشْكُ

فِيهِ مِنَ الْإِثْمِ أَوْ شَكَّ أَنْ يُوَاقِعَ مَا

اسْتَبَانَ ، وَالْمَعَاصِي حَمَى اللَّهُ ، مَنْ

يَرْتَعِ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ

يُوَاقِعَهُ). (رواه البخارى: ۲۰۵۱)

۳ - باب : تَفْسِيرِ الْمُشَبَّهَاتِ

۹۸۶ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَالَتْ : كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي

وَقَاصٍ ، عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي

وَقَاصٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) : أَنَّ ابْنَ

وَلِيدَةَ زَمَعَةَ مِنِّي فَأَقْبَضَهُ ، قَالَتْ : فَلَمَّا

كَانَ عَامَ الْفَتْحِ ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي

وَقَاصٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَقَالَ : ابْنُ

أَخِي ، قَدْ عَهَدَ إِلَيَّ فِيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ

زَمَعَةَ فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي ،

وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ

Sa'd رضي الله عنه ne kaha ya Rasoolallah ﷺ! yeh mera bhatija hai mere bhaayi ne ise lene ki mujhe wasiyyat ki thi Abd bin Zama'h ne kaha yeh mera bhaayi hai aur mere baap ki laundi se hai aur uske bistar par paida huwa hai us par Rasoolullah ﷺ ne farmaya Aye Abd bin Zama'! yeh bachcha tujh ko milega. uske ba'd Rasoolullah ﷺ ne farmaya bachcha uska hota hai jo jaayez shauhar ya malik ho aur zina kaar ke liye na kaami hai uske ba'd Aap ne Ummul Mo'mineen Hazrat Saudah رضي الله عنها se farmaya jo Zama'h ki beti thi tum uss se pardah karo kyun ke aap ne uss ladke mein u'tbah ki mushabihat dekhi chunaancheh uss ladke ne hazrat Saudah رضي الله عنها ko nahin dekha yahaan tak ke woh Allah se jaa mila. (Bukhari:2053)

Fawaaid: Shara'yi qaay'idah ke mutaabiq agarcheh bachchah Abd bin Zama'h ko dila diya magar qiyaafah shanaasi ki bena par shubah tha ke shaayad woh U'tbah ka hi nutfah ho iss shubah ki brna par Rasoolullah ﷺ ne hazrat Saudah رضي الله عنها ko isse pardah karne ka hukm diya. (Awnul Baari:3/12)

Baab 4: Jin ke nazdeek waswasah aur uss jaisi cheezein mushtabah cheezon mein daakhil nahin.

987: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke kuchh logon ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! hamaare paas aadmi gosht laate hain lekin hamein yeh maloom nahin ke unhon ne zabah karte waqt **Bismillah** kahi hai ya nahin aap ne farmaya tum uss par **Bismillah** kaho aur kha lo.

(Bukhari:2057)

Fawaaid: Iss hadees mein mushtabah aur wasaawis mein farq ko numaayan kiya gaya hai ya'ni mushtabah woh cheez hai jis ki hillat wa hurmat ke dalaayel bazaahir muta'ariz hon aisi cheez se ijtenaab karna parhez gaari hai waswash yeh hai ke bila wajah har cheez ko shak wa shubah ki nazar se dekhna masalan ek shakhs se maal khareeda khaah makhaah uske haraam hone ka gumaan karna iss qism ki waswash andaazi sharee'at mein durust nahin hai.

Baab 5: Jis ne kuchh parwaah na ki jahaan se chaaha maal kama liya.

988: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain aap ne farmaya logon par ek zamaana

عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ أَخِي، كَانَ قَدْ عَاهَدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَالَ عَبْدُ بَنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَليدَةَ أَبِي، وَوُلدَ عَلِيَّ فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بَنُ زَمْعَةَ). ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ: (اجْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ). لِمَا رَأَى مِنْ شَبهِهِ بَعْتَبَةً، فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ.

(رواه البخارى: ٢٠٥٣)

٢ - باب: مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسْوَيسَ

وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُشْتَبَّهَاتِ

٩٨٧ : وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ قَوْمًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ لَا نَدْرِي: أَذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ).

(رواه البخارى: ٢٠٥٧)

٥ - باب: مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ

كَسَبَ الْمَالَ

٩٨٨ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

aayega jab insaan ko uski kuchh parwaah nahin rahegi ke maal ko halaal tareeqa se haasil kiya hai ya haraam tareeqa se?.

(Bukhari:2059)

عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لَا يُبَالَى الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ، أَمِنَ الْحَلَالِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ).

(رواه البخارى: ٢٠٥٩)

Fawaaid: Iss hadees mein Rasoolullah ﷺ ne hamen fitnah maal se khabar daar kiya hai hamen chaahiye ke asbaab-e-ma'yishat ke muta'alliq khoob chhaan been karen afsos ke fi zamana hum aise haalaat se do chaar hain ke halaal wa haraam ki tameez uthh gayi hai sirf maal jama karne ki dhun hum par sawaar hai.

Baab 6: Khushki mein tijaarat karna.

989: Hazrat Zaid bin Arqam ؓ aur hazrat Bara' bin Aazib ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke zamaana mein tejaarat karte the hum ne Rasoolullah ﷺ se bai sarf ke muta'alliq poochha to aap ne farmaya ke naqad ba naqad ho to koyi harj nahin agar udhaar ho to jaayez nahin.

(Bukhari:2060-2061)

٦- باب: التَّجَارَةُ فِي الْبُرِّ
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ؟ فَقَالَ: (إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ).

(رواه البخارى: ٢٠٦٠، ٢٠٦١)

Fawaaid: Sone chaandi ke sikkon ka baahami tabaadlah sarf kahlaata hai iski do sooraten hain ek yeh ke chaandi ke badle chaandi aur sone ke badle sona iss mein do sharton ka hona zaroori hai ya'ni donon ka wazan baraabar ho aur dast ba dast hon agar ek taraf se naqad aur doosri taraf se udhaar ho ya naqad ki soorat mein wazan mein kami beshi ki to mu'aamla haraam ho jaayega doosri soorat mein yeh hai ke sone ko chaandi ya chaandi ko sone ke e'waz khareedna to iss soorat wazan ka baraabar hona to zaroori nahin taa hum iska naqad ba naqad hona zaroori hai imam Bukhari ne iss hadees ke u'moom se khushki mein tijaarat ko jaayez qaraar diya hai.

Baab 7: Tejaarat ke liye safar karna

990: Hazrat Abu Moosa ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne ek dafa hazrat Umar ؓ se mulaqaat ki ejaazat talab ki lekin mujhe ejaazat na mili goya hazrat Umar ؓ uss waqt kisi kaam mein masroof the taa hum main waapas aa gaya hazrat Umar ؓ faarigh huye to kahne lage main ne Abdullah bin Qais ؓ (Abu Moosa Asha'ri) ki aawaaz nahin suni thi unko ejaazat de do logon ne kaha woh to waapas ho gaye hain uss par unhon ne mujhe bula kar poochha tum kyun waapas ho gaye the? unhon ne kaha hum ko

٤- باب: الخُرُوجُ فِي التَّجَارَةِ
٩٩٠: عَنْ أَبِي مُوسَى (الْأَشْعَرِيِّ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى (عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ مَشْغُولًا، فَرَجَعْتُ فَفَرَعَ عُمَرُ فَقَالَ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ، ائْتَدُّنَا لَهُ. قِيلَ: قَدْ رَجَعَ، فَدَعَانِي، فَقُلْتُ: كُنَّا نُؤَمَّرُ بِذَلِكَ. فَقَالَ: تَأْتِينِي عَلَى

yahi hukm diya jaata tha hazrat Umar رضي الله عنه ne kaha tum iss par koyi gawaah pesh karo tab main ansaar ki majlis mein gaya aur unse poochha unhon ne kaha iss baat ki shahaadat to Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه hi de denge jo hum sab mein kum umr hai chunaancheh main Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه ko hazrat Umar رضي الله عنه ke paas le gaya aur unhon ne shahaadat di ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ka yahi hukm tha jis par hazrat Umar رضي الله عنه ne kaha ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ka yeh hukm mujh se posheedah rah gaya kyun ke baazaaron mein khareed wa farokht aur tijaarat mein masroof raha yani tijaarat ki gharz se baahar aane jaane mein mshghool raha.

(Bukhari:2062)

Fawaaid: Iss se yeh bhi maloom huwa ke husool-e-dunya ki talab insaan ko ilm se mahroom kardeti hai neez tejaarat ke liye safar karna bhi saabit huwa aur shari'at ke ahkaam ba'z auqaat bade bade sahaaba kiraam رضي الله عنهم se bhi posheedah rahte the. (Awnul Baari:3/17)

Baab 8: Jis ne Rizq mein Us'at ki khaahish ki.

991: Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko yeh farmate huye suna jis shakhs ko yeh pasand ho ke uske rizq mein kushaadgi aur umr mein ezaafah ho to use chaahiye ke apne rishte daaron ke saath achchha sulook kare. (Bukhari:2067)

Fawaaid: Rizq mein kushaadgi se muraad iss mein barkat ka paida ho jaana aur umr mein ezaafe se muraad jism mein quwwat wa himmat ka aa jaana hai kyun ke rizq aur umr to uss waqt hi likh di jaati hai jab insaan maan ke pet mein hota hai. (Awnul Baari:3/18)

Baab 9: Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ka udhaar khareedna.

992: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas jau ki roti aur bu daar charbi le kar gaye aur uss waqt Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne apni ek zirah Madina mein ek yahoodi ke paas giwi rakkhi thi aur uss se apne ahle khana ke liye kuchh jau liye the aur main ne aap ko yeh farmate huye suna tha ke Aal-e-Muhaamad صلی اللہ علیہ وسلم ke paas khabhi shaam ko ek saa' gehoon ya kisi aur ghalle ka jama

ذَلِكَ بِالْبَيْنَةِ، فَانْطَلَقْتُ إِلَى مَجْلِسِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلْتُهُمْ، فَقَالُوا: لَا يَشْهَدُ لَكَ عَلَى هَذَا إِلَّا أَصْغَرُنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَذَهَبْتُ بِأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ عُمَرُ: أَحْفَى هَذَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةِ.

(رواه البخاري: ٢٠٦٢)

٨- باب: مَنْ أَحَبَّ الْبَسْطَ فِي الرِّزْقِ
٩٩١: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَةً). (رواه البخاري: ٢٠٦٤)

٩- باب: شَرَاءُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِالنَّسِيئَةِ
٩٩٢: عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بِخَيْرِ شَعِيرٍ، وَهَالَةَ سَنِيخَةٍ، قَالَ وَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ، وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَا أَمْسَى عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم صَاعُ بُرٍّ، وَلَا صَاعُ حَبِّ، وَإِنَّ

nahin raha halaan ke aap ki 9 biwiyaan thin.
(Bukhari:2069)

عِنْدَهُ لَتَسْعَ نِسْوَةٌ).

(رواه البخاري: ٢٠٦٩)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ne ek sood khor yahoodi se qarz ka muaa'mlah kiya lekin kisi musalmaan se qarz nahin liya kyun ke woh aqeedat ki bena par aap ko muft de deta lekin aap ko kisi ka ehsaan lena pasand nahin tha. (Awnul Baari:3/19)

Baab 10: Aadmi ka khud kamaana aur apne haath se kaam karna.

993: Hazrat Miqdaam ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya kisi shakhs ne apne haath ki kamaayi se ziyaadah paak khana nahin khaaya aur Allah ke nabi hazrat Dawood ؑ bhi apne haath ki kamaayi se hi khaaya karte the.

(Bukhari:2072)

١٠ - باب: كَسَبُ الرَّجُلِ وَعَمَلُهُ بِيَدِهِ
٩٩٣ : عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا أَكَلَ
أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ
عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ
السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ).

(رواه البخاري: ٢٠٤٢)

Fawaaid: Ma'aash ke bunyaadi zaraaye' teen hain zaraa'at tejaarat aur sana't wa hurfat ba'z ne tijaarat ko afzal kaha hai aur ba'z ne zara'at ko behtar qaraar diya hai bahar soorat jo kamaayi insaan ke haath se haasil ho use hadees mein behtar aur paakizah qaraar diya gaya. (Awnul Baari:3/22)

Baab 11: Khareed wa farokht mein narmi aur kushaadah dili.

994: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya Allah Ta'ala uss shakhs par raham farmaye jo bechte, khareedte aur taqaaza karte waqt narmi aur kushaadah dili se kaam le.

(Bukhari:2076)

١١ - باب: السُّهُولَةُ وَالسَّمَاخَةُ فِي
الشَّرَاءِ وَالْبَيْعِ

٩٩٤ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
(رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا
اشْتَرَى، وَإِذَا افْتَضَى).

(رواه البخاري: ٢٠٤٦)

Fawaaid: Ek rivaayat mein hai ke huqooq ki adaayegi ke waqt bhi khush dili ka muzaaharah kare isse maloom huwa ke muaa'mlaat mein khandah peshani aur kushaadah rawi se pesh aana chaahiye neez tang dili aur khud gharzi se ijtenaab karna chaahiye. (Awnul Baari:3/23)

Baab 12: Jis shakhs ne maaldaar ko bhi mohlat de di.

995: Hazrat Huzaifah ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke pahle zamaanah mein farishton ne ek shakhs ki rooh se mulaqaat kar ke poochha kiya toone koyi nek kaam kiya hai? uss ne kaha main apne mulaazemeen ko yeh hukm deta tha ke woh tang dast ko adaayegi mein mohlat den aur maaldaar se narmi karen to

١٢ - باب: مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا
٩٩٥ : عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (تَلَقَّتِ الْمَلَائِكَةُ
رُوحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ،
قَالُوا: أَعْمَلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا؟ قَالَ:
كُنْتُ أَمُرُّ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظَرُوا الْمُعْسِرَ

Allah ne bhi mujh se narmi ikhtiyaar farmayi.
(Bukhari:2078)

وَيَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُوسِرِ، فَتَجَاوَزَ اللَّهُ
عَنَّهُ. (رواه البخاري: ٢٠٤٨)

Fawaaid:Qarz daar agharcheh maaldaar hi kyun na ho taa hum uss par sakhti nahin karna chaahiye agar woh mazed mohlat talab skare to khush dili ke saath use mohlat de di jaaye agarcheh maaldaar ki ta'reef mein bahut ihtelaaf hai taa hum urf aam ke mutaabiq jo bhi maaldaar ho uske saath achchha bartaaw karna chaahiye.(Awnul Baari:3/24)

Baab 13: Jab Baay'e aur Mushtari donon aib wa hunar bayaan kar den aur ek doosre ki behtari chaahein.

996:Hazrat Hakeem bin Hizaam ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya baay'e aur mushtari donon ko ikhtiyaar hai jab tak juda na hon ya yeh farmaya ke yahaan tak ke alaaheidah hon agar woh donon sach bolen aur aib wa hunar zaahir kar den to unhen unki uss tejaarat mein barkat di jaayegi aur agar jhoot bolen ya aib chhupaayen to bai' ki barkat door kardi jaayegi. (Bukhari:2079)

١٣ - باب: إِذَا بَيَّنَّ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ

يَكْتُمَا وَنَصَحَا

٩٩٦ : عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
(الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ قَالَ:
حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُرُوكَ
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا
مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا).

(رواه البخاري: ٢٠٤٩)

Fawaaid:A'laahidah hone se muraad majlis se idhar udhar chale jaana hai khud raavi-e-hadees hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se yahi tafseer manqool (hadees 2107) hai ba'z ne baat cheet khatam kardeni muraad liya hai jo zaahir ke khilaaf hai.(Awnul Baari:3/26)

Baab 14: Khujooron ki mukhtalif aqsaam ko milaakar bechna.

997:Hazrat Abu Say'eed Khudri ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke hamen har qism ki mili juli khujooren mila karti thin to hum unke do saa' umdah khujoor ka ek saa' kujoor ke e'awaz bech daalte the uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya do saa' khujoor ke e'waz farokht karna durst nahin aur na hi do dirham ek dirham ke e'waz farokht karna jaayez hai.(Bukhari:2080)

١٤ : باب: بَيْعُ الْخِلْطِ مِنَ التَّمْرِ

٩٩٤ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ، وَهُوَ
الْخِلْطُ مِنَ التَّمْرِ، وَكُنَّا نَبِيعُ صَاعِينَ
بِصَاعٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا صَاعِينَ
بِصَاعٍ، وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ).

(رواه البخاري: ٢٠٨٠)

Fawaaid:Yeh hukm tamaam ashya khurdani ka hai jab ek jins ka baahami sauda kiya jaaye to kami beshi aur udhaar jaayez nahin hai. (Awnul Baari:3/27)

Baab 15: Sood adaa karne waala.

998:Hazrat Juhaifah ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mere saamne mere baap ne ek ghulaam khareeda jo puchhne lagaata tha unhon ne uski singyaan tod den main ne uski wajah poochhi to kaha Rasoolullah ﷺ ne kutte

١٥ - باب: مُوَكَّلُ الرَّبَا

٩٩٨ : عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَنَّهُ اشْتَرَى عَبْدًا حَرَامًا فَأَمَرَ
بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ

aur khoon ki qeemat lene se mana farmaya hai aur godne aur gudwaane waale neez sood lene aur dene waale ke fel (kaam) se bhi mana kiya aur mosawwir par aap ne la'nat farmaayi hai. (Bukhari:2086)

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الدَّمِّ، وَنَهَى عَنِ الْوَأْشِمَةِ وَالْمَوْشُومَةِ، وَآكِلِ الرَّبَا وَمُوكِلِهِ، وَلَعْنِ الْمُصَوِّرِ.

(رواه البخاري: ٢٠٨٦)

Fawaaid: Jaandaar cheezon ki tasweer kashi haraam hai tasweer khaah aksi ho ya mujassam albattah be jaan cheezon ki tasweer banaane mein koyi harj nahin hai. masalan darakht, pahaad ya darya waghairah kyun ke jaandaar ki tasweer fitne ka baay'is hai. (Awnul Baari:3/29)

Baab 16: Irshaad-e-Baari Ta'ala "Allah Ta'ala sood mitaata hai aur sadqaat ko badhaata hai"

999: Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmaate suna ke jhooti qasam khaane se go maal farokht ho jaata hai lekin woh barkat ko khatm kar deti hai. (Bukhari:2087)

١٦ - باب: يَمَحِقُ اللَّهُ الرَّبَا وَيُرِيي الصَّدَقَاتِ

٩٩٩ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (الْحَلِيفُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ، مَمْحَقَةٌ لِلْبُرْكَاتِ). (رواه البخاري: ٢٠٨٧)

Fawaaid: Jis tarah jhooti qasam uthhane se sauda gar ko khair wa barkat se mahroom kar diya jaata hai isi tarah soodi kaaro baar karne waale ki barkat ko uthha liya jaata hai agarcheh bazaahir sood lene waale ki raqam ziyaadah ho jaati hai lekin nateejah ke lehaaz se dunya wa aakhirat mein nuqsan hota hai. (Awnul Baari:3/30)

Baab 17: Lohaar ke peshe ka bayaan.

1000: Hazrat Khabbaab ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main zamaanah jaahiliyyat mein lohaar tha aur Aas bin Waayel ke zimma mera kuchh qarz tha main uske paas apne qarz ka taqaazah kar ne ke liye aaya to uss ne kaha jab tak tu Muhammad ﷺ ki nabuwwat se inkaar nahin karega uss waqt tak tera qarz nahin dunga main ne kaha agar Allah tujhe maut de de aur marne ke ba'd phir zindah kare to bhi Muhaamad ﷺ ki nabuwwat se inkaar nahin karunga uss ne kaha phir to mujhe chhod de taake main marun aur phir zindah kiya jaoon kyun ke phir mujhe maal bhi milega aur aulaad bhi phir tumhaara qarzah adaa kardunga uss waqt yeh aayat naazil huyin.

١٧ - باب: ذِكْرُ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ ١٠٠٠ : عَنْ خَبَّابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ، فَاتَيْتُهُ أَنْقَاضَهُ، فَقَالَ: لَا أُعْطِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ. فَقُلْتُ: لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ حَتَّى يُمِيتَكَ اللَّهُ ثُمَّ تُبْعَثَ. فَقَالَ: دَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ وَأُبْعَثَ، فَسَأَوْتَنِي مَا لَأَوْ تَبْنَ مَا لَأَوْ وَوَلَدًا فَأَقْضِيكَ فَنَزَلَتْ: ﴿أَفْرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَا لَأَوْ وَلَدًا ۖ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾.

(رواه البخاري: ٢٠٩١)

"Aye Nabi! kiya aap ne uss shakhs ko dekha jo hamaari aayaat ka inkaar karta hai aur kahta hai ke marne ke ba'd zindah hone par mujhe maal aur

aulaad milegi kiya use ghaib ki ittela' ho gayi hai
ya Allah se uss ne koyi ahad liya hai"

(Bukhari:2091)

Fawaaid: Iss hadees se maqsood lohaar aur uske peshe ka tazkerah hai ke Rasoolullah ﷺ ke ahad mubaarak mein yeh pesha maujood tha aur yeh pesha ikhtiyaar karne mein koyi harj nahin hai. (Awnul Baari:3/32)

Baab 18: Darzi ka tazkerah.

1001: Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke ek darzi ne Rasoolullah ﷺ ke liye khaana tayyaar kiya aur tanaawul farmaane ki da'wat di main bhi Rasoolullah ﷺ ke hamraah gaya uss ne aap ke saamne roti, kaddu ka shorba aur sookha gosht rakkha main ne Rasoolullah ﷺ ko piyaale ke idher udher se kaddu ko dhoondte dekha lehaaza main uss din se kaddu ko bahut pasand karta hoon. (Bukhari:2092)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ko gosht mein paka huwa kaddu bahut mar'ghoob tha waise yeh ek umdah tarkaari hai aur tibbi lehaaz se bhi bahut faayidah mand hai, Bukhar, Khfaqaan, Qabz aur bawaaseer ke liye mufeed hai neez maane' khushki wa haraarath hai.

Baab 19: Jaanwaron aur gad, hon ki khareed wa farokht.

1002: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main kisi jehaad mein Rasoolullah ﷺ ke saath tha mere oont ne chalne mein susti ki aur thak gaya Rasoolullah ﷺ mere paas tashreef laaye aur farmaya aye Jabir رضي الله عنه! main ne arz kiya: Haazir hoon farmaya: kiya haal hai? main ne arz kiya: mera oont chalne mein susti karta hai aur thak bhi gaya hai iss liye peechhe rah gaya hoon phir aap utre aur use apni laathhi se maar kar farmaya: ab sawaar ho jao! chunaancheh main sawaar ho gaya phir to oont aisa tez ho gaya ke main use Rasoolullah ﷺ ke baraabar hone se rokta tha phir aapne poochha: kiya tum

١٨ - باب: ذِكْرُ الْخِيَّاطِ

١٠٠١ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (قَالَ): إِنَّ خِيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ لَطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حُبْزًا وَمَرَقًا، فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَّبِعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي الْقِصْعَةِ، قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

(رواه البخاري: ٢٠٩٢)

١٩ - باب: شِرَاءُ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيرِ

١٠٠٢ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ، فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِي وَأَعْيَا، فَآتَى عَلِيَّ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: (جَابِرُ؟). فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (مَا شَأْنُكَ؟). قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلِيَّ جَمَلِي وَأَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ، فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمَحْجِنِهِ، ثُمَّ قَالَ: (ارْكَبْ). فَرَكَبْتُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَكْفَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (تَزَوَّجْتَ؟). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (بُكَرًا أَمْ نَيْبًا؟). قُلْتُ: بَلْ نَيْبًا، قَالَ:

ne nikaah kiya hai? main ne arz kiya haan: aap ne farmaya: do sheezah se ya shauhar deedah se? main ne arz kiya bewah se, aap ne farmaya: nou umr se kyun nahin kiya? tum usse dil lagi karte woh tum se khush tabayi se pesh aati main ne arz kiya ke meri bahut si bahnein hain iss liye main ne ek aisi aurat se nikaah karna chaaha jo unko ekhatta kare, unke kanghi kare aur unki khabar geeri bhi karti rahe aap ne farmaya achchha ab tum jaa rahe ho jab apne ghar pahuncho to aql wa ehtiyaat se kaam lena phir farmaya kiya tum apna ount bechte ho? main ne arz kiya: ji haan! aap ne ek oqyah ke e'waz mujh se khareed liya phir aap mujh se pahle Madinah pahunch gaye aur main subah ko pahuncha hum log masjid ki taraf gaye to aap ko main ne masjid ke darwaaze par paaya aap ne poochha kiya tum abhi aa rahe ho main ne arz kiya ji haan! aap ne farmaya: tum apna ount yaheen chhod kar masjid mein jao aur do raka't namaaz padho chunaancheh main ne masjid ke ander do raka't namaaz padhi aap ne hazrat Bilaal ؓ ko hukm diya ke woh mujhe ek woqyah chaandi mujhe de chunaancheh Billaal ؓ ne jhukaau ke saath ek oqyah chaandi taul di phir main waapas gaya aur jab main ne peethh pheri to aap ne farmaya ke Jaabir ؓ ko mere paas bulaaon main ne dil mein socha ke ab mera ount mujhe waapas kar diya jaayega aur mujhe yeh baat bahut hi naa pasand thi aap ne farmaya: tum ount bhi le lo aur uski qeemat bhi le jao. (Bukhari:2097)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke aadmi khaah ketna hi bada ho aur uske khidmat gaar bhi hon use apni zarooriyaat khud khareedne mein aa'r nahin honi chaahiye Rasoolullah ؐ ki sunnat par amal karna hi baayi'ise khair wa barkat hai. (Awnul Baari:3/38)

Baab 20: Piyaas ki bimaari mein mubtala ounton ki khareed wa farokht.

1003: Hazrat Ibne Umar رضى الله عنهما se rivaayat hai unhon ne ek shakhs se piyaas ki bimaari mein mubtala ount khareed liye, uss aadmi

(أَفَلَا جَارِيَةٌ تَلَاعِبُهَا وَتَلَاعِبُكَ؟) قُلْتُ: إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمَشِطُهُنَّ، فَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ: (أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَلْكَيسَ الْكَيْسِ). ثُمَّ قَالَ: (اتَّبِعْ جَمَلَكَ؟). قُلْتُ: نَعَمْ، فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِأَوْقِيَّةٍ، ثُمَّ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَبْلِي، وَقَدِمْتُ بِالْعِدَاةِ، فَجِئْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، قَالَ: (الآنَ قَدِمْتُ؟). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (فَدَعُ جَمَلَكَ، وَادْخُلْ، فَصَلِّ رُكْعَتَيْنِ). فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ، فَأَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَبْرِنَ لِي أُوقِيَّةً، فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَأَرْجَحَ فِي الْمِيزَانِ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى وَلَّيْتُ، فَقَالَ: (ادْعُ لِي جَابِرًا). فَقُلْتُ: (الآنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ، وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْهُ، قَالَ: (خُذْ جَمَلَكَ وَلكَ ثَمَنُهُ). (رواه البخاري: ٢٠٩٤)

٢٠ - باب: شِراءُ الإبلِ الهميمِ
١٠٠٣ : عَنْ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ اشْتَرَى إِبِلًا هِيمًا مِنْ رَجُلٍ

ka ek shareek tha woh hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما ke paas aaya aur kahne laga mere shareek ne aap ko pet ki bimaari mein mubtala oont bech diye hain woh Aapko jaanta na tha. aap ne farmaya oont haank kar le jaao, jab woh haankne laga to farmaya unhen chhod do hum Rasoolullah ﷺ ke faisla par raazi hain ke ek ka marz doosre ko nahin lagta.(Bukhari:2099)

وَلَهُ فِيهَا شَرِيكٌ، فَجَاءَ شَرِيكُهُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ شَرِيكِي بِاعَكَ إِبْلَاهِيْمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ. قَالَ: فَاسْتَقْفَهَا، (قَالَ:): فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَقْفَهَا، قَالَ: دَعَهَا، رَضِينَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (لَا عُدْوَى).

(رواه البخاري: ٢٠٩٩)

Fawaaid:Iss hadees se a'ib daar cheez ki khareed wa farokht ka suboot milta hai bashar taik bechne waala iski wazaahat kar de aur lene waala use qubool kare agar wazaahat muaa'mlah tai karne ke ba'd ki jaaye to lene waale ko ikhtiyaar hai use le ya waapas kar de. (Awnul Baari:3/40)

Baab 21: Singi lagaane waale ka tazkirah.

1004: Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne bayaan kiya ke Abu Taybah رضي الله عنه ne Rasoolullah ﷺ ke singi lagaayi, aap ne use ek saa' khujoorein dene ka hukm diya aur uske malik ko hukm diya ke uske kharaaj mein kami karen.(Bukhari:2102)

٢١ - باب: ذِكْرُ الْحَجَّامِ

١٠٠٣: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَّمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَفِّفُوا مِنْ خَرَجِهِ.

(رواه البخاري: ٢١٠٢)

Fawaaid:Saabit huwa ke singi lagaane ka kaaro baar jaayez hai aur iski ujrat lene mein bhi koyi muzaayiqah nahin hai agarcheh iss kaam se aa'm insaan ko ghin aati hai taa hum iske jaayez hone mein koyi shak nahin. (Awnul Baari:3/41)

1005: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke ek dafa Rasoolullah ﷺ ne singi lag waayi aur lagaane waale ko ujrat di agar yeh mazdoori haraam hoti to aap na dete. (Bukhari:2103)

١٠٠٥: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: احْتَجَّمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَّمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. (رواه البخاري: ٢١٠٣)

Baab 22: Baab aisi cheezon ki tijaarat jin ki kamaayi durst nahin.

1006: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne aisa takyah khareeda jis mein tasweeren thin. jab Rasoolullah ﷺ ne use dekha to darwaaze par khade ho gaye ander tashreef na laaye. main ne arz kiya aye Allah ke Rasool ﷺ! main Allah aur uske Rasool ki taraf ruju' karti hoon mujh se kiya gunaah sarzad huwa hai? Rasoolullah ﷺ ne farmaya

٢٢ - باب: التَّجَارَةُ فِيْمَا يُكْرَهُ كَسْبُهُ
١٠٠٦: عَنْ عَائِشَةَ (أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نَمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرٌ، فَلَمَّا رَأَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، قَالَتْ: فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكِرَاهَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اتُّوبُ إِلَى اللَّهِ

yeh takyah kaisa hai? main ne arz kiya main ne yeh aap ke liye khareeda hai take aap iss par tek laga kar baithhen, aap ne farmaya yeh tasweeren banaane waale qiyaamat ke din azaab deiyee jaayenge aur un se kaha jaa yega jo sooraten tum ne banaayi thin unko zindah karo aur aap ne farmaya jis ghar mein tasweeren hon, us ghar mein farishte daakhil nahin hote. (Bukhari:2105)

وَأَلَى رَسُولِهِ [عَلَيْهِ]، مَاذَا أَدْنَبْتُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا بَالَ هَذِهِ
النَّمْرُقَةِ؟). قُلْتُ: اشْتَرَيْتَهَا لَكَ
لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا، فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ، فَيَقَالُ لَهُمْ:
أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ). وَقَالَ: (إِنَّ الْبَيْتَ
الَّذِي فِيهِ الصُّورُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ).

(رواه البخاري: ٢١٠٥)

Fawaaid: Foto grafi har qism ki haraam hai khaah a'ksi ho ya mojassam, diwaar par bnaayi jaaye ya kapde par naqsh ho yeh way'eed sirf banaane waale ke liye nahin balke iste'maal karne waale ko bhi shaamil hai. (Awnul Baari:3/44)

Baab 23: Jab koyi shakhs kisi cheez ko khareede aur baaye' mushtari ke juda juda hone se pahle usi waqt kisi ko hibah karde.

1007: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum kisi safar mein Rasoolullah ﷺ ke hamraah the aur main hazrat Umar ﷺ ke ek sarkash ount par sawaar tha woh ount mere qaabu na aata tha aur sab se aage badh jaata tha hazrat Umar ﷺ use daant kar peechhe kar dete magar woh phir aage ho jaata tha hazrat Umar ﷺ phir use daant kar peechhe kar dete Rasoolullah ﷺ ne hazrat Umar ﷺ se farmaya ise mere haath farokht kar do unhon ne arz kiya woh aap hi ka hai Rasoolullah ﷺ ne farmaya nahin tum ise mere haath farokht kar do chunaancheh unhon ne woh ount Rasoolullah ﷺ ko farokht kar diya phir Rasoolullah ﷺ ne farmaya Aye Abdullah bin Umar رضي الله عنهما! yeh ount tumhaara hi hai isko jo chaaho karo.

(Bukhari:2115)

٢٣ - باب: إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا
فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
١٠٠٧ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي
سَفَرٍ، فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ،
فَكَانَ يَغْلِبُنِي فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ،
فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ،
فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
لِعُمَرَ: (بِعْنِيهِ) فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ: (بِعْنِيهِ) فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هُوَ لَكَ يَا
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ).

(رواه البخاري: ٢١١٥)

Fawaaid: Imam Bukhari ka matlab yeh hai ke agar kharidaar ne sauda tai karte waqt hi khareedi huyi cheez mein tasarruf kiya aur bechne waala uss par mo'tariz nahin huwa to uske khaamoosh rahne se khiyaar-e-majlis khatm ho jaata hai. (Awnul Baari:3/45)

Baab 24: Khareed wa fareb mein fareb kaari aur dhoka dahi naa jaayez hai.

1008: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke ek shakhs ne Rasoolullah ﷺ se arz kiya ke uske saath aksar khareed wa farokht mein dhoka wa fareb kiya jaata hai aap ne farmaya khareedte beechte waqt kah diya karo ke dhoka fareb ka koyi kaam nahin?.

(Bukhari:2117)

Fawaaid:Baihaqi ki ek rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ke talqeen kardah alfaaz ke iste'maal par use teen din tak ikhtiyaar rahta tha iska matlab yeh hai ke iss qism ke alfaaz iste'maal karne se khareedaar ko bai' faskh karne ka ikhtiyaar mil jaata hai.(Awnul Baari:3/49)

Baab 25: Baazaaron ki nisbat kiya kaha gaya hai?

1009: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke ek lashkar Ka'ba par chadaayi ke iraadah se aayega jab woh maqaam-e-baida mein pahunchega to wahaan sab awwal se aakhir tak zameen mein dhans jaayenge hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmaati hain ke main ne kaha ya Rasoolallah ﷺ! sab log kis tarah dhans jaayenge? haalaanke un mein baazaari log aur ghair jangi aadmi honge aap ne farmaya sab log dhans jaayenge magar unka hashr unki niyyat ke mutaabiq hoga.

(Bukhari:2118)

1010: Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat

Fawaaid:Iss baab ka maqsad yeh hai ke ek hadees ke mutaabiq baazaar agar cheh zameen ka bura khittah hai kyun ke un mein shor wa ghul aur bila wajah gaali ghulooch aur ladaayi jhagda hota rahta hai taa hum ashraaf wa fuzlaa ke wahaan jaane aur kaaro baar karne mein koyi harj nahin hai iss hadees se yeh bhi maloom huwa ke ahle shar aur fitnah parwar logon ke saath mel milaap rakhna khud apni tabaahi ka pesh kheema hai.

hai unhon ne farmaya ke ek din Rasoolullah ﷺ baazaar gaye to ek shakhs ne pukaara Aye Abul Qasim! aap ne uski taraf dekha to usne kaha main ne fulaan shakhs ko pukaara jis par Rasoolullah ﷺ ne farmaya mere naam par naam to rakh liya karo lekin meri kunniyat par apni kunniyat na rakkha karo.

(Bukhari:2120)

۲۴- باب: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِي الْبَيْعِ
۱۰۰۸: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ). (رواه البخاري: ۲۱۱۷)

۲۵- باب: مَا ذُكِرَ فِي الْأَسْوَاقِ
۱۰۰۹: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَغْزُوا جَيْشُ الْكُفَّةِ، فَإِذَا كَانُوا بِيَدَاءِ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ). قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَاقُهُمْ، وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: (يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ).

(رواه البخاري: ۲۱۱۸)

۱۰۱۰: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَاتَّفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكُونُوا بِكُنْيَتِي).

(رواه البخاري: ٢١٢٠)

Fawaaid: Bukhari ki doosri rivaayat se maloom hota hai ke yeh baazaar Baqi' mein tha neez iss hadees se Rasoolullah ﷺ ka baazaar jaana saabit huwa jo shaan-e- resaalt aur mansab-e-imamat ke khelaaf nahin jaisa ke kaafir Rasoolullah ﷺ par e'teraaz karte the.

1011: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ din ke waqt ek taraf nikle magar na aap mujh se baaten karte aur na main aap se koyi baat karta tha hatta ke aap bani qainuqa' ke baazaar mein pahunch gaye aur hazrat Faatimah رضي الله عنها ke makaan ke sehan mein baith gaye aur farmaya ke kiya yahaan koyi bachcha hai? kiya idhar koyi nannha hai? Hazrat Faatimah رضي الله عنها ne use kuchh der roke rakkha main ne khayaal kiya ke woh unhein haar waghairah pahna rahi hain ya use nahla rahi hain phir woh (Hazrat Hasan رضي الله عنه) daudte huye aaye Rasoolullah ﷺ ne use gale lagaya aur use piyaar kiya phir farmaya Aye Allah! tu isse mohabbat kar aur jo iss se mohabbat kare usse bhi mohabbat farmay.

(Bukhari:2122)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein wazaahat hai ke Rasoolullah ﷺ baazaar banu Qainuqa' se waapas aaye phir hazrat Faatimah رضي الله عنها ke ghar daakhil huye yeh wazaahat iss liye ki gayi hai ke baazaar banu Qainuqa' mein hazrat Faatimah رضي الله عنها ka ghar nahin tha.

1012: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ke zamaana mein log ahle Qaafilah se ghallah khareed lete aap kisi aise shakhs ko unke paas bhej dete jo unko khareedari ki jagah ghallah bechne se mana karta yahaan tak ke use mandi mein pahunchaa den jahaan farokht hota hai. Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما ne yeh bhi kaha ke Rasoolullah ﷺ ne mana farmaya tha ke ghallah jis waqt khareeda jaaye usi waqt wahin farokht kar diya jaaye yahaan tak ke uss par poora poora qabzah na kar liya jaaye. (Bukhari:2123,2124)

Fawaaid: Iss hadees mein agarcheh baazaar ki saraahat nahin hai lekin aksar taur par ghallah waghairah baazaar aur mandi mein hi farokht hota hai iss liye baazaar jaane ka jawaaz saabit huwa isse yeh bhi maloom huwa ke khareedi huyi cheez ko qabzah se pahle farokht karna durst nahin hai.

١٠١١ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [الدُّوسِيِّ] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ، لَا يُكَلِّمُنِي وَلَا أُكَلِّمُهُ، حَتَّى أَتَى سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ، فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالَ: (أَتَمُّ لُكْعٍ، أَتَمُّ لُكْعٍ؟) فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا، فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تُلْبِسُهُ سَخَابًا أَوْ تَغْسِلُهُ، فَجَاءَ يَسْتَنْدُ حَتَّى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ، وَقَالَ: (اللَّهُمَّ أَحْبِبْهُ وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ).

(رواه البخاري: ٢١٢٢)

١٠١٢ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ طَعَامًا مِنَ الرُّكْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فَيَبِعُهُ إِلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حَتَّى يَقْلُوهُ حَيْثُ يَبِيعُ الطَّعَامَ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ إِذَا اشْتَرَاهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

(رواه البخاري: ٢١٢٣، ٢١٢٤)

Baab 26: Bazaar mein shor wa ghul karna makrooh hai

1013: Hazrat Abdullah bin Amr bin Aas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke un se Rasoolullah ﷺ ke woh ausaaf poochhe gaye jo tauraat mein hain unhon ne farmaya Allah ki qasam! Aap ki ba'z sifaat tauraat mein wahi hain jo qura'n kareem mein bayaan huyi hain (toraat mein iss qism ka mazmoon hai) Aye Nabi ﷺ! hum ne aap ko gawaahi dene waala, khush kharbi sunaane waale, Daraane waala aur ummiyon ki nigahbaani karne waala banaa kar bheja hai tu mera bandah aur mera Rasool hai main ne tera naam motawakkal rakkha hai na tu badkholq hai aur na sangdil aur na baazaaron mein shor wa ghul karne waala hai aur na hi buraayi ka badlah buraayi se deta hai lekin dar guzar aur meharbaani karta hai Allah Ta'ala usko uss waqt tak hargiz maut nahin dega jab tak ke uske zariye ek kajr qaum ko seedha na kar de bayin taur ke woh لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ kahne lagein aur uske zariye naa bina aankhein beena ho jaayen aur bahre kaan khol diye jaayen aur bastah dil aagaah kiye jaayen. (Bukhari:2125)

Fawaaid: Iss se baazaari logon ki muzammat bhi saabit hoti hai jo baazaar mein apni cheez ki tareef aur doosron ki buraayi karte hain, jhooti qasmen uthhate hain ghaaliban inhi mazmoom ausaaf ki benaa par baazaaron ko bad tareen khat qaraar diya gaya hai. (Awnul Baari:3/57)

Baab 27: Naap taul karna bechne waale aur dene waale ke zimma hai.

1014: Hazrat Jaabir رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mere walid Hazrat Abdullah bin Amr bin Hazm رضي الله عنه ne jab wafaat paayi to un par kuchh qarz tha lehaazar main ne Rasoolullah ﷺ se sefaarish karaayi ke qarz khaah kuchh maaf karden Rasoolullah ﷺ ne un logon se uss ke liye sefaarish ki lekin unhon ne manzoor na kiya tab Rasoolullah ﷺ ne mujh se farmaya apni khujooron ko chhaant kar har qism alaahidah alaahidah kar lo Ajwah aur Azq zaid alag kar ke mujhe

٢٦ - باب: كَرَاهِيَةُ السَّخَبِ فِي السُّوقِ
١٠١٣ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ
صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوْرَةِ،
قَالَ: أَجَلٌ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي
التَّوْرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ:
﴿يَسْأَلُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾. وَحِرْزًا لِلْأُمِّيِّينَ،
أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمَّيْتِكَ
الْمُتَوَكَّلَ، لَيْسَ بَفِظٍ وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا
سَخَابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ
بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ، وَلَكِنْ يَعْفُو وَ
يَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ
الْمِثْلَةَ الْعَوْجَاءِ، بَأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ، وَيَفْتَحَ بِهَا أَعْيُنًا عَمِيًّا، وَ
أَذَانًا صَمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا.

(رواه البخاري: ٢١٢٥)

٢٧ - باب: الْكَيْلُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِي
١٠١٣ : عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: تُوَفِّي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ
حَرَامٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَعَلَيْهِ
دَيْنٌ، فَاسْتَعْنَتْ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى
غُرْمَائِهِ أَنْ يَضْعُوا مِنْ دَيْنِهِ، فَطَلَبَ النَّبِيُّ
ﷺ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوا، فَقَالَ لِي
النَّبِيُّ ﷺ: (إِذَا هَبَّ فَصَنَّفَ تَمَرَكَ
أَصْنَافًا، الْعُجْوَةَ عَلَى حِدَةٍ، ثُمَّ أُرْسِلَ

ettela' dena chunaancheh main ne yahi kiya aur Rasoolullah ﷺ ko bulwa bheja aap tashreef laaye aur khujooron ke dher ke darmiyaan baithh gaye aur mujhe farmaya ke qarz khaahon ko naap naap kar do main ne naap kar sab ke hisse poore kardiye phir bhi iss qadar khujooerein baaqi rahin jaise un se kuchh bhi kam na huwa ho.(Bukhari:2127)

إِلَيَّ). فَفَعَلْتُ، ثُمَّ أَرْسَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَجَلَسَ عَلَيَّ أَعْلَاهُ أَوْ فِي وَسْطِهِ، ثُمَّ قَالَ: (كُلِّ لِلْقَوْمِ). فَكَلْتُهُمْ حَتَّى أَوْفَيْتُهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَبَقِيَ تَمْرِي كَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ.

(رواه البخاري: ٢١٢٤)

Fawaaid: Hazrat Jaabir ؓ chunke qarz utarne ke liye khujooein de rahe the iss liye naap taul unhi ki zimme daari thi iss se maloom huwa ke dene waala khaah bechne waala ho ya qarz utarne waala naap taul uske zimmah hai. (Awnul Baari:3/60)

Baab 28: Ghalle waghairah ka naapna mustahab hai.

1015: Hazrat Miqdaam bin Ma'd Yakrib ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya ghallah naap kar liya karo usse tumhen barkat haasil hogi. (Bukhari:2128)

٢٨ - باب: مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ
١٠١٥: عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يَكْرِبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ).

(رواه البخاري: ٢١٢٨)

Fawaaid: Yeh hukm uss waqt hai jab ghallah khareeda jaaye aur apne ghar laaya jaaye lekin kharch karte waqt wazan karte rahna uski barkat ko khatm karne ke mutaraadif hai jaisa ke Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ka bayaan hai ke mere paas kuchh jau the jinhein main ek muddat tak iste'maal karti rahi aakhir main ne ek din unka wazan kiya to woh khatm ho gaye.

(Awnul Baari:3/61)

Baab 29: Rasoolullah ﷺ ka saa' aur mud baa barkat hai.

1016: Hazrat Abdullah bin Zaid ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya hazrat Ibraheem ؑ ne jis tarah Makkah ko haram qaraar diya aur uske liye du'a farmaayi usi tarah Madinah ko haram qaraar deta hoon aur main ne Madinah ke mud aur saa' mein barkat ki du'a ki jis tarah hazrat Ibraheem ؑ ne Makkah ke liye du'a ki thi.

(Bukhari:2129)

٢٩ - باب: بَرَكَةُ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُدِّهِ
٢١١٦: عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لَهَا، وَحَرَّمَتْ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَدَعَا لَهَا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِمَكَّةَ).

(رواه البخاري: ٢١٢٩)

Fawaaid: Iss baab ka matlab yeh maloom hota hai ke saabqah hadees mein jo ghallah ki khair wa barkat ka zikr hai woh usi soorat mein mumkin hai jab use ahle Madinah ke mud aur saa' se naap taul kiya jaaye. (Awnul Baari:3/62)

Note:- Ek saa' hejaazi mein $\frac{1}{3}$ ratal hote hain mukhtalif fuqhaa ki tasreeh ke mutaabiq ek ratal nawe misqaal ka hota hai iss hisaab ke kutaabiq ek saa' ke 480 misqaal huye ek masqaal $\frac{1}{2}$ maashah ka hota hai iss tarah 480 misqaal ke do hazaar ek so saath maashe huye chunke ek tolah mein baarah maashe hote hain lehaazah baarah par taqseem karne se ek sa' hejaazi ka wazan 180 tolah banta hai jadeed a'ashaari nezaam ke mutaabiq teen

..... teen tolah ke 35gm hote hain isi hisaab se 180 tola wazan ke 2100gm bante hain y'ani saa' hejaazi ka wazan 2kilo 100gm hai puraane wazan ke mutaabiq do ser chaar chhataang hai ba'z hazraat ke nazdeek saa' hejaazi ka wazan do ser das chhataang teen tolah chaar maashah taqreeban paune teen seir raayijul waqt taqreeban adhaayi kilo hai wallahu a'lam.

Baab 30: Ghallah bechne aur uske zakheerah karne ke muta'alliq kiya bayaan kiya jaata hai.

1017: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke zamaanah mein jo log takhmeene se ghallah bechte the unhein main ne pit te huye dekha yahaan tak ke woh uss par qabzah kar ke apne gharon mein le aayen phir farokht karen. (Bukhari:2131)

Fawaaid: Ehtekaar, zakheerah andozi ko kahte hain yeh uss waqt mana hai jab logon ko ghalle ki zaroorat ho to mazeed mahgaayi ke intezaar mein use market mein na laaya jaaye agar market mein ghalla dastiyaab hai to zakheerah andozi mana nahin hai. muslim mein hai ke zakheerah andozi wahi karta hai jo khata kaar hota hai imam Bukhari ka rujhaan ehtekaar ke jawaaz ki taraf ma'loom hota hai yeh bhi saabit huwa ke khareedi huyi cheez par qabzah kiye baghair use farokht karna jaayez nahin hai.

1018: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne mana farmaya ke koyi shakhs ghalla ko uss par qabzah karne se pahle farokht kare hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se daryaaft kiya gaya aisa kyun hai? unhon ne farmaya yeh to aisa hi hai jaise rupya , rupya ke badle farokht kiya jaaye aur ghallah udhaar goya ek shakhs ne ghalla khareeda jo maujood na tha (kyun ke takmeel-e-Mulk baghair qabzah ke nahin hoti. (Bukhri: 2132)

Fawaaid: Iski soorat yoon hogi ke ek aadmi ne koyi cheez 20 rupe mein khareedi aur raqam adaa kar di lekin cheez par qabzah karne se pahle maalik ko hi 30 rupe mein farokht kar di ab goya 20 rupe ko 30 rupe ke e'waz diya hai jo saraahatan sood hai aur uss cheez ko to darmiyaan mein bataur bahaana aur heela iste'maal kiya gaya hai. (Awnul Baari:3/64)

1019: Hazrat Umar bin Khattaab رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya sona sone ke e'waz farokht karna sood hai magar jab ke dast badast ho to durust hai aur gehoon ke e'waz gehoon farokht karna sood hai lekin dast badast ho to jaayez hai iss tarah kujooron ke e'waz khujooron aur jau ke e'waz jau farokht karna sood hai lekin dast

٣٠- باب: مَا يَذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحِكْرَةِ
١٠١٧: عَنْ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا، قَالَ: رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبْعُوهُ حَتَّى
يُؤْوُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ.
(رواه البخاري: ٢١٣١)

١٠١٨: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: أَنَّ بَيْعَ الرَّجُلِ طَعَامًا حَتَّى
يَسْتَوْفِيَهُ. قِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ
ذَاكَ؟ قَالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بَدْرَاهِمٍ،
وَالطَّعَامُ مُرَجَأٌ.
(رواه البخاري: ٢١٣٢)

١٠١٩ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ
ﷺ قَالَ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا لِالْأَهَاءِ
وَهَاءِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا لِالْأَهَاءِ
وَهَاءِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا لِالْأَهَاءِ وَهَاءِ
وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا لِالْأَهَاءِ

badast ho to jaayez hai. (Bukhari:2134)

وَهَاءَ). (رواه البخاري: ٢١٣٢)

Fawaaid: Iska matlab yeh hai ke badlain par tarfain se qabzah zaroori hai basoorat deegar sood ka itlaaq hoga neez yeh bhi maloom huwa ke jau aur gandum do alag alag ajnaas hain. (Awnul Baari:3/65)

Baab 31: Koyi aadmi apne bhaayi ki bai' par bai' na kare aur na hi uski qeemat par qeemat lagaaye yahaan tak ke woh ijaazat de ya use chhod de.

1020: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne mana farmaya hai ke koyi maqaami kisi bairooni ke liye farokht kare aur na koyi dhoka dene ke liye qeemat badhaaye aur na hi koyi shakhs ek bhaayi ki bai' par bai' kare aur na hi apne bhaayi ki mangni par mangni ka paighaam bheje aur na koyi aurat apni bahan ki talaq ki khaahish kare iss niyyat se ke uss ke munh ka newaalah uske munh mein pad jaaye. (Bukhari:2140)

Fawaaid: Koyi maqaami kisi baahar se aane waale ke liye farokht na karne ka matlab yeh hai ke dehaati log jab apni ashyaa ahl-e-shahar se saste daamon farokht kar jaate hain un se koyi shahri kahe ke tum ise farokht na karo balke mere paas rakh jaao main manhge daam ise farokht karunga aisa karna mana hai ke isse shahar waalon ko nuqsan pahunchta hai. (Awnul Baari:3/67)

Baab 32: Nilaami ki bai' ka bayaan

1021: Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek aadmi ne ghulaam ko apne marne ke ba'd azadi ka ikhtiyaar sonp diya magar woh shakhs kuchh muddat ke ba'd mohtaaj ho gaya to Rasoolullah ﷺ ne ghulaam ko pakad kar farmaya iss gulaam ko mujh se kaun khareed ta hai? hazrat Nuaim bin Abdullah رضي الله عنه ne usko kisi qadar maal ke e'waz khareed liya phir aapne woh qeemat uske malik ko de di. (Bukhari:2141)

Fawaaid: Nilaami agar qeemat badhaane ke liye ki jaaye to mana hai agar khareedne ke liye ho to durust hai jaisa ke hadees mein hai ke Rasoolullah ﷺ uss ghulaam ko nilaami ke taur par haazireen ke saamne pesh karke farmaya ke ise kaun khareedta hai? (Awnul Baari:3/69)

Baab 33: Dhoke aur Habalul Habalah ki bai'

1022: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne Habalul

٣١- باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسلم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك
١٠٢٠: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُكْفَأَ مَا فِي إِنْثَائِهَا). (رواه البخاري: ٢١٣٠)

٣٢- باب: بَيْعُ الْمُرَايَدَةِ
١٠٢١: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَاحْتَجَّ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: (مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟). فَاشْتَرَاهُ نَعِيمٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بِكَذَا وَكَذَا، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. (رواه البخاري: ٢١٣١)

٣٣- باب: بَيْعُ الْغَرَرِ وَحَبْلِ الْحَبَلَةِ
١٠٢٢: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى

Habalah ki bai' se mana farmaya yeh ek aisi bai' thi jo zamaana jaahiliyyat mein ki jaati thi bayin soorat ke ek shakhs ountni iss w'adah par khareedta ke jab woh bachcha jane phir woh badi ho kar bachcha jane tab uski qeemat adaa karunga. (Bukhari:2143)

عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبْلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا
يَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ: كَانَ الرَّجُلُ
يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تَنْتَجِ النَّاقَةُ، ثُمَّ
تَنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا.

(رواه البخاري: ٢١٤٣)

Fawaaid: Dhoke ki bai' yeh hai ke ek parindah hawa mein ud raha hai yaa koyi machhli darya mein jaa rahi hai use pakadne se pahle hi khareed wa farokht karna mazkooarah hadees mein jis bai' ka zikr hai uss mein bhi ek qism ka dhoka hai mumkin hai ke ountni ya uska bachchah aage jane ya na jane.

Baab 34: Baaye' ko jaayez nahin ke woh (kisi ko dhoka dene ke liye) Ount , Gaaye aur Bakri ke thanon mein doodh jama kare.

1023: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya agar koyi doodh basta bakri ko khareede to uska doodh duhne ke ba'd agar woh use pasand ho to rakh le agar pasand na ho to uske doodh ke ew'az saa' bhar khujjooren de de (aur use waapas kar de).

(Bukhari:2151)

٣٤- باب: النَّهْيُ لِلْبَائِعِ أَنْ لَا
يُجْفَلَ الْإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ
١٠٢٣: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ
اشْتَرَى غَنَمًا مُصْرَاةً فَاحْتَبَهَا، فَإِنْ
رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي
حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ).

(رواه البخاري: ٢١٥١)

Fawaaid: Doodh bastah jaanwar ko waapas karne ki soorat mein mushtari ko chaahiye ke doodh ke badle ek saa' khujjoor bhi jaanwar ke saath waapas kare Ahnaaf ne iss hadees ko khelaaf-e-qiyaas samajhte huye qaabil-e-amal nahin samajha neez yeh bhi kaha hai ke hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه ghair faqeeh the lehaazah un se marvi rivaayat khilaaf-e-qiyaas hone ki soorat mein qaabil-e-qubool nahin haalaanke hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se ek hukm naqal kiya hai jo waajib-e-ta'meel hai.

Baab 35: Zina kaar Ghulaam ki bai'

1024: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko yeh farmate huye suna ke agar laundi zina kare aur uska zina zaahir ho jaaye to uska malik use kode lagaaye sirf daantne par iktefa na kare agar phir zina kare to phir use kode lagaaye zajr wa tambeeh par iktefa na kare aur agar teesri martabah zina kare to usko farokht kar de aur khaah baalon ki rassi hi ke e'waz ho. (Bukhari:2152)

٣٥- باب: بَيْعُ الْعَبْدِ الرَّانِي
١٠٢٤: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: (إِذَا زَنَتِ
الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا
يُزْرَبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ
بِحَبْلِ مِنْ شَعْرٍ).

(رواه البخاري: ٢١٥٢)

Fawaaid: Zina kaari bhi ek ai'b hai khareedaar uss ai'b ke muttala' hone par uss ghulaam ya laundi ko waapas kar sakta hai agarcheh hadees mein laundi ka zikr hai lekin ghulaam ko iss par qiyaas kiya jaa sakta hai Ahnaaf laundi ke muta'alliq yeh qaayidah durust kahte hain lekin ghulaam ke muta'alliq isko nahin maante. (Awnul Baari:3/76)

Baab 36: Kiya Shahri kisi dehaati ke liye bila mu'aawazah bai' kar sakta hai? kiya woh uski madad aur khair khaahi kar sakta hai.

1025: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke ghallah le kar aane waale qaafлах sawaaron se milne ke liye pesh qadmi na karo aur koyi maqaami kisi bairooni ke liye bai' na kare hazrat ibne Abbaas رضي الله عنهما se poochha gaya iska matlab kiya hai ke koyi maqaami kisi bairooni ke liye bai' na kare? unhon ne farmaya iska matlab yeh hai ke uska dalaal na bane. (Bukhari:2158)

Fawaaid: Imam Bukhari ka matlab yeh hai ke agar shahri baahar se aane waale ka saamaan ta'aawun aur khair khaahi ke taur par farokht karta hai to aisa karne mein koyi qabaahat nahin kyun ke doosri ahaadees mein musalmaan ki khair khaahi aur uske saath hamdardi karne ka hukm hai. (Awnul Baari:3/78)

Baab 37: Shahar se baahar Ahl-e-Qaafлах se khareed wa farokht ki khaatir mulaqaat mana hai.

1026: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما ki rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmay tum se koyi shakhs doosre shakhs ki bai' par bai' na kare aur jo maal baahar se aa rahaa ho uske malik ko na milo hatta ke woh baazaar mein pahunch jaaye. (Bukhari:2165)

Fawaaid: Ba'z auqaat aisa hota hai ke shahri bevpaari bairooni qaafлах se ghallah ki rasad ko shahar se door baahar nikal kar khareed lete hain aur mandi mein use manhge daam farokht karte hain imam Bukhari ke nazdeek aisi bai' haraam hai ba'z mohaddiseen ke nazdeek yeh bai' sahih hai albattah Maalik ko ikhtiyaar hai ke mandi ka bhaao maloom hone ke ba'd agar chahe to use qaayem rakkhe ya faskh kar de. (Awnul Baari 3/81)

Baab 38: Kishmish ka kishmish ke e'waz aur ghalle ka ghalle ke e'waz khareed-o-farokht karna kaisa hai?

1027 : Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne muzaabnah se mana' farmaya hai aur muzaabnah yeh hai ke darakht ki taazah khujoor ko khushk khujoor ke e'waz maap kar becha jaaye isi tarah bel ke angooron ko kishmish ke e'waz naap kar farokht kiya jaaye. (Bukhari: 2171)

٣٦- باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟
١٠٢٥ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَلْقُوا الرُّكْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ).
فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ: (لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ). قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا. (رواه البخاري: ٢١٥٨)

٣٧- باب: النهي عن تلقي الركبان
١٠٢٦ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَلْقُوا السَّلْعَ حَتَّى يَهْطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ). (رواه البخاري: ٢١٦٥)

٣٨- باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام
١٠٢٧ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةُ: بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الزَّبِيبِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا.
(رواه البخاري: ٢١٧١)

Fawaaid: Woh khujoor jo abhi darakhton se na utari gayi ho isi tarah woh angoor jo abhi belon par hain unka andaazah karke khushk khujooron ya munaqqah ke e'waz farokht karna jaayez nahin kyun ke ise ek fareeq ko nuqsaan pahunchne ka andeshah hai. (Abu Muhammad)

Baab 39: Jau ko jau ke e'az farokht karna.

1028 :Hazrat Maalik bin Aus ؓ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mujhe 100 dinar ke ewaz bai' sarf (rezgaari) ki zaroorat huyi to mujhe Talha bin Ubaidullah ؓ ne bulaaya hum aapas mein narkh ke muta'alliq guftagu karne lage bil aakhir unhon ne mujh se bai' sarf karli unhon ne sona liya aur haath mein ulat palat kar dekhna shuru' kar diya phir kaha iss qadar intezaar karo ke mera khazaanchi maqaame ghaaba se aa jaaye Hazrat Umar ؓ bhi yeh guftagu sun rahe the unhon ne farmaya (Maalik bin Aus ؓ) tumhen Allah ki qasam! jab tak wosooli na kar lo usse juda na hona kyun ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya hai ke sona sone ke e'waz farokht karna riba hai jab tak dast badast na ho baaqi hadees (1019) pahle guzar chuki hai. (Bukhari: 2134)

Fawaaid: Iss hadees ke aakhir mein yeh alfaaz hain "Jau ke badle jau aur khujoor ke badle khujoor bechna bhi sood hai magar iss soorat mein ke naqad banaqad ho.

Baab 40: Sone ke e'waz sona farokht karna kaisa hai?

1029 :Hazrat Abu Bakrah ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke sone ko sone ke e'waz aur chaandi ko chaandi ke e'waz kami beshi se mat farokht karo albattah sona sone ke baraabar chaandi chaandi ke baraabar farokht karo haan sone ke e'waz chaandi chaandi ke e'waz sona jis tarah chaaho farokht kar sakte ho. (Bukhari: 2175)

Fawaaid: Agar ajnaas mukhtalif hon masalan ek taraf se sona aur doosri taraf se chaandi to uss mein kami beshi to ki jaa sakti hai albattah donon taraf se naqad hona zaroori hai ek taraf se naqad aur doosri taraf se udhaar durust nahin. (Awnul Baari:3/85)

Baab 41 : Chaandi ko chaandi ke e'waz farokht karna.

1030 : Hazrat Abu Sayeed Khudri ؓ se

۳۹- باب: بَيْعُ الشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ
 ۱۰۲۸ : عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ التَّمَسَّ صَرَفًا بِمِائَةِ
 دِينَارٍ، قَالَ: فَدَعَانِي طَلْحَةُ ابْنُ عُبَيْدِ
 اللَّهِ، فَتَرَاوَضْنَا حَتَّى اضْطَرَفَ مِنِّي،
 فَأَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ:
 حَتَّى يَأْتِي خَازِنِي مِنَ الْغَابَةِ، وَعَمَّرُ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْمَعُ ذَلِكَ، فَقَالَ:
 وَاللَّهِ لَا تَفَارِقُهُ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ، قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
 رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ..) وَذَكَرَ بَاقِيَ
 الْحَدِيثِ وَقَدْ تَقَدَّمَ

(رواه البخاري: ۲۱۳۴)

۴۰- باب: بَيْعُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ
 ۱۰۲۹ : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا
 تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا سَوَاءً
 بِسَوَاءٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا سَوَاءً
 بِسَوَاءٍ، وَيَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ،
 وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، كَيْفَ شِئْتُمْ).

(رواه البخاري: ۲۱۷۵)

۴۱- باب: بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

۱۰۳۰ : عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ

rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke sone ko sone ke e'waz mat farokht karo magar baraabar ya'ni ek doosre se kam ziyaadah karke farokht na karo aur chaandi ke e'waz chaandi ko farokht na karo magar baraabar baraabar ya'ni ek doosre se kami beshi kar ke mat becho aur ghaayib cheez ko haazir ke e'waz na farokht karo ya'ni ek taraf se naqad aur doosri taraf se udhaar par. (Bukhari: 2177)

Fawaaid: Ek shakhs ko kisi se dirham lena hai aur kisi ko uss se dinaar lena hai yeh donon aapas mein dirham wa dinaar ki khareed wa faorkht nahin kar sakte kyun ke jab ek taraf se udhaar aur doosri taraf naqad ki khareed wa farokht jaayez nahin to donon taraf se udhaar ki bai' kaise ho sakti hai. (Awnul Baari:3/86)

Baab 42: Dinaar ko dinaar ke e'waz udhaar bechna.

1031 : Hazrat Abu Sa'yeed Khudri رضي الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne kaha dinaar ko dinaar ke e'waz aur dirham ko dirham ke e'waz (baraabar, baraabar) farokht karna jaayez hai jab un se kaha gaya ke Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما to iske qaayil nahin to Abu Sa'yeed Khudri رضي الله عنه ne Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se poochha kiya Aap ne Rasoolullah ﷺ se suna hai ya kitabullah mein dekha hai? Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما ne kaha main un mein se koyi baat nahin kahta kyun ke tum Rasoolullah ﷺ ke farmoodaat ko mujh se ziyaadah jaante ho albattah mujhe Hazrat Usaamah رضي الله عنه ne khabar di hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke sood sirf udhaar mein hota hai. (Bukhari: 2178,2179)

Fawaaid: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما ka moqif yeh tha ke sood sirf usi soorat mein hoga jab ek taraf se udhaar ho unke nazdeek dast badast ek dirham ko do dirham ke e'waz farokht kiya jaa sakta hai yeh moqif deegar ahaadees ke khilaaf hai aur ibne Abbaas رضي الله عنهما ne iss se ruju' kar liya tha jaisa ke Mustadrak Hakim mein iski tafseel maujood hai. (Awnul Baari:3/88)

Baab 43: Chaandi ko sone ke e'waz udhaar bechna.

1032 : Hazrat Bara nin Aazib aur Hazrat Zaid bin Arqam رضي الله عنهما se bai' sarf ke muta'alliq daryaافت kiya gaya to un donon mein se har

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِبَاجِرٍ).
(رواه البخاري: ٢١٧٧)

٣٢ - باب: بَيْعُ الدِّينَارِ بِالدِّينَارِ نَسَاءً
١٠٣١ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ،
فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ:
فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ لِابْنِ عَبَّاسٍ: سَمِعْتَهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ
اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ،
وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنِّي،
وَلَكِنِّي أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَالَ: (لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ).
(رواه البخاري: ٢١٧٨، ٢١٧٩)

٣٣ - باب: بَيْعُ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً
١٠٣٢ : عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِ
بْنِ أَرْقَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُمَا سُئِلَا
عَنِ الصَّرْفِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

ek ne doosre ke muta'alliq kaha yeh mujh se behtar hai, phir donon ne bataya ke Rasoolullah ﷺ ne sone ko chaandi ke e'waz bechne se mana' farmaya hai. (Bukhari:2180,2181)

Fawaaid:Khareed wa farokht ki chand ek aqsaam yeh hain: agar sone chaandi ke e'laawah deegar asbaab ki bai' asbaab se ho to use muqaablah kahte hain aur ek naqdi ki ba'aynihi isi naqad se bai' karne ko muraatlah kaha jaata hai aur ek naqdi ko doosri mukhtalif naqdi se bai' karna sarf kahaata hai agar asbaab ki naqdi ke e'waz bai' ho to naqdi ko qeemat aur asbaab ko e'waz kahte hain in tamaam ka hukm yeh hai ke dast ba dast to sab jaayez hain albattah udhaar len den mein kuchh tafseel hai naqdi ka naqdi ke e'waz udhaar jaayez nahin albattah asbaab ka naqdi ke e'waz udhaar jaayez hai agar naqdi wasool karke asbaab ba'd mein hawaale karna hai to bhi jaayez hai kyun ke yeh bai' salam hai agar donon taraf se udhaar hai to jaayez nahin. (Awnul Baari:3/90)

Baab 44: Bai' Muzaabanah.

1033 : Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne uss waqt tak phalon ko bechne se mana' farmaya hai jab tak un mein pakne ki salaahiyat zaahir na ho jaaye aur darakht ki khujoor ko khushk khujoor ke e'waz mat farokht karo phir Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما ne kaha ke Zaid bin Saabit ؓ ne mujhe khabar di ke ba'd mein Rasoolullah ﷺ ne darakht par lagi huyi khujooron ko taazah ya khushk khujoor ke e'waz farokht karne ki ejaazat bai' a'raaya ki soorat mein di hai uske elaawah kisi aur soorat mein ejaazat nahin di hai.

(Bukhari: 2183,2183)

Fawaaid:Bai' A'raaya yeh hai ke baagh ka Maalik kisi ko khujoor ka darakht khairaat ke taur par dedo phir be moqa' aane jaane ki takleef ke pesh-e-nazar khushk khujoor de kar darakht usse khareed le shari'at ne iski ejaazat di hai agli ahaadees mein iski had bandi ki gayi hai. (Awnul Baari:3/91)

1034 : Hazrat Jaabir ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne phal ki farokht se mana' farmaya taa waqte ke woh pak na jaaye aur un ki koyi qism dirham wa dinar ke elaawah kisi aur shai ke e'waz farokht na ki jaaye siwaaye A'raaya ke (ke unko phalon ke e'waz bhi farokht kiya jaa sakta hai). (Bukhari: 2189)

Baab 45: Darakht par lagi khujoor sone chaandi ke e'waz farokht karna.

يَقُولُ: هَذَا خَيْرٌ مِنِّي وَكِلَاهِمَا يَقُولُ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا (رواه البخاري: ٢١٨٠، ٢١٨١)

٢٢ - باب: بَيْعُ الْمُرَابَنَةِ

١٠٣٣ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَبِيعُوا الشَّمْرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ، وَلَا تَبِيعُوا التِّمْرَ بِالتَّمْرِ). قَالَ: وَأَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرَبِيَّةِ بِالرُّطْبِ أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخَّصْ فِي غَيْرِهِ.

(رواه البخاري: ٢١٨٣، ٢١٨٤)

١٠٣٣ : عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الشَّمْرِ حَتَّى يَطْيَبَ وَلَا يَسَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهَمِ، إِلَّا الْعَرَايَا. (رواه البخاري: ٢١٨٩)

٢٥ - باب: بَيْعُ الشَّمْرِ عَلَى رُؤُوسِ النَّحْلِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ

1035 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne bai' Araaya ki ejaazat di hai bashar teke woh paanch wasaq ya paanch wasaq se kam hon.

(Bukhari: 2190)

Fawaaid: Ek wasaq 60 saa' ka hota hai agar darakht par lagi khujooron ka andaazah paanch wasaq ya usse kam ka ho to bai' Araaya jaayez hai usse ziyaadah ki jaayez nahin hain taa ham ehtiyaat ka taqaaza hai ke iska jawaaz paanch se kam tar mein mahdood kar diya jaaye. (Awnul Baari:3/93)

Note:- Is U'nwaan ka jawaaz oupar waali hadees se saabit ho chuka hai. (Alvi)

Baab 46: Salaahiyat paida hone se pahle phalon ko farokht karna (mana' hai)

1036 : Hazrat Zaid bin Saabit رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke zamaane mein log phalon ko qabl az salaahiyat farokht karte the jab khareedne waale apna phal tod lete aur un se qeemat ka taqaaza ka waqt aata to kahte ke phalon mein dumaan, muraaz, qushaam, aur deegar aafteen paida ho gayi thin khaah makhaah jhaghda karte lihaaza jab Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saamne iss qism ke beshtar muqaddamaat pesh huye to Aap ne bataure mashwarah unse farmaya agar tum jhagdon se baaz nahin aate to jab tak phalon mein salaahiyat na paida ho jaaye uss waqt tak unki khareed-o-farokht na kiya karo. (Bukhari: 2193)

Fawaaid: Aisa maloom hota hai ke aap ka yeh hukm imtenaay'i ibtedaa mein to bataur mashwarah tha ba'd mein qatay'i taur par mana kar diya jaisa ke hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se marvi hadees (2194) mein hai khud iss hadees ke raavi hazrat Zaid رضي الله عنه bhi pukhtagi se pahle apna phal farokht na karte the. (Awnul Baari:3/96)

1037 : Hazrat Jaabir رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne phalon ke bai' se mana' farmaya jab tak woh mashqah na ho jaayen arz kiya gaya mashqah kiya hota hai Aap ne farmaya ke woh surkh ya zard aur khaane ke qaabil na ho jaayein. (Bukhari: 2196)

١٠٣٥ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. (رواه البخاري: ٢١٩٠)

٣٦ - باب: بَيْعُ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلَاحُهَا

١٠٣٦ : عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَتَاعُونَ الثَّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الْمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدَّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، عَاهَاتٌ يَخْتَجُونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: (فَأَمَّا لَا، فَلَا تَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُ الثَّمْرِ). كَالْمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا لِكثَرَةِ خُصُومَتِهِمْ.

(رواه البخاري: ٢١٩٣)

١٠٣٧ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشَقَّحَ. فَقِيلَ: وَمَا تُشَقَّحُ؟ قَالَ تَحْمَارٌ وَتَضْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا. [رواه البخاري: ٢١٩٦]

Baab 47: Agar koyi salaahiyat paida hone se pahle phalon ko bech daale to aafat aane par woh zimme daar hoga.

1038 : Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne phalon ke zahu hone se pahle unhein farokht karne se mana' farmaya hai Aap se daryaaft kiya gaya zahu kiya hota hai? to Aap ne farmaya ke un ka surkh ho jaana phir farmaya batlaao agar Allah phal ko zaaye' karde to tum mein se koyi apne musalmaan bhaayi ka maal kis cheez ke e'waz khaayega? (Bukhari: 2198)

Fawaaid: Imam Bukhari ka moqif yeh maloom hota hai ke phalon ki pukhtagi se pahle unki khareed wa farokht jaayez hai taa ham aafat zadgi ki soorat mein iska taawaan bechne waale ke zimma hoga ya'ni kharidaar ki kul raqam use waapas karna hogi.

Baab 48: Agar koyi behtareen khujooron ke e'waz aam khujooron ko farokht karna chaahе.

1039 : Hazrat Abu Sayeed Khudri رضي الله عنه aur Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne ek shakhs ko khaibar ka tahseel daar banaaya woh ek u'mdah qism ki khujoor le kar haazir-e-khidmat huwa to Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya kiya khaibar ki sab khujoorain aisi hi hoti hain? uss ne kaha ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم! nahin Allah ki qasam hum iss umdah khujoor ke ek saa' ko doosri khujooron ke do saa' ke e'waz aur do saa' ko teen sa' ke e'waz lete hain uss par Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya aisa na kiya karo balke tum uss raddi khujooron ko rupon ke e'waz farokht karke phir un rupon se umdah khujoor khareed liya karo.

(Bukhari: 2201,2202)

Fawaaid: Iss hadees ke pesh-e-nazar ba'z Ulma ne rabwi mua'amlaat mein iss qism ka heelah karne ko jaayez qaraar diya hai masalan ek sone ke e'waz doosra sona kam wa besh lene ki zaroorat ho to pahle sone ko rupe ke e'waz farokht kardiya jaaye phir un rupon ke e'waz doosra sona khareeda jaaye. Wallahu A'lam.

Baab 49: Kachche daanon ya phalon ka farokht karna kaisa hai?.

1040 : Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya

٣٧- باب: إِذَا بَاعَ الثَّمَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صِلَاحَهَا ثُمَّ أَصَابَتْهُ عَاهَةٌ

١٠٣٨ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَ. فَقَالَ: (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ): (أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَّعَ اللَّهُ الثَّمْرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَحِيهِ). [رواه البخاري: ٢١٩٨]

٣٨- باب: إِذَا أَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

١٠٣٩ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْرٍ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَكُلْ تَمْرَ خَيْرٍ هَكَذَا؟) قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ، وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (لَا تَفْعَلْ، بَعِ الْجَمْعَ بِالذَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتِعْ بِالذَّرَاهِمِ جَنِيْبًا). [رواه البخاري: ٢٢٠١، ٢٢٠٢]

٣٩- باب: بَيْعُ الْمُخَاصِرَةِ

١٠٤٠ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

Rasoolullah ﷺ ne khosha ke andar gehun ke kachche daanoon aur kachche phalon, mahaz phenk dene aur sirf haath laga dene se bai' ka aqd karne se mana' farmaya hai neez darakht par lagi khujooron ko pukhta khujooron ke e'waz farokht karne ki bhi mumaaaniy'at farmayi.(Bukhari: 2207)

Fawaaid: Darakht par lagi huyi khujooron ko A'raaya ki soorat mein pukhta khujooron ke e'waz farokht kiya jaa sakta hai jaisa ke pahle guzar chuka hai.

Baab 50: Khareed-o-farokht aur ejaarah neez maap taul mein mulki dastoor ke mutaabiq hukm diya jaaye ga.

1041 : Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ se mu'aawiyah رضي الله عنها ki maan Hind رضي الله عنها ne arz kiya ke Abu Sufyaan رضي الله عنه bada bakheel aadmi hai agar main uske maal se kuchh pusheedah taur par le liye karoon to mujh par koyi gunaah to na hoga? Aap ne farmaya tu dastoor ke muwaafiq sirf utna le sakti ho jo tujhe aur tere beton ko kaafi ho.

(Bukhari: 2211)

Fawaaid: Agar kisi mulk mein koyi karansi raayej hai khareed wa farokht karte waqt doosri karansi ki shart na lagaane ki soorat mein raayijul waqt karansi hi muraad hogi jaisa ke Rasoolullah ﷺ ne mazkooarah hadees mein koyi had muqarrar nahin farmaayi balke urf aur dastoor ke mutaabiq maal lene ka hukm diya.

Baab 51: Ek shareek apna hissa doosre shareek ko farokht kar sakta hai.

1042 : Hazrat Jaabir رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne farmaya Rasoolullah ﷺ ne har ghair taqseem shudha maal mein haq shuf'ah qaayem rakkha hai lekin jab taqseem hone ke ba'd haden waaqe' ho jaayen aur raaste badal jaayen shuf'ah saaqit ho jaata hai.(Bukhari: 2213)

Fawaaid: Iss maal se muraad ghair manqoolah jaayedaad hai masalan Makaan, Zameen, aur Baagh waghairah kyun ke manqoolah jaayedaad mien bil ittefaaq kisi ko shufa'h ka haq nahin hai isi tarah woh maal jo taqseem na kiya jaa sake uss mein bhi koyi shufa'h nahin hai. (Awnul Baari:3/108)

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَالْمُخَاصَرَةِ، وَالْمَلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ، وَالْمُرَابَنَةِ.

[رواه البخاري: ٢٢٠٤]

٥٠ - باب: مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ

عَلَى مَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوعِ

وَالِإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ

١٠٣١ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا: قَالَتْ هُنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ

رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ

أَخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًّا؟ قَالَ: (خُذِي أَنْتِ

وَبَنُوكِ مَا يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفِ).

(رواه البخاري: ٢٢١١)

٥١ - باب: بَيْعُ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

١٠٣٢ : عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ

مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ،

وَصُرِّفَتِ الطَّرُوقُ، فَلَا شُفْعَةَ.

(رواه البخاري: ٢٢١٣)

Baab 52: Harbi kaafir se ghulaam khareedna aur uska hibah karna ya aazaad karna.

1043 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya Hazrat Ibraheem رضي الله عنه apni biwi Saarah ke saath hijrat kar ke ek aisi basti mein pahunche jahaan ek baadshaah tha ya yeh farmaya ke ek zaalim tha uss se jab kaha gaya ke Ibraheem رضي الله عنه ek aisi aurat ke saath aaye hain jo bahut hi khoobsurat hai to usne qaasid bheja ke Ibraheem! tere saath kaun hai? unhon ne kaha meri bahan hai, phir Ibraheem رضي الله عنه laut kar Saara ke paas gaye aur usse kaha tum meri baat ko jhoota mat qaraar dena main ne uss se kah diya hai ke tum meri bahan ho Allah ki qasam! rooye zameen par mere aur tere siwa koyi momin nahin hai phir unhon ne Hazrat Saarah ko baadshaah ke paas bhej diya baadshaah uski taraf mutawajjah huwa to woh wazoo kar ke namaaz padh rahi thin. unhon ne yeh dua' ki aye Allah main tujh par aur tere Rasool par eemaan laayi hoon aur main ne apne shauhar ke siwa sab se apni sharamgaah ki hifaazat ki hai lehaaza iss kaafir ko mujh par musallat na karna yeh dua' maangte hi woh kaafir aisa gira ke kharraate bhar kar apni ediyaan ragad ne laga Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه kahte hain ke Hazrat Saarah kahne lagin aye Allah! agar yeh mar gaya to log kahenge ke iss aurat ne baadshaah ko maar daala hai phir uski woh haalat jaati rahi aur Saarah ki taraf dobaarah uthha woh uthh kar wazoo karke phir namaaz padhne lagi aur yoon du'a ki aye Allah! agar main tujh par aur tere Rasool par eemaan laayi hoon aur khaawind ke elaawah sab se main ne apni sharamgaah ko bachaya hai to iss kaafir ko mujh par musallat na karna yeh dua' karte hi woh kaafir zameen par aisa gira ke kharraate

۵۲ - باب: شِرَاءُ الْمَمْلُوكِ مِنْ

الْحَرْبِيِّ وَهَبْتِهِ وَعَتَقِهِ

۱۰۴۳ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هَاجَرَ

إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِسَارَةَ، فَدَخَلَ

بِهَا قَرْيَةً فِيهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوكِ، أَوْ

جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، فَقِيلَ: دَخَلَ

إِبْرَاهِيمَ بِامْرَأَةٍ هِيَ مِنْ أَحْسَنِ النِّسَاءِ،

فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: أَنْ يَا إِبْرَاهِيمَ مَنْ هَذِهِ

الَّتِي مَعَكَ؟ قَالَ: أُخْتِي، ثُمَّ رَجَعَ

إِلَيْهَا فَقَالَ: لَا تَكْذِبِي حَدِيثِي، فَإِنِّي

أَخْبَرْتُهُمْ أَنَّكَ أُخْتِي، وَاللَّهِ إِنْ عَلَيَّ

وَجْهَ الْأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِي وَعَيْرِكِ،

فَأَرْسَلَ بِهَا إِلَيْهِ فَقَامَ إِلَيْهَا، فَقَامَتْ

تَوْضًا وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ

آمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ

فَرْجِي إِلَّا عَلَى رَوْحِي فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ

الْكَافِرَ، فَعَطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ).

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (قَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ

يَمُتُ يُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ، فَأَرْسَلَ، ثُمَّ قَامَ

إِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوْضًا وَتُصَلِّي وَتَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ آمَنْتُ بِكَ

وَبِرَسُولِكَ وَأَحْصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا

عَلَى رَوْحِي، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا

الْكَافِرَ، فَعَطَّ حَتَّى رَكَضَ بِرِجْلِهِ).

قَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ: (قَالَتْ: اللَّهُمَّ إِنْ

يَمُتُ فَيُقَالُ: هِيَ قَتَلَتْهُ فَأَرْسَلَ فِي

الثَّانِيَةِ، أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا

bhar kar ediyaan ragadne laga Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه ne kaha Saarah kahne lagin ya Allah! yeh mar jaayega to log kahenge isne baadshaah ka qatl kiya hai to woh dobaraah ya teesri martabah hosh mein aaya to usne kaha Allah ki qasam! tum ne mere paas shaytaan (jaadu gar) ko bheja hai ise Hazrat Ibraheem عليه السلام ke paas hi waapas le jaao aur Haajra naami laundi bhi use dedo phir Hazrat Ibraheem عليه السلام ke paas waapas aa gayin aur kahne lagin tum ne dekha Allah ne uss kaafir ko zaleel kiya aur ek laundi bhi dilwaayi.

(Bukhar: 2217)

Fawaaid: Chunke uss kaafir baadshaah ne Haajrah naami ek laundi hazrat Saarah ko di aur unhon ne use qubool kiya hazrat Ibraheem عليه السلام ne bhi iss hibah ko jaayez rakha to maloom huwa ke kaafir ka hibah karna aur uska qubool karna sahih aur jaayez hai. (Awnul Baari:3/111)

Baab 53: Khinzeer ka qatl karna kaisa hai?.

31044 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya qasam hai uss zaat ki jis ke haath mein meri jaan hai tum logon mein anqareeb hi (Eesa) Ibne Maryam utrenge aur woh ek aadil haakim honge saleeb ko tod daalenge aur khinzeer ko qatl karenge aur jizya khatm karenge daulat ki rel pel hogi yahaan tak ke use koyi qubool na karega. (Bukhari: 2222)

Fawaaid: Iss hadees se imam Bukhari ne yeh saabit kiya hai ke khinzeer najis hai aur iski khareed wa farokht bhi naa jaayez hai kyun ke hazrat Eisa عليه السلام use apne daur mein neest wa naabood karenge agar yeh paak hota to use qatl karne ka hukm na diya jaata. (Awnul Baari:3/112)

Baab 54: Be jaan cheezon ki tasaaveer farokht karna neez unki kaunsi shakl haraam hai?.

1045 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unke paas ek aadmi ne aakar arz kiya ke aye Ibne Abbaas رضي الله عنهما main apne haath se mehnat kar ke khaata hoon ya'ni main tasaaveer banaata hoon uss par Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما ne farmaya main tujh se wahi baat kahunga jo main ne

أَرْسَلْتُمْ إِلَيَّ إِلَّا شَيْطَانًا، ارْجِعُوهَا إِلَيَّ
إِبْرَاهِيمَ، وَأَعْطُوهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ
إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَتْ:
أَشْعَرْتُ أَنْ اللَّهَ كَبَّتْ الْكَافِرَ وَأَخَذَمَ
وَلِيدَةً). (رواه البخاري: ٢٢١٤)

٥٣ - باب: قَتْلُ الْخِنْزِيرِ

١٠٢٢ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي
بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيكُمْ ابْنُ
مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ
الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ
الْحِزْيَةَ، وَيَقْبِضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ
أَحَدٌ). (رواه البخاري: ٢٢٢٢)

٥٤ - باب: بَيْعُ التَّصَاوِيرِ الَّتِي لَيْسَ

فِيهَا رُوحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ

١٠٢٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا (أَبَا)
عَبَّاسِ، إِنِّي إِنْسَانٌ، إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ
صَنْعَةِ يَدَيَّ، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ
التَّصَاوِيرَ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا

Rasoolullah ﷺ se suni hai main ne Aap ko yeh farmaate huye suna hai tasweer banaane waale ko Allah Azaab dega yahaan tak ke woh uss mein rooh phoonke aur woh uss mein kabhi rooh nahin phoonk sakega yeh sun kar uss par kapkapi taari ho gayi aur chehra faq ho gaya Hazrat ibne Abbaas رضي الله عنهما ne kaha teri kharaabi ho! agar tu yahi kaam karna chahta hai to darakhton ya aisi cheezon ki tasaaweer bana jo be jaan hon.

(Bukhari: 2225)

أَحَدُثَكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ صَوَّرَ (صُورَةً) فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ يَنْفُخُ فِيهَا أَبَدًا). قَرَّبَا الرَّجُلَ رُبُوعَةً شَدِيدَةً وَأَصْفَرَ وَجْهَهُ، فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنَّ أُبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

(رواه البخاري: ٢٢٢٥)

Fawaaid: Iss se saabit huwa ke jaandaar ki tasweer banaana uar use farokht karna jaayez nahin hai Muslim ki rivaayat mein hai ke hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما ne use farmaya ke darakhton ya aisi aashya ki tasweer banaao jis mein rooh na ho. (Awnul Baari:3/114)

Baab 55: Jo kisi aazaad shakhs ko farokht kar de uska gunaah.

1046 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain Aap ne farmaya ke Allah Ta'ala ka irshaad hai teen shakhs aise hain ke qiyaamat ke din main un ka dushman hunga woh shakhs jo mera naam le kar ahad kare phir use tod daale doosra woh shakhs jo kisi aazaad aadmi ko farokht karke uski qeemat kha jaaye teesra woh shakhs jo kisi mazdoor ko ujrati par rakkhe usse poora kaam le lekin use mazdoori na de. (Bukhari: 2227)

٥٥ - باب: اِثْمُ مَنْ بَاعَ حُرًّا
١٠٢٦ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ). (رواه البخاري: ٢٢٢٤)

Fawaaid: Aazaad ko ghulaam banaane ki do sooraten hain ek yeh ke ghulaam ko aazaadi karke uski aazaadi ko zaahir na kare ya waise hi inkaar kar de doosra yeh azad karne ke bad zabardasti usse khidmat leta rahe chunke aazaad Allah ka ghulaam hai iss liye jo uss par ziyaadati karega Allah Ta'ala uska dushman hoga. (Awnul Baari:3/115)

Baab 56: Murdaar aur buton ka farokht karna.

1047 : Hazrat Jaabir bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai jis saal fatah Makkah huwa unhon ne Rasoolullah ﷺ se Makkah hi mein yeh farmaate suna be shak Allah aur uske Rasoolullah ﷺ ne sharaab, murdaar, khinzeer aur buton ki farokht ko haraam qaraar diya hai arz kiya gaya ya Rasoolallah

٥٦ - باب: بَيْعُ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ
١٠٢٧ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﷺ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ). فَقِيلَ: يَا رَسُولَ

! murdaar jaanwar ki charbi ke muta'alliq Aap kiya farmaate hain? kyun ke yeh kashtiyon ko lagaayi jaati hai aur usse khaalen bhi chikni ki jaati hain aur log use charaaghon mein jala kar raushni haasil karte hain Aap ne farmaya nahin, woh haraam hai phir Aap ne farmaya Allah yahoodiyon ko ghaarat kare jab Allah ne charbi un par haraam kardi to unhon ne use pighlaya phir bech kar uski qeemat khaayi.

(Bukhari: 2236)

اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ، وَيُدَّهَنُ بِهَا الْجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: (لَا، هُوَ حَرَامٌ). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: (قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ).

(رواه البخاري: ٢٢٣٦)

Fawaaid: Iss hadees se bazaahir to yehi maloom hota hai ke murdaar ki har cheez ki khareed wa farokht haraam hai aur usse nafa uthane ki hurmat doosri hadeeson se maloom hoti hai albattah koyi naapaak cheez jise paak karna mumkin ho uski khareed wa farokht ko aksar u'lma ne jaayez rakkha hai. (Awnul Baari:3/118)

Baab 57: Kutte ki qeemat wasool karne ki mumaani'at.

1048 : Hazrat Abu Mas'ood Ansaari ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne kutte ki qeemat, badkaar Laundi ki kamaayi aur kaahin ki niyaaz se mana' farmaya hai.

(Bukhari: 2237)

٥٧ - باب: ثَمَنُ الْكَلْبِ

١٠٣٨ : عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَيْعِيِّ، وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ.

(رواه البخاري: ٢٢٣٧)

Fawaaid: Hamaare haan nujoomi aur dast shanaas jo bazo'm khawesh professor kahlaate hain unhen jo tahaayef aur hadaaya diye jaate hain woh bhi isi qism se hain isi tarah mashaayekh-e-e'zaam ka t'aweezaat de kar nazraane wasool karna u'lma kiraam ka d'awat wa tableegh par da'waten udaana bhi hulwaanil kaahin mein shaamil hai.

(Awnul Baari:3/121)



Salam (سَلَم) ke bayaan mein

کِتَابُ السَّلْمِ

Mustaqbil mein kisi jins ki muqarrar miqdaar ki adaayegi par tai shudah mu'aawazah pahle osool karna salam ya salaf kah laata hai uske liye zaroori hai ke uss jins ki nau'iyat, miqdaar, bhaau aur taareekh adaayegi majlis bai' mein hi tay karli jaaye. yeh bai' jaayez hai.

Baab 1: Mua'yyan paimaana mein salam karna

1049 : Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab Rasoolullah ﷺ Madinah tashreef laaye to uss waqt log mewah jaat mein ek ya do saal ki mi'aad par salam kiya karte the Aap ne farmaya jo koyi phalon mein salam kare use chaahiye ke mua'yyan paimaana aur mua'yyan wazan ke hisaab se kare ek rivaayat mein Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se yoon hai ke mi'aad muqarrar kar ke bai' kare. (Bukhari: 2239)

Fawaaid: Jo cheezen paimaana bhar kar di jaati hain unka paimaana mua'yyan kar diya jaaye aur jo ashya taul kar di jaati hain unka wazan tai kar liya jaaye iss tarah kuchh ashya paimaayish aur kuchh ginti ke hisaab se di jaati hain aur unki miqdaar aur ta'daad muqarrar karli jaaye. (Awnul Baari:3/124)

Baab 2: Uss shakhs se salam karna jiske paas asal maal hi nahin.

1050 : Hazrat Ibne Abi Aufa رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah ﷺ ke zamaana aur Hazrat Abu Bakr wa Umar رضي الله عنهما ke daur-e- khilaafat mein gehoon jau kishmish aur khujooron ki bai' salam karte the. (Bukhari: 2242,2243)

Fawaaid: Qeemat adaa karne waala rabbus salam, jins ada karne waala muslim fih kahte hain ilaih aur jins ko muslim ilaih ke paas jins ka hona zaroori nahin. hadees se bhi yahi saabit hota hai ke bai' salam har uss shakhs se ki jaa sakti hai khaah muslim fih ya uski asal uske paas maujood ho ya na ho.

1051 : Hazrat ibne Abi Aufa رضي الله عنهما se hi ek rivaayat mein hai ke hum shaam ke kisaanon se gehoon jau aur kishmish mein ek mua'yyan muddat paimaana ke hisaab se ek mua'yyan muddat tak ke liye salam karte the unse kaha gaya aaya jis ke paas asal maal maujood hota tha usse karte the? unhon ne kaha hum unse yeh baat na poochhte the. (Bukhari: 2244, 2245)

۱- بَابُ: السَّلْمِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ

۱۰۴۹ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَالنَّاسُ يُسَلِّفُونَ فِي الثَّمْرِ الْعَامَ وَالْعَامِينَ، فَقَالَ: (مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمْرٍ، فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، وَوَزْنِ مَعْلُومٍ).
وفى رواية عنه: (إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ).

(رواه البخارى: ۲۲۳۹)

۲- بَابُ: السَّلْمِ إِلَى مَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ أَصْلُ

۱۰۵۰ : عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّا كُنَّا نُسَلِّفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّرْبِيبِ وَالثَّمْرِ.

(رواه البخارى: ۲۲۴۲، ۲۲۴۳)

۱۰۵۱ : وفى رواية عنه قال: كُنَّا

نُسَلِّفُ نَيْطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّرْبِيبِ، فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ. فَقِيلَ لَهُ: إِلَى مَنْ كَانَ أَصْلُهُ عِنْدَهُ؟ قَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

(رواه البخارى: ۲۲۴۲، ۲۲۴۵)

Shuf 'ah ke bayaan mein

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

Shuf'ah kahte hain ke sharaakat daar ya hamsaaya ka haq tamlik ba waqt bai' shareek ya hamsaaya ko jabran muntaqil hona jo maa'wazah adaa karke apni mulk mein laaya jaa sakta hai yeh ghair manqoolah jaayedaad mein hota hai.

Baab 1: Shuf'a ko shafi' par pesh karna

1052 : Hazrat Abu Raafe' رضي الله عنه se rivaayat hai jo Rasoolullah ﷺ ke ghulaam the unhon ne Sa'd bin Abi Waqqaas رضي الله عنه ke paas aakar kaha aye Sa'd رضي الله عنه! tum mere donon makaan jo Aap ke mahalla mein waaqe' hain khareed lo Hazrat Sa'd رضي الله عنه ne kaha Allah ki qasam! main tumhen chaar hazaar se ziyaadah nahin dunga aur woh bhi qiston mein Hazrat Abu Raafe' رضي الله عنه ne kaha mujhe to un donon ki qeemat paanch sad ashrafiyaan milti hain agar main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmaate na suna hota ke padosi apne qurb ki wajah se ziyaadah haqdaar hai to main Aap ko chaar hazaar mein hargiz na deta khusoosan jab ke mujhe paanch sad dinar mil rahe hain bilaakhir unhon ne woh donon makaan Hazrat Sa'd رضي الله عنه ko hi de diye.

(Bukhari: 2258)

Fawaaid: Imam Bukhari رحمه الله ka moqif yeh hai ke hamsaaya ke liye haqq-e-Shuf'ah hai khaah jaayedaad mein shareek na ho Imam Shaafay'i ke nazdeek sirf uss padosi ke liye shuf'ah hai jo jaayedaad mein shareek ho doosre ke liye nahin Imam Bukhari ne in se ikhtelaaf karte huye mutlaq taur par hamsaaya ke liye haqq-e-shuf'a saabit kiya chunaancheh iss hadees se imam Bukhari ki taayeed hoti hai. iss se yeh bhi maloom huwa ke imam Bukhari hazrat Imam Shaafay'i ke muqallid na the.

Baab 2:Kaunsa hamsaaya ziyaadah haqdaar hai.

1053 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha ya Rasoolallah ﷺ do padosi hain un mein se pahle kis ko tohfa bhejun? Aap ne farmaya jis ka darwaazah tum se ziyaadah qareeb ho. (Bukhari: 2259)

١- بَابُ: عَرَضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا
١٠٥٢ : عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
مَوْلَى النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى سَعْدِ
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) فَقَالَ
لَهُ: ابْتِعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ، فَقَالَ
سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أُرِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ
آلَافٍ مُنْجَمَةٍ، أَوْ مُقَطَّعَةٍ، فَقَالَ أَبُو
رَافِعٍ: لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسِمِائَةَ
دِينَارٍ، وَلَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ يَقُولُ: (الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ). مَا
أُعْطِيتُكُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ وَأَنَا أُعْطِيَ بِهَا
خَمْسِمِائَةَ دِينَارٍ. فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ.

(رواه البخارى: ٢٢٥٨)

٢- بَابُ: أَيِّ الْجَوَارِ أَقْرَبُ
١٠٥٣ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: (قُلْتُ): يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي
جَارَيْنِ، فَأَيُّ أَيُّهُمَا أَهْدِي؟ قَالَ: (إِلَى
أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا).

(رواه البخارى: ٢٢٥٩)

Fawaaid: Iss se imam Bukhari ne yeh saabit kiya hai ke agar koyi padosi hon to uss padosi ko haqq-e-shuf'ah milega jis ka darwaazah jaayedaad shuf'ah ke qareeb hai. (Awnul Baari:3/131)

Ejaarah ke bayaan mein

كِتَابُ الْإِجَارَةِ

Ejaarah lughat mein ujrāt ko kahte hain aur istelaah mein tai shudh muwaa'waze ke badle kisi cheez ki jaayez manafa'at doosre ke hawaale karna ejaarah kahlata hai iske jawaaz mein kisi ko ikhtelaaf nahin.

Baab 1: Ejaarah ka bayaan

1054: Hazrat Abu Moosa رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne kaha ke main Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ki khidmat mein haazir huwa mere saath Asha'ri Qabeelah ke do aadmi the unhon ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se kisi O'hdah ki darkhaast ki main ne arz kiya ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم! mujhe ma'loom nahin tha yeh mansab chaahte hain aap ne farmaya hum uss shakhs ko hargiz kisi kaam mein mamoor nahin karte jo khud aamil ban ne ka khaahish mand ho.

(Bukhari:2261)

Fawaaid: Bilm u'moom kisi kaam ki darkhaast ujrāt lena ke liye hoti hai usse ejaarah saabit hota hai deegar zaraaye ma'aash ko chhod kar naukri ki darkhaast dena insaan ki tama' aur laalach ki a'laamat hai lehaazah talab karne waale ko koyi mansab dena jaayez nahin. (Awnul Baari:3/133)

Baab 2: Qeeraat par bakriyan charaana

1055: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke aap ne farmaya Allah Ta'ala ne koyi nabi aisa nahin bhejha jis ne bakriyaan na charayi hon Sahaaba kiraam رضي الله عنهم ne arz kiya aap ne bhi? farmaya: haan! main bhi kuchh qeeraat ke e'waz ahl-e-Makkah ki bakriyaan charaya karta tha. (Bukhari:2262)

١ - بَابُ: فِي الْإِجَارَةِ
١٠٥٤ : عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، فَقُلْتُ: مَا عَلِمْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ، فَقَالَ: (لَنْ - أَوْ - لَا - نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مِنْ أَرَادَهُ). (رواه البخارى: ٢٢٦١)

٢ - بَابُ: رَعَى الْغَنَمِ عَلَى قَرَارِيْطٍ
١٠٥٥ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ). فَقَالَ أَصْحَابُهُ: وَأَنْتَ؟ فَقَالَ: (نَعَمْ، كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيْطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ).

(رواه البخارى: ٢٢٦٢)

Fawaaid: Har paighambar ko bakriyaan charaane mein yeh hikmat hai ke usse doosron par raham wa shafqat karne ki aa'dat padti hai jo insaanon ki nighbaani ke liye bahut zaroori hai. (Awnul Baari:3/134)

Baab 3: Asr se raat tak mazdoori lena.

1056: Hazrat Abu Moosa رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke aap ne farmaya musalmaan aur Yahood-o-Nasaara ki misaal uss shakhs jaisi hai jis ne chand logon ko mazdoori par lagaaya take woh din bhar ek moqarrarah ujrāt par uss kaam ko karen magar do pahar tak kaam

٣ - بَابُ: الْإِجَارَةِ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ
١٠٥٦ : عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ قَوْمًا، يَعْمَلُونَ لَهُ

karke kahne lage hamen teri moqarrar kardah mazdoori ki koyi zaroorat nahin hai ab tak jo hum ne kaam kiya raayegaan hai uss shakhs ne kaha ab tum aisa na karo baqyah kaam mukammal karke apni mazdoori le lena lekin unhon ne inkaar kar diya aur uska kaam ko chhod diya uss shakhs ne unke ba'd doosre logon ko ujrati par laga kar kaha ke baaqi din ka kaam poora kardo aur tumhen wahi milega jo main ne unse tai kiya tha chunaancheh unhon ne kaam shuru' kiya magar Asr ke waqt kahne lage hum ne jo kaam kiya woh akaarat gaya aur tai shudah mazdoori bhi tujhe mubaarak ho uss shakhs ne unse kaha ke baaqi kaam poora karo ab to din bhi thoda sa baqi hai lekin unhon ne bhi inkaar kar diya phir uss shakhs ne baqyah din mein kaam karne ke liye doosre logon ko mazdoori par lagaya jinhon ne baaqi kaam ghuroob-e-aaftaab tak kiya aur unhon ne donon girohon ki mazdoori le li bas yahi misaal hai musalmaanon ki aur uss noor-e-hidaayat ki jise unhon ne qubool kiya. (Bukhari:2271)

عَمَلًا يَوْمًا إِلَى اللَّيْلِ، عَلَى أَجْرٍ مَعْلُومٍ فَعْمَلُوا لَهُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ، فَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا إِلَى أَجْرِكَ الَّذِي شَرَطْتَ لَنَا، وَمَا عَمِلْنَا بَاطِلًا، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَفْعَلُوا، أَكْمِلُوا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمْ، وَخُذُوا أَجْرَكُمْ كَامِلًا، فَأَبَوْا وَتَرَكُوا، وَاسْتَأْجَرَ أُجَيْرَيْنِ بَعْدَهُمْ، فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلَا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمَا هَذَا، وَلَكُمَا الَّذِي شَرَطْتُ لَهُمْ مِنَ الْأَجْرِ، فَعْمَلُوا، حَتَّى إِذَا كَانَ صَلَاةُ الْعَصْرِ قَالَا: لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلًا، وَلَكَ الْأَجْرُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ. فَقَالَ لَهُمَا: أَكْمِلَا بَقِيَّةَ عَمَلِكُمَا، فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَأَيُّمَا وَاسْتَأْجَرَ قَوْمًا أَنْ يَعْمَلُوا لَهُ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ، فَعْمَلُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، وَاسْتَكْمَلُوا أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا، فَذَلِكَ مَثَلُهُمْ وَمَثَلُ مَا قَبِلُوا مِنْ هَذَا النُّورِ.

(رواه البخارى: ٢٢٧١)

Fawaaid: Hazrat Ibn Umar رضي الله عنهما ki rivaayat mein hai ke "Maalik ne subah se dopahar tak yahoodiyon ko aur dopar se Asr tak Eisaayion ko mazdoor rakkha" in donon hadees mein bazaahir ta'aruz hai darhaqqeeqat yeh alag alag qisse hain lehaazah un mein koyi ta'aruz nahin hai. (Awnul Baari:3/136)

Baab 4: Ek aadmi mazdoori chhod kar chal de aur jis ne mazdoor lagaaya tha woh uski mazdoori mein mehnat karke use badhaaye (to woh kaun le ga?).

1057: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmate huye suna tum se pahle zamaana mein teen aadmi ek saath rawaana huye raat ko pahaad ki ek

٢- باب: مَنِ اسْتَأْجَرَ أُجَيْرًا فَتَرَكَ أَجْرَهُ فَعَمِلَ فِيهِ الْمُسْتَأْجِرُ فَرَادَ ١٠٥٧: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (أَنْطَلِقُ ثَلَاثَةَ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَتَّى أَوْوَا الْمَيْتَ إِلَى

ghaar mein ghus gaye jab sab ghaar mein chale gaye to ek patthar pahaad se ludhak kar aaya jis ne ghaar ka munh band kar diya un teenon ne kaha koyi cheez tumhein iss patthar se rehaayi nahin dila sakti magar ek zaria'h hai ke apni apni nekiyon ko bayaan karke Allah se dua' karen chunaancheh un mein se ek ne kaha! Aye Allah! mere waledain bahut boodhe the main un se pahle kisi ko doodh nahin pilaata tha na apne baal bachchon ko aur na hi laundi ghulaamon ko ek din kisi cheez ki talaash mein mujhe itni der ho gayi ke jab main unke paas aaya to woh so gaye the to main ne doodh dooha aur uska bartan apne haath mein uthha liya aur mujhe yeh sakht naa gawaar tha ke un se pahle apne Ahl-o-a'yaal ya loundi ghulaamon ko doodh pilaaon lehaazah main piyaalah haath mein liye unke bedaar hone ka intezaar karta raha jab subah huyi to donon ne bedaar ho kar doodh nosh farmaya. Aye Allah! agar main ne yeh kaam khalis teri raza jooyi ke liye kiya ho to hum ko iss museebat se najaat de chunaancheh yeh patthar thoda sa apne jagah se hat gaya lekin woh uss se nikal na sakte the Rasoolullah ﷺ ne farmaya ab doosra shakhs yoon kahne laga Aye Allah! mere chacha ki ek beti thi jo sab se ziyaadah mujhe piyaari thi main ne usse bure kaam ki khaahish ki lekin woh raazi na huyi ek saal qahat pada to mere paas aayi main ne usko 120 asharfiyan iss shart par din ke mujhe woh bura kaam karne de woh raazi ho gayi lekin jab mujhe uss par qudrat haashil huyi to kahne lagi ke main tujhe naa haq angoothhi mein nagina daalne ki ejaazat nahin deti yeh sun kar main ne bhi iss baat ko gunah samjha aur usse algag ho gaya haalaanke woh sab se ziyaadah piyaari thi aur main ne jo sona use diya tha woh bhi chod diya Aye Allah! agar main ne yeh kaam

غَارٍ فَدَخَلُوهُ، فَانْحَدَرْتُ صَخْرَةً مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارُ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنَجِّيْكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَاءَ بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ يَوْمًا، فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا عُبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، وَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدْحُ عَلَى يَدَيَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيقَاطَهُمَا حَتَّى بَرَقَ الْفَجْرُ، فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا عُبُوقَهُمَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءً وَجْهَكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ، فَاَنْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَمْتَعْتُ مِنِّي، حَتَّى أَلَمْتُ بِهَا سَنَةً مِنَ السِّنِينَ، فَجَاءَ نَبِيٌّ فَأَعْطَيْتُهَا عَشْرِينَ وَمِائَةً دِينَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِهَا، فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أَجُلُ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتِمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوعِ عَلَيْهَا، فَأَنْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي

mahaz teri raza jooyi ke liye kiya ho to jis museebat mein hum muftala hain usko dooar kar de chunaancheh woh patthar thoda sa aur sarak gaya magar woh usse nikal nahin sakte the Rasoolullah ﷺ ne farmaya ab teesre shakhs ne kaha Aye Allah! main ne kuchh logon ko mazdoori par lagaya tha aur unko unki mazdoori bhi di thi lekin ek shakhs apni mazdoori ke baghair chala gaya main ne uski raqam ko kaam mein lagaya jis se bahut saa maal haasil huwa ek muddat ke ba'd woh mazdoor aaya aur kahne laga Aye Allah ke bande! mujhe meri mazdoori de. main ne kaha tu yahaan jitne ount, gaaye, bakriyaan dekh rahaa hai yeh sab ke sab teri mazdoori ke hain uss ne kaha Aye Allah ke bande! mujh se mazaq na kar main ne kaha aisi koyi baat nahin main tere saath mazaq nahin karta hoon tab uss ne tamaam cheezein lin aur haank kar le gaya aur uss mein se kuchh bhi na chhoda. Aye Allah! agar main ne yeh kaam mahaz teri khusnoodi ke liye kiya tha to yeh museebat hum se taal de jis mein hum muftala hain chunaancheh woh patthar bilkul hat gaya aur woh usse baahar nikal kar maze se chalne lage. (Bukhari:2272)

أَعْطَيْتَهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ
 ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ
 فِيهِ، فَاَنْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا
 يَسْتَطِيعُونَ الْخُرُوجَ مِنْهَا)، قَالَ النَّبِيُّ
 ﷺ: (وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنِّي
 أَسْتَأْجِرُكَ أَجْرَاءَ فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ
 غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ
 وَذَهَبَ، فَتَمَرَّتْ أَجْرُهُ حَتَّى كَثُرَتْ
 مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَ نِي بَعْدَ حِينٍ،
 فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَدِ إِلَيَّ أَجْرِي،
 فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ،
 مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ،
 فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِئْ بِي،
 فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ
 كُلَّهُ فَاسْتَأْفَقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا،
 اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ
 وَجْهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيهِ،
 فَاَنْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا
 يَمْسُونَ). (رواه البخارى: ٢٢٤٢)

Fawaaid: Imam Bukhari ke istedlaal par yeh e'teraaz kiya gaya hai ke iss teesre shakhs par tamaam saaz-wo-samaan ka dena waajib na tha balke uss ne bataur ehsaan ke usko diya tha. (Awnul Baari:3/146)

Baab 5: Dam kar ne se jo ujrati di jaaye

1058 : Hazrat Abu Say'eed Khudri ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke kuchh sahaaba kiram ﷺ kisi safar mein gaye, jaate jaate A'rab ke ek qabele ke paas padaau kiya aur chaaha ke ahle qabeelah hamaari mehmaani karein magar unhon ne usse inkaar kar diya usi dauraan uss qabele ke sardaar ko kisi zahreeli cheez ne das (دُس) liya un logon ne har qism ka e'laaj kiya magar koyi tadbeer

٥ - بَابُ: مَا يُعْطَى فِي الرُّقِيَةِ
 ١٠٥٨ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ قَالَ: انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ سَافَرُواهَا،
 حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ
 الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ
 يُصَيِّفُوهُمْ، فَلَدَغَ سَيِّدٌ ذَلِكَ الْحَيَّ

kaar gar na huyi kisi ne kaha tum un logon ke paas jaao jo yahaan thhahre huye hain shaayad un mein se kisi ke paas koyi e'laaj ho chunaancheh woh log sahaaba kiram ﷺ ke paas aaye aur kahne lage aye logo! hamaare sardaar ko kisi zahreeli cheez ne das (دَسَّ) liya hai aur hamne har qism ki tadbeer ki hai magar kuchh faayidah nahin huwa kiya tum mein se kisi ke paas koyi cheez hai? un mein se kisi ek ne kaha Allah ki qasam! main jhaad phoonk karta hoon lekin tum logon se hum ne apni mehmaani ki khaahish ki thi to tum ne use mustarad kar diya to main bhi tumhaare liye jhaad phoonk na karunga jab tak tum hamaare liye kuchh ujrati na muqarrar karo aakhir unhon ne chand bakriyon ki ujrati par un ko raazi kar liya tab sahaaba ﷺ mein se ek aadmi gaya aur surah Faatiha padh kar dam karne laga chunaancheh woh shakhs aisa sehat yaab huwa goya uske band khol diye gaye hon aur uthh kar chalne phirne laga aisa ma'loom hota tha ke use koyi bimaari na thi aur un logon ne unki muqarrarah ujrati dedi sahaaba ﷺ aapas mein kahne lage ise taqseem kar lo lekin mantar padhne waale ne kaha abhi taqseem na karo ta waqteke Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein pahunch kar iss waaqi'ah ka taz kirah na karen aur dekhen ke Rasoolullah ﷺ iske muta'alliq kiya hukm dete hain? chunaancheh woh Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein haazir huye aur Aap se yeh waaqi'ah arz kiya Aap ne farmaya tum ko kaise ma'loom huwa ke surah Faatiha se jhaad phoonk ki jaati hai? phir farmaya tum ne thheek kiya ise taqseem karlo balke apne saath mera hissa bhi rakkho yeh kah kar Rasoolullah ﷺ muskura diye. (Bukhari: 2276)

فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِيعٌ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تَضِفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ، فَاذْطَلِقْ يَتْفُلَ عَلَيْهِ وَيَقْرَأْ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ فَكَانَ مَا نَشِطُ مِنْ عِقَالٍ، فَاذْطَلِقْ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ. قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اأَقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا، فَفَعَلُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رَقِيَّةٌ). ثُمَّ قَالَ: (قَدْ أَصَبْتُمْ، أَقْسِمُوا، وَاصْرَبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا). فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. (رواه البخارى: ٢٢٧٦)

Baab 6: Nar ko maadah ke saath jufti karaane ki ujrat.

1059 :Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne jufti karaane ka mu'aawazah lene se mana' farmaya hai. (Bukhari: 2284)

٦ - بَابُ: عَسْبِ الْفَحْلِ
١٠٥٩ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ
عَسْبِ الْفَحْلِ.

(رواه البخارى: ٢٢٨٤)

Fawaaid:Iss hadees se maloom huwa ke qur'ani aayaat ko jhaad phoonk ya dam ke taur par padhna jaayez hai iss tarah woh mantar jin ke alfaaz qur'an wa hadees mein nahin aaye lekin unka mafhoom waazeh hain aur qur'an wa hadees ke khilaaf bhi nahin unhen amal mein lana bhi jaayez hai. (Awnul Baari:3/144)

Fawaaid:Yeh ejaarah naa jaayez hai haan aariyat ke taur par nar jaanwar ka dena jaayez hai isi tarah ghair mashroot taur par maadah waala nar waale ko hadyah ke taur par kuchh de to uske lene mein bhi koyi qabaahat nahin hai. (Awnul Baari:3/146)



Hawaalon ke bayaan mein

کتاب الحوالات

Hawaalah ka lughwi m'ana pher dena hai istelaah-e-fuqhaa mein kisi ke qarz ko doosre ki taraf muntaqil kar dena hawaalah kahlaata hai pahla maqrooz muheel kahlaata hai iss muaa'mlah ke liye moheel ki raza mandi shart-e-Awwal hai jis ki taraf qarz muntaqil ho use muhaal a'laih kahaa jaata hai.

Baab 1: Jab kisi maaldaar par hawaalah kiya jaaye to uss maaldaar ko waapas kar dena ka haq nahin.

1060: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya maaldaar ka qarz adaa karne mein taakheer karna zulm hai aur agar tum mein se koyi kisi maaldaar ke peechhe laga diya jaaye (yani fulaan shakhs qarz adaa karega) to peechhe lag jaana chaahiye. (Bukhari:2288)

Fawaaid: Peechhe lag jaane ka matlab yeh hai ke qarz lene waale ko yeh hawaalah qubool karke asal maqrooz ka peechha chhod dena chaahiye iss se yeh bhi maloom huwa ke iss muaa'mlah mein muhaal a'laih ki razaa mandi zaroori nahin hai. (Awnul Baari:3/151)

Baab 2: Jab koyi shakhs mayyat ke zimme qarz ko doosre ke hawaale karde to jaayiz hai.

1061 : Hazrat Salmah bin Akwau' رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke hum Rasoolullah ﷺ ke paas baiththe the ke itne mein ek janaazah laaya gaya to logon ne arz kiya Aap iski namaaz padha den Aap ne poochha iss par kuchh qarz to na tha? logon ne kaha nahin! phir Aap ne poochha kiya iss ne kuchh maal chhoda hai? logon ne kaha nahin! tab Aap ne uski namaaz-e-janaazah adaa ki thodi der ke ba'd ek doosra janaazah laaya gaya logon ne arz kiya: ya Rasoolallah ﷺ ! iski bhi namaaz-e-janaazah padhayen Aap ne poochha: iss par koyi qarz hai? arz kiya gaya: haan phir Aap ne poochha: kiya isne koyi maal chhoda hai? logon ne kaha teen asharfiyan! to Aap ne uski bhi namaaze-e-janaazah padhadi uske ba'd teesra janaazah laaya gaya logon ne arz kiya: iski bhi namaaz-e-janaazah padha den, Aap ne farmaya: isne kuchh maal chhoda hai? logon

۱ - بَابُ: إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِيٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّ

۱۰۶۰ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ). (رواه البخاري: ۲۲۸۸)

۲ - بَابُ: إِذَا أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ

عَلَى رَجُلٍ جَازٍ

۱۰۶۱ : عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟) قَالُوا: لَا، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا). قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟). قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟) قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَائِرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ أَتَى بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟) قَالُوا: لَا، قَالَ: (فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟) قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَائِرٍ،

ne arz kiya: nahin, phir Aap ne farmaya: iss par kuchh qarz hai? logon ne kaha teen asharfiyan qarz hain, Aap ne farmaya phir tum khud hi apne saathi ka janazah padh lo Hazrat Abu Qataadah ؓ ne kaha ya Rasoolallah ﷺ! Aap iski namaaz-e-janazah padha dijiye iska qarz mere zimme hai tab Aap ne uski namaaz-e-janazah padhayi. (Bukhari: 2289)

Fawaaid: Iss se ma'loom huwa ke qarz ka muaa'mlah intehaayi sangeen hai aur use shadeed zaroorat ke pesh-e-nazar hi lena chaahiye aur jab bhi gunjaayesh ho use adaa kar dena chaahiye. (Awnul Baari:3/153)

Baab 3: Ershaad-e-Baari Ta'ala: "jin se tum ne qasmen uthha kar qaulo qaraar kiya hai unhen unka hissa do"

1062 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai ke un se poochha gaya kiya Aap ko Rasoolullah ﷺ ki yeh hadees pahunchi hai ke islam mein mu'aahidah (bhaayi chaarah) nahin hai unhon ne jawaab diya be shak Rasoolullah ﷺ ne mere ghar mein bhaithh kar Quraish aur Ansaar mein mu'aahidah (bhaayi chaarah) kar diya tha. (Bukhari: 2294)

Fawaaid: Imam Bukhari iss hadees ko kitabul kifaalah ke tehat laaye hain jab ke saahibe tajreed ne iska zikr nahin kiya hai ibtedaaye islam mein iss muaa'hidah bhaayi chaarah ki bena par ek ko doosre ka waaris banaaya jaata tha ab wiraasat ko khatm karke sirf baahami ta'aawun ki bunyaad par iss muaa'hidah ko bar qaraar rakkha gaya hai chunaancheh ((لا لطف فی))

Baab 4: Jo shakhs mayyat ki taraf se qarz ka kafeel huwa use ruju' ki ejaazat nahin.

1063 : Hazrat Jaabir bin Abdullah رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya agar Bahrain ka maal aa gaya to main tumhein iss qadar dunga lekin Bahrain ke maal se peshtar hi Rasoolullah ﷺ ki wafaat ho gayi phir jab Bahrain ka maal aaya to Hazrat Abu Bakr ؓ ne e'laan kiya jis shakhs se Rasoolullah ﷺ ne kuchh wa'da farmaya ho ya Aap par kisi ka qarz ho to

قَالَ: (صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلَّى عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دِينُهُ، فَصَلَّى عَلَيَّ.

(رواه البخارى: ۲۲۸۹)

۳- بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدْتَ

أَيْمَانَكُمْ فَمَأْوَهُمْ نَصِيحُهُمْ﴾

۱۰۶۲ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَبْلَغَكَ أَنَّ النَّبِيَّ

ﷺ قَالَ: (لَا حِلْفَ فِي الْإِسْلَامِ).

فَقَالَ: قَدْ حَالَفَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ

قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ فِي دَارِي.

(رواه البخارى: ۲۲۹۴)

۴- بَابُ: مَنْ تَكْفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دِينًا

فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ

۱۰۶۳ : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ (لَوْ

قَدَّ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أُعْطِيَتْكَ

هَكَذَا وَهَكَذَا). فَلَمْ يَجِئْ مَالُ

الْبَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ، فَلَمَّا

جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ فَنَادَى:

مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ عِدَّةٌ، أَوْ

woh mere paas aaye chunaankeh main ne unse jaakar kaha ke Rasoolullah ﷺ ne mujhe itna dene ka wa'dah farmaya tha Hazrat Abu Bakr Siddeeq ؓ ne donon haath bhar kar mujhe diye aur farmaya ke ise shumaar karo main ne shumaar kiya to paanch so dirham the phir unhon ne farmaya isse do guna aur lelo. (Bukhari: 2296)

دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا، فَآتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا، فَحَشَى لِي
حَشِيَّةً، وَقَالَ: عَدَّهَا فَعَدَّدْتُهَا، فَإِذَا هِيَ
خَمْسُمِائَةٍ وَقَالَ: خُذْ مِثْلِيهَا).

(رواه البخارى: ٢٢٩٦)

Fawaaid: Hazrat Abu Bakr Siddeeq ؓ jab Rasoolullah ﷺ ke khaleefah muqarrar huye to goya aap ke tamaam mu'aamlaat wa mu'aahidaat ke zimme daar thahre lehaaza unhen Rasoolullah ﷺ ke jumlaah wa'don ka poora karna laazim huwa chunaankeh unhon ne un wa'don ko poora kiya kyun ke Rasoolullah ﷺ khud bhi eifa ahad ke kaar band the. (Awnul Baari: 3/155)



Wakaalat ke bayaan mein

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

Lughwi taur par wakaalat ka ma'na supurd karna hai sharee'a't mein kisi aadmi ka doosre ko apna kam supurd karna wakaalat kahlaata hai basharteke woh doosra uss kaam ko bajaa laane ki iste'daad wa liyaaqat rakhta ho supurd karne waale ko muakkil aur jise kaam sonpa jaaye use wakeel kahte hain.

Baab 1: Ek shareek ka doosre shareek ke liye wakeel banna.

1064 :Hazrat Uqbah bin Aamir رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne unhen kuchh bakriyaan din taake woh Aap ke sahaaba رضي الله عنهم mein taqseem kar di jaayein taqseem ke ba'd bakri ka ek bachcha rah gaya jis ka unhon ne Rasoolullah ﷺ se zikr kiya to Aap ne farmaya tu khud hi uski qurbaani kar de. (Bukhari: 2300)

Fawaaid:Hazrat U'qbah bin A'amir رضي الله عنه ka bhi un qurbaani ke jaanwaron mein hissa tha aur deegar sahaaba kiraam رضي الله عنهم ke saath un mein shareek the phir unhi ko doosre shurkaa ke liye taqseem par maamoor kiya gaya.

Baab 2: Jab charwaaha ya wakeel kisi bakri ko dekhe ke mar rahi hai to use zabah kar de ya koyi cheez jo kharaab ho rahi hai to use durust karde.

1065 :Hazrat Ka'b bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hamaare paas bakriyaan thin jo sala' pahaad par chara karti thin hamaari ek laundi ne dekha ke ek bakri mar rahi hai to usne ek patthar tod kar us se bakri ko zabah kar diya Hazrat Ka'b رضي الله عنه ne logon se kaha ke iska gosht mat khaao ta, aanke main Rasoolullah ﷺ se khud poochhun ya Rasoolullah ﷺ ke paas kisi ko daryaافت karne ke liye bhejun phir usne khud Rasoolullah ﷺ se poocha ya qaasid bheja to Aap ne uske khaane ka hukm diya.

(Bukhari: 2304)

Fawaaid:Hadees mein agarcheh charwaahе ka zikr hai taaham wakeel ko iss par qiyaas kiya jaa sakta kyun ke in donon ko ameen samajh kar aamaanat unke hawaale ki jaati hai isse ma'lloom huwa ke aisi soorat mein charwaahе ya wakeel par koyi zamaan nahin hoga. (Awnul Baari:3/158)

١ - بَابُ: فِي وَكَالَةِ الشَّرِيكِ

١٠٦٢ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا يَفْقُسُمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ، فَبَقِيَ عَتُودٌ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: (ضَحَّ بِهِ أَنْتَ). (رواه البخارى: ٢٣٠٠)

٢ - بَابُ: إِذَا أَبْصَرَ الرَّاعِيَ أَوْ

الْوَكِيلُ شَاةً تَمُوتُ أَوْ شَيْئًا يَفْسُدُ دَبِحَ أَوْ أَصْلَحَ مَا يَخَافُ عَلَيْهِ الْفَسَادُ
١٠٦٥ : عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَتْ لَهُمْ غَنَمٌ تَرَعَى بَسْلَعٍ، فَأَبْصَرَتْ جَارِيَةً لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجْرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: لَا تَأْكُلُوا حَتَّى أَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ أَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ مَنْ يَسْأَلُهُ، وَأَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ أَرْسَلَ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. (رواه البخارى: ٢٣٠٤)

Baab 3: Qarz adaa karne ke liye wakeel banaana.

1066 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke ek shakhs Rasoolullah ﷺ ke paas aaya aur bade sakht alfaaz mein Aap se apne qarz ka mutaalba karne laga uss par Sahaaba Kiraam رضي الله عنهم ne use maarne ka iraadah kiya magar Rasoolullah ﷺ ne farmaya iss ko chhod do saahib-e-haq aisi baaten kar sakta hai phir Aap ne farmaya ise utni hi umr ka ount dedo jis umr ka uska ount tha logon ne kaha uss umr ka ount nahin balke usse behtar umr ke ount maujood hain Aap ne farmaya wahi dedo kyun ke tum mein achchha woh hai jo khoobi ke saath qarz adaa kare. (Bukhari: 2306)

Fawaaid: Qarz ki adaayegi fauri taur par karne zaroori hai mumkin hai ke wakeel banaane se uss mein kuchh der ho jaaye to yeh qaabil-e-muaakhizah nahin hai. neez yeh bhi maloom huwa ke qarz ki adaayegi mein ghaayeb ki wakaalat bhi ki jaa sakti hai kyun ke haazir ke muqaable mein ghaayeb ki wakaalat bilaula jaayez hai. (Awnul Baari:3/160)

Baab 4: Agar kisi qaum ke wakeel ya sifaarshi ko kuchh hibah diya jaaye to jaayiz hai.

1067 : Hazrat Miswar bin Makhramah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ke paas qabeelah hawaazin ke log jab musalmaan ho kar aaye to Aap khade ho gaye unhon ne Aap se darkhaast ki unke maal aur qaidi waapas kar diye jaayen iss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya mujhe sachchi baat pasand hai lehaaza tum log ek baat ikhtiyaar kar lo qaidi waapas le lo ya maal, main to muddat se tumhaara muntazir tha huwa yeh ke Rasoolullah ﷺ ne Taayef se waapsi par 10 din se ziyaadah unka intezaar kiya phir jab unhein ma'loom ho gaya ke Rasoolullah ﷺ unko ek hi cheez waapas denge to unhon ne kaha hum apne qaidi waapas lete hain tab Rasoolullah ﷺ musalmaanon mein khade huye Allah ke shayaane shaan ta'reef karne ke ba'd farmaya tumhaare yeh bhaayi

۳- بَابُ: الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ
 ۱۰۶۶: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ يَتَقَضَاهُ فَأَغْلَطَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا). ثُمَّ قَالَ: (أَعْطُوهُ سِنًا مِثْلَ سِنِهِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَا نَجِدُ إِلَّا أَمْتَلَّ مِنْ سِنِهِ، فَقَالَ: (أَعْطُوهُ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمُ قَضَاءً).

(رواه البخارى: ۲۳۰۶)

۴- بَابُ: إِذَا وَهَبَ شَيْئًا لَوْ كَيْلٍ أَوْ شَفِيعٍ قَوْمٍ جَازٍ

۱۰۶۷: عَنْ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ حِينَ جَاءَهُ وَقَدْ هَوَّازَنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَسَبِيَهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَأَخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ: إِمَّا السَّبْيِ وَإِمَّا الْمَالِ، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ)، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْتَضَرَهُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قُتِلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ غَيْرُ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُسْلِمِينَ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ

hamaare paas taubah karke aaye hain aur main munaasib samajhta hoon ke inke qaidi inhen waapas kardoon lehaaza ab jo koyi khushi se waapas karna chaahe to woh waapas karde aur jo shakhs apne hisse par qaayim rahna chaahe woh iss tarah ke ab jo pahli fatah hum ko Allah de uss mein se uska mu'aawazah de den to woh iss shart par de de logon ne kaha ya Rasoolallah ﷺ! hum bela mu'aawazah dena manzoor karte hain Rasoolullah ﷺ ne farmaya main nahin jaanta ke kaun iss amr par raazi hai aur kaun nahin lehaaza tum log waapas jao aur tumhaare sardaar tumhaara paighaam hamaare paas laayen chunaancheh woh log laut gaye aakhir kaar unke sardaaron ne apne apne logon se baat ki phir Rasoolullah ﷺ ke paas aaye aur arz kiya ke woh raazi hain aur unhon ne qaidi waapas karne ki bakhushi ejaazat dedi hai. (Bukhari: 2307, 2308)

تَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: (أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ قَدْ جَاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنَّ أَرْدَ إِلَيْهِمْ سَبِيَّهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيَّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ). فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَدِنَ مِنْكُمْ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَأَرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرْفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ). فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرْفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ: أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. (رواه البخارى: ٢٣٠٤، ٢٣٠٨)

Fawaaid: Wafd-e-Hawaazin apni qaum ki taraf se wakeel aur sifaarshi ban kar aaya tha Rasoolullah ﷺ ne unhein apna hissah hibah kar diya tha jaisa ke hadees mein tafseel se maujood hai. (Awnul Baari:3/162)

Baab 5: Jab kisi ko wakeel banaaye phir wakeel kisi cheez ko chhod de aur muakkil use manzoor kare to jaayez hai

1068: Hazrat Abu Hurairah ﷺ se rivaayat hai unhon ne kaha ke mujhe Rasoolullah ﷺ ne sadqah fitr ki hifaaizat ka hukm diya mere paas ek shakhs aaya aur lap bhar bhar kar anaaj lene laga main ne use pakad liya aur kaha Allah ki qasam! main tujhe Rasoolullah ﷺ ke paas le jaaunga us ne kaha mujhe chhod do kyun ke mohtaaj hoon aur mujh par mere bachchon ka baar hone se sakht zaroorat mand hoon Hazrat Abu Hrairah ﷺ kahte hain main ne use chhod diya subah ko Rasoolullah ﷺ ne farmaya Abu Hurairah ﷺ guzishta raat tere qaidi ne kiya kiya? main ne

٥. بَابُ: إِذَا وَكَّلَ رَجُلًا فَتَرَكَ الْوَكِيلَ شَيْئًا فَأَجَازَهُ الْمُؤَكَّلُ فَهُوَ جَائِزٌ
١٠٦٨: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَّلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِحِفْظِ زَكَاةٍ، رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آتٍ، فَجَعَلَ يَحْشُو مِنْ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٍ وَوَلِي حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، قَالَ: فَخَلَيْتُ عَنْهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟)

arz kiya ya Rasoolallah ﷺ ! jab usne sakht haajat bayaan ki aur apne baal bachchon ka zikr kiya to main ne tars kha kar use chhod diya aap ne farmaya ke us ne tujh se jhoot bola hai aur woh phir aayega lehaazah main Rasoolallah ﷺ ke farmaan ke pehs-e-nazar ke woh phir aayega uska muntazir raha chunaancheh woh phir aaya aur lap bhar bhar kar ghallah lene laga main ne use pakad kaha ab main tujhe zaroor Rasoolallah ﷺ ke paas le jaaunga woh kahne laga mujhe chhod do main mhotaaj hoon mujh par mere bachchon ka bada baar hai ab main phir na aaunga ab ke bhi main ne us par taras khaaya aur chhod diya subah ko Rasoolallah ﷺ ne phir poochha Abu Hurairah ؓ ! tumhare qaidi ne kiya? main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ ! jab usne sakht zaroorat pesh ki aur bachchon ka zikr kiya to main ne uss par raham karte huye chhod diya aap ne farmaya ke us ne tum se jhoot bola woh phir aayega chunancheh main teesri baar us ka muntazir raha aur phir woh aaya aur ghallah se lap bharnе laga main ne use pakad kar kaha ke main ab tujhe zaroor Rasoolallah ﷺ ke paas le jaaunga aur yah teesri baar hai tu har baar kah deta hai ke ab na aaunga aur phir aajaata hai woh bola mujhe chhod do main tumhein chand kalimaat bataata hoon jo tumhaare liye mufeed honge main ne kaha woh kiya hain? usne kaha jab tum sone ke liye apne bistar par jao to aayatul kursi padh liya karo ya'ni "اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ" uske ekhtetaam tak phir Allah ki taraf se tumhaare liye ek mohaafiz moqarrar ho jaayega aur aur subah tak koyi shaytaan tumhareh paas na aasakega main ne phir usko chhod diya subah ko Rasoolallah ﷺ ne poochha

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً، وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: (أَمَّا إِنَّهُ قَدْ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ). فَعَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَعُودُ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّهُ سَيَعُودُ، فَرَصَدْتُهُ، فَجَاءَ يَحْشُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عِيَالٍ، لَا أَعُودُ، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ؟). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ شَكَا حَاجَةً شَدِيدَةً وَعِيَالًا، فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: (أَمَّا إِنَّهُ كَذَبَكَ، وَسَيَعُودُ). فَرَصَدْتُهُ النَّائِلَةَ، فَجَعَلَ يَحْشُو مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَهَذَا آخِرُ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ أَنْكَ تَرْعُمُ لَا تَعُودُ، ثُمَّ تَعُودُ. قَالَ: دَعْنِي أَعْلِمَكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَا، قُلْتُ مَا هُنَّ؟ قَالَ: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾. حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ، فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ، فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، فَأَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِحَةَ؟)

tumhaare qaidi ne guzishta shab kiya kiya? main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ usne kaha ke main tumhen chand kalimaat ki ta'leem deta hoon jis se Allah Ta'ala tumhen nafa dega to main ne usko chhod diya aap ne farmaya woh kalimaat kiya hain main ne arz kiya us ne mujh se kaha ke jab apne bistar par jaao to aaytul kursi shuru se aakhir tak padh liya karo Allah ki taraf se ek nigraan tumhare liye moqarrar ho jaayega ke subah tak koyi shaytaan tumhare paas nahin aayega aur sahaaba kiraam ﷺ to neki ke harees the hi! Rasoolullah ﷺ ne farmaya usne iss martabah tum se sach kaha hai agarche woh bada jhoota hai Aye Abu Hurairah ﷺ ! tum jaante ho ke teen shab tum kis se guftagu karte rahe ho main ne arz kiya nahin aap ne farmaya woh shaytaan tha. (Bukhari:2311)

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنِي اللَّهُ بِهَا فَخَلَيْتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: (مَا هِيَ؟). قُلْتُ: قَالَ لِي: إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، فَأَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوَّلِهَا حَتَّى تَخْتِمَ الْآيَةَ: ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾. وَقَالَ لِي: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبَكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ - وَكَانُوا أُحْرَصَ شَيْءٌ عَلَى الْخَيْرِ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، تَعَلَّمُ مَنْ تُخَاطَبُ مِنْذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ). قُلْتُ: لَا، قَالَ: (ذَاكَ شَيْطَانٌ). (رواه البخارى: ۲۳۱۱)

Fawaaid: Hazrat Abu Hurairah ﷺ agarcheh sadqah fitr kisi ko dene ke liye wakeel na the ta hum woh uski hifaazat par zaroor maamoor the uss mein unhon ne kuchh kami ki ke shaytaan ko chhod diya Rasoolullah ﷺ ne uske iss fe'1 ko jaayez qaraar diya. (Awnul Baari:3/167)

Baab 6: Agar wakeel bai' faasid kare to woh mustarad hogi

1069: Hazrat Abu Say'eed Khudri ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Hazrat Bilaal ﷺ ek din Rasoolullah ﷺ ke paas barni qism ki umdah khujjooren laaye aap ne un se poochha kahaan se laaye ho? Bilaal ﷺ ne kaha mere paas kuchh kharab khujjooren then main ne un ke do saa' ke e'waz iska ek saa' liya hai take Rasoolullah ﷺ inhen tanaawul farmaayen aap ne farmaya taubah tauba yeh to ba'in hi sood bilkul hi sood hai! aisa na kiya karo agar tum aaindah khujoor khareedna chaaho to pahle apni khujoor jo farokht karo phir uski qeemat ke e'waz achhchi khujjooren khareedo. (Bukhari: 2312)

٦- بَابُ: إِذَا بَاعَ الْوَكِيلُ بَيْعًا فَاسِدًا فَبَيْعُهُ مَرْدُودٌ
١٠٦٩: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (مِنْ أَيْنَ هَذَا؟) قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدِي تَمْرٌ رَدِيٌّ، فَبَعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بَصَاعٍ، لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: عِنْدَ ذَلِكَ: (أَوْهَ أَوْهَ، عَيْنُ الرَّبَِّا عَيْنُ الرَّبَِّا، لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ).

(رواه البخارى: ٢٣١٢)

Fawaaid: Iss se ma'loom huwa ke soodi mu'aamlaah kisi soorat mein bhi qaabil-e- bardaasht nahin iss hadees mein agarcheh waapas kar dene ka zikr nahin hai taa ham Muslim ki rivaayat mein wazaahat hai ke in khujooron ko wapas kar do. (Awnul Baari:3/169)

Baab 7: Had lagaane ke liye kisi ko wakeel banana.

1070: Hazrat Uqbah bin Haaris رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke nua'ymaan رضي الله عنه ko sharaab noshi ke jurm mein peish kiya gaya to Rasoolullah ﷺ ne jo log ghar mein maujood the unhen hukm diya ke us ko maaren Hazrat Uqbah رضي الله عنه kahte hain ke main bhi un logon mein tha jinhon ne us ko maara hamne jooton aur chadiyon se use peeta tha. (Bukhari: 2316)

٤- بَابُ: الْوَكَالَةِ فِي الْحُدُودِ

١٠٤٠: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جِئْتُ بِالنُّعَيْمَانَ، أَوْ ابْنَ النُّعَيْمَانَ، شَارِبًا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، قَالَ: فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ، فَضَرَبْنَاهُ بِالْبَعَالِ وَالْجَرِيدِ.

(رواه البخارى: ٢٣١٦)

Fawaaid: Hazrat Nu'aimaan bin Amar رضي الله عنه shareek ghazwah badr aur khush taba' insaan the Rasoolullah ﷺ ne ghar mein maujood logon ko unhein had lagaane ke liye wakeel muqarrar farmaya iss se yeh bhi ma'loom huwa ke sharaabi par had lagane ke liye hosh mein aane ka intezaar na kiya jaaye. (Awnul Baari:3/170)



Kaashatkaari aur bataayi ka bayaan

كتاب ما جاء في الحرث والمزارعة

Kheti baadi karna mubaah hai basharteke jehaad aur iss tarah ke deegar kaamon ke liye rukaawat ka baa'is na ho isi tarah zameen bataayi par dena bhi jaayez hai bashar teke kisi makhsoos qata' arzi ki paidawaar lene ki shart na rakkhi jaaye.

Baab.1 kaashatkaari aur Shajar kaari ki fazeelat.

1071: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya jab koyi musalmaan shajar kaari ya kaashatkaari karta hai phir uss mein se koyi Parindah, Insaan ya Haiwaan khata hai to use sadqah wa khairaat ka sawaab milta hai.

(Bukhari:2320)

Fawaaid: Musalmaan ki takhsees isliye hai ke kaafir ko sawaab-e-aakhirat nahin milta al battah dunya mein use achchhe kaam ka badlah mil sakta hai momin ke liye yeh sawaab qiyaamat tak ke liye hai. (Awnul Baari:3/173)

Baab 2: Zarayi' aalaat mein bahut masroof rahne aur jaayiz hudood se tajaawuz karne ke bure anjaam ka bayaan.

1072. Hazrat Abu Umaamah Baahili رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne hal ka phal ya kheti ka koyi aalah dekha to kaha main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko yeh farmaate suna hai ke yeh zarayi' aalaat jis qaum ke ghar mein ghos aate hain Allah Ta'ala unhen zillat wa ruswaayi se do char karta hai. (Bukhari: 2321)

Fawaaid: Yeh zillat wa ruswaayi iss bena par hogi ke jab insaan din raat kheti baadi mein laga rahe jab jehaad aur uske lawaazmaat se ghaafil ho jaayega to dushman ka ghaalib aa jaana yaqeeni hai jaisa ke doosri hadees mein iski wazaahat bhi hai.

Baab :3 Kheti ki hifaazat ke liye kutta rakhna.

1073. Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya ke jo shakhs kutta paalta hai to rozaanah uski

١ - بَابُ: فَضْلِ الزَّرْعِ وَالْعَرْسِ
١٠٤١ : عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ، أَوْ إِنْسَانٌ، أَوْ بَيْهِيْمَةٌ، إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ).

(رواه البخارى: ٢٣٢٠)

٢ - بَابُ: مَا يَحْدَرُ مِنْ عَوَاقِبِ
الاشْتِغَالِ بِآلَةِ الزَّرْعِ أَوْ مُجَاوِزَةِ
الْحَدِّ الَّذِي أَمَرَ بِهِ
١٠٤٢ : عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ
الْحَرْثِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ
يَقُولُ: (لَا يَدْخُلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا
أَدْخَلَهُ اللَّهُ الدَّلَّ).

(رواه البخارى: ٢٣٢١)

٣ - بَابُ: اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ لِلْحَرْثِ
١٠٤٣ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ

nekiyon mein se ek qeeraat ke baraabar sawaab kam hota rahega albattah kheti ya rewad ki hifaazat ke liye kutta rakkha jaa sakta hai. (Bukhari:2322)

أَمْسَكَ كَلْبًا، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطًا، إِلَّا كَلَبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ. (رواه البخارى: ٢٣٢٢)

Fawaaid: Iss hadees se Imam Bukhari ne kheti baadi karne ka jawaaz saabit kiya hai kyun ke jab kheti ke liye kutta rakhne ki ejaazat hai to zaraa'at ka peshha bhi durst hoga neez iss hadees se mazkooarah maqaasid ke liye kutte ke bachche ka paalne ka bhi jawaaz milta hai. (Awnul Baari:3/179)

1074. Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi ek rivaayat mein hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya ke bakriyon ya kheti ki hifaazat ya shikaar ke liye kutta rakkha jaa sakta hai. (Bukhari: 2322)

١٠٤٣: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ: (إِلَّا كَلَبَ غَنَمٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ). (رواه البخارى: ٢٣٢٢)

1075: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi ek doosri rivaayat mein hai ke shikaar aur jaanwaron ki hifaazat ke liye kutta rakh sakta hai. (Bukhari:2322)

١٠٤٥: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: (إِلَّا كَلَبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ). (رواه البخارى: ٢٣٢٢)

Baab 4: Kheti baadi ke liye Gaaye, Bail se kaam lena.

1076 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya ke koyi shakhs ek Bail par sawaar ho kar jaa raha tha to Bail ne mutawajjah ho kar kaha main sawaari ke liye nahin balke kheti ke liye paida kiya gaya hoon Aap ne farmaya ke main iss par yaqeen rakhta hoon aur Abu Bakr wa Umar رضي الله عنهما bhi yaqeen rakhte hain neez Aap ne farmaya ke ek bhediya bakri le gaya to charwaaha uske peechhe bhaaga bhediye ne kaha jis din (Madine mein) darinde hi darinde honge aur uss din bakriyon ka muhaafiz kaun hoga uss din to mere e'laawah koyi charwaaha nahin hoga Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne yeh sun kar farmaya main iss par yaqeen rakhta hoon aur Abu Bakr wa Umar رضي الله عنهما bhi yaqeen rakhte hain raavi Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se bayaan karta hai ke uss din woh donon majlis mein maujood nahin the. (Bukhari: 2324)

٢- بَابُ: اِسْتِعْمَالِ الْبَقَرِ لِلْحِرَاثَةِ
١٠٤٦: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقْرَةٍ التَّفَتَّتْ إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا، خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي، فَقَالَ: الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ، يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي، قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ). قَالَ الرَّاَوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْمِ. (رواه البخارى: ٢٣٢٣)

Fawaaid: Iss mein koyi baat khilaaf-e-aql nahin hai kyun ke Allah Ta'ala ne haiwanaat ko bhi zabaan di hai unka baat karna dushwaar nahin albattah khilaaf-e-aa'dat zaroor hai chunke Rasoolullah ﷺ ne uski khabar di hai lehaazah hamein yaqeen hai. (Awnul Baari:3/181)

Baab 5: Jab koyi kahe ke tu nakhlishtaan ki khidmat apne zimme lekar mujhe faarigh karde.

1077 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke Ansaar ؓ ne Rasoolullah ﷺ se arz kiya ke Aap hamaare aur hamaare bhaayiyon ke darmiyaan khujooron ke baaghaat taqseem kar den Aap ne farmaya yeh nahin ho sakta phir unhon ne Muhajreen se kaha ke tum mehnat karo hum tumhen paidawaar mein shareek kar lenge tab muhaajreen ne kaha achchha hamein manzoor hai. (Bukhari: 2325)

Fawaaid: Imam Bukhari ka u'nwaan iss tarah hai "Nakhlishtaan waghairah mein mehnat kar aur mujhe iski paidawaar se hissa de" Ma'loom huwa ke aisa karna jaayez hai ya'ni baagh ya zameen ek shakhs ki ho aur mehnat doosra shakhs kare donon piadawaar mein shareek hon. (Awnul Baari:3/182)

1078: Hazrat Raaf'e bin Khadeej ؓ rivaayat hai ke tamaam Ahl-e-Madinah se hamaare khet ziyaadah the hum zameen ko bayin shart bataayi par diya karte the ke zameen ke ek mo'ayyan hissa ki paida waar maalik zameen ki hogi chunaancheh khabhi aisa hota hai ke khet ke uss hisse par aafat aa jaati aur baaqi zameen ki paida waar achchhi rahti aur kabhi baaqi khet par aafat aa jaati aur woh hissah saalim rahta bana bareen hamen usse rok diya gaya aur sone chaandi ke e'waz thheeka par dene ka to uss waqt rawaaj hi nahin tha. (Bukhari:2327)

Fawaaid: Bataayi par zameen dena jaayez hai lekin makhsuus qata' arz ki paidawaar lene ki shart lagaana jaayez nahin hai albattah naqdi ke e'waz zameen ko thheeke par dene ke muta'alliq hadees Rafe' bin Khadeej ؓ ek doosri rivaayat (Bukhari: 2346) mein farmaate hain ke iss mein koyi harj nahin hai. (Awnul Baari:3/179)

Baab 6: Nisf Paidawaar par zameen kaasht karne ka bayaan.

1079: Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne Ahl-e-Khaibar se anaaj aur phal ki nisf paidawaar par mu'aamla kiya tha aur apni azwaaj-e-

۵- باب: إِذَا قَالَ: أَكْفَيْتِي مَوْنَةَ النَّخْلِ
۱۰۷۷: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَقْسِمُ بَيْنَنَا
وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَالَ: (لَا)
فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمَوْنَةَ، وَنَشْرَكُكُمْ فِي
الثَّمَرَةِ، قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.
(رواه البخارى: ۲۳۲۵)

۱۰۷۸: عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
مُزْدَرَعًا، كُنَّا نَكْرِى الْأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ
مِنْهَا مُسَمًى لِسَيِّدِ الْأَرْضِ، قَالَ:
فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسَلَّمَ الْأَرْضُ،
وَمِمَّا يُصَابُ الْأَرْضُ وَيَسَلَّمَ ذَلِكَ،
فَنَهَيْنَا، وَأَمَّا اللَّهْبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ
يَوْمَئِذٍ. (رواه البخارى: ۲۳۲۷)

۶- بَابُ: الْمَزَارَعَةُ بِالشَّطْرِ
۱۰۷۹: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ،

mutahharaat ko 100 wasaq diya karte the jin mein 80 wasaq khujoor aur 20 wasaq jau hote the. (Bukhari:2328)

فَكَانَ يُعْطَىٰ أَرْوَاجَهُ مِائَةَ وَسْقٍ،
ثَمَانِينَ وَسْقًا تَمْرٍ وَعَشْرِينَ وَسْقًا
شَعِيرٍ. (رواه البخارى: ٢٣٢٨)

Fawaaid: Gharelu zarooriyaat ke liye khujoor ziyaadah iste'maal hoti thi iss liye unki miqdaar ziyaadah hoti aur jau ki miqdaar kam iss liye thi ke ghar mein roti kabhi kabhi pakaaya karte the.

1080: Hazrat Ibne Abbaas رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne zameen thheke par dene se mana nahin farmaya balke aap ka irshaad hai koyi shakhs tum mein se apni zameen bhaayi ko yoon hi de de to yeh usse behtar hai ke woh uska kuchh kiraaya wasool kare. (Bukhari:2330)

١٠٨٠: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنِ
الْكِرَاءِ، وَلَكِنْ قَالَ: (أَنْ يَمْنَحَ
أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ
عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا).

(رواه البخارى: ٢٣٣٠)

Fawaaid: Iss hadees ka aaghaaz yoon hai ke Sufyaan bin U'yainah ne hazrat Taawoos se kaha behtar hai ke tum bataayi par zameen dena chhod do kyun ke logon ke baqaal Rasoolullah ﷺ ne bataayi ka muaa'mlah karne se mana farma hai hazrat Taawoos ne unke jawaab mein yeh hadees bayaan ki.

Baab 7: Sahaaba Kiraam ﷺ ke auqaaf, kharaaji zameenon aur unki bataayi neez unke muaa'mlaat ka bayaan.

1081: Hazrat Umar رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke agar ba'd mein aane waale musalmaanon ka khayaal na hota to main har maftooha shahar ko faateheen par taqseem kar deta jis tarah Rasoolullah ﷺ ne Khaibar ko taqseem kar diya tha.

٤- بَابُ: أَوْقَافِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ
وَأَرْضِ الْخَرَاجِ وَمَزَارَعَتِهِمْ
وَمُعَامَلَتِهِمْ

١٠٨١: عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ
قَالَ: لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ، مَا فَتَحَتْ
قَرْيَةٌ إِلَّا قَسَمْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا، كَمَا قَسَمَ
النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ.

(Bukhari:2334)

(رواه البخارى: ٢٣٣٤)

Fawaaid: Hazrat Umar رضي الله عنه ka matlab yeh tha ke Aaindah bahut se musalmaan paida honge jo zaroorat mand aur maflookul haal honge agar main tamaam maftooha mamaalik ki zameen ghaaziyon mein taqseem kardoon to aayindah mohtaaj musalmaan mahroom rah jaayenge.

Baab 8: Jo shakhs kisi be aabaad banjar zameen ko aabaad kare (woh usi ki hai).

1082: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs aisi zameen ko aabaad kare jo kisi ki milkiyat na ho to aabaad karne waala uska ziyaadah

٨- بَابُ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا
١٠٨٢: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا،
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا
لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ).

(رواه البخارى: ٢٣٣٥)

haqdaar hai.(Bukhari:2335)

Fawaaid:Banjar zameen ko aabaad karne ka matlab yeh hai ke paani ka band-o-bast karke wahaan kaasht kaari kare ya baagh lagaaye ya makaan waghairah ta'meer kare aisa karne se woh zameen aabaad kaar ki milkiyat ban jaayegi basharteke haakim-e-waqt ne bhi iski ejaazat di ho.

1083: Hazrat Ibn Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke hazrat Umar bin khattaab ؓ ne Yahood wa Nasaara ko sar zameen-e-hejaaz se nikaal diya Rasoolullah ﷺ ne jab Khaibar par ghalbah paaya to usi waqt yahoodiyon ko wahaan se nikaal dena chaaha kyun ke ghalbah paate hi woh zameen Allah, uske Rasool ﷺ aur tamaam Musalmaanon ki ho gayi thi phir aap ne wahaan se Yahood ko nikaalne ka iraadah farmaya to Yahood ne aap se darkhaast ki ke unhein iss shart par wahaan rahne diya jaaye ke woh kaam karenge aur unhein nisf paidawaar milegi uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya hum iss shart par jab tak chaahein rakkhenge chunaancheh Yahoodi wahaan rahe taa aanke hazrat Umar ؓ ne maqaam-e-Taima aur muqaam-e-Areeha ki taraf unhen jela watan kar diya.

(Bukhari: 2338)

Fawaaid:Hazrat Umar ؓ ne Yahoodiyon ko iss liye jela watan kiya tha ke Rasoolullah ﷺ ki aakhri wasiyyat yeh thi ke Yahoodiyon ko jazeera-e-a'rab se nikaal dena lehaaza Hazrat Umar ؓ ka yeh iqdaam kisi peshgi mu'aahidah ki khilaaf warzi na tha.

Baab 9: Sahaaba Kiraam ؓ ek doosre ko kheti aur phalon mein shareek kar liya karte the.

1084: Hazrat Rafe' bin Khadeej ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha mere chacha Zuhair bin Rafe' ؓ ne bayaan kiya ke Rasoolullah ﷺ ne hamen aise kaam se mana farma diya jis se hum ko bahut aasaani thi mein ne kaha Rasoolullah ﷺ ne jo farmaya woh haq hai, Zuhair ne kaha Rasoolullah ﷺ ne mujhe bula kar poochha tum apne

١٠٨٣ : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: أَجَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ، أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ﷺ، وَلِلْمُسْلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُقَرَّهُمْ بِهَا أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا، وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا). فَفَرُّوا بِهَا حَتَّى أَجَلَاهُمْ عُمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

(رواه البخارى: ٢٣٣٨)

٩ - بَابُ: مَا كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ

ﷺ يُؤَسِّسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي

الزَّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ

١٠٨٤ : عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ عَمِّي ظَهِيرُ ابْنِ رَافِعٍ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرِ كَانَ بِنَا رَافِعًا، قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ، قَالَ:

kheton ka kiya karte ho? main ne arz kiya ke hum chauthaayi paidawaar par neez khujoor aur jau ke chand wasaq par kiraaya ke liye dete hain aap ne farmaya aisa na karo khud kaasht karo ya kisi ko kasht ke liye de do ya use apne paas hi rahne do Rafe' kahte hain ke main ne kaha jo irshaad huwa suna aur dil se maan liya. (Bukhari:2339)

دَعَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: (مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟) قُلْتُ: نُوَاجِرُهَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَعَلَى الْأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: (لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ ازْرَعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا). قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمِعًا وَطَاعَةً. (رواه البخاری: ۲۳۳۹)

Fawaaid: Bataayi par dete waqt yeh shart lagaana ke barsaati naale ke ird gird ugne waali kheti ya makhsoos qata' arzi ki paidawaar malik ke liye hogi yeh na jaayez hai agar iss tarah naarawa sharaayet na hon to bataayi par zameen dene mein koyi qabaahat nahin hai.

1085: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ, Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usmaan, ﷺ aur hazrat Muaa'wiyah ﷺ ki ibtedaa-e-Emaarat mein apni zameen kiraaya par dete the phir hazrat Rafe' ke hawaale se hadees bayaan ki gayi ke Rasoolullah ﷺ ne zameen ko kiraaya par dene se mumania't farmayi hai hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما ne farmaya mujhe ma'loom hai ke hum Rasoolullah ﷺ ke ahad-e-mubarak mein apne khet chauthaayi paidawaar aur kuchh bhoose ke e'waz kiraaya par diya karte the. (Bukhari:2343, 2344)

۱۰۸۵: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِمَا عَلَى الْأَرْبَعَاءِ، وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ. (رواه البخاری: ۲۳۴۳، ۲۳۴۴)

Fawaaid: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما ne hazrat Rafe' ﷺ ki zabaani farmaan-e-nabawi sun kar uski wazaahat farmaayi aur bataayi par apni zameen dete rahe lekin ba'd mein ehtiyaatan usse dast bardaar ho gaye jaisa ke agli hadees se ma'loom hota hai.

1086: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se hi rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke zamaana mein khet kiraaya par diye jaate the phir hazrat Abudllah ﷺ ko yeh andeshah laahaq huwa ke shaayad Rasoolullah ﷺ ne iss masala mein koyi naya hukm diya ho jis ki unhen

۱۰۸۶: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْلَمُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الْأَرْضَ تُكْرَى، ثُمَّ خَشِيَ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَحَدَتْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُهُ، فَتَرَكَ

khobar na huyi ho lehaazah unhon ne (ehtiyaatan) khet ko kiraaye par dena band kardiya. (Bukhari:2345)

كَرَاءَ الْأَرْضِ.

(رواه البخارى: ٢٣٢٥)

١٠- بَابُ

Baab 10:

1087: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ek din guftagu farma rahe the jab ke ek dehaati bhi aap ke paas baithha huwa tha aap ne farmaya ke ek shakhs jannat mein apne parwardigaar se kheti baadi karne ki ejaazat maange ga parwardigaar farmaayega kiya tu maujoodah haalat mein khush nahin? woh arz karega kyun nahin khush to hoon lekin kheti baadi karna chaahata hoon aap ne farmaya jab woh beej boyega to uska ugna, parwaan chadhna aur katne ke laayeq hona palak jhapakne se bhi pahle ho jaayega aur paidawaar ke dher pahaadon ke baraabar honge phir Allah Ta'ala farmayega Aye Ibne Adam! le kyun ke tu kisi cheez se sair nahin hota phir dehaati ne kaha ya Rasoolallah ﷺ ! aap aisa shakhs Quraish ya Ansaar mein paayenge kyun ke wahi log kheti baadi karte hain hum to kheti waale nahin hai uss par Rasoolullah ﷺ muskura diye. (Bukhari:2348)

١٠٨٧: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَوْمًا يُحَدِّثُ، وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ فِي الزَّرْعِ، فَقَالَ لَهُ: أَلَسْتَ فِيمَا شِئْتَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنِّي أَحِبُّ أَنْ أُزْرَعَ، قَالَ: فَبَدَّرَ، فَبَادَرَ الطَّرْفَ نَبَاتُهُ وَاسْتَوَأْوُهُ وَاسْتَحْصَادُهُ، فَكَانَ امْتِثَالَ الْجِبَالِ، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: دُونَكَ يَا ابْنَ آدَمَ، فَإِنَّهُ لَا يُشْبِعُكَ شَيْءٌ. فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: وَاللَّهِ لَا تَجِدُهُ إِلَّا قُرَشِيًّا أَوْ أَنْصَارِيًّا، فَإِنَّهُمْ أَصْحَابُ زُرْعٍ، وَأَمَّا نَحْنُ فَلَسْنَا بِأَصْحَابِ زُرْعٍ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ.

(رواه البخارى: ٢٣٢٢)

Fawaaid: Imam Bukhari ka iss hadees ko laane ka matlab yeh ma'loom hota hai ke thheeke ya bataayi par zameen dene se mana ki rivaayaat hurmat par dalaalat nahin kartin balke akhlaaqi taur par logon ki hamdardi par ubhaarne ke liye hain kyun ke zameen ke muta'alliq iss qism ki hirs par qadghan nahin lagaayi jaa sakti balke ahle jannat mein bhi agar koyi iss qism ki hirs par mabni khaahish ka izhaar karega to use poora karne ka moqa diya jaayega. Wallahu A'lam (Awnul Baari:3/196)

Masaqaat ka bayaan

كتاب المساقاة

Masaqaat dar haqeeqat muzaaria't ki ek qism hai farq yeh hai ke zaraa'at zameen mein hoti hai aur masaqaat baaghaat mein ya'ni ek shakhs ka baagh ho doosra uski negahbaani kare phir phalon ko tai shudah hisse ke mutaabiq taqseem kar liya jaaye muzaria't ki tarah yeh bhi jaayez hai.

Baab1: Paani ki taqseem ka bayaan

1088: Hazrat Sahal bin Sa'd رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke paas paani ka ek bada piyaalah laaya gaya aap ne uss mein se piya uss waqt aap ke daayen jaanib ek kam sin lakda baithha huwa tha jab ke baayen taraf sab umr raseedah log the aap ne uss lakde se farmaya barkhurdaar! kiya tu ejaazat deta hai ke main baqyah paani in bade logon ko de doon? uss ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! aap se bache huye paani par apne oupar kisi aur ko tarjeeh nahin de sakta chunaancheh aap ne woh piyaalah usko e'naayat farmaya.

(Bukhari:2351)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke paani ki taqseem ho sakti hai aur taqseem mein pahle daayen jaanib waalon ka haq hai. (Awnul Baari:3/197)

1089: Hazrat Anas bin Malik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha main ne apne ghar ki ek paaltu bakri ka doodh dhooha aur ghar waale kunwen ka paani liya aur uss mein mila diya phir use ek piyaalah mein daal kar Rasoolullah ﷺ ke huzoor pesh kiya jise aap ne nosh farmaya jab aap ne piyaalah munh se juda kiya to uss waqt aap ke baayen jaanib Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه aur daayen taraf ek dehaati baithha tha Hazrat Umar رضي الله عنه ne iss andesha ke pesh-e-nazar ke aap apna pas khurdah dehaati ko de denge arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! Abu Bakr رضي الله عنه ko de dejiye jo aap ke paas hi baithhe hain magar apne apna pas khurdah apne daayen jaanib baithhne waale dehaati ko e'naayat kar ke farmaya daayen taraf wala ziyadah haqdaar hai phir jo uski daayen jaanib ho.

(Bukhari:2352)

ا بَابُ فِي الشَّرْبِ

١٠٨٨ : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِقَدَحٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ أَصْغَرُ الْقَوْمِ، وَالْأَشْيَاحُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ: (يَا غُلَامُ، أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَهُ الْأَشْيَاحُ). قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَوْثَرِ بِفَضْلِي مِنْكَ أَحَدًا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

(رواه البخارى: ٢٣٥١)

١٠٨٩ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: حَلَبْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَاةَ دَاجِنٍ، فِي دَارِي، وَشَيْبَ لَبْنُهَا بِمَاءٍ مِنَ الْبَيْرِ النَّبِيِّ فِي دَارِي، فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ الْقَدَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَعَ الْقَدَحَ مِنْ فِيهِ، وَعَلَى يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ عُمَرُ، وَخَافَ أَنْ يُعْطِيَهُ الْأَعْرَابِيُّ: أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيُّ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: (الْأَيْمَنُ فَأَلَا يَمَنُ).

(رواه البخارى: ٢٣٥٢)

Fawaaid: Ek rivaayat mein hai ke hazrat Anas ؓ ne farmaya yeh sunnat hai yeh sunnat hai yeh sunnat hai ya'ni daayen jaanib waale ko pahle diya jaaye agarcheh woh maqaam aur darjah ke lehaaz se kam tar hi kyun na ho agar haazreen saamne hon to badon ka khayaal rakkha jaaye. (Awnul Baari:3/198)

Baab 2: Paani ka maalik sairaab hone tak paani ka ziyaadah haqdaar hai.

1090: Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ghaas ko rokne ke liye zaroorat se ziyaadah paani na roka jaaye. (Bukhari:2353)

۲ بَابُ: مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ

أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرَوْى

۱۰۹۰: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا

يُمنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمنَعَ بِهِ الْكَلْبُ.

(رواه البخارى: ۲۳۵۳)

Fawaaid: Iska matlab yeh hai ke kisi shakhs ka kunwan aisi jagah par ho jahaan uske ird gird bakasrat ghaas ugi huyi ho wahaan sab log apne jaanwar charaane ka haq rakhte hon lekin kunwen ka maalik kisi ko kunwen se paani na peene de taake iss bahaane woh ghaas bhi mahfooz rahe yeh na jaayez hai. (Awnul Baari:3/200)

1091: Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi ek rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya zaroorat se zaayed ghaas ko rokne ke liye zaroorat se zaayed paani mat roko.

(Bukhari: 2354)

۱۰۹۱: وفى رواية عنه: أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا تَمْنَعُوا فَضْلَ الْمَاءِ

لَتَمْنَعُوا بِهِ فَضْلَ الْكَلْبِ).

(رواه البخارى: ۲۳۵۴)

Fawaaid: Zaroorat se zaayed paani rokna goya uss ghaas se rokhna hai jo wahaan ugi huyi hai ibne Hibbaan ki ek rivaayat mein ghaas se na rokne ki saraahat bhi hai iss liye zaati zarooriyaat aur zaraa'at wa haiwanaat se faazil paani rokna jaayez nahin hai. (Awnul Baari:3/201)

Baab3: Kunwen ke muta'alliq jhagadna aur uska faisla karne ka bayaan.

1092: Hazrat Abdullah bin Mas'ood ؓ se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya jo kisi musalmaan ka maal hathyaane ke liye jhooti qasam uthhaaye to woh Allah se iss haal mein milega ke Allah usse na raaz hoga chunaankeh Allah Ta'ala ne yeh aayat naazil farmaayi hai "jo log Allah ke waaste se jhooti qasmen uthhaakar dunya ka thoda sa maal lete hain aakhir tak" (Aale Imran) uss dauraan Hazrat Ash'as ؓ aa gaye aur unhon ne poochha ke Abu Abdur Rahmaan ya'ni Abdullah bin Mas'ood ؓ tum se kiya bayaan karte hain? yeh aayat to mere haq mein naazil hiyi hai kyun ke mere chacha

۳. بَابُ: الْخُصُومَةِ فِي الْبَيْتِ

وَالْقَضَاءِ فِيهَا

۱۰۹۲: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

(مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَفْتَطِعُ بِهَا مَا

لَا مَرَىءٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ

اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ). فَأَنْزَلَ اللَّهُ

تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ

وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾. الْآيَةُ: فَجَاءَ

الْأَشْعَثُ فَقَالَ: مَا يَحْدِثُكُمْ أَبُو عَبْدِ

الرَّحْمَنِ؟ فَبِي أَنْزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ،

zaad bhaayi ki zameen mein mera ek kunwa tha. (uski milkiyat par jhagda huwa) to aap ne farmaya tum apne gawaah pesh karo main ne arz kiya mera to koyi gawaah nahin hai aap ne farmaya to phir doosre fareeq se qasam li jaayegi main ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! woh to qasam uthhalega tab aap ne yeh hadees bayaan farmayi aur Allah Ta'ala ne aap ki tasdeeq ke liye yeh aayat naazil farmayi. (Bukhari:2356,2357)

Fawaaid:Maal par na jaayez qabzah karne ke muta'alliq musalmaan ki shart aa'm haalaat ke pesh-e-nazar hai wa garna kisi ke maal par na jaayez qabzah karne ki shara'n ejaazat nahin khaah woh zimmi ya muaa'hadah kyun na ho.(Awnul Baari:3/203)

Baab 4: Uss Shakhs ka gunaaah jo kisi musaafir ko paani se roke.

1093: Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya Allah Ta'ala qiyaamat ke din teen aadmiyon par nazr-e-karam nahin karega aur na hi unko gunaaah se paak karega balke un ke liye alamnaak azaab hoga ek to woh shakhs jis ke haan guzargaah ke paas zaroorat se ziyaadah paani ho woh usse musaafir ko roke doosra woh shakhs jo kisi imam se mahaz husool-e-dunya ke liye bai'at kare agar woh use kuchh hissa de de to khush rahe agar na de to naaraaz ho jaaye aur teesra woh shakhs jo Asr ke ba'd apna maal bechne khada huwa aur yoon kahe ke Allah ki qasam jis ke siwa koyi ma'bood-e -haqeeqi nahin iss maal ki mujhe itni qeemat mil rahi hai (lekin main ne nahin diya) aur kisi ne use sachcha samajh kar usse woh cheez khareed li uske ba'd aap ne yeh aayat telaawat farmayi

"woh log jo Allah ka waastah de kar aur jhooti qasmen uttha kar duniya ka thoda maal lete hain aakhir aayat tak. (Bukhari:2358)

Fawaaid:Agar kisi ke paas baqadr zaroorat paani hai to woh musaafir ki nisbat iska ziyaadah haqdaar hai.(Awnul Baari:3/205)

Baab 5: Paani Pilaane ki Fazeelat.

1094: Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke ek

كَانَتْ لِي بئرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي، فَقَالَ لِي: (شُهُودَكَ). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا يَحْلِفُ، فَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ هَذَا الْحَدِيثِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ذَلِكَ تَصَدِيقًا لَهُ.

(رواه البخارى: ٢٣٥٦، ٢٣٥٧)

٣. بَابُ: إِيْتُمُ مِنْ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ

مِنَ الْمَاءِ

١٠٩٣: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنْ ابْنِ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَاعَ إِمَامًا لَا يُبَاعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخَطَ، وَرَجُلٌ أَقَامَ سَلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ). ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾.

(رواه البخارى: ٢٣٥٨)

٥. بَابُ: فَضْلِ سَقْيِ الْمَاءِ

١٠٩٤: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ

shakhs chala jaa rahaa tha use jab shiddat ki piyaas lagi to woh kunwen mein utra aur paani piya wahaan se nikla to dekha ke ek kutta piyaas se haanp raha hai aur nam daar zameen chaat raha hai uss shakhs ne apne dil mein kaha aakhir ise bhi wahi takleef hogi jo mujhe thi usne apna moozah paani se bhara phir daanton se pakad kar oupar chadha aur uss kutte ko pilaaya Allah Ta'ala ne uska yeh kaam pasand farmaya aur use bakhsh diya Sahaaba ﷺ ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ ! kiya jaanwaron ki khidmat se hamen ajr milega aap ne farmaya haan har jaandaar ki khidmat mein sawaab hai.

(Bukhari:2363)

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (بَيْنَا رَجُلٌ يَمْشِي، فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَنَزَلَ بِئْرًا فَشَرِبَ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِكَلْبٍ يَلْهَثُ، يَأْكُلُ التُّرَى مِنْ الْعَطَشِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلُ الَّذِي بَلَغَ بِي، فَمَلَأُ حَفَّهُ ثُمَّ أَمْسَكُهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَعَفَّرَ لَهُ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ قَالَ: (فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ).

(رواه البخارى: ٢٣٦٣)

Fawaaid: Iss hadees se paani pilaane ki fazeelat ma'loom hoti hai agar kisi shakhs ke gunaah ziyadah hon to use bhi doosron ko paani pilaane ka ehtemaam karna chaahiye agar kutte ko paani pilaane se maghfirat haasil ho sakti hai to kisi musalmaan ke liye yeh ehtemaam karna bahut hi sawaab ka baai's hai. (Awnul Baari:3/207)

Baab 6:Hauz aur Mashk ka maalik apne paani ka ziyadah haqdaar hai.

1095:Hazrat Abu Hurairah ﷺ se hi rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya mujhe uss zaat ki qasam! jske haath mein meri jaan hai main qiyaamat ke din apne hauz-e-kausar se kuchh logon ko iss tarah hataaunga jaise ajnabi oont hauz se rok diye jaate hain. (Bukhari:2367)

٦. بَابُ: مَنْ رَأَى أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ أَوْ الْقَرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ ١٠٩٥: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأُدْوَذَنَ رَجُلًا عَنِ حَوْضِي، كَمَا تُدَادُ الْعَرَبِيَّةُ مِنَ الْإِبِلِ عَنِ الْحَوْضِ).

(رواه البخارى: ٢٣٦٤)

Fawaaid: Iss hadees mein hauz ki nisbat Rasoolullah ﷺ ki taraf ki gayi hai jiska matlab yeh hai ke aap hi uske haqdaar the aur jo log dunya mein nifaaq wa shiqaaq aur bid'aat wa rusoomaat ka shikaar rahe woh iss hauz se mahroom rahenge. (Awnul Baari:3/208)

1096:Hazrat Abu Hurairah ﷺ se hi rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya 3 shakhs aise hain jin se Allah Qiyaamat ke din na baat karega aur na hi nazar-e-rahmat se dekhega, ek woh jis ne apne maal par qasam uthhayi ho ke itni ziyadah qeemat mil rahi hai haalaanke woh jhoota ho. doosra jis ne kisi musalmaan ka maal hadap karne ke liye Asr ke ba'd jhooti

١٠٩٦: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سُلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أُعْطِيَ وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطَعَ

qasam uthhayi. teesra woh shakhs jo apni zaroorat se zaayed paani logon se roke Allah Ta'ala usse farmaayega ke aaj main tujhe usi tarah apne fazl se mahroom rakhta hoon jis tarah toone logon ko faaltu paani se mahroom kiya tha haalaanke use toone paida nahin kiya tha. (Bukhari:2369)

Fawaaid:Uss shakhs ko zaroorat se ziyaadah paani rokne par saza mili iska matlab yeh hai ke baqadr zaroorat paani rokna jaayez tha kyun ke woh uska haqdaar tha neez hadees ke aakhri alfaaz se bhi maloom hota hai agar kisi ne mehnat se paani nikaala ho to woh uska haqdaar hai. (Awnul Baari:3/209)

Baab 7:Sarkaari Charagaah to sirf Allah aur uske Rasool ﷺ ke liye hai.

1097:Hazrat Sa'b bin Jassamah ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya charagaah to Allah aur uske Rasool ﷺ ke liye hi hai.(Bukhari: 2370)

Fawaaid:Janglaat, pahaadon ki chotiyaan aur ghaatiyaan neez barasaati naalon ke ird gird shikaar gaahen hukoomat-e-waqt ki milkiyat hoti hain kisi doosre ko wahaan qabzah karne ki ejaazat nahin kyun ke woh refaahi mansoobon aur qaumi aabaad kaari ke liye hain.

(Awnul Baari:3/210)

Baab 8:Nahron se Insaanon aur Chaupaayon ka paani peena durust hai.

1098:Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ghoda ba'z logon ke liye baai's-e-sawaab ba'z ke liyeajib-e-pardah poshi aur ba'z ke liye wajah-e -wabaal hai baai's-e-ajr uss shakhs ke liye hai jis ne use Allah ki raah mein baanhde rakkha uski rassi ko kisi charaagaah ya baagh mein lamba kardiya aur rassi ki lambaayi tak charagaah ya baagh ke jis qadar maydaan mein phirega uske e'waz use nekiyaan milengi agar uski rassi toot jaaye aur woh ek ya do teelon tak daud jaaye to bhi uske qadmon ke nishanaat aur leed waghairah bhi uske liye nekiyaan shumaar hongy aur agar uska guzar kisi nahar par ho usne wahaan se paani piya go uske maalik ka iraadah paani pilaane ka na tha tab bhi nekiyaan likh li jaayengi pas iss qism ka

بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَعَ فَضْلٍ مَائِهِ فَيَقُولُ اللَّهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتُ فَضْلًا مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ). (رواه البخارى: ٢٣٦٩)

٤. بَابُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ
١٠٩٤: عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ). (رواه البخارى: ٢٣٤٠)

٨. بَابُ: شُرْبِ النَّاسِ وَسَقَى الدَّوَابِّ مِنَ الْأَنْهَارِ
١٠٩٨: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ: فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، فَمَا أَصَابَتْ فِي طَيْلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرْجِ أَوْ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ، وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طَيْلُهَا، فَاسْتَتَتْ شَرْفًا أَوْ شَرْفَيْنِ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يَرُدَّ أَنْ يَسْقَى كَانَ

ghoda maalik ke liye baai's-e-ajr wa sawaab hai aur jis shakhs ne rupiya kamaane aur sawaal se bachne ke liye ghoda baandha aur woh uski zaat aur uski sawaari mein Allah Ta'ala ke haq ko bhi faraamoosh na karta ho to yeh ghoda uske liye bachaau ka zariya hai aur jo shakhs mahaz fakhr wa riya aur musalmaanon ko nuqsaan pahunchaane ke liye ghoda baandhta ho woh uske liye moajib-e-azaab wa wabaal hai Rasoolullah ﷺ se gad,hon muta'alliq poochha gaya to aap ne farmaya gadhon ke muta'alliq khaas taur par mujh par kuchh naazil nahin huwa magar yeh aayat jo jaame' tareen hai. "Jo koyi zarrah bhar bhalaayi karega woh usko dekh lega aur jo koyi zarrah bhar buraayi karega woh bhi use dekh lega". (Bukhari:2371)

ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ
بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، وَلَمْ يُرَدَّ أَنْ يَسْقَى
كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ، فَهِيَ لِذَلِكَ
أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغْنِيًا وَتَعَفُّقًا، ثُمَّ
لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي رِقَابِهَا، وَلَا
ظُهُورِهَا، فَهِيَ لِذَلِكَ سِتْرٌ. وَرَجُلٌ
رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنَوَاءً لِأَهْلِ
الْإِسْلَامِ، فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرٌ).
وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُمْرِ؟
فَقَالَ: (مَا أَنْزَلَ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ إِلَّا
هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَادَةُ: ﴿فَمَنْ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾).

(رواه البخارى: ۲۳۷۱)

Fawaaid: Imam Bukhari ka matlab yeh hai ke jo nahren raaste par waaqe hon un se insaan aur haiwaan sab paani pi sakte hain woh kisi ke liye khaas nahin hain. (Awnul Baari:3/212)

Baab 9: Eindhani aur ghaas farokht karna.

1099 : Hazrat Ali bin Abi Talib ﷺ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke mujhe Rasoolullah ﷺ ke saath Badr ke maal-e-ghaneemat se ek ountni mili aur ek ountni Rasoolullah ﷺ ne mujhe e'naayat farmayi main ne ek din un donon ountniyon ko ek Ansaari aadmi ke darwaaze par baithhaya mera iraadah tha un par azkhar ghaas laad kar farokht karoon uss waqt mere saath Bani Qainuqa' ka ek sunaar bhi tha main iss kaam se Hazrat Faatimah رضي الله عنها se nikaah karke waleema ke liye kharchah bana raha tha jabke Hamzah bin Abdul Muttalib ﷺ uss ghar mein sharaab pi rahe the aur unke paas ek gulukaarah yeh gaa rahi thi. Hamzah uthho in farbah ountniyon ko pakdo aur zabah karo.yeh sun kar Hamzah ne talwaar pakdi aur un donon ountniyon ki taraf badhe aur

۹. بَابُ: بَيْعُ الْحَطَبِ وَالْكَالِ
۱۰۹۹: عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَصَبْتُ شَارِقًا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَعْنَمِ يَوْمِ
بَدْرٍ، قَالَ: وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
شَارِقًا أُخْرَى، فَأَنْخَتُهُمَا يَوْمًا عِنْدَ
بَابِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ
أَحْمَلَ عَلَيْهِمَا إِذْخِرًا لِأَبِيئِهِ، وَمَعِيَ
صَائِغٌ مِنْ بَنِي قَيْنِقَاعَ، فَأَسْتَعِينُ بِهِ
عَلَى وَليْمَةِ فَاطِمَةَ، وَحَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ
الْمُطَّلِبِ يَشْرَبُ فِي ذَلِكَ الْبَيْتِ مَعَهُ
قَيْنَةٌ، فَقَالَتْ: أَلَا يَا حَمْرُ لِلشَّرْفِ
النِّوَاءِ. فَشَارَ إِلَيْهِمَا حَمْرَةٌ بِالسَّيْفِ،

unke kohaan kaat liye aur pet phaad kar unki kalejiyaan nikaal lin Hazrat Ali ؓ ka bayaan hai ke main uss manzar se khaufzadah ho kar Rasoolullah ﷺ ke paas gaya wahaan Zaid bin Haarisah ؓ bhi maujood the main ne yeh saara qissah Aap ko kah sunaaya Aap uss waqt baahar nikal aaye Zaid bin Haarisah ؓ aur main bhi Aap ke hamraah chale Aap ne Hazrat Hamzah ؓ ke paas pahunch kar un par bahut ghussa kiya Hazrat Hanzah ؓ ne aankh uthakar nashe ki haalat mein kaha tum log to mere baap daada ke ghulaam ho uss par Rasoolullah ﷺ khaamoosh wapas aa gaye yeh waaqi'ah hurmat-e-sharaab se pahle ka hai.

(Bukhari: 2375)

Fawaaid: Maloom huwa ke ghair milkiyati zameen mein jo ghaas, eindhan aur paani waghairah hota hai usse har aadmi faayidah uthha sakta hai albattah milkiyati zameen mein kisi cheez se faayidah uthhane ke liye maalik se ejaazat lena zaroori hai.

Baab 10: Jaageer likh kar dena.

1100 : Hazrat Anas ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne Ansaar ko Bahrain ki jaageer dena chaahi to Ansaar ne kaha hum uss waqt tak yeh jaageer nahin lenge jab tak ke Aap Muhaajir bhaaiyon ko bhi waisi hi jaageer na den Aap ne farmaya tum mere ba'd yeh dekhoge ke doosre logon ko tum par muqaddam rakkha jaayega lehaaza aise haalaat mein mujh se milne tak sabr wa shakeeb se kaam lena. (Bukhari: 2376)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ne Ansaar ko sabr ki talqeen farmaayi hai jis ka matlab yeh maloom hota hai ke unhein hukoomat se qiyaamat tak mahroom rakkha jaayega chunaancheh Ansaar ne iss hadees ke mutaabiq sabr se kaam liya aur khaleefah waqt ki e'taa'at ki. (Awnul Baari: 3/216)

Baab 11: Jis shakhs ke baagh mein guzargaah ya nakhlistaan mein chashmah ho to uska kiya hukm hai?

1101 : Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmaate huye suna jo

فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا،
ثُمَّ أَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا. قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: فَظَنَرْتُ إِلَى مَنْظَرٍ أَقْطَعَنِي،
فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ
حَارِثَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبِيرَ، فَخَرَجَ وَمَعَهُ
زَيْدٌ، فَاِنْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلِيٌّ
حَمْرَةَ، فَتَغَيَّطَ عَلَيْهِ، فَرَفَعَ حَمْرَةَ
بَصْرَهُ وَقَالَ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَيْبِدُ لَا بَأْسِي،
فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْهَقُرُ حَتَّى
خَرَجَ عَنْهُمْ، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ
الْحَمْرِ. (رواه البخارى: ٢٣٧٥)

١٠٠. بَابُ الْقَطَائِعِ

١١٠٠: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ
يَقْطَعَ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ:
حَتَّى تُقْطَعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
مِثْلَ الَّذِي تُقْطَعُ لَنَا، قَالَ: (سَتَرُونَ
بَعْدِي أَثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْفُونِي).

(رواه البخارى: ٢٣٧٦)

١١٠١. بَابُ: الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌ أَوْ

شَرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ نَخْلٍ

١١٠١: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

shakhs pewand kiye jaane ke ba'd khujoor ka darakht khareede to uska phal bechne waale ko milega magar jab kharidaar ne uski shart karli ho. (Bukhari: 2379)

صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (مَنْ ابْتاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ
تَوَبَّرَ فَفَمَرَّتْهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ ابْتاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ
فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
الْمُبْتَاعُ). (رواه البخارى: ٢٣٧٩)

Fawaaid: Imam Bukhari ka matlab yeh hai ke agar kisi cheez mein do haq jama ho jaayen masalan kisi baagh ke muta'alliq haqq-e-milkiyat aur haqq-e-intefa' jama hon to haqq-e-intefa' rakhne waale ke liye maalik ki taraf se kisi qism ki rukaawat nahin honi chaahiye ya'ni baagh ko paani dene aur phal todne ke liye raastah dene ki sahoolat deni chaahiye.



Qarz lena aur qarzah ada karna, tasarruf se rokna aur diwaliyah qaraar dena

Baab 1: Jo shakhs logon se adaayegi ya barbaadi ki niyyat se qarz le.

1102 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya jo shakhs logon se iss niyyat se qarz le ke woh unhein ada kar dega to Allah Ta'ala use ada karne ki taufeeq se nawaazega aur jo shakhs logon ka maal zaaye' kar dene ka iraadah se lega to Allah usko zaaye' kar dega. (Bukhari: 2387)

Fawaaid: Aadaayegi ki niyyat se qarz lene wale ki Allah zaroor madad karta hai ya'ni dunya mein hi uski adaayegi ke asbaab paida kar deta hai agar muflisi ki wajah se ada na kar sake to qiyaamat ke din uske qarz khaah ko Allah ta'ala khush karke maqrooz ko rehaayi dilaa dega.

Baab 2: Qarzon ka ada karna.

1103 : Hazrat Abu Zar رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saath tha Aap ne U'had pahaad ko dekh kar farmaya main nahin chaahta ke yeh pahaad mere liye sone ka ban jaaye to teen din ke ba'd ek dinaar bhi uss mein se mere paas baaqi rahe magar woh dinaar jise main ne qarz ki adaayegi ke liye rakh liya ho phir Aap ne farmaya dekho jo daulat mand hain wahi mohtaaj hain magar woh shakhs jo maal ko iss tarah kharch kare lekin aise log kam hain phir Aap ne mujh se farmaya jab main waapas na aaoun tum apni jagah par thhahre rahna Aap thodi door aage badh gaye main kuchh aawaaz suni to udhar jaana chaaha lekin mujhe Aap ka farmaan yaad aagaya ke yahin thhahre rahna jab tak main tere paas na aa jaaoun jab Aap wapas tashreef laaye to main ne arz kiya yeh aawaaz kaisi thi jo main ne suni? Aap ne farmaya toone suni thi? main ne kaha ji haan! Aap ne farmaya mere paas jibrayeel aaye the

كتاب في الإستقراض واداء

الدُّيُونِ وَالْحِجْرِ وَالتَّفْلِيسِ

١. بَابُ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ

أَدَاءَهَا أَوْ إِتْلَافَهَا

١١٠٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَخَذَ

أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ

عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ

اللَّهُ). (رواه البخارى: ٣٣٨٧)

٢. بَابُ: أَدَاءُ الدُّيُونِ

١١٠٣: عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا

أَبْصَرَ. يَعْنِي أَحَدًا. قَالَ: (مَا أَحْبُّ أَنَّهُ

يُحَوَّلَ لِي ذَهَبًا، يَمُكُّ عِنْدِي مِنْهُ

دِينَارٌ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا دِينَارًا أَرْضِدُهُ

لِدَيْنٍ). ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ

الْأَقْلُونَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا

وَهَكَذَا وَقَلِيلٌ مَا هُمْ). وَقَالَ:

(مَكَانَكَ). وَتَقَدَّمَ غَيْرَ بَعِيدٍ

فَسَمِعْتُ صَوْتًا، فَأَرَدْتُ أَنْ آتِيَهُ، ثُمَّ

ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: (مَكَانَكَ حَتَّى

آتِيَكَ). فَلَمَّا جَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، الَّذِي سَمِعْتُ؟ أَوْ قَالَ: الصَّوْتُ

الَّذِي سَمِعْتُ؟ قَالَ: (وَهَلْ سَمِعْتُ؟)

قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ (أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ

unhon ne kaha Aap ki ummat mein se jo shakhs bayin haalat mare ke woh Allah ke saath shareek na karta ho to woh jannat mein daakhil hoga main ne kaha agar cheh woh aise aise kaam karta ho. Aap ne farmaya "haan" (zaroor jannat mein jaayega).(Bukhari: 2388)

السَّلَام، فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. قُلْتُ: وَإِنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. (رواه البخارى: ٢٣٨٨)
٣. بَابُ: حُسْنُ الْقَضَاءِ

Fawaaid: Iss hadees se ma'loom huwa ke qarz ki adaayegi sadaqah khairaat karne par muqaddam hai neez uski adaayegi ke liye insaan ko har waqt fikr mand rahna chaahiye.(Awnul Baari:3/222)

Baab 3: Umdah taur par haq ada karna

1104 : Hazrat Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke paas Masjid mein chaasht ke waqt aaya Aap ne farmaya do rak'at namaaz padh lo phir mera jo qarz Aap ke zimme tha Aap ne ada farmaya aur kuchh ziyaadah bhi diya. 2394)

١١٠٤: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ ضَحَى، فَقَالَ: (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ). وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي. (رواه البخارى: ٢٣٩٤)

Fawaaid: Ma'loom huwa ke pahle se tai shudah shart ke baghair agar maqrooz apne qarz khah ko koyi ezaafah deta hai to woh sood nahin hai sood yeh hai ke qarz dete waqt ezaafe ki sharah tai karli jaaye. (Awnul Baari:3/223)

Baab 4: Maqrooz ki namaaz-e-janazah padhna.

1105 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya main momin ka dunya wa aakhirat mein sab se ziyaadah qareebi dost hoon tum agar chaaho to yeh aayat padho "Paighambar ahle eemaan se khud unse bhi ziyaadah ta'alluq rakhte hain" lihaaza jo koyi momin mar jaaye aur maal chhod jaaye woh uske waarison ko milega jo bhi hon aur jis ne qarz ya pas maandgaan chhode woh mere paas aa jaaye main uska bando bast karunga. (Bukhari: 2399)

٣. بَابُ: الصَّلَاةِ عَلَى مَنْ تَرَكَ دَيْنًا
١١٠٥: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اأَفْرُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصْبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَلْيَأْتِنِي، فَأَنَا مَوْلَاهُ). (رواه البخارى: ٢٣٩٩)

Fawaaid: Ibtadaa mein Rasoolullah ﷺ maqrooz ki namaaz-e-janaazah na padhte the taake logon ko qarz lene ki sangeeni se khabar daar karein lekin futoohaat ke ba'd jab musalmaanon ki maali haalat badal gayi to maqrooz par janazah padhne lage maloom huwa ke qarz lene se deen mein koyi khalal nahin aata ke uska janazah hi na padha jaaye. (Awnul Baari:3/225)

Baab 5: Maal ko zaaye' karne ki mumaani'at ka bayaan.

1106 : Hazrat Mugheera bin Sho'ba رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke Allah Ta'ala ne tum par maaon ki naa farmaani aur ladkiyon ko zindah dargor karna haraam kar diya hai khud to na dena aur doosron se maangne se bhi mana' farmaya hai aur tumhaare liye fuzool bak bak kasrat-e-sawaal aur barbaadi maal ko na pasand kiya hai. (Bukhari: 2408)

Fawaaid: Khilaaf-e-shara' kharch karna apne maal ko zaaye' karne ke mutaraadif hai albattah deeni kaamon mein dil khol kar kharch karna chaahiye apni haisiyat ke mutaabiq apni zaat par kharch karna bhi israaf nahin albattah bila zaroorat takallufaat karna khilaaf-e-shara' hai. (Awnul Baari:3/227)

۵. بَابُ: مَا يُنْهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ
 ۱۱۰۶: عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ
 اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ: وَمَنْعَ وَهَاتِ، وَكِرَّةَ
 لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ،
 وَإِضَاعَةَ الْمَالِ).

(رواه البخارى: ۲۴۰۸)



Jhagdon ke bayaan mein

Baab 1: Kisi shakhs ko giriftaar karne neez musalmaan aur yahoodi ke darmiyaan jhagde ki baabat kiya manqool hai?

1107: Hazrat Abullah bin Ma'sood رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke main ne ek shakhs ko ek ayat padhte suna jab ke main ne Rasoolulla ﷺ se uske khilaaf suna tha lehaazah main ne uska haath pakada aur Rasoolullah ﷺ ke paas le gaya aap ne farmaya tum donon achchha aur durust padhte ho lekin ihtelaaf na karo kyun ke tum se pahle log ihtelaaf hi ki wajah se halaak huye. (Bukhari:2410)

Fawaaid: Ek doosre se naa haq jhagadna ihtelaaf hai jis se mana' kiya gaya hai imam Bukhari ka maqsad yeh hai ke jab bazaa'm khawesh qur'an ghalat padhne waale ko giriftaar kiya jaa sakta hai to apna haq lene ke liye kisi ko giriftaar karne mein koyi harj nahin hai.

1108: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek musalmaan aur ek Yahoodi ne aapas mein gaali ghulooch ki musalmaan kahne laga qasam hai uss zaat ki jis ns hazrat Muhammad ﷺ ko saare jahaanon par bartari di Yahoodi ne kaha qasam hai uss zaat ki jis ne hazrat Moosa عليه السلام ko tamaam ahl-e-jahaan par barguzeedah kiya. uss par musalmaan ne haath uthhaya aur Yahoodi ke munh par tamaanchah raseed kar diya. uss par Yahoodi Rasoolullah ﷺ ke paas gaya aap se apna aur musalmaan ka maajra kah sunaaya Rasoolullah ﷺ ne uss musalmaan ko bulaakar daryaaft kiya to uss ne saara qissa bayaan kardiya aap ne farmaya tum mujhe hazrat Moosa عليه السلام par bartari na do kyun ke qiyaamat ke din jab sab log be hosh ho jaayenge aur main bhi be hosh ho jaauonga aur sab se pahle mujhe hosh aaye ga to main dekhunga ke Moosa عليه السلام A'rsh ka ek paaya

کتاب الخصومات

۱. بَابُ: مَا يُدْكَرُ فِي الْأَشْخَاصِ وَالْخُصُومَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِ ۱۱۰۷: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةً، سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ خِلَافَهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، فَاتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: كَلَّا كَمَا مُحْسِنٌ لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. (رواه البخارى: ۲۴۲۰)

۱۱۰۸: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، قَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدًا عَلَى الْعَالَمِينَ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْعَالَمِينَ، فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَطَمَ وَجْهَ الْيَهُودِيِّ، فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ، فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَا تَخَيَّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَصْعَقُ مَعَهُمْ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بِأَيْشٍ جَانِبِ

pakde khade hain ab main nahin jaanta ke woh bhi be hosh ho kar mujh se pahle hosh mein aa gaye ya woh un logon mein the jinko Allah Ta'ala ne be hoshi se mustasna kar diya. (Bukhari:2411)

الْعَرَشِ، فَلَا أَدْرِي: أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ
فَأَفَاقَ قَبْلِي، أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَشَى
اللَّهُ. (رواه البخارى: ٢٤١١)

Fawaaid: Ek rivaayat mein hai ke iss Yahoodi ne kaha ya Rasoolallah ﷺ! Main aap ki amaan mein ek zimmi ki haisiyat se rahta hoon iske bawajood mujhe musalmaan ne thappad maara hai aap naaraaz huye aur musalmaan ki sarzanish farmaayi. (Awnul Baari:3/231)

1109: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke kisi yahoodi ne ek ladki ka sar do pattharon ke darmiyaan rakh kar kuchal diya jab uss ladki se poochha gaya ke tere saath aisa kis ne kiya hai? kiya fulaan ne kiya ya fulaan ne? yahaan tak ke us yahoodi ka naam liya gaya to ladki ne apne sar se ishaarah kiya tab woh Yahoodi giriftaar kiya gaya uss ne eqraar-e-jurm bhi kar liya phir Rasoolullah ﷺ ke hukm se uska sar bhi pattharon ke darmiyaan rakhkar kuchal diya gaya.

١١٠٩: عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ
يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ،
قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكَ، أَفَلَانَ،
أَفَلَانَ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَتْ
بِرَأْسِهَا، فَأَخَذَ الْيَهُودِيُّ فَأَعْتَرَفَ،
فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرَضَ رَأْسَهُ بَيْنَ
حَجْرَيْنِ. (رواه البخارى: ٢٤١٣)

(Bukhari: 2413)

Fawaaid: Maloom huwa ke qatil ko usi tarah sazaaye maut di jaaye jis tarah uss ne maqtool ko qatal kiya ho. (Awnul Baari:3/232)

Baab 2: Jhagadne waalon ka ek doosre ke muta'alliq guftagu karna shara'an kiya hukm rakhta hai?.

1110: Hazrat Asha's رضي الله عنها se marvi hadees (1092) pahle guzar chuki hai jis mein bayaan tha ke woh hazr-e-maut ke ek shakhs se jhagde the iss tareeq mein hai ke unka ek Yahoodi se jhagda huwa tha.

٢. بَابُ: كَلَامِ الْخُصُومِ بَعْضِهِمْ

فِي بَعْضٍ

١١١٠: حَدِيثُ الْأَشْعَثِ تَقَدَّمَ قَرِيبًا
وَذَكَرَ فِيهِ أَنَّهُ اخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ
أَهْلِ حَضْرَمَوْتٍ وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ
قَالَ: إِنَّهُ هُوَ وَيَهُودِيٌّ.

(Bukhari:2416, 2417)

(رواه البخارى: ٢٤١٦، ٢٤١٧ وانظر
حديث رقم: ٢٣٥٦، ٢٣٥٧)

aur dekhiye -2356-2357

Fawaaid: Iss rivaayat mein hai ke hazrat Asha's bin Qais رضي الله عنها jo ke mudday'i the apne Yahoodi mudda'a a'laih ke muta'alliq uski adm-e-maujoodgi mein bayaan diya ke woh jhooti qasm uthane mein bada be baak hai to Rasoolullah ﷺ ne use gheebat shumaar nahin kiya.

Giri padi cheez ko uthhaane ke bayaan mein

Baab 1: Jab luqtah ka maalik uski pahchaan bataa de to woh uske hawaale kardi jaaye

1111: Hazrat Ubai bin Ka'b رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke ek dafa mujhe ek thaili mili jis mein 100 asharfiyan thin main Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke paas haazir huwa aap ne farmaya ke ek saal tak uski tash, heer karo lehaazah main ne uski tash, heer ki magar koyi shakhs uska pahchaanne wala na mila phir main dobaraah Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke paas aaya to aap ne farmaya ke ek saal tak mazeed tash, heer karo chunaancheh main saal bhar logon se daryaaft karta raha magar koyi aisa shakhs na mila jo usko pahchaanta phir main ne teesri martabah aap ki khidmat mein haazir di to aap ne farmaya uski thaili, tadaad aur bandish yaad rakhna agar uska maalik aa jaaye to de dena basoorat deegar khud usse faayidah haasil karte raho. (Bukhari:2426)

Fawaaid: Baazaar aur ijtema'at mein jahaan logon ka hujoom ho e'laan kiya jaaye ke gum shudah cheez nishaani bataa kar haasil ki jaa sakti hai agar koyi uski nishaani bata de to mazeed shanaakht aur gawaahon ki zaroorat nahin balke bila taammul woh cheez uske hawaale kardi jaaye. (Awnul Baari:3/235)

Baab 2: Agar koyi raastah mein giri huyi khujoor paaye to kiya kare?.

1112: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Raoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke aap ne farmaya main apne ghar laut kar jaata hoon to apne bistar par khujoor padi huyi paata hoon aur use khaane ke iraadah se uthhaleta hoon magar mujhe yeh andesha hota hai ke kahin woh sadqah ki na ho to phir use phenk deta hoon.

(Bukhari:2432)

Fawaaid: Maloom huwa ke kam qeemat aur haqeer cheez agar raastah mein mile to uski tash heer aur maalik ko talaash karne ki zaroorat nahin balke use yoon hi iste'maal mein laaya jaa sakta hai Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ka parhez iss bena par tha ke sadqah ka iste'maal aap ke liye jaayez na tha. (Awnul Baari:3/238)

كِتَابُ اللَّقْطَةِ

١. بَابُ: وَإِذَا أَخْبَرَ صَاحِبُ

اللَّقْطَةِ بِالْعَلَامَةِ دَفَعَ إِلَيْهِ

١١١١: عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ قَالَ: وَجَدْتُ صُرَّةً فِيهَا مِائَةٌ

دِينَارٍ، فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ:

(عَرَفْتُهَا حَوْلًا)، فَعَرَفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ

أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ اتَيْتُهُ فَقَالَ:

(عَرَفْتُهَا حَوْلًا). فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ مَنْ

يَعْرِفُهَا، ثُمَّ اتَيْتُهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: (أَحْفَظُ

وِعَاءَ هَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَ هَا، فَإِنْ

جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا).

(رواه البخارى: ٢٢٢٦)

٢. بَابُ: إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ

١١١٢: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنِّي لَأَنْقَلِبُ

إِلَى أَهْلِي، فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى

فِرَاشِي، فَأَرْفَعُهَا لِأَكْلِهَا، ثُمَّ أَحْشَى أَنْ

تَكُونَ صَدَقَةً فَأَلْقِيهَا).

(رواه البخارى: ٢٢٣٢)

Huqooq ke bayaan mein

کِتَابُ الْمَظَالِمِ

Iss kitab mein doosron par zulm wa sitam karne ki beana par muta'assirah huqooq aur unki talaafi ka zikr hoga insaan ko chaahiye ke huqooqullah ki adaayegi ke saath huqooqul i'baad ka bhi khayaal rakkhe.

Baab 1: Zulm wa Ziyaadati ka badlah

1113: Hazrat Abu Say'eed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se bayaan karte hain ke aap ne farmaya ke jab momin log aag se chhutkaarah paalenge to unhen dozakh aur jannat ke darmiyaan ek pul par rok liya jaayega wahaan un se un mazaalim ka badlah liya jaayega jo unhon ne dunya mein ek doosre par kiye the jab woh paak wa saaf ho jaayenge to phir unhein jannat ke ander jaane ki ejaazat milegi qasam hai uss Allah ki jis ke haath mein Muhammed صلی اللہ علیہ وسلم ki jaan hai har shakhs jannat mein apne thhikaana ko usse behtar taur par pahchaanega jis tarah woh dunya mein apne maskan ko pahchaanta tha. (Bukhari:2440)

Fawaaid: Qiyaamat ke din mazaalim ki talaafi zaalim se nekiyaan le kar ya mazloom ki buraaiyan utaar kar ki jaayegi. (Awnul Baari:3/129)

Baab 2: Irshaad-e-Bari Ta'ala: "Khabar daar! zaalimon par Allah ki la'nat hai"

1114: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko yeh farmate suna hai ke Allah Momin ko apne nazdeek karke uss par apna pardah izzat daal kar use chhupaayega aur poochhega kiya tujhe fulaan fulaan gunah maloom hai? woh kahega haan aye parwardigaar! Iss tarah Allah Ta'ala uss se tamaam gunaahon ka eqraar karaayega aur woh shakhs apne dil mein khayaal karega ke ab to main maara giya Allah Ta'ala farmayega main ne dunya mein tere gunaah chhupa rakkhe the aur aaj bhi tere gunaah maaf karta hoon phir use nekiyon ki kitab di jaayegi lekin kaafir aur mun'afiq ke

١. بَابُ: قِصَاصُ الْمَظَالِمِ

١١١٣: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ: (إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ حِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهَدَّبُوا، أِذْنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ، لَا أَحَدُهُمْ بِمَسْكِنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَذَلُّ بِمَسْكِنِهِ كَانِ فِي الدُّنْيَا).
(رواه البخارى: ٢٤٤٠)

٢. بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾

١١١٤: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِدُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: ﴿هُوَلَاءِ

muta'alliq gawaahi dene wale kahenge ke yeh woh log hain jinhon ne apne parwar digaar par jhoot baandhta tha khabar daar! un zaalimon par Allah ki la'nat hai. (Bukhari:2441)

الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿٢٢٢١﴾

(رواه البخارى: ٢٢٢١)

Fawaaid: Gunaahon ki yeh maa'fi huqooqul ibaad ke elaawah hogi kyun ke huqooqul ibaad ki talaafi nekiyaan le kar ya mazloom ki kotaahiyaan zaalim ke naama-e-a'maal mein daal kar ki jaaye. (Awnul Baari:3/241)

Baab 3: Ek Musalmaan doosre musalmaan par na zulm kare aur na use be yaar-o- madadgaar chhode.

1115: Hazrat Abullah bin Umar رضى الله عنهما se hi rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya musalmaan musalmaan ka bhaayi hai lehazah na woh uss par zulm kare aur na hi use zulm ke hawaale kare jo shakhs apne bhaayi ki haajat rawaayi mein masroof hota hai to Allah Ta'ala uski maqsad bar aawari ke darpe hoga aur jo shakhs kisi musalmaan ki museebat ko door karta hai to Allah Ta'ala qiyaamat ke din uski museebat ko door karega aur jo shakhs musalmaan ka a'ib chhupaaye qiyaamat ke din Allah Ta'ala uski pardah poshi karega. (Bukhari:2442)

٣. بَابُ : لا يَظْلِمُ الْمُسْلِمُ

الْمُسْلِمَ وَلَا يُسَلِّمُهُ

١١١٥ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسَلِّمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) .

(رواه البخارى: ٢٣٢٢)

Fawaaid: Iss hadees se yeh bhi ishaarah milta hai ke insaan ko kisi doosre ki gheebat nahin karna chaahiye kyun ke gheebat se kisi doosre musalmaan ki pardah dari karke Allah Ta'ala ki qiyaamat ke din pardah poshi se mahroom rahna hai. (Awnul Baari:3/129)

Baab 4: Tu apne bhaayi ki madad kar khaah woh zaalim ho ya mazloom.

1116: Hazrat Anas رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya tum apne bhaayi ki madad karo khaah woh zaalim ho ya mazloom sahaaba kiraam رضى الله عنهم ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! woh mazloom ho to uski madad karenge lekin zaalim ki madad kis tarah karein? aap ne farmaya uska haath pakad kar use zulm se roko.

(Bukhari:2444)

٤. بَابُ : أَعِنَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

١١١٦ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا) . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا ، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ : (تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ) . (رواه البخارى: ٢٣٢٣)

Fawaaid: Daur-e-jaahiliyyat mein iss jumla ke zariye' qaumi a'sbiyyat ko hawa di jaati thi ke har haal mein apne bhaayi ki madad ki jaaye khaah woh zaalim ho ya mazloom lekin Rasoolullah ﷺ ne iske mafhoom ko yaksar badal kar mohabbat wa ukhuwwat ka sabaq diya hai. (Awnul Baari:3/244)

Baab 5: Zulm qiyaamat ke din taarikiyon ka baayi's hoga.

1117: Ibgne Umar رضى الله عنهما ki rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya zulm qiyaamat ke din taarikiyon ka baayi's hoga. (Bukhari: 2447)

۵. بَابُ: الظُّلْمُ ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
۱۱۱۷: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (الظُّلْمُ
ظُلْمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

(رواه البخارى: ۲۴۴۷)

Fawaaid: Zulm qiyaamat ke din har soo andheron ka baayi's hoga kyun ke yeh do gunaahon se murakkab hai ek kisi ka naa jaayez haq ghasab karna doosra Allah ki mukhaalifat karke usse e'laan-e-jung karna Allah Ta'ala isse mahfooz rakkhe. (Awnul Baari:3/244)

Baab 6: Jis shakhs ne kisi par zulm kiya ho aur mazloom use ma'af kar de to kiya zaalim ko apne zulm ki wazaahat karna zaroori hai?

1118: Hazrat Abu Hurairah رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya jis kisi ne apne bhayai ki aabru rezi ya kisi bhi shakl mein uss par ziyaadati ki ho to use aaj hi maa'f karaa lena chaahiye iss se pahle ke dirham wa dinar na rahen agar uske paas nek amal hoga to uss mein se uske zulm ke baqadr le liya jaayega aur nek amal na hoga to mazloom ki buraayiyan le kar us par daal di jaayengi. (Bukhari: 2449)

۶. بَابُ: مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ عِنْدَ
الرَّجُلِ فَحَلَّلَهَا لَهُ، هَلْ يَبِينُ مَظْلَمَتَهُ؟
۱۱۱۸: عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ
كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرَضِهِ أَوْ
شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا
يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ
عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ،
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ
سَيِّئَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ).

(رواه البخارى: ۲۴۴۹)

Fawaaid: Qur'an mein hai ke koyi jaan kisi doosre ka bojh nahin uthhayegi yeh hadees uske khilaaf nahin hai kyun ke zaalim par jo mazloom ki buraayiyan daali jaayengi woh dar asl uss zaalim ki kamaayi ka nateejah hogi. (Awnul Baari:3/245)

Baab 7: Uss shakhs ka gunaah jo kisi ki kuchh zameen zabardasti chheen le.

1119: Hazrat Say'eed bin Zaid رضى الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmaate suna jo shakhs zulm se kisi ki kuchh zameen chheen lega to qiyaamat ke din saat zameenon ka tauq uske gale mein daala jaayega. (Bukhari: 2452)

۷. بَابُ: إِنْ مَن ظَلَمَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ
۱۱۱۹: عَنِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ: (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا
طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ).

(رواه البخارى: ۲۴۵۲)

Fawaaid: Iss hadees mein ghaasibon ke liye bahut sangeen wa'yed hai khaas taur par woh hazraat jo zameen par naa jaayez qabzah karke wahaan masjid ya madarsah ta'meer kar lete hain woh samajhte hain ke iss tarah hum ne neki ka kaam kiya hai aise kaam mein koyi neki nahin hai. (Awnul Baari:3/247)

1120: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs thodi si zameen bhi naa haq le lega use qiyaamat ke din saat zameenon tak dhansa diya jaayega.

(Bukhari:2454)

Baab 8: Jab koyi Insaan doosre ko (kisi baat ki) Ijaazat de to woh kar sakta hai

1121: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se hi rivaayat hai ke unka ek qaum ke paas se guzar huwa jo khujooren khaa rahe the to unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne do do khujooren ek baar uthha kar khaane se mana farmaya hai haan agar tum mein se koyi apne bhaayi se ijaazat le le to jaayez hai. (Bukhari:2455)

١١٢٠: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا بغيرِ حَقِّهِ، حَسِيفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ). (رواه البخارى: ٢٣٥٣)

٨. بَابُ: إِذَا أَدَانَ إِنْسَانٌ لِأَخَرَ شَيْئًا جَازًا

١١٢١: وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ

بِقَوْمٍ يَأْكُلُونَ تَمْرًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ

اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ

يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَحَاهُ.

(رواه البخارى: ٢٣٥٥)

Fawaaid: Iss mumaani'at ki wajah yeh hai ke iss se hirs wa laalach ki nishaandahi hoti hai neez aisa skarna doosron ke huqooq talf karne ke mutaraadif hai agar khujooren kisi ki zaati hon to koyi mumaania't nahin. (Awnul Baari:3/250)

Baab 9: Irshaad-e-Baari Ta'ala: "woh bada sakht jhagdaalu hai"

1122: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karti hain ke aap ne farmaya Allah ko sab se ziyaadah naa pasand woh shakhs hai jo sakht jhagdaalu ho. (Bukhari:2457)

٩. بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:

﴿وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ﴾

١١٢٢: عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (إِنَّ أَبْغَضَ

الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ أَلَدُّ الْخِصْمِ).

(رواه البخارى: ٢٣٥٤)

Fawaaid: Iss se muraad woh shakhs hai jo zara zara si baat par logon se jhagadta hai ya baatil ka defa' karne mein badi mahaarat rakhta ho.

Baab 10: Uss Shakhs ka gunaah jo deedah daanistah kisi naa haq baat par jhagda kare.

1123: Hazrat Umme Salmah رضي الله عنها zaujah Rasoolullah ﷺ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne apne hujre ke darwaaze par jhagadne ki aawaaz suni to baahar tashreef laaye aur farmaya main bhi ek bashar hoon mere paas ek fareeq aata hai aur shaayad ek fareeq ki bahas doosre fareeq se u'mdah ho jis se mujhe khayaal ho ke uss ne sach kaha hai

١٠. بَابُ: إِثْمٌ مَنْ خَاصَمَ فِي الْبَاطِلِ

وَهُوَ يَعْلَمُهُ

١١٢٣: عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً

بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ:

(إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخِصْمُ،

فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ

بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِي لَهُ

phir main uske muwaafiq faislah kardun to agar main kisi ko doosre musalmaan ka haq dilaadoon to yeh dozakh ka ek tukda hai chaahe use qubool kare chaahe use chhod de. (Bukhari:2458)

Fawaaid: Iss hadees se maloom huwa ke qaazi ke faisle se koyi haraam cheez halaal nahin hogi kyun ke qaazi ka faislah zaahir naafiz hota hai baatinan naafiz nahin hota ya'ni agar muddayi' haq par na ho aur a'daalat uske haq mein faislah karde to uske liye yeh faislah sanad-e-jawaaz nahin hoga.

Baab 11: Mazloom agar Zaalim ka maal paale to baqadr ziyaadati apna hissa wasool kar sakta hai.

1124: Hazrat U'qbah bin Aamir رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke hum ne Rasoolullah ﷺ se arz kiya ke aap hamein baahar bhejte hain to khabi hum aise logon ke paas jaate hain jo hamaari ziyaafat tak nahin karte uske muta'alliq aap kiya farmaate hain? aap ne farmaya jab tum kisi qaum ke paas jao aur woh mehmaan ki shaayaan-e-shaan mezbaani ka ehtemaam karen to use qubool karlo aur agar saamaan na karen to zabardasti unse apni mehmaan nawaazi ka haq wasool karo. (Bukhari:2461)

Fawaaid: Maali mu'aamlaat mein yeh gunjaayish hai ke zabardasti chhinna huwa apna maal kisi bhi tareeqa se wapas liya jaa sakta hai albattah badni u'qubaat mein yeh hukm nahin hai balke haakim-e-waqt ki taraf ruju' karna zaroori hai. (Awnul Baari:3/254)

Baab 12: Koyi padosi doosre padosi ko apni diwaar par lakdi gaadne se na roke.

1125: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke koyi padosi doosre padosi ko apni diwaar mein lakdi gaadne se na roke phir hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه farmaane lage kiya baat hai ke tum logon ko main iss hadees se ru gardaani karte dekhta hoon? Allah ki qasam! main yeh hadees tumhein baraabar sunaata rahunga. (Bukhari:2463)

Fawaaid: Maloom huwa ke agar hamsaaya diwaar par koyi lakdi ya gaardar rakhna chaahe to diwaar ke maalik ko rokna jaayez nahin kyun ke iss mein koyi nuqsaan nahin balke aisa karne se diwaar mazboot hoti hai. (Awnul Baari:3/255)

بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا). (رواه البخارى: ٢٢٥٨)

١١. بَابُ : قِصَاصُ الْمَظْلُومِ إِذَا

وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ

١١٢٢ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْنَا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّكَ تَبْعُنَا، فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: (إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمْرٌ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ). (رواه البخارى: ٢٢٦١)

١٢. بَابُ : لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ

يَعْرِزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ

١١٢٥ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَعْرِزَ خَشْبَةً فِي جِدَارِهِ). ثُمَّ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللَّهِ لَا رَمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتافِكُمْ.

(رواه البخارى: ٢٢٦٣)

Baab 13: Gharon ke saamne maidaanon aur raaston mein baithhna

1126 : Hazrat Abu Sayeed Khudri رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلى الله عليه وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya tum log raaston mein baithhne se ijtenaab karo sahaaba رضي الله عنهم ne arz kiya ya Rasoolallah صلى الله عليه وسلم! iss baat mein to hum majboor hain kyun ke wahi to hamaari baithhne aur guftagu karne ki jaghen hain Aap ne farmaya achchha agar aisi hi majboori hai to uska haq adaa karo logon ne arz kiya raaste ka kiya haq hai? Aap ne farmaya nigaahen neechi rakhna, kisi ko takleef na dena, salaam ka jawaab dena, achchhi baat bataana aur buri baat se rokna.(Bukhari: 2465)

Fawaaid: Ek rivaayat mein naa beene ko raaste par lagaana, chheen ka jawaab dena aur kamzor naa tawaan ki madad karna bhi raaste ke huqooq mein shamil hai. (Awnul Baari:3/257)

Baab 14: Agar shaare' aam mein ikhtelaaf ho jaaye to kiya kiya jaaye?

1127 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne saat (7) haath raasta chhodne ka uss waqt faisla farmaya jab logon mein shaare' aam ke muta'alliq baahami ikhtelaaf huwa tha.(Bukhari: 2473)

Fawaaid: Saat haat raastah aadmiyon aur sawaariyon ke aane jaane ke liye kaafi hai jo log raaste mein baithh kar sabzi ya phal bechte hain unke liye bhi yahi hukm hai taake chalne waalon ko takleef na ho. (Awnul Baari:3/258)

Baab 15: Loot maar aur asal soorat bigaadne se mumaani'at.

1129: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne loot maar karne aur asli soorat bigaadne se mana farmaya hai.(Bukhari: 2474)

Fawaaid: Hamaare haan nikaah ke waqt jo chhohaaron ki loot ghasoot hoti hai woh bhi isi qabeel se hai shaadi ke moqa par misri, baadaam aur taafiyaan waghairah khilaana maqsood ho to use baa'izzat tareeqa se taqseem karena chaahiye.

۱۳ . بَابُ : أَفْيَةِ الدُّوْرِ

وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعَدَاتِ

۱۱۲۶ : عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى الطَّرِيقَاتِ) فَقَالُوا : مَا لَنَا بُدٌّ ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا قَالَ : (فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجَالِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا) . قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : (غَضُّ الْبَصَرِ ، وَكَفُّ الْأَدَى ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ) . (رواه البخارى : ۲۴۶۵)

۱۴ . بَابُ : إِذَا اِخْتَلَفُوا فِي الطَّرِيقِ

الْمِيتَاءِ

۱۱۲۷ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ الْمِيتَاءِ سَبْعَةَ أَذْرُعَ . (رواه البخارى : ۲۴۷۳)

۱۵ . بَابُ : النَّهْيُ عَنِ النَّهْيِ وَالْمُثَلَّةِ

۱۱۲۸ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّهْيِ وَالْمُثَلَّةِ . (رواه البخارى : ۲۴۷۴)

Baab 16: Jo shakhs apne maal ki hifaazat ke liye ladta hai.

1129: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmaate suna ke jo shakhs apne maal ki hifaazat karte huye maara jaaye woh shaheed hai.

(Bukhari: 2480)

Fawaaid: Imam Bukhari ka maqsad yeh hai ke insaan ko apna aur apne maal ka defa' karna chaahiye kyun ke agar qatl ho gaya to darjah shahaadat mil jaayega aur agar uss ne qatl kardiya to uss par diyat ya qesaas nahin hai. (Awnul Baari: 3/260)

Baab 17: Agar kisi ka piyaala ya koyi aur cheez tod de (to taawaan padega ya nahin?)

1130: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ apni kisi zaujah mohtarmah رضي الله عنها ke paas the itne mein kisi doosri zaujah mohtarmah رضي الله عنها ne khaadim ke haath ek piyaala bheja jis mein khaana tha to uss biwi ne jis ke paas aap tashreef farmaa the haath maar kar piyaala tod daala Rasoolullah ﷺ ne piyaala uthha kar use joda aur uske ander khaana rakh kar farmaya khaana khaao, iss dauraan aap ne uss qaasid aur piyaale ko roke rakkha jab khaane se faarigh huye to shikastah piyaala rakh liya aur sahih piyaala waapas kiya.

(Bukhari: 2481)

Fawaaid: Jis ne piyaala toda tha uske ghar se sahih piyaala le kar waapas kiya gaya aur toota huwa piyaala use de diya gaya kyun ke doosri hadees mein hai ke khaane ke badle khana aur bartan ke badle bartan diya jaaye. (Awnul Baari: 3/261)

١٦. بَابُ: مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

١١٢٩: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ

ﷺ يَقُولُ: (مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ

شَهِيدٌ). (رواه البخارى: ٢٤٨٠)

١٧. بَابُ: إِذَا كَسَرَ قِصْعَةً أَوْ

شَيْئًا لِغَيْرِهِ

٢٤٣٠: عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ،

فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَعَ

خَادِمٍ بِقِصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ

بِيَدِهَا فَكَسَرَتْ الْقِصْعَةَ، فَضَمَّهَا

وَجَعَلَ فِيهَا الطَّعَامَ، وَقَالَ: (كُلُوا)،

وَحَبَسَ الرَّسُولُ وَالْقِصْعَةَ حَتَّى فَرَّغُوا

فَدَفَعَ الْقِصْعَةَ الصَّحِيحَةَ وَحَبَسَ

الْمَكْسُورَةَ. (رواه البخارى: ٢٤٨١)



Shiraakat ke bayaan mein

كِتَابُ الشَّرِكَةِ

Loghwi taur par shiraakat ka ma'na shaamil hona hai istelaah mein do ya ziyaadah ka ek cheez mein haqdaar hone ko shiraakat kaha jaata hai. yeh shiraakat khabi to ghair ikhtiyaari hoti hai jaisa ke maal-e-wiraasat mein shareek hota aur kabhi ikhtiyaari bhi honi hai jaisa ke mil kar kisi cheez ko khareedna.

Baab1:khaane,zaad-e-safar aur deegar asbaab-e-zindagi mein shiraakat.

1131:Hazrat Salmah bin Akwa' رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke ek dafa logon ka saamaan khurd wa nosht kam ho gaya aur woh mohtaaj ho gaye to woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas haazir huye aur apne ount zabah karne ki ejaazat talab ki aap ne unhen ejaazat morahamat farmaayi phir unhen hazrat Umar رضي الله عنه mile to logon ne unse yeh maajra bayaan kiya hazrat Umar رضي الله عنه ne kaha ounton ke ba'd tumhaari zindagi ka inhesaar kis par hoga? uske bad hazrat Umar رضي الله عنه Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki khidmat mein haazir huye aur kaha ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم! ounton ke ba'd unki zindagi kaise guzregi? aap ne farmaya ke logon mein e'laan kar do ke woh apna apna khaane pine ka baqyeh saamaan le kar mere paas haazir hon phir chamde ka ek dastarkhaan bichhaadiya gaya aur tamaam saamaan uss par daal diya gaya uske ba'd Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم khade huye aur khair wa barkat ki du'a ki phir sab logon ko aap ne bartanon samet bulaya chunaancheh logon ne donon haath se khoob bhar bhar kar lena shuru kiya jab sab log faarigh ho gaye to Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya ke main gawaahi deta hoon ke Alla ke elaawah koyi mabood-e -haqeeqi nahin aur iski bhi gawahi deta hoon ke main Allah Ta'ala ka Rasool hoon.(Bukhari:2484)

١. بَابُ: فِي الشَّرِكَةِ فِي
الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ
١١٣١: عَنْ سَلْمَةَ بِنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَفَّتْ أَرْوَادُ الْقَوْمِ
وَأَمَلَقُوا، فَاتُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحْرِ
إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عَمْرُ
فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ،
فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ! (نَادَى فِي النَّاسِ، يَأْتُونَ
بِفِضْلِ أَرْوَادِهِمْ). فَبَسَطَ لِذَلِكَ نِطْعًا
وَجَعَلُوهُ عَلَى النَّطْعِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاوَبَرَكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ
بِأَوْعِيَّتِهِمْ، فَاحْتَسَى النَّاسُ حَتَّى فَرَعُوا،
ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَشْهَدُ أَنْ لَا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ).

(رواه البخارى: ٢٤٨٤)

Fawaaid:Chunke ek mo'jezah zaahir huwa tha iss liye Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne kalima-e- shahaadat padha pahle to zaad-e-safar itna kam ho gaya ke log apni sawaariyaan zabah karne lage phir du'a ki barkat se itna ziyaadah hogaye ke har ek ne apni zaroorat ke mutaabiq le liya.(Awnul Baari:3/266)

1132: Hazrat Abu Moosa رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya Asha'ri log jab jehaad mein mohtaj ho jaate hain ya Madinah mein unke baal bachchon ke paas khaana kam rah jaata hai to sab log apna apna maujoodah saamaan mila kar ek kapde mein ekhatta karlete hain phir aapas mein ek paimaana se taqseem kar lete hain iss adl wa masawaat ki wajah se woh mujh se hain aur main unse hoon. (Bukhari:2486)

١١٣٢ : عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ).

(رواه البخارى: ٢٢٨٦)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke safar wa hazar mein zaad-e-safar ko ekhatta karna phir andaze se taqseem karna mustahab hai. (Awnul Baari:3/267)

Baab 2 : Bakriyon ka taqseem karna

1133 Raaf'e bin Khadeej رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ke saath Zulholaifah mein the ke logon ko bhook lagi unhein kuchh oont aur bakriyaan haath lagin raavi kahta hai ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم aakhri logon mein the iss liye logon ne jaldi se unhein zabah karke degein chadhaa din Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne tashreef laa kar hukm diya ke degon ko ulat diya jaaye phir aap ne taqseem farmayi to das bakriyon ko ek oont ke baraabar qaraar diya ittefaaqan ek oont bhaag nikla to log uske peechhe daude jis ne unko thaka diya uss waqt lashkar mein ghode bhi kam the aakhir kaar ek shakhs ne use teer maara to Allah Ta'ala ne use rok diya Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne farmaya wahshi jaanwaron ki tarah un mein bhi kuchh wahshi hote hain agar un mein se koyi tum par ghaalib aa jaaye to tum bhi uske saath aisa hi kiya karo main ne kaha hamen andeshah hai ke kal dushman se mudbhed hogi aur hamaare paas chhuryan nahin hain to kiya hum baans ki khapaaj se zabah karlen aapne farmaaya jo cheez khoon bahaade aur uss par Allah Ta'ala ka naam liya jaaye to usko khaao albattah daant aur naakhun se

٢ . بَابُ : قِسْمَةُ الْغَنَمِ

١١٣٣ : عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، فَأَصَابُوا إِبِلًا وَغَنَمًا ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي أُخْرِيَّاتِ الْقَوْمِ ، فَعَجَلُوا وَذَبَحُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئْتُ ، ثُمَّ قَسَمَ ، فَعَدَلَ عَشْرَةَ مِنَ الْغَنَمِ بَعِيرٍ ، فَتَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ ، فَطَبَّوهُ فَأَغْيَاهُمْ ، وَكَانَ فِي الْقَوْمِ حَيْلٌ يَسِيرَةٌ ، فَأَهْوَى رَجُلٌ مِنْهُمْ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ ، ثُمَّ قَالَ : (إِنَّ لِهَذِهِ الْبَهَائِمِ أَوْابِدَ كَأَوْابِدِ الْوَحْشِ ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا) . فَقُلْتُ : (إِنَّا نَرْجُو الْعُدُوَّ غَدًا وَكَيْسَتْ مَعَنَا مُدَى ، أَفَنَذْبِحُ بِالْقَصَبِ؟ قَالَ : (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ، وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ ، وَسَأَحَدْتُكُمْ عَنْ ذَلِكَ : أَمَا السِّنُّ

zabaha na karo main tumhein uski wajah bayaan karta hoon ke daant to ek haddi hai aur naakhun kuffaar-e-Habsha ki chhuri hai (jis se woh zabaha karte hain) (Bukhari:2488)

فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ). (رواه البخارى: ٢٢٨٨)

Fawaaid: Ikhtiyaari haalaat mein to jaanwar ko gale se zabaha kiya jaaye alhattah izteraari haalaat mein kisi bhi maqaam se zabaha kiya jaa sakta hai. neez zabaha karte waqt Bismillah Allahu Akbar kahna zaroori hai aur agar Bismillah ke muta'alliq taraddud ho to woh khaate waqt use padh le. (Awnul Baari:3/270)

Baab 3: Shurkaa ke darmiyaan mushtarkah cheezon ki adl ke saath qeemat lagaana.

1134: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya jo shakhs mushtarkah ghulaam ko apne hisse ke mutaabiq azad kar de to wahi apne maal se use poori rehaayi dilaye aur agar uske paas maal na ho to insaaf se uss ghulaam ki qeemat lagaayi jaaye baaqi hissa ke liye uss ghulaam se mazdoori karaayi jaaye lekin uss par sakhti na ki jaaye. (Bukhari:2492)

٣. بَابُ : تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ بَيْنَ

الشُّرَكَاءِ بِقِيَمَةِ عَدْلِ

١١٣٤ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، فُؤِمَ الْمَمْلُوكُ قِيَمَةَ عَدْلِ ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ) .

Fawaaid: Ya'ni ghulaam ko aise kaam par majboor na kiya jaaye jo uske liye naa qaabil-e-bardaasht ho jab woh baaqi maandah hisse ki qeemat adaa kardega to khud bakhud azad ho jaayega. (Awnul Baari:3/272)

Baab 4: Kiya taqseem mein qura' andaazi ki jaa sakti hai?.

1135: Hazrat No'maan bin Basheer رضي الله عنهما se rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya uss shakhs ki misaal jo Allah ki hudood par qaayem ho aur jo un mein muhtala hogaya ho un logon ki si hai jinhon ne ek kashti ko bazariya' qura' taqseem kar liya ba'z logon ke hissa mein oupar ka tabqah aaya jabke kuchh logon ne nichla hissa le liya ab nichle hisse waalon ko jab paani ki zaroorat hoti to woh oupar waalon ke paas se guzarte huye kahne lage kaash hum apne hisse mein soraakh kar lein aur oupar waalon ko takleef na de so aakar oupar waalon ko unke irade ke muta'alliq

(رواه البخارى: ٢٢٩٢)

٤. بَابُ : هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ

١١٣٥ : عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا ، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهْمُوا عَلَى سَفِينَةٍ ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا ، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقْوُوا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ ، فَقَالُوا : لَوْ أَنَا حَرْقْنَا فِي نَصِينَا حَرْقًا ، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا ، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا ،

chhod den to neeche waalon ko unke iraade ke mutaabiq chhod den to sab halaak ho jaayenge aur agar woh unka haath pakad lein to woh bhi bach jaayenge aur doosre bhi algharz sab mahfooz rahenge.

(Bukhari: 2493)

Fawaaid:Gunaah ka irtekaab karna aur use saamne hota dekh kar thhande pet bardaasht karlena jurm ke lehaaz se donon baraabar hain aur donon hi tabaahi wa barbaadi ka baay'is hain.(Awnul Baari:3/273)

Baab 5: Ghallah waghairah mein shirkat

1136 : Hazrat Abdullah bin Hishaam رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se mulaqaat ki hai un ki waalidah Zainab binte Humaid رضي الله عنها use Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas le kar gayin thin aur arz kiya tha ke ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم! isse bai'at lijiye. Aap ne farmaya tha ke yeh abhi chote hain lekin Aap ne unke sar par daste shafqat phera aur unke liye dua' farmaayi woh aksar baazaar jaakar ghallah kharida karte the Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما aur Hazrat Ibn Zubair رضي الله عنهما unse milte to kahte ke hum ko bhi shareek karlo kyun ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne tumhaare liye barkat ki du'a ki hai chunaankeh woh unko shareek kar lete aksar auqaat poora poora ount hissa mein aata jis ko woh apne ghar bhej dete the. (Bukhari: 2501,2502)

Fawaaid:Maloom huwa ke har mamlookah cheez mein shiraakat ho sakti hai.

(Awnul Baari:3/275)

وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجْوًا جَمِيعًا).

(رواه البخارى: ٢٤٩٣)

٥. بَابُ : الشَّرِكَةِ فِي الطَّعَامِ

وغيره

١١٣٦ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِشَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ، وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايِعُهُ، فَقَالَ: (هُوَ صَغِيرٌ). فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ. كَانَ يَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ، فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ، فَيَلْقَاهُ ابْنُ عَمْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، فَيَقُولَانِ لَهُ: أَشْرِكْنَا، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ دَعَا لَكَ بِالْبُرْكََةِ، فَيُشْرِكُهُمْ، فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، فَيَبِيعُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ.

(رواه البخارى: ٢٥٠٢)



Bahaalat-e-eqaamat girvi rakhna

كتاب الرهن فى الحضر

Qur'an Majeed mein girvi ke liye safar ki shart ittefaaqi hai kyun ke hazar mein girvi rakhna Rasoolullah ﷺ se saabit hai neez girvi rakkhi huyi cheez se faayidah uthhane ki mumaani'at hai albattah chaarah daalne ke e'waz uska doodh istemaal kiya jaa sakta hai aur uss par sawaari bhi ki jaa sakti hai jaisa ke aaindah hadees mein iski saraahat hai.

Baab 1: Girvi ke jaanwar par sawaar hona aur uska doodh peena.

1137 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya sawaari ka jaanwar agar rehan hai to baqadr kharch uss par sawaari ki jaa sakti hai aur agar doodh waala jaanwar girvi hai to kharch ke e'waz uska doodh piya jaa sakta hai sawaar hone aur doodh peene waale ko zimme uska kharch hai. (Bukhari: 2512)

۱. بَابُ : الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ

وَمَحْلُوبٌ

۱۱۳۷ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَكِنَّ الدَّرَّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ).

(رواه البخارى: ۲۵۱۲)

Fawaaid:Marhoonah zameen se faayidah uthhana kisi haalat mein durust nahin agar use thheeke par de to woh raqam qarz se minha kardi jaaye to aisa karna jaayez hai ya khud kaasht kare aur paida waar taqseem karke malik ke hissa ke mutaabiq uska qarzah kam karde.

Baab 2: Agar Raahin aur murtahin kisi baat mein ikhtelaaf karen to kiya kiya jaaye?

1138 : Hazrat Ibne Abbaas رضى الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ne yeh faisla kiya tha ke mudd'a alaih par qasam waajib hai. (Bukhari: 2514)

۲. بَابُ : إِذَا اِخْتَلَفَ الرَّاهِنُ

وَالْمُرْتَهِنُ

۱۱۳۸ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى: أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

(رواه البخارى: ۲۵۱۴)

Fawaaid:Girvi shudah zameen mein ikhtelaaf ki soorat yun hogi ke girvi rakhne wala kahe ke main ne sirf zameen girvi rakkhi hai jabke girvi qubool karne waala da'wedaar ho ke darakht bhi iss mein shaamil hain ab da'wedaar ko apne da'we ke suboot ke liye daleel ya'ni gawaah pesh karna honge basoorat digar girvi rakhne waale ki baat qasam le kar taqseem karli jaayegi.



Ghulaam aazaad karne ke bayaan mein

1139 : Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya jo shakhs kisi musalmaan ghulaam ko aazad karega to Allah Ta'ala azad kardah ghulaam ke har a'zw ke badle uska har a'zw dozakh se azad karega. (Bukhari:2517)

Fawaaid: Ek rivaayat mein yahaan tak ezaafah hai ke ghulaam ki sharamgaah ke e'waz azad karne wale ki sharmgaah ko jahannam se azadi mil jaayegi chunki shirk ke ba'd sab se bada gunah zena kaari hai iss liye khusoosi taur par iska zikr kiya gaya hai. (Awnul Baari:3/282)

Baab 1: Kaunsa Ghulaam aazaad karna afzal hai?

1140: Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne kaha main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se poochha ke kaunsa a'mal afzal hai? Aap ne farmaya Allah par eemaan laana aur uski raah mein jehaad karna main ne arz kiya kaunsa ghulaam aazaad karna afzal hai? Aap ne farmaya jiski qeemat ziyaadah ho aur apne malik ki nazar mein nihaayat pasandeedah ho main ne arz kiya agar main yeh na kar sakoon Aap ne farmaya to phir kisi kaarigar ki madad kar ya kisi be hunar anaadi ko koyi kaam sikhaa de. main ne arz kiya agar yeh bhi na kar sakoon? Aap ne farmaya to tum logon ko nuqsaan na pahunchaao yeh bhi ek sadqah hai jo tum ko apne oupar karna hai. (Bukhari: 2518)

Fawaaid: Ek rivaayat mein hai saane' bama'na kareegar ke bajaaye iska ma'na hai ke jo tabaah haal faqr wa faaqah mein muftala ho uski madad ki jaaye. (Awnul Baari:3/284)

Baab 2: Mushtarkah ghulaam ya laundi ko aazaad kar dena.

1141: Hazrat Abdullah bin Umar رضی اللہ عنہما se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya jo shakhs mushtarkah ghulaam mein se apna hissa aazaad karde phir uske paas poore ghulaam ki qeemat jitna maal bhi ho to insaaf ke saath uski qeemat lagaayi jaaye aur

کتاب فی العتق وفضله

۱۱۳۹ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا، اسْتَقَدَّ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهُ عَضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ).

(رواه البخاری: ۲۵۱۷)

۱ . بَابُ : أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

۱۱۴۰ : عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (إِيْمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ). قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفُسَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: (تُعِينُ صَانِعًا، أَع تَصْنَعُ لِأَخْرَقٍ). قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: (تَدْعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقُ بِهَا عَلَى نَفْسِكَ). (رواه البخاری: ۲۵۱۸)

۲ . بَابُ : إِذَا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَ اثْنَيْنِ

أَوْ أُمَّةً بَيْنَ شُرَكَاءَ

۱۱۴۱ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًَا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ

doosre shurka ka hissa woh adaa kare phir ghulaam uski taraf se aazaad ho jaayega warna ghulaam jitna aazaad hochuka hai utna hi aazaad rahega.

(Bukhari:2522)

مَا لَ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قَوْمَ الْعَبْدِ عَلَيْهِ قِيمَةٌ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ. (رواه البخارى: ٢٥٢٢)

Fawaaid: Insaan ke dil mein jo khayalaat aate hain agar buraayi par aamaadah karein to use waswasah kaha jata hai aur agar kaar-e-khair ki da'wat dein to yeh ilhaam hai iss hadees se maloom huwa ke niyyat ke baghair agar bhool chook se lafz talaaq munh se nikal jaaye to use talaaq nahin padti.

Baab 3: Azad karne, Talaaq dene aur isi tarah deegar (mu'aamlaat) mein ghalti aur bhool ho jaaye.

1142: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya be shak Allah Ta'ala ne meri ummat ko woh baaten maaf kardi hain jo unke dilon mein waswash ke taur par aayen taa waqteke un par a'mal na karen ya zabaan se na nikaalen. (Bukhari:2528)

Baab 4: Jab koyi apne ghulaam se kahe yeh Allah keliye hai aur niyyat aazaad karne ki ho neez aazaad karne mein gawaah banana.

1143: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke jab woh musalmaan hone ke iraaade se aaye to unke saath unka ghulaam bhi tha lekin raastah mein bhool kar donon alag alag ho gaye phir woh ghulaam uss waqt waapas aaya jab Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas baiththe huye the to Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya Aye Abu Hurairah رضي الله عنه! yeh tera ghulaam haazir hai us par Abu Hurairah رضي الله عنه ne kaha ke main aap ko gawaah karta hoon ke yeh ghulaam aaj se aazaad hai raavi ka bayaan hai ke uss waqt Abu Hurairah رضي الله عنه yeh she'r padh rahe the.

Hai piyaari go kathhin hai lambi meri raat Par dilaayi usne darul kufr se mujh ko najaat
(Bukhari:2530)

٣. بَابُ : الْخَطَا وَالنِّسْيَانُ فِي

الْعَتَاةِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

١١٤٢ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسَّوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ). (رواه البخارى: ٢٥٢٨)

٤. بَابُ : إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ هُوَ اللَّهُ

وَنَوَى الْعِتْقَ، وَالْإِشْهَادَ بِالْعِتْقِ

١١٤٣ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ لَمَّا أَقْبَلَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ، وَمَعَهُ غُلَامُهُ، ضَلَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَقْبَلَ بَعْدَ ذَاكَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، هَذَا غُلَامُكَ قَدْ آتَاكَ). فَقَالَ : أَمَا إِنِّي أَشْهَدُكَ أَنَّهُ حُرٌّ، قَالَ : فَهُوَ حِينَ يَقُولُ :

يَا لَيْلَةَ مِنْ طَوْلِهَا وَعَنَايَهَا

عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةِ الْكُفْرِ نَجَّتْ

(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ : ٢٥٣٠)

Fawaaid:Bukhari ki ek rivaayat (2532) mein hai ke aap gawaah rahen woh ghulaam Allah ke liye hai Imam Bukhari ki gharz yeh hai ke iss qism ke ghair sareeh alfaaz iste'maal karne se uss waqt azaadi mo'tabar hoti hai jab uski niyyat ho.

Baab 5: Mushrik ka ghulaam azad karna.

1144:Hazrat Hakeem bin Hizaam رضي الله عنه se rivaayat hai ke unhon ne zamaana jaahiliyat mein 100 ghulaam azad kiye aur 100 ount logon ko sawaari ke liye diye the jab woh musalmaan huye to 100 ount mazed logon ko sawaari ke liye diye aur 100 ghulaam azad kiye hazrat Hakeem رضي الله عنه kahte hain ke main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se sawaal kiya phir woh tamaam hadees (726) bayaan ki jo kitabuz zakaat mein guzar chuki hai.

(Bukhari:2538) dekhiye hadees 1436

Fawaaid:Kafir ki koyi neki qubool nahin hoti aur na hi use aakhrat mein koyi sawaab milega lekin musalmaan bandon par iski khaas meharbaani hai ke unke zamane kufr mein ki huyi nekiyaan barqaraar rahti hain jaisa ke hadees mein mazkoor hai.

Baab 6:Agar koyi shakhs kisi arabi ghulaam ka malik ho jaaye (to kiya yeh durust hai?).

1145:Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne qabeelah Mustaliq par uss waqt hamlah kiya jab woh ghaflat mein the aur unke jaanwaron ko chashmon par paani pilaaya jaa raha tha lehaaza aap ne jungi aadmiyon ko qatl kardiya. unki auraton aur bachchon ko qaid karliya aur uss din hazrat Juwairiyeh رضي الله عنها aap ke haath aayin. (Bukhari:2541)

Fawaaid:Iss se maloom huwa ke arab ko ghulaam banaaya jaa sakta hai kyun ke banu Mustaliq arab ke ek qabeele Khuza'h se hai. (Awnul Baari:3/290)

1146:Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke bani Tameem se baraabar mohabbat karta rahta hoon jab se unke muta'alliq main ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se teen baaten suni hain aap farmaate the meri ummat mein se dajjal par yahi log ziyaadah sakht honge Abu Hurairah رضي الله عنه ka bayaan hai ke unki taraf se zakaat aayi to Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya yeh hamaari qaum ki zakaat hai aur un mein ek laundi hazrat Aayeshah رضي الله عنها

۵. بَابُ : عِتْقُ الْمُشْرِكِ

۱۱۴۴ : عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَعْتَقَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، وَحَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ، فَلَمَّا أَسْلَمَ حَمَلَ عَلَى مِائَةِ بَعِيرٍ ، وَأَعْتَقَ مِائَةَ رَقَبَةٍ ، قَالَ : فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الزَّكَاةِ . (رواه البخارى : ۲۵۳۸ ،

انظر حديث رقم : ۱۴۳۶)

۶. بَابُ : مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيْقًا

۱۱۴۵ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُونَ ، وَأَنْعَمَهُمْ تُسْقَى عَلَى ذُرَارِيهِمْ ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .

(رواه البخارى : ۲۵۴۱)

۱۱۴۶ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا زِلْتُ أُحِبُّ بَنِي تَمِيمٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ ، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِيهِمْ ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ : (هُمُ أَشَدُّ أُمَّتِي عَلَى الدَّجَالِ) . قَالَ : وَجَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (هَذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمِنَا) وَكَانَتْ سَبِيَّةً

عنه ke paas thi jis ke muta'alliq aap ne farmaya ise azad karde kyun ke yeh hazrat Ismay'eel ؑ ki aulaad se hai. (Bukhari:2543)

مِنْهُمْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَ: (أَغْتَقِيهَا فَإِنَّهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ).

(رواه البخارى: ٢٥٤٣)

Fawaaid: Hazrat Aayeshah رضى الله عنها ne nazar maani thi ke Ismayeeli ghulaam ko azad karungi kyun ke hazrat Ismayeel ki aulaad se kisi ghulaam ko azad karna Allah ke haan bahut maqaam rakhta hai. (Awnul Baari:3/282)

Baab 7: Ghulaam par dast daraazi karna na jaayiz hai.

1147: Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya tum mein se koyi shakhs iss tarah na kahe tu apne Rab (Maalik) ko khaana khila, apne Rab ko wazoo kara apne Rab ko paani pila balke yoon kahe apne sardaar apne aaqaa aur koyi tum se yoon na kahe mera bandah, meri bandi balke yoon kahe mera khaadim, khaadimah aur mera ghulaam. (Bukhari:2552)

٤. بَابُ : كَرَاهِيَةُ التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ
١١٤٧ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : أَطْعِمُ رَبِّكَ وَصَيَّ رَبِّكَ، اسْقِ رَبِّكَ، وَلِيُقَالَ : سَيِّدِي وَمَوْلَايَ، وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي أُمَّتِي، وَلَكِنْ : فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلَامِي).

(رواه البخارى: ٢٥٥٢)

Fawaaid: Iss lafz ka iste'maal iss liye mana hai ke haqeeqi Ruboobiyat to sirf Allah ko sazawaar hai lehaazah yeh lafz kisi makhloq ke liye iste'maal na kiya jaaye lekin qur'an kareem mein izaafat ke saath yeh lafz ghairullah ke liye iste'maal huwa hai maloom huwa ke nahi tahreemi nahin hai. (Awnul Baari:3/293)

Baab 8: jab kisi shakhs ka khadim uska khaana laaye.

1148: Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi ek aur rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya jab tum mein se kisi ke paas uska khaadim khaana le kar aaye to agar usko apne saath na khila sake to usko ek do luqme ya khaane ki cheez mein se kuchh na kuchh zaroor dena chaahiye kyun ke usne usko tayyaar karne ki zahmat uthhayi hai. (Bukhari:2557)

٨. بَابُ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ
١١٤٨ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ، فَإِنْ لَمْ يُجَلِّسْهُ مَعَهُ، فَلْيَنَاولْهُ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ، أَوْ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَيْنِ، فَإِنَّهُ وَلِيُّ عِلَاجِهِ).

(رواه البخارى: ٢٥٥٧)

Fawaaid: Khaadim ko apne saath baithhaane ka hukm istehbaaban hai agar aisa mumkin na ho to kam az kam ek do luqme use zaroor dene chaahiye. (Awnul Baari:3/295)

Baab 9: Agar apne ghulaam ko maare to chehre par maarne se parhez kare

1149: Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi rivaayat hai woh Rasoolullah ﷺ se bayaan karte hain ke aap ne farmaya tum mein se koyi agar kisi ko maar peet kare to chehre par maarne se parhez kare. (Bukhari:2559)

٩. بَابُ : إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ فَلْيَتَجَنَّبِ الْوَجْهَ
١١٤٩ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ

فَلْيَجْتَنِبِ الْوُجْهَ). (رواه البخاری: ۲۵۵۹)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein lafz ((Zaraba)) hai iss hadees mein agarcheh khaadim ko maarne ki saraahat nahin magar Imam Bukhari ne "Al-Adabul Mufrad" ki ek rivaayat ki taraf ishaarah kiya hai ke jab tum mein se koyi apne khaadim ko maare to chehre par maarne se parhez kare. (Awnul Baari:3/296)

Baab 10: Mukaatab se kaunsi sharten jaayez hain.

1150 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Barirah رضي الله عنها unke paas apni kitaabat mein madad lene aayin aur uss waqt tak unhon ne apni kitaabat mein se kuchh nahin adaa kiya tha Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne unse kaha ke tum apne malik ke paas jaao agar woh chaahein main tumhaari jaanib se adaa kardoon lekin tumhaari wilaa mujh ko mile to main adaa kardungi Hazrat Barirah رضي الله عنها ne iska zikr apne aqa se kiya to usne inkaar kar diya aur kaha agar unko sawaab ki khaahish hai to aisa karde magar tumhaari wilaa hamaare paas rahegi Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne Rasoolullah ﷺ se zikr kiya to Aap ne farmaya tum use khareed kar azad kardo wila to usi ko milegi jo azad karega phir Rasoolullah ﷺ ne khade ho kar khutbah irshaad farmaya un logon ko kiya ho gaya hai jo aisi sharten aayed karte hain jin ki Allah ke qaanoon ki roo se ejaazat nahin hai jo shakhs aisi shart lagaayega jo Allah ki kitab mein na ho to uss shart ka uske liye nifaaz na hoga chaahe woh 100 martabah shart lagaaye aur Allah ki shart hi sab se ziyaadah ma'qool aur mazboot hai.

(Bukhari: 2561)

۱۰. بَاب : مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ
 ۱۱۵۰ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :
 أَنَّ بَرِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ
 تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَصَّتْ
 مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ :
 ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكَ، فَإِنْ أَحْبَبُوا أَنْ
 أَقْضِيَ عَنْكَ كِتَابَتِكَ، وَيَكُونَ
 وَلَاؤُكَ لِي فَعَلْتُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ
 بَرِيرَةَ لِأَهْلِهَا فَأَبَوْا، وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ
 أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكَ فَلتَفْعَلْ، وَيَكُونَ
 وَلَاؤُكَ لَنَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ
 اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ،
 فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (ابْتَاعِي،
 فَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).
 قَالَ: ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ:
 (مَا بَالُ أَنْاسٍ يَشْتَرُطُونَ
 شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مِنْ
 اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ
 فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ،
 شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ).

(رواه البخاری: ۲۵۶۱)

Fawaaid: Iska matlab yeh hai ke ghair mashru sharaayet ki koyi haisiyat nahin hai albattah jaayez aur mashru sharaayet ka e'tebaar karna zaroori hai kisi shart ka Allah Ta'ala ki kitab mein na hone ka matlab yeh hai ke iska jawaaz ya wajoob kitabullah se saabit na ho. (Awnul Baari:3/299)

Hibah ki Fazeelat aur uski Targheeb

Baab 1: Hibah ki fazeelat.

1151: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se bayaan karte hain ke aap ne farmaya Aye muslamaan aurato! koyi padosan doosri padosan ki kisi cheez ko haqeer na khayaal kare go ke woh bakri ka khur hi ho. (Bukhari:2566)

Fawaaid: Matlab yeh hai ke hamsaaya ka tohfa khushi se qubool karna chaahiye zabaan se koyi aisi baat na nikaali jaaye jis se use haqaarat ho isse yeh bhi saabit huwa ke hamsaayon se tahaayef ka tabaadlah masnoon hai. (Awnul Baari:3/302)

1152: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne hazrat U'rwah رضي الله عنه se kaha aye mere bhaanje! be shak hum chaand dekhte phir doosra chaand dekhte the usi tarah do maheenon mein teen chaand dekh lete aur Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke gharon mein aag tak na jalaayi jaati thi U'rwah رضي الله عنه ne kaha khaalah jaan! aise haalaat mein tumhaari zindagi kaise guzarti thi? Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne farmaya do siyaah cheezein y'ani khujoor aur paani par guzar auqaat hota albatta Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke pados mein chand Ansaar rahte the jin ke paas doodh ki bakriyan thin woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke liye doodh bhej dete to aap woh doodh hum ko bhi pila diya karte the. (Bukhari:2567)

1153: Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se bayaan karte hain ke aap ne farmaya agar mujhe dasti ya raan ke gosht ki dawat di jaaye to main qubool karlunga aur agar mere paas dasti ya raan ka unka gosht bataur tohfa bheja jaaye to bhi qubool kar lungu. (Bukhari:2568)

Fawaaid: Iss hadees par Imam Bukhari ne yoon U'nwan qaayem kiya hai "thodi si cheez hibah karna" Hadyah bhi hibah ki tarah hai iss hadees se maloom huwa ke thodi cheez ka hibah karna bhi durust hai aur use qubool bhi karna chaahiye. (Awnul Baari:3/304)

كِتَابُ الْهَبَةِ وَفَضْلِهَا وَالْتَّحْرِیْضِ عَلَیْهَا ۱. بَابُ : فَضْلِ الْهَبَةِ

۱۱۵۱ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فُرْسَنَ شَاةٍ) .
(رواه البخارى: ۲۵۶۶)

۱۱۵۲ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ، يَا ابْنَ أُخْتِي ، إِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى الْهَالِلِ ، ثُمَّ الْهَالِ ، ثَلَاثَةَ أَهْلَةٍ فِي شَهْرَيْنِ ، وَمَا أُوقِدَتْ فِي آيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ ، فَقُلْتُ : يَا خَالَةَ ، مَا كَانَ يُعَيْشِكُمْ ؟ قَالَتِ الْأَسْوَدَانِ : التَّمْرُ وَالْمَاءُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيرَانٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَانَتْ لَهُمْ مَنَائِحُ ، وَكَانُوا يَمْنَحُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَانِهَا فَيَسْقِينَا . (رواه البخارى: ۲۵۶۷)

۱۱۵۳ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ ، أَوْ كُرَاعٍ ، لَأَجِبْتُ ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ) . (رواه البخارى: ۲۵۶۸)

Baab 2: Shikaar ka tohfa qubool karna.

1154: Hazrat Anas رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke hum ne marruz zahraan mein ek khargosh bhagaya to log uske peechhe daudte huye thak gaye bil aakhir main ne use pakad liya aur hazrat Abu Talha رضی اللہ عنہ ke paas le aaya unhon ne use zabah karke uski raanen Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas bhej din aap ne woh qubool farmalin ek aur rivaayat mein hai ke aap ne uss mein se tanaawul farmaya: (Bukhari:2572)

Fawaaid: Iss se shia'h ki bhi tardeed hoti hai jo khargosh ka gosht iss liye nahin khaate ke uski maadah ko khoon aata hai lekin yeh uske haraam hone ki daleel nahin. jab Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne use tanaawul farmaya hai to phir uske halaal hone mein kiya shakh hai.?

Baab 3: Hadyah qubool karna.

1155: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne farmaya Umm-e- Hufaid رضی اللہ عنہا ne jo ibne Abbaas رضی اللہ عنہما ki khalah thi Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko paneer, ghi aur kuchh goh hadyah bhejen to Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne Paneer aur ghi to khaaliya magar goh ko nafrat karte huye chhod diya hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما farmaate hain ke woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke dastar khaan par khaayi gayi agar woh haraam hoti to Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke dastarkhaan par na khaayi jaati. (Bukhari: 2575)

Fawaaid: Hazrat Ibne Umar رضی اللہ عنہما ki rivaayat bhi iss hadees ki taayeed karti hai aap ne goh ko karaahat ki wajah se nahin khaaya use haraam qaraar nahin diya Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ka ghi aur paneer ko khaana iss baat ki daleel hai ke aap ne hadyah qubool farmaya. (Awnul Baari:3/306)

1156: Hazrat Abu Hurairah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas agar koyi khaane ki cheez laayi jaati to aap uski baabat daryaaft karte ke yeh sadqah hai ya hadyah? agar kaha jaata ke sadqah hai to aap apne Sahaaba Kiraam رضی اللہ عنہم ko farmaate

۲. بَابُ : قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ

۱۱۵۴ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنْفَجْنَا أَرْبَابًا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ، فَسَعَى الْقَوْمُ فَلَعَبُوا، فَأَذْرَكْتَهَا فَأَخَذْتُهَا، فَاتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا، وَبَعْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَوْرِكْهَا أَوْ فَخِذِيهَا، فَقَبِلَهَا، وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَكَلَ مِنْهُ.

(رواه البخارى: ۲۵۷۲)

۳. بَابُ : قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

۱۱۵۵ : عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَيْتُ أُمَّ حُمَيْدٍ، خَالََةَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِطًا وَسَمْنًا وَأَضْبًا، فَأَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَقِطِ وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الْأَضْبَ تَقْدُرًا. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأُكِلَ عَلَيَّ مَائِدَةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَيَّ مَائِدَةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَيَّ مَائِدَةٌ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخارى: ۲۵۷۵)

۱۱۵۶ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَسَى بِطَعَامٍ سَأَلَ عَنْهُ: (أَهْدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ). فَإِنْ قِيلَ صَدَقَةٌ، قَالَ

tum khaa lo aur khud na khaate aur agar kaha jaata ke hadyah hai to aap apna haath badha kar unke saath khud bhi tanaawul farmaate. (Bukhari:2576)

1157: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas kuchh gosht laaya gaya aur kaha gaya ke yeh Hazrat Bareerah رضي الله عنها ko sadqah mein mila hai aap ne farmaya uske liye to yeh sadqah hai lekin hamaare liye hadyah hai.

(Bukhari:2577)

Fawaaid: Agarcheh woh gosht hazrat Bareerah رضي الله عنها ko sadqah ke taur par mila tha magar unhon ne Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko tohfa ke taur par bheja tha maloom huwa ke faqeer agar sadqah ki koyi cheez maal daar ko tohfe ke taur par bheje to maal daar use iste'maal mein laa sakta hai.

Baab 4: Apne kisi dost ko qasdan uss din tohfa bhejna jab woh kisi khaas ahliya ke paas ho.

1158: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki biwiyon ke do group the, ek mein hazrat Aayeshah, hazrat Hafsa, hazrat Safyah aur hazrat Saudah رضي الله عنهن thin. doosre group mein hazrat Umme Salmah رضي الله عنها aur Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ki baaqi azwaj-e-mutahharaat رضي الله عنهن thin aur musalmaanon ko yeh maloom tha ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko ziyaadah mohabbat hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hai, lehaaza agar koyi shakhs Nabi-e-Akram صلی اللہ علیہ وسلم ko hadyah dena chahta to woh uss waqt ka intezaar karta jab Nabi-e-Akram صلی اللہ علیہ وسلم hazrat Aayeshah رضي الله عنها ke ghar tashreef laate to hadyah dene wala woh hadyah Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas hazrat Aayeshah رضي الله عنها ke ghar bhejta, (ek din) hazrat Umme Salmah رضي الله عنها ke group ne guftagu ki aur Umme Salmah رضي الله عنها se kaha ke tum Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se iss baare mein arz karo ke aap logon se farmaayen ke jo shakhs Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ko dadyah dena chahe woh bhej de khaah aap apni kisi biwi

لأَصْحَابِهِ: (كُلُوا). وَلَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ، ضَرَبَ بِيَدِهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَأَكَلَ مَعَهُمْ. (رواه البخارى: ٢٥٧٦)

١١٥٧: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: تُصَدِّقُ عَلَيَّ بِرَبِيرَةٍ، قَالَ: (هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ).

(رواه البخارى: ٢٥٧٧)

٣. بَابُ: مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ وَتَحَرَّى بَعْضُ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

١١٥٨: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كُنَّ حَزْبَيْنِ: فَحِزْبٌ فِيهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ وَصَفِيَّةُ وَسَوْدَةُ، وَالْحِزْبُ الْآخَرُ فِيهِ أُمُّ سَلَمَةَ وَسَائِرُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ قَدْ عَلِمُوا حُبَّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَائِشَةَ، فَإِذَا كَانَتْ عِنْدَ أَحَدِهِمْ هَدِيَّةً، يُرِيدُ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آخَرَهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، بَعَثَ صَاحِبَ الْهَدِيَّةِ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكَلِمَ حِزْبُ أُمِّ سَلَمَةَ، فَقُلْنَ لَهَا: كَلِمَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُكَلِّمُ النَّاسَ، فَيَقُولُ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هَدِيَّةً، فَلْيُهْدِهَا إِلَيْهِ حَيْثُ

ke paas hon, chunaancheh Hazrat Umme Salmah رضی اللہ عنہا ne Nabi-e-Akram ﷺ se woh baat kah di jo unke group ne unhen kahi thi to aap ne koyi jawaab na diya. unke group ne unse poochha to unhon ne kaha aap ne koyi jawaab nahin diya unke group ne kaha phir aap se arz karna. hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا bayaan karti hain uski jab baari aayi to usne phir aap se guftagu ki. aap ne phir kuchh na kaha uske group ne phir poochha to unhon ne kaha aap ne koyi jawaab nahin diya unke group ne kaha jab tak aap jawaab na den aap baat karti rahin phir jab Umme Salmah رضی اللہ عنہا ki baari aayi to unhon ne phir baat cheet ki to aap ne farmaya tum mujhe Aayeshah رضی اللہ عنہا ke baare mein takleef na do kyun ke hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا elaawah kisi biwi ke kapde mein mujh par wahi nahin utri, Umme Salmah رضی اللہ عنہا bayaan karti hain main ne guzaarish ki Aye Allah ke Rasool ﷺ! main aap ko takleef dene se Allah se tauba karti hoon uske ba'd un azwaj-e-mutahharaat رضی اللہ عنہن ne aap ki lakht-e-jigar hazrat Faatimah رضی اللہ عنہا ko bula kar unke zariye huzoor-e-Akram ﷺ tak yeh paighaam pahunchaaya ke aap ki biwiyen aap ko Abu Bakr رضی اللہ عنہ کی beti ki baabat insaaf ke liye Allah ka waastah deti hain. hazrat Faatimah رضی اللہ عنہا ne aap se baat ki. to aap ne farmaya Aye Beti! kiya tujhe woh baat pasand nahin jo main pasand karta hoon? unhon ne arz kiya: kyun nahin? to woh laut kar unke paas gayi aur unhein bataaya unhon ne phir usse kaha aap phir huzoor-e-Akram ﷺ ke paas jaayein. usne dobaraah jaane se inkaar kardiya, to unhon ne hazrat Zainab binte Jahash رضی اللہ عنہا ko bheja, to usne aap ke paas aakar sakht guftagu ki aur kaha aap ki biwiyen Abu Quhaafah ki poti ke silsile mein Alla ke

كَانَ مِنْ نِسَائِهِ، فَكَلَّمْتُهُ أُمَّ سَلَمَةَ بِمَا قُلْنَا لَهَا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَاَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَا لَهَا: فَكَلِمِيهِ، قَالَتْ: فَكَلَّمْتُهُ حِينَ دَارَ إِلَيْهَا أَيْضًا، فَلَمْ يَقُلْ لَهَا شَيْئًا، فَسَأَلْنَاَهَا، فَقَالَتْ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، فَقُلْنَا لَهَا: كَلِمِيهِ، حَتَّى يُكَلِّمَكَ، فَدَارَ إِلَيْهَا فَكَلَّمْتُهُ، فَقَالَ لَهَا: لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّ الْوَحْيَ لَمْ يَأْتِنِي وَأَنَا فِي ثَوْبِ امْرَأَةٍ إِلَّا عَائِشَةَ) قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَتَوْبُ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّهُنَّ دَعَوْنَ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَقُولُ: (يَا بِنْتِي، أَلَا تُحِبِّينَ مَا أَحَبُّ؟) قَالَتْ: بَلَى، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِنَّ فَأَخْبَرْتُهُنَّ، فَقُلْنَا: ارْجِعِي إِلَيْهِ فَأَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ، فَأَرْسَلْنَا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، فَاتَتْهُ فَأَغْلَطَتْ، وَقَالَتْ: إِنَّ نِسَاءَكَ يَنْشُدْنَكَ اللَّهُ الْعَدْلَ فِي بِنْتِ ابْنِ أَبِي قُحَافَةَ، فَرَفَعَتْ صَوْتَهَا حَتَّى تَنَازَلَتْ عَائِشَةَ وَهِيَ قَاعِدَةٌ فَسَبَّتْهَا، حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَيَنْظُرُ إِلَى عَائِشَةَ هَلْ تَكَلَّمُ، قَالَ فَتَكَلَّمَتْ عَائِشَةُ تَرُدُّ عَلَى زَيْنَبَ حَتَّى أَسَكَّتَتْهَا، قَالَتْ: فَانظُرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَائِشَةَ، وَقَالَ (إِنَّهَا بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ). (رواه البخارى: ٢٥٨١)

waaste se aap ke adl ka taqaaza karti hain. hazrat Zainab رضي الله عنها ne aawaaz buland karte huye hazrat Aayeshah رضي الله عنها ko nishaanah banaaya woh baithhi huyi thin unhein khoob bura bhala kaha hatta ke Rasoolullah ﷺ hazrat Aayeshah رضي الله عنها ki taraf dekhne lage ke woh jawaab deti hai ya nahin to hazrat Aayeshah رضي الله عنها ne hazrat Zainab رضي الله عنها ko jawaab dena shuru kiya. bil aakhir use khaamoosh kara diya phir Rasoolullah ﷺ ne hazrat Aayeshah رضي الله عنها ko dekh kar farmaya aakhir woh bhi Abu Bakr رضي الله عنه ki beti hain. (Bukhari:2581)

Fawaaid: Iss hadees se siddeeqa-e-kaayenaat hazrat Aayeshah رضي الله عنها aur unke waalid giraami hazrat Abu Bakr رضي الله عنه ki fazeelat wa manqabat maloom hoti hai ba'z log unke khelaaf zabaan daraazi karke apne naama-e-aa'maal ko siyaah karte rahte hain.

Baab 5: Kis qism ke tohfe waapas na kiye jaayen.

1159: Hazrat Anas رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ khushbu waapas nahin karte the.

(Bukhari: 2582)

Fawaaid: Ek doosri hadees mein hai ke Rasoolullah ﷺ takyah, tel aur doodh waapas na karte the hadees mein tel se muraad khushbu hai aap ne use waapas na karne ki talqeen ki hai kyun ke uske dene se aasaani aur nafa rasaani ziyaadah hai. (Awnul Baari:3/312)

Baab 6: Hadyah ka badlah dena masnoon hai.

1160: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ hadyah qubool farmaa lete aur uska kuchh badlah bhi dete the. (Bukhari:2585)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ki seerat-e-tayyibah ka taqaaza hai ke hadyah qubool karle aur dene waale ko kuchh badlah mein de neez dena waala agar zaroorat mand hai to apne hadyah ke badle ki tawaqqo' rakh sakta hai. (Awnul Baari:3/313)

Baab 7: Hadyah mein gawaah muqarrar karna.

1161: Hazrat No'maan bin Basheer رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha ke mere waalid ne mujhe kuchh atyah diya to meri waalidah hazrat Amrah binte Rawaah رضي الله عنها ne kaha

٥. بَابُ : مَا لَا يَرُدُّ مِنَ الْهَدِيَّةِ

١١٥٩ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ .

(رواه البخارى: ٢٥٨٢)

٦. بَابُ : الْمُكَافَأَةُ فِي الْهَبَةِ

١١٦٠ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْبَلُ

الْهَدِيَّةَ وَيُنِيبُ عَلَيْهَا .

(رواه البخارى: ٢٥٨٥)

٧. بَابُ : الْإِشْهَادُ فِي الْهَبَةِ

١١٦١ : عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً ،

فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ : لَا أَرْضَى

main uss waqt tak raazi nahin hongi jab tak tum Rasoolullah ﷺ ko gawaah na banaao lehaaza woh Rasoolullah ﷺ ke paas aaye aur arz kiya ke main ne apne bete ko jo Amrah binte Rawaah رضی اللہ عنہا ke batan se hai kuchh atyah diya hai Amrah رضی اللہ عنہا kahti hai ke uss par main aap ko gawaah banaaloon aap ne poochha kiya tum ne apne tamaam aulaad ko utna hi diya hai? unhon kaha nehin! Rasoolullah ﷺ ne farmaya Allah se daro aur apni aulaad ke darmiyaan insaaf karo hazrat No'maan ؓ ka bayaan hai ke yeh sun kar mera baap laut aaya aur unhon ne di huyi cheez waapas le li. (Bukhari:2587)

Fawaaid: Aulaad mein adl -o-insaaf ka taqaaza yeh hai ke tamaam bachchon aur bachchiyon ko baraabri ki bunyaad par tohfe diye jaayen haan agar koyi bachcha ma'zoor ya mohtaaj hai to use kuchh ziyaadah dene mein iss qadr harj nahin (Awnul Baari:3/316)

Baab 8: Biwi Khaawind ka aapas mein tohfe ka tabaadlah karna kaisa hai?

1162: Hazrat Ibne Abbaas رضی اللہ عنہما se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya hibah de kar waapas lene waala uss kutte ki tarah hai jo qai karke phir use kha jaata hai. (Bukhari:2589)

Fawaaid: Hibah de kar waapas lena haraam hai alhattah baap apne bachchon ko hibah de kar waapas le sakta hai. (Awnul Baari:3/318)

Baab 9: Shauhar ki maujoodgi mein aurat ka kisi ko hadyah dena aur ghulaam azad karna.

1163: Hazrat Maymoonah binte Haaris رضی اللہ عنہا se rivaayat hai ke uss ne apni ek laundi ko azad kar diya jiski baabat Rasoolullah ﷺ se ejaazat nahin li thi jab unki baari ke din aap tashreef laaye to arz kiya ya Rasoolallah ﷺ ! kiya aap ko maloom hai ke main ne apni laundi ko azad kardiya hai? aap ne farmaya kiya waqayi azad karchuki ho? usne kaha ji haan! aap ne farmaya agar too woh laundi apne nanhyaal ko deti to tujhe ziyaadah

حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي أُعْطِيتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (أُعْطِيتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا؟)، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ). قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.

(رواه البخارى: ٢٥٨٧)

٨ . بَابُ : هِبَةِ الرَّجُلِ لِأَمْرَأَتِهِ

وَالْمَرْأَةِ لِرَوْجِهَا

١١٦٢ : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). (رواه البخارى: ٢٥٨٩)

٩ . بَابُ : هِبَةِ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ رَوْجِهَا

وَعَتَقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ

١١٦٣ : عَنِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلَيْدَةً ، وَكَمْ تَسْتَأْذِنِ النَّبِيَّ ﷺ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيْهَا فِيهِ قَالَتْ : أَشَعَرْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي أَعْتَقْتُ وَلَيْدَتِي؟ قَالَ : (أَوْ فَعَلْتِ؟) قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : (أَمَّا إِنَّكَ لَوْ أُعْطِيتَهَا

sawaab hota. (Bukhari:2592)

أَخْوَالِكِ كَانَ أَكْبَرُ لَأَجْرِكِ).

(رواه البخارى: ٢٥٩٢)

Fawaaid: Agar koyi rishtah daar mohtaaj ho to ghulaam azad karne ke bajaaye unhein bataur a'tyah dene mein ziyaadah fazeelat hai. (Awnul Baari:3/319)

1164: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha ke jab Rasoolullah ﷺ safar ka iraadah farmaate to apni azwaj-e-motahharaat ke darmiyaan qura' daalte jis ka naam nikal aata use apne saath le jaate aur aap ka apni har biwi ke liye ek din raat muqarrar tha lekin hazrat Saudah binte Zama'h رضي الله عنها ne apna din hazrat Aayeshah رضي الله عنها zaujah Rasoolullah ﷺ ko de diya tha unhen iss mein Rasoolullah ﷺ ki raza mandi matloob thi. (Bukhari:2593)

١١٦٤ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، وَكَانَ يُقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا، لِعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، تَبْتَغِي بِذَلِكَ رِضًا رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. (رواه البخارى: ٢٥٩٣)

Baab 10: Ghulaam laundi aur deegar saamaan par kaise qabzah hota hai?

1165: Hazrat Miswar bin Makhramah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne kuchh qabaayen taqseem kin lekin hazrat Makhramah ﷺ ko aap ne koyi qaba na di jis par hazrat Makhramah ﷺ ne kaha aye mere bete! tu Rasoolullah ﷺ ke paas mere saath chal lehaaza main unke saath chala gaya unhon ne kaha ander jaa aur Rasoolullah ﷺ ko meri taraf se bula laao Miswar ﷺ kahte hain ke main aap ko bula laaya aap baahar tashreef laaye to un qabaaon mein se ek aap ke paas thi aur aap ne farmaya hum ne yeh tere liye chhupa rakkhi thi aur hazrat Miswar ﷺ ka bayaan hai ke Makhramah ﷺ use dekh kar khush ho gaye. (Bukhari:2599)

١٠ . بَابُ : كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

١١٦٥ : عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ أَقْبِيَةَ، وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ مِنْهَا شَيْئًا، فَقَالَ مَخْرَمَةُ: يَا بُنَيَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ، فَقَالَ: (حَبَانَا هَذَا لَكَ). قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: (رَضِيَ مَخْرَمَةُ).

(رواه البخارى: ٢٥٩٩)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke hibah mein doosre ki milkiyat uss waqt saabit hogi jab woh hibah uske qabzah mein aajaaye usse pahle pahle uss mein tasarruf nahin kiya jaa sakta. (Awnul Baari:3/321)

Baab 11: Aise libaas ka tohfa dena jis ka pahanna na jaayez ho.

1166: Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ apni beti hazrat Faatimah رضي الله عنها ke ghar tashreef laaye magar ander daakhil na huye hazrat Ali رضي الله عنه aaye to hazrat Faatimah رضي الله عنها ne un se iska tazkirah kiya unhon ne Rasoolullah ﷺ se uski wajah daryaaft ki to aap ne framaya main ne unke darwaaze par ek reshmi dhaari daar pardah dekha tha bhala hum logon ko aaraaish-e-dunya se kiya gharz hai? hazrat Ali رضي الله عنه ne hazrat Faatimah رضي الله عنها ke paas aakar yeh baat bayaan ki hazrat Faatimah رضي الله عنها bolin Rasoolullah ﷺ jo chaahen mujhe uski baabat hukm farmaayen? aap ne farmaya iss pardah ko fulaan shakhs ke paas bhej do jo zaroorat mand hai. (Bukhari:2613)

Fawaaid: Iss pardah mein tasaaweer aur naqsh-o-nigaar the iss liye Rasoolullah ﷺ ne use naa pasand farmaya. (Awnul Baari:3/319)

1167: Hazrat Ali رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ek dhaari daar reshmi joda hadyah bheja jis ko main ne pahan liya phir kiya dekhta hoon ke aap ke chehra anwrar par ghussa ke aasaar hain main ne use phaad kar apni auraton mein taqseem kar diya. (Bukhari:2614)

Fawaaid: Hazrat Ali رضي الله عنه ne woh reshmi joda jin auraton mein taqseem kiya woh unki biwiyaan na thin balke unki rishtah daar khawaateen thin. (Awnul Baari:3/319)

Baab 12: Mushrikeen ka hadyah qubool karna

1168: Hazrat Abdur Rahmaan bin Abi Bakr رضي الله عنهما se rivaayat hai ke 130 aadmi Rasoolullah ﷺ ke saath the Rasoolullah ﷺ ne poochha tum mein se kisi ke paas kuchh khaana hai? ek shakhs ke paas ek saa' ya aisa hi kuchh ghallah tha jise gondha gaya itne mein paraagandah baalon waala ek lamba tadanga mushrik apni bakriyon ko haankta huwa idhar aa nikla Rasoolullah ﷺ ne

۱۱۶۶ . بَاب : هَدِيَّةٌ مَا يُكْرَهُ لِبُسِّهَا
 ۱۱۶۶ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا ، وَجَاءَ عَلِيٌّ فَذَكَرَتْ لَهُ ذَلِكَ ، فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ قَالَ : (إِنِّي رَأَيْتُ عَلَى بَابِهَا سِتْرًا مَوْشِيًّا) ، فَقَالَ لِي : (مَا لِي وَاللُّدُنْيَا) ، فَأَتَاهَا عَلِيٌّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ : لِيَأْمُرَنِي فِيهِ بِمَا شَاءَ ، قَالَ : (تُرْسِلِي بِهِ إِلَى فُلَانٍ ، أَهْلُ بَيْتٍ بِهِمْ حَاجَةٌ) . (رواه البخارى : ۲۶۱۳)

۱۱۶۷ : عَنِ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ حُلَّةً سِيْرَاءَ ، فَلَبِسْتُهَا ، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ ، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي . (رواه البخارى : ۲۶۱۴)

۱۱۶۸ . بَاب : قَبُولُ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

۱۱۶۸ : عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ (هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟) فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوَهُ ، فَعَجِنَ ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ ،

poochha inko farokht karega ya hadyah dega ya yeh farmaya ke bataur hibah dega usne kaha nahin balke farokht karunga chunaancheh Rasoolullah ﷺ ne uss se ek bakri khareed li jise zabah kiya gaya Rasoolullah ﷺ ne kaleji waghairah ke muta'alliq hukm diya ke usko bhoon liya jaaye Allah ki qasam! 130 aadmiyon mein se koyi shakhs aisa na tha jis ko Rasoolullah ﷺ ne kaleji ki bootiyaan na di hon jo maujood tha usko de din aur jo maujood na tha uske liye rakh din phir aap ne gosht ke do piyaale tayyaar kiye sab logon ne khoob sair ho kar khaaya phir bhi donon piyaale bhare bach gaye hum ne unhen uthha kar oont par rakh diya ya raavi ne kuchh aisa hi kaha.

(Bukhari:2618)

مُسْعَمَانٌ طَوِيلٌ، بَغَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (بَيْعًا أَمْ عَطِيَّةً؟ أَوْ قَالَ: أَمْ هِبَةً؟). قَالَ: لَا، بَلْ بَيْعٌ، فَأَشْتَرِي مِنْهُ شَاةً، فَصَنَعْتُ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِسَوَادِ الْبُطْنِ أَنْ يُشْوَى، وَأَيْمُ اللَّهِ، مَا فِي الثَّلَاثِينَ وَالْمِائَةِ إِلَّا وَقَدْ حَزَّ النَّبِيُّ ﷺ لَهُ حُزَّةٌ مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا حَبَأَ لَهُ، فَجَعَلَ مِنْهَا قِصْعَتَيْنِ، فَأَكَلُوا أَجْمَعُونَ وَشَبَعْنَا، فَفَضَلَتِ الْقِصْعَتَانِ، فَحَمَلْنَاهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ:

(رواه البخارى: ٢٦١٨)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ka daryaaft karna ke tu use farokht karega ya bataur hibah dega iss se ma'loom huwa ke mushrik but parast se hadyah liya jaa sakta hai. (Awnul Baari:3/326)

Baab 13: Mushrikeen ko tohfa dena.

1169: Hazrat Asma binte Abi Bakr رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ke zamaane mein meri waalidah mere paas aayi jo mushrik thi main ne Rasoolullah ﷺ se masala poochha ke woh islam ki taraf raaghib hai to kya main apni waalidah ke saath silah rahmi karun aap ne farmaya haan apni maan se achchha bartao karo. (Bukhari:2620)

١٣ . بَابُ : الْهَدِيَّةُ لِلْمُشْرِكِينَ
١١٦٩ : عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ، قُلْتُ : إِنْ أُمِّي قَدِمَتْ وَهِيَ رَاعِبَةٌ ، أَفَأَصِلُ أُمِّي ؟ قَالَ : (نَعَمْ ، صِلِي أُمَّكَ) . (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ : ٢٦٢٠)

Fawaaid: Iss se maloom huwa ke duniya mein mu'aamlaat mein mushrik waaledain se husn-e-sulook mein kotaahi nahin karna chaahiye.

Baab 14:

1170: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne Marwaan ke paas hazir ho kar Bani Suhaib ke haq mein gawaahi di ke Rasoolullah ﷺ ne yeh donon makaan aur ek kamrah hazrat Suhaib ko diya tha lehaazah Marwaan ne unki shahaadat ki bina par unke haq mein faislah

١٤ . بَابُ
١١٧٠ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ مَرْوَانَ لِبَنِي صُهَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحِجْرَةً فَقَضَى مَرْوَانَ

de diya. (Bukhari:2624)

Baab 15: Umra aur Ruqba ka bayaan.

1171: Hazrat Jabir رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne U'mra ke baare mein yeh faislah kiya ke woh usi ka jis ko hibah kiya gaya ho. (Bukhari:2625)

Fawaaid: U'mri yeh hai ke Umr bhar kisi ko rahne ke liye makaan dena aur Ruqba kisi ki maut se mashroot karke koyi cheez dena hadees mein sirf U'mra ka zikr hai ke woh ek hibah hai jo waapas nahin aa sakta ruqba ka bhi yahi hukm hai. (Awnul Baari:3/329)

Baab 16: Shaadi mein dulhan ko pahnaane ke liye koyi cheez aariyatan lena.

1172: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai ke Hazrat Umme Ayman رضي الله عنها unke paas aayi aur woh ek mote kapde ka kurta pahne huye thin ek rivaayat mein hai ke ruyi ka kurta jiski qeemat paanch dirham hogi unhon ne kaha meri iss laundi ki taraf aankh uthakar dekho yeh ghar mein isko pahanne se inkaar karti hai haalaanke Rasoolullah ﷺ ke zamaane mein mere paas iss tarah ka ek kurta tha Madinah mein jis aurat ko banaau wa singhaar ki zaroorat hoti to yeh kurta mujh se aariyatan mang waaleti.

(Bukhair:2628)

Baab 17: Doodh ka jaanwar aariyatan dene ki fazeelat

1173: Hazrat Anas bin Maalik رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne farmaya ke jab muhaajereen-e-Makkah se Madinah aaye to unke paas kuchh na tha aur Ansaar zameen aur jaayedaad waale the iss liye mohajreen ko Ansaar ne apne maal iss shart par taqseem kar diye ke woh unhen har saal nisf phal diya karein aur mehnat -o-mushaqqat sab wahi karein unki maan Umme Sulaim رضي الله عنها ne jo Abdullah bin Abi Talha رضي الله عنها ki bhi maan thin Rasoolullah ﷺ ko khujoor ke kuchh

بشهادته لهم. (رواه البخارى: ٢٦٢٤)

١٥١. بَابُ : مَا قِيلَ فِي الْعُمَرَى وَالرُّقْبَى
١١٤١ : عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ ﷺ بِالْعُمَرَى ، أَنَّهَا
لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ . (رواه البخارى: ٢٦٢٥)

١٦. بَابُ : الْأَسْتِعَارَةُ لِلْعُرُوسِ عِنْدَ
الْبِنَاءِ

١١٤٢ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَيْهَا أَيَّمَنُ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ مِنْ
قَطْرِ . وَفِي رِوَايَةٍ : مِنْ قُطْنٍ . ثَمَّنُهُ
خَمْسَةَ دَرَاهِمَ ، فَقَالَتْ : أَرْفَعُ
بَصْرَكَ إِلَى جَارِيَّتِي أَنْظُرْ إِلَيْهَا ، فَإِنَّهَا
تُرْهِى أَنْ تَلْبَسَهُ فِي الْبَيْتِ ، وَقَدْ كَانَ
لِي مِنْهُمْ دِرْعٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ ، فَمَا كَانَتْ امْرَأَةً تَقِينُ بِالْمَدِينَةِ
إِلَّا أَرْسَلْتُ إِلَيْي تَسْتَعِيرُهُ .

(رواه البخارى: ٢٦٢٨)

١٧. بَابُ : فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

١١٤٣ : عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ
الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ ،
وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ
وَالْعَقَارِ ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ
يُعْطَوْهُمْ ثَمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلِّ عَامٍ ،
وَيَكْفُوهُمْ الْعَمَلَ وَالْمَوْتَةَ ، وَكَانَتْ
أُمُّهُ أُمُّ أَنَسِ أُمَّ سُلَيْمٍ ، كَانَتْ أُمَّ عَبْدٍ

darakht diye the jo aap ne apni azad kardah laundi Umme Ayman رضي الله عنها ko de diye jo Usaamah bin Zaid رضي الله عنها ki maan thi Hazrat Anas رضي الله عنه ka bayaan hai ke jab Rasoolullah ﷺ jung-e-khaibar se faarigh ho kar Madinah waapas aaye to Muhaajreen ne Ansaar ko unki cheezein waapas kardin ya'ni phalदार darkht jo unhon ne muhaajereen ko diye the chunaancheh Rasoolullah ﷺ ne bhi hazrat Anas رضي الله عنه ki waalidah ko bhi unke darakht waapas kar diye aur Umme Ayman رضي الله عنها ko Rasoolullah ﷺ ne unke e'waz apne baagh se kuchh darakht de diye.

(Bukhari: 2630)

اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أُعْطَتْ أُمَّ أَنَسٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عِدَاقًا لَهَا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ.

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَسَالِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَأَنْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ، رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كَانُوا مَنُوحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى أُمِّهِ عِدَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.

(رواه البخارى: ٢٦٣٠)

Fawaaid: Muslim ki rivaayat mein hai ke Rasoolullah ﷺ ne hazrat Umme Ayman رضي الله عنها ko das guna darakht de kar raazi kiya. (Awnul Baari:3/335)

1174: Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah ﷺ ne farmaya 40 umdah khaslaten hain un mein se afzal khaslat doodh waali bakri ka aaryatan dena hai un mein se kisi bhi khaslat par sawaab ki ummeed aur Allah ke wa'de ko sachcha jaante huye amal baja laaye to Allah Ta'ala uske sabab usko jannat mein daakhil farmaayenge. (Bukhari:2631)

١١٧٤: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَرْبَعُونَ خِصْلَةً، أَغْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخِصْلَةٍ مِنْهَا: رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصَدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ). (رواه البخارى: ٢٦٣١)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ baqi khaslaton ko jaante the lekin unka shaayad iss liye zikr nahin kiya ke log deegar kaarhaaye khair baja laane mein susti na karen Wallahu A'lam.

(Awnul Baari:3/336)



Gawaahi ke bayaan mein

Baab1: Agar koyi gawaah banaaya jaaye to kisi zulm ki baat par gawaahi na de.

1175: Hazrat Abdullah bin Mas'ood رضی اللہ عنہ se rivaayat hai woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se bayaan karte hain ke aap ne farmaya sab logon mein behtar mere zamaane ke log hain phir jo unke qareeb hain phir jo unke qareeb hain, unke ba'd kuchh aise log paida honge jo qasam se pahle gawaahi denge aur gawaahi se pahle qasam uthhaayenge.

(Bukhari:2652)

Fawaaid: Maloom huwa ke gawaahi dena badi zimmedaari hai uske adaa karne se pahle khoob ghaur-o-fikr karna chaahiye iss hadees ke aakhir mein hazrat Ibraheem Nakhayi' ka qaul hai ke hamaare buzurg hamen ladakpan mein gawaahi aur a'had-o- paymaan par maara karte the buzrugon ka ehtemaam iss benaa par tha ke gawaahi al'al wajhil baseerat di jaaye aur iss silsile mein kisi par ziyaadati na ki jaaye.

Baab2: Jhooti gawaahi ke muta'alliq kiya kahaa gaya hai?.

1176: Hazrat Abi Bakrah رضی اللہ عنہ se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya kiya main tumhein bade bade gunaahon ki ittela na doon teen baar yeh farmaya Sahaaba kiraam رضی اللہ عنہم ne arz kiya ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم! zaroor dein. phir aap ne farmaya Allah ke saath shirk karna, waaledain ki naa farmaani karna, pahle aap takyah lagaaye huye the phir utth baithhe aur farmaya khabardaar! jhooti gawaahi dena aur musalsal uski takraar farmaate rahe yahaan tak ke hum log kahne lage kaash aap khaamoosh ho jaayein. (Bukhari:2654)

Fawaaid: Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne jhooti gawaahi ki sangeeni iss bena par ehtemaam se bayaan farmaayi ke log iss jurm ke irtekaab mein bahut be baak hain aur uske asbaab bhi be shumaar hain neez uske nuqsan ki lapet mein be shumaar log aajaate hain. (Awnul Baari:3/342)

Baab 3: Naa Beena ki gawaahi, uska hukm dena, apna ya kisi doosre ka nikaah padhna, khareed-o-farokht karna aur azaan waghairah durst hai

کتاب الشہادات

۱. بَابُ: لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ

جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

۱۱۷۵ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

(خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ،

ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ أَقْوَامٌ تَسْبِقُ

شَهَادَةَ أَحَدِهِمْ يَمِينُهُ وَيَمِينُهُ

شَهَادَتَهُ). (رواه البخارى: ۲۶۵۲)

۲. بَابُ: مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّورِ

۱۱۷۶ : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَا أَنْبِئُكُمْ

بِأَكْبَرَ الْكِبَائِرِ؟). ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا

رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ،

وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ. وَجَلَسَ وَكَانَ

مُتَكِنًا، فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ). قَالَ:

فَمَا زَالَ يُكْرِرُهَا حَتَّى قُلْنَا: كَيْتَهُ

سَكَّتْ). (رواه البخارى: ۲۶۵۳)

۳. بَابُ: شَهَادَةُ الْأَعْمَى وَنِكَاحِهِ

وَأَمْرِهِ وَإِنِكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي

التَّأْذِينَ وَغَيْرِهِ وَمَا يُعْرَفُ

neez aisi baaton ka qubool karna jo aawaaz se pahchaani jaati hain.

1177: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne ek shakhs ko masjid mein qur'an padhte suna to farmaya Allah uss par rahmat farmaye usne mujhe ek soorat ki fulaan fulaan aayaat yaad dila din jo main bhool gaya tha.

(Bukhari: 2655)

Fawaaid: Rasoolullah ﷺ ne uss aadmi ki shakhsiyat ko dekhe baghair uski aawaaz par e'temaad kiya iss tarah andha aadmi agar aawaaz sune to uski shakhsiyat dekhe baghair gawaahi de sakta hai bashar teke uski aawaaz ko pahchaanta ho. (Awnul Baari: 3/344)

1178: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se hi rivaayat hai unhon ne iss rivaayat mein mazeed kaha ke Rasoolullah ﷺ ne mere ghar mein namaaz-e-tahajjud padhi itne mein Hazrat A'bbaad ؓ ki aawaaz suni jo masjid mein namaaz padh rahe the to aap ne poochha Aayeshah رضي الله عنها kiya yeh A'bbaad ؓ ki aawaaz hai? Main ne arz kiya ji haan! aap ne farmaya aye Allah! A'bbaad ؓ par rahmat farma. (Bukhari: 2655)

Fawaaid: Maloom huwa ke khud ko shaamil kiye baghair kisi dost ke liye du'a karna jaayez hai. (Ad-da'waat: 6335)

Baab 4: Khawaateen ka ek doosre ki safaayi dena

1179: Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ki yeh aadat mubaarkah thi ke jab kisi safar mein jaane ka iraadah farmaate to apni biwiyon ke darmiyaan qura' daalte phir un mein se jiska naam qura' se nikal aata usi ko saath le jaate lehaaza ek jehaad mein jo aapko dar pesh tha hamaare darmiyaan qura' daala to mera naam nikal aaya chunaancheh main aap ke saath rawaana huyi yeh waqia'h pardah ka hukm utarne ke ba'd ka hai iss liye main haudaj ke ander baithha di jaati aur uske samet hi utaar li jaati thi hum usi tarah chalte rahe phir jab Rasoolullah ﷺ apne jehaad se faarigh ho kar

بِالْأَصْوَاتِ

١١٧٧ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: (رَحِمَهُ اللَّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا).

(رواه البخارى: ٢٦٥٥)

١١٧٨ : وَعَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ قَالَتْ: تَهَجَّدَ النَّبِيُّ ﷺ فِي بَيْتِي، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: (يَا عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟). قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: (اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا). (رواه البخارى: ٢٦٥٥)

٢. بَابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ

بَعْضُهُنَّ بَعْضًا

١١٧٩ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ سَهْمِي فَخَرَجْتُ مَعَهُ، بَعْدَ مَا أَنْزَلَ الْحِجَابَ، فَأَنَا أُحْمَلُ فِي هَوْدَجٍ وَأُنزَلُ فِيهِ، فَيَسْرُنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَتِهِ تَلَكَّ

safar se laute hatta ke hum Madinah ke qareeb pahunch gaye to aap ne raat ko kooch ka e'laan farmaya jab logon ne yeh e'laan suna to main bhi kahdi ho gayi aur qazaa-e-haajat ke liye chali gayi hatta ke lashkar se aage guzar gayi lekin jab main apni haajat se faarigh ho kar kachaawe ke paas aayi seena par jo haath phera to maloom huwa ke zifaar ke kaale nageenon waala mera haar kahin gum ho gaya hai bas main apne haar ko dhoondhti huyi waapas gayi mujhe uski talaash mein der ho gayi phir jo log mera haudaj uthhaate the woh aaye aur unhon ne mera haudaj uthha kar mere uss oont par rakh diya jis par main sawaar hoti thi. kyun ke woh log samajhte the ke main uss mein maujood hoon uss zamaane mein auraten halki phulki huwa karti thin bhaari bharkam na thin unke jism par ziyaadah gosht na hota tha aur woh khaana bhi thoda khaati thin to jab logon ne mera haudaj uthhaya use mamool ke mutaabiq bojhal khayaal karke uthha liya aur use oont par laad diya iski wajah yeh bhi thi ke main uss zamaane mein ek kamsin ladki thi khair woh oont ko haank kar rawaana hogaye lashkar ke nikal jaane ke ba'd mujhe haar mil gaya jab main unke maqaam-e-padaau par aayi to wahaan koyi na tha phir main ne apni uss jagah par jaane ka qasd kar liya jahaan main pahle thi kyun ke mera khayaal tha ke woh log jal'd hi mujhe talaash karenge to mere paas usi jagah laut kar aayenge phir jab main baithhi huyi thi neend se meri aankhein bhaari hone lagin aur main so gayi.

Hazrat Safwaan bin Mu'attal Sulami Zakwaani ﷺ jo lashkar ke peechhe aa rahe the woh subah ko meri jagah par aaye aur unhein ek aadmi sota huwa dikhaayi diya to mere paas aa gaye aur woh mujhe hijaab ke hukm se pahle dekh chuke the lehaaza

وَقَفَلْ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، آذَنْ لَيْلَةً
بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ
الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي، أَقْبَلْتُ
إِلَى الرَّحْلِ، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا
عَقْدٌ لِي مِنْ جَزَعِ ظَفَارٍ قَدْ انْقَطَعَ،
فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ عِقْدِي فَحَبَسَنِي
ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ يُرَحِّلُونَ لِي،
فَاحْتَمَلُوا هُوَ دَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَيَّ
بِعَيْرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ
يَحْتَسِبُونَ أَنِّي فِيهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ
ذَاكَ خِيفًا لَمْ يَنْقُلْنَ، وَلَمْ يَغْشَهُنَّ
اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلْنَ الْعُلُقَةَ مِنَ
الطَّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ حِينَ رَفَعُوهُ
ثِقَلِ الْهُودِجِ فَاحْتَمَلُوهُ، وَكُنْتُ جَارِيَةً
حَدِيثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا،
فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ
الْجَيْشُ، فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيهِ
أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ،
فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَقْبِدُونَنِي فَيَرْجِعُونَ
إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَايُ
فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعْطَلِ
السُّلَمِيُّ ثُمَّ الدَّكْوَانِيُّ مِنْ وِرَاءِ
الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي، فَرَأَى
سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ فَأَتَانِي، وَكَانَ يَرَانِي
قَبْلَ الْحِجَابِ، فَاسْتَيْقَظْتُ
بِاسْتِرْجَاعِهِ، حِينَ أَنَا خَرَجْتُ،
فَوَطِئَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا، فَانْطَلَقَ يَقُودُ
بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا

((انا لله)) mujhe pahchaan gaye aur main unke padhne ki aawaaz sun kar bedaar huyi unhon ne apna ount baithha diya aur uski agli taang par paaoun rakkha chunaancheh main sawaar hogayi aur woh mere ount ko haankte huye paidal chalte rahe aur hum qaafлах mein thheek dopahar ke waqt pahunche jab woh log aaraam ke liye farokash ho chuke the ab jis ki qismat mein tabaahi thi woh tabaah huwa aur tohmat lagaane waalon ka sardaar Abdullah bin Ubai bin Salool munaafiq tha jab hum Madinah pahunch gaye to main ek maah tak bimaar rahi aur log uss toofaan ka charcha karte rahe mujhe apni bimaari ke dauraan yoon shak paida huwa ke main apne oupar Rasoolullah ﷺ ki woh meharbaaniyan nahin paati thi jo bimaari ke waqt Aap ki taraf se huwa karti thin ab sirf aap tashreef laate aur salaam karte aur kahte ke tum kaisi ho? mujh ko uss tufaan ki khabar tak na huyi yahaan tak ke main naatwaan ho gayi ek baar mein aur Hazrat Mastah رضي الله عنها ki manaase' ki taraf gayin jahaan raat ko qazaaye haajat ke liye jaaya karte the un dinon hamaare gharon ke nazdeek baitul khala na the hamaara mu'aamlaah jangal jaane ya qazaaye haajat karne ki baabat qadeem arab ki misl tha khair main aur Mustah رضي الله عنها ki maan jo Abu Raham ki beti thin donon jaa rahi thin ke woh achaanak chaadar mein atak kar phisli kahne lagi haaye Mustah رضي الله عنها tabaah ho gaya main ne kaha tumne bura kaha ke tum uss shakhs ko gaali deti ho jo jung-e-badr mein shareek ho chuka hai unhon ne kaha aye bholi bhaali! tujhe kuchh khabar bhi hai logon ne kiya toofaan uthha rakkha hai? phir unhon ne mujhe ahle ufak ki guftagu se muttala' kiya usse meri bimaari mein mazeed ezaafah ho gaya jab main apne ghar pahunchi to

نَزَلُوا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنِ سَلُولٍ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا، وَالنَّاسُ يَفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ، وَيَرِيئُنِي فِي وَجَعِي: أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ ﷺ اللَّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَمْرُسُ، إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُولُ: (كَيْفَ تَيْكُمُ؟). لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحَ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، مُتَبَرِّزِينَ، لَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بَيْوتِنَا، وَأَمَرْنَا أُمَّ الْعَرَبِ الْأُولَى فِي الْبَرِيَّةِ، أَوْ فِي التَّنَزُّهِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحِ بِنْتُ أَبِي رُهَيْمٍ نَمْشِي، فَعَثَرْتُ فِي مِرْطَظِهَا، فَقَالَتْ: تَعَسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَهَا: بِنْسَ مَا قُلْتِ، أَسْتَبِينَ رَجُلًا شَهِدَ بَدْرًا، فَقَالَتْ: يَا هُنْتَا أَلَمْ تَسْمَعِي مَا قَالُوا؟ فَأَخْبَرْتَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ، فَارْذُدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: (كَيْفَ تَيْكُمُ؟) فَقُلْتُ: انْدَنَ لِي إِلَى أَبِي، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ أَرِيدُ أَنْ أَسْتَبِينَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُ أَبِي، قَالَتْ: وَأَنَا حِينَئِذٍ

Rasoolullah ﷺ mere paas tashreef laaye Aap ne salaam kaha aur poochha ab kiya haal hai? main ne arz kiya mujhe waalidain ke paas jaane ki ejaazat dijiye. Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا farmaati hain ke main chaahati thi ke apne waalidain ke paas jaakar iss khabar ki tahqeeq karoon chunaancheh Rasoolullah ﷺ ne mujhe ejaazat de di aur main apne waalidain ke haan chali aayi aur apni waalidah se woh sab baatein bayaan kin jinka log charcha kar rahe the unhon ne kaha beti! tu aisi baaton ki parwaah na kar Allah ki qasam! aisa kam hota hai ke koyi khoobsurat aurat kisi shakhs ke paas ho aur woh usse mohabbat rakhta ho aur uss aurat ki sokaan uski buraaiyaan na karti hon main ne kaha **subhaanallah!** (meri saukanon ne to aisa nahin kiya) balke yeh to aur logon ka kiya huwa hai Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا kahti hain ke main ne woh raat iss tarah guzaari ke saari raat na mere aansoo thame aur na mujhe neend aayi jab subah huyi to Rasoolullah ﷺ ne Ali bin Abi Talib ؑ ko aur Usaamah bin Zaid ؑ ko bula bheja kyun ke uss waqt koyi wah'i Aap par nahin utri thi Aap ne unse yeh salaah mashwarah kiya ke kiya main apni ahliya ko chhod doon? Hazrat Usaamah ؑ ne Rasoolullah ﷺ ki dili kaifiyat ke Aap apni azwaaj-e-mutahraat se mohabbat farmaate the uske mutaabiq mashwarah diya aur arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! woh Aap ki biwi hain Allah ki qasam! hum un mein achchhaayi ke e'laawah aur kuchh nahin jaante lekin Hazrat Ali ؑ ne kaha ya Rasoolallah ﷺ! Allah ne Aap par hargiz tangi nahin ki hai aur auraten unke siwa bahut hain Aap Bareerah رضی اللہ عنہا laundi se poochhiye woh Aap se sach sach bayaan kardegi Rasoolullah ﷺ ne Hazrat Bareerah رضی اللہ عنہا ko bulaaya aur poochha aye Bareerah رضی اللہ عنہا kiya tumne Aayeshah رضی اللہ عنہا

أُرِيدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَتَيْتُ أَبَوِي، فَقُلْتُ لِأُمِّي: مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَا بِنْتِ، هُوَ بِنِي عَلَى نَفْسِكَ الشَّانَ، فَوَاللَّهِ لَقَلَّمَا كَانَتْ امْرَأَةً قَطُّ وَضِيئَةً، عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَا، وَلَهَا ضَرَائِرُ، إِلَّا أَكْثَرْنَ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبِتُّ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ، لَا يَرُقُّ لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، حِينَ اسْتَلَبْتُ الْوَحْيَ، يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوَدِّ لَهُمْ، فَقَالَ أُسَامَةُ: أَهْلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ عَلَيْكَ، وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ، وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصَدَّقْكَ، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَرِيرَةَ، فَقَالَ: (يَا بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتَ فِيهَا شَيْئًا يَرِيْبُكَ؟) فَقَالَتْ بَرِيرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَعْمِضُهُ عَلَيْهَا قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنِ الْعَجِينِ، فَتَأْتِي الدَّاجِنَ فَتَأْكُلُهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ يَوْمِهِ،

اللہ عنہا mein koyi aisi baat dekhi hai jis se tum ko shak guzra ho Bareerah رضى اللہ عنہا ne kaha nahin qasam hai uss zaat ki jis ne Aap ko yeh haq de kar bheja hai main ne to us mein koyi aisi baat nahin dekhi jis par aib lagaaoun haan yeh to hai ke woh abhi kamsin ladki hai aata gondh kar so jaati hai aur bakri aakar khaa jaati hai yeh sun kar Rasoolullah ﷺ khade ho gaye aur Abdullah bin ubai ki shikaayat ki Aap ne farmaya uss shakhs se mera kaun badla lega jisne meri ahliya par tohmat lagaayi hai Allah ki qasam! main to apni ahliya ko achchha hi samajhta hoon aur jis mard se tohmat lagaate hain main to use bhi nek khayaal karta hoon woh mere ghar meri adme maujoodgi mein na jaata tha phir Hazrat Sa'd bin Mu'aaz ﷺ khade huye aur arz kiya ki ya Rasoolallah ﷺ! Allah ki qasam! main Aap ka usse badla leta hoon agar woh shakhs aus qabeela ka huwa to hum uski gardan uda denge aur agar khazarji bhaayiyon se hai to Aap jo hukm denge hum uski ta'meel karenge uss par Hazrat Sa'd bin Ubaadah ﷺ jo qabeela-e -Khazraj ke sardaar the aur pahle achchhe aadmi the khade ho gaye aur qaumi hamiyat se ghussa mein aakar kaha Allah ki qasam! tu jhoot kahta hai tum na use qatal kar sakte ho aur na tum mein itni taaqat hai yeh sun kar hazrat Usaid bin Huzair ﷺ khade huye aur Sa'd bin U'baadah ﷺ se kahne lage Allah ki qasam! tu jhoot kahta hai hum use zaroor qatl kar daalenge aur tu munaafiq hai jo munaafiqon ki taraf daari karta hai yeh kahna hi thi ke Aus aur Khazraj donon qabeele bigad gaye yahaan tak ke unhon ne aapas mein ladne ka iraadah kar liya phir Rasoolullah ﷺ mimbar se utre aur unko thhanda kiya yahaan tak ke woh khaamoosh gaye uske ba'd Aap bhi khaamoosh ho rahe Hazrat Aayeshah رضى اللہ عنہا ka bayaan hai ke main poora din roti rahi

فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَيْنِ سَلُولٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (مَنْ يَعْذُرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِيَ)، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا وَاللَّهِ أَعْذِرُكَ مِنْهُ: إِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ أَمَرْنَا فَفَعَلْنَا فِيهِ أَمْرًا، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ — وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلًا صَالِحًا وَلَكِنْ — احْتَمَلْتَهُ الْحَمِيَّةُ، فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقْتُلُهُ، وَلَا تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الْحَضِيرِ فَقَالَ: كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تَجَادُلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ، فَتَارَ الْحَيَّانَ: الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، حَتَّى هَمُّوا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمُنِيرِ، فَزَلَّ فَحَفَضَهُمْ، حَتَّى سَكْتُوا وَسَكَّتْ، وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرُقْ أَلِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَجِلُ بِنَوْمٍ، فَأَصْبَحَ عِنْدِي أَبُو أَيُّوبَ، وَقَدْ بَكَيتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا، حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ قَالِقٌ كَبِدِي، قَالَتْ: قَبِينَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَبُكِي إِذْ اسْتَأْذَنْتِ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَذْنَتْ لَهَا، فَجَلَسَتْ

na aansoo thame aur na mujhe neend aayi thi subah ko mere waalidain mere paas aaye main do raatein aur ek din se musalsal ro rahi thi aur main khayaal karti thi ke yeh mera rona mere kaleje ko shaq kar dega Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا ka bayaan hai ke waalidain mere paas hi baithhe the aur main ro rahi thi. itne mein ek Ansaari aurat ne andar aane ki ejaazat talab ki to main ne ejaazat dedi phir woh bhi mere saath baithh kar rone lagi hum isi haal mein the ke Rasoolullah ﷺ tashreef laaye aur baithh gaye usse pahle jis din se yeh toofaan uthha tha Aap mere paas baithhte hi na the Aap poora ek mahina isi taraddud mein rahe mere baare mein koyi wahi na utri Hazrat Aayeshah رضی اللہ عنہا farmaati hain ke phir Aap ne khutbah padha aur farmaya aye Aayeshah رضی اللہ عنہا! mujhe aisi aisi khabar pahunchi hai lihaaza agar usse bari ho to anqareeb hi Allah tumhen bari kar dega aur agar tum gunaah se aaloodah ho chuki ho to Allah se istaghfaar karo aur uski taraf ruju' karo kyun ke bandah agar apne gunaah ka eqraar karke tauba karta hai to Allah uski tauba qubool farmaata hai phir jab Rasoolullah ﷺ apni guftagu khatm farmaa chuke to daf'atan mere aansoo khushk ho gaye hatta ke ek qatrah bhi na raha aur main ne apne baap se kaha ke Aap Rasoolullah ﷺ ko meri taraf se jawaab dein unhon ne kaha Allah ki qasam! meri samajh mein nahin aata ke main Rasoolullah ﷺ ko kiya jawaab doon? phir main ne apni waalidah se kaha ke tum meri taraf se Rasoolullah ﷺ ko iss baat ka jawaab do jo Aap ne farmaayi hai unhon ne bhi yahi kaha Allah ki qasam! meri samajh mien kuchh nahin aata ke main Rasoolullah ﷺ ko kiya kahoon? phir main ne kaha haalaanke main ek kamsin ladki thi aur ziyaadah Qur'an bhi na padhti thi Allah ki

تَبَكِّي مَعِي، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَجَلَسَ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ قِيلَ فِي مَا قِيلَ قَبْلَهَا، وَقَدْ مَكَتَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ، قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: (يَا عَائِشَةُ، لَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيِّرْتِكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَمْتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اغْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ)، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَالَتهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أَحْسَسُ مِنْهُ قَطْرَةً، وَقُلْتُ لِأَبِي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فِيمَا قَالَ، قَالَتْ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَتْ: وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ، فَقُلْتُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، وَوَقَرَفِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَقْتُمْ بِهِ، وَلَعِنَ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ، وَاللَّهِ يَعْلَمُ إِنِّي لَبَرِيئَةٌ، لَتُصَدِّقَنِي، وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلَّا أَبَا يُوسُفَ إِذْ قَالَ: ﴿لَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهِ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾. ثُمَّ تَحَوَّلْتُ عَلَى فِرَاشِي، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يُرِئَنِي اللَّهُ،

qasam! mujhe ma'loom hai ke Aap ne logon se woh baat suni hai jis ka log charcha kar rahe hain aur woh tumhaare dil mein jam gayi hai aur Aap ne use sach samajh liya hai aur agar main Aap se kahoon ke main uss se bari hoon aur Allah meri bara'at ko khoob jaanta hai to Aap log mujhe sachcha na jaanenge aur agar tumhaari khaatir main kisi baat ka eqraar karloon aur Allah jaanta hai ke main uss se bari hoon yaqeenan meri aur tumhaari wahi misaal hai jo Yusuf عليه السلام ke baap ki thi jis par unhon ne kaha tha.

"Bas achchhi tarah sabr karna hi mera kaam hai aur tum jo baatein banaa rahe ho un mein Allah hi mera madad gaar hai" phir main ne apne bistar par karwat li aur mujhe ummeed thi ke Allah zaroor mujhe bari karega magar Allah ki qasam! mujhe yeh khayaal tak na tha ke mere baare mein wahi naazil hogi main apne aap ko iss qaabil na samajhti thi ke qur'an mein mere mu'aamla ka zikr hoga balke mujhe iss baat ki ummeed thi ke Rasoolullah ﷺ mere muta'alliq koi khaab dekhenge aur woh khaab meri bara'at kardega phir Allah ki qasam! Aap abhi uss jagah se alag bhi na huye the aur na ahle khaana mein se koi baahar nikla tha ke Aap par wahi naazil ho gayi aur wahi haalat Aap par taari ho gayi jo nuzool wahi ke waqt huwa karti thi ya'ni sardiyan mein bhi Aap ki peshani se motiyon ki tarah paseena tapakta tha phir jab Rasoolullah ﷺ se yeh haalat door huyi to Aap uss waqt muskura rahe the aur sabse pahle jo alfaaz Aap ne mujh se farmaye woh yeh the Aayeshah رضي الله عنها tum Allah ka shukr adaa karo beshak Allah ne tumhein bari kar diya hai meri maan ne mujh se kaha tum Rasoolullah ﷺ ke saamne khadi ho jao main ne kaha nahin nahin Allah ki qasam! main Aap ke saamne khadi nahin hongy aur na Allah ke elaawah kisi ka shukriya adaa karungi phir Allah Ta'ala

وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنَزَّلَ فِي شَأْنِي وَحَيًّا يُتَلَى، وَلَا نَا أَحْقَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتَكَلَّمَ بِالْعُرْآنِ فِي أَمْرِي، وَلِكَيْسِي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي النَّوْمِ رُؤْيَا يَرْتَبِي اللَّهُ بِهَا، فَوَاللَّهِ مَا رَأَمَ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ، حَتَّى أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيَ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرْحَاءِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَانِ مِنَ الْعَرَقِ فِي يَوْمِ شَاتٍ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قَالَ لِي: (يَا عَائِشَةُ، أَحْمَدِي اللَّهُ، فَقَدْ بَرَّأكَ اللَّهُ). فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قَوْمِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ، وَلَا أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ الْآيَاتِ، فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاءَتِي، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ بْنِ أَيْشَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ: وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَحِ شَيْئًا، بَعْدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُوتُوا أُولَى الْقُرْبَى﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي،

ne yeh aayaat naazil farmayin:

"Be shak woh log jinhon ne yeh bohtaan baandha hai woh tum hi mein se ek jama'at hai.....aakhir tak"

Al-gharaz jab Allah Ta'ala ne yeh aayaat meri bara'at mein naazil farmaayen to Abu Bakr رضي الله عنه ne kaha Allah ki qasam! main Mistah رضي الله عنه ko iske ba'd kuchh nahin diya karunga ke uss ne Aayeshah رضي الله عنها ke baab mein tufaan uthhaaya aur woh usse pahle Hazrat Mistah رضي الله عنه ko rishte daari ki wajah se kuchh imdaad diya karte the uss par yeh aayaat naazil huyin:

"Aur tum mein se jo log buzrugi aur wus'at waale hain apne a'zeezon ke saath achchha sulook karne se baaz na aayen....aakhir tak"

to Abu Bakr رضي الله عنه ne kaha Allah ki qasam! kyun nahin main yeh chaahata hoon ke Allah mujh ko bakhsh de chunaancheh unhon ne Mistah رضي الله عنه ko wahi kuchh dena shuru' kar diya jo pahle diya karte the aur Rasoolullah ﷺ ne mere mu'aamle ki baabat Hazrat Zainab binte Jahash رضي الله عنها se farmaya aye Zainab رضي الله عنها! tum iss mu'aamle ke muta'alliq kiya jaanti ho aur tum ne kiya dekha hai? unhon ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! main kaan aur aankh bachaati hoon Allah ki qasam! main iss mein bhalaayi ke elaawah aur kuchh nahin jaanti Hazrat Aayeshah رضي الله عنها farmaati hain ke Hazrat Zainab رضي الله عنها meri hamsar thin magar Allah Ta'ala ne unko parhez gaari ke baayis meri bad goyi se bachaa liya. (Bukhari: 2661)

Fawaaid: Hazrat Bareerah رضي الله عنها ne Siddeeqa-e-Kaayenaat Hazrat Aayeshah رضي الله عنها ko iss toofaan-e-bad tameezi se paakeezah qaraar diya to Rasoolullah ﷺ ne uski baat par e'temaad karte huye khutbah ke liye khade huye. (Awnul Baari: 3/356)

Baab 5: Jab ek shakhs doosre ki safaayi de to kaafi hai

1180 : Hazrat Abu Bakrah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ke saamne ek shakhs ne doosre ki ta'reef ki to Aap ne farmaya teri kharaabi ho toone apne saathi ki gardan

فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ الَّذِي كَانَ يَجْرِي عَلَيْهِ.

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْأَلُ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: (يَا زَيْنَبُ، مَا عَلِمْتِ، مَا رَأَيْتِ؟).
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصْرِي، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَيْهَا إِلَّا خَيْرًا. قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي، فَعَصَمَهَا اللَّهُ بِالْوَرَعِ.

(رواه البخارى: ٢٦٦١)

٥- بَابُ: إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَّاهُ
١١٨٠: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: أَتْنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: (وَيْلَكَ، قَطَعْتَ عُنُقَ

kaat di kayi baar Aap ne yahi farmaya phir irshaad huwa! tum mein se jo shakhs apne bhaayi ki ta'reef karna zaroori khayaal kare to use chaahiye yoon kahe ke falaan shakhs ko main aisa samajhta hoon aur uska hisaab lene waala to Allah hi hai aur main Allah par kisi ki ta'deel nahin karta main samajhta hoon woh aisa hai basharteke woh uska haal jaanta ho.

(Bukhari: 2662)

صَاحِبِكَ، قَطَعْتَ عُقُقَ صَاحِبِكَ).
مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا
أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ، فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ فَلَانًا،
وَاللَّهِ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ
أَحَدًا، أَحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا، إِنْ كَانَ
يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ). (رواه البخارى: ٢٦٦٢)

Fawaaid: Imam Bukhari ka matlab yeh hai ke ek shakhs ka tazkiyah hi kaafi hai kyun ke Rasoolullah ﷺ ne ek shakhs ka tazkiyah jaayez rakkha hai basharteke wo miyaanah rawi se kaam le aur madah saraayi mein mubaalghah aameezi se parhez kare. (Awnul Baari:3/362)

Baab 6: Bachchon ki gawaahi aur unke baaligh hone ka bayaan.

1181 : Hazrat ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke woh Uhad ke din Rasoolullah ﷺ ke saamne pesh huye woh uss waqt 14 baras ke the woh kahte hain ke Aap ne mujhe shirkat ki ejaazat na di phir mujhe Khandaq ke din apne saamne bulaaya uss waqt main 15 baras ka tha to Aap ne mujhe lashkar mein shirkat ki ejaazat dedi. (Bukhari: 2664)

٦- بَابُ: بُلُوغُ الصَّبِيَّانِ وَشَهَادَتِهِمْ
١١٨١: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَرَضَهُ
يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً،
فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ،
وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً،
فَأَجَازَنِي. (رواه البخارى: ٢٦٦٣)

Fawaaid: Auraton ke liye buloogh ki a'laamat haiz aur mardon ke liye ehtelaam hai ya kam az kam qamri maheenon ke e'tebaar se 15 saal ka ho jaaye. (Awnul Baari:3/263)

Baab 7: Kuchh log agar qasam uthhaane mein jaldi karein to unke muta'alliq kiya zaabta hai.

1182 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne kuchh logon par qasam pesh ki to woh jald hi qasam uthhaane ke liye tayyaar ho gaye lekin Aap ne hukm diya ke unke darmiyaan qura' andaazi ki jaaye ke un mein se kaun qasam uthhaayega. (Bukhari: 2674)

٧- بَابُ: إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ
١١٨٢: عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمِ
الْيَمِينِ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ
بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ: أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.
(رواه البخارى: ٢٦٤٣)

Fawaaid: Abu Dawood aur Nasayi mein iski wazaahat hai ke do aadmiyon ne kisi cheez ke muta'alliq da'wa kiya aur kisi ke paas gawaah na the to Aap ne qura' andaazi ke zariye ek se qasam le kar woh cheez uske hawaale kardi. (Awnul baari:3/365)

Baab 8: Qasam kis tarah li jaaye?

1183 : Hazrat ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya jo shakhs qasam uthhaana chahe to Allah ki qasam uthhaaye ya phir khaamoosh rahe.

٨- بَابُ: كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ
١١٨٣: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (مَنْ كَانَ

(Bukhari: 2679)

حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ).

(رواه البخارى: ٢٦٧٩)

Fawaaid:Allah ke elaawah kisi aur ki qasam uthhaana durust nahin agar ghair daanistah taur par munh se nikal jaaye to gunaah nahin hoga agar Allah ki tarah kisi ko bar tar wa buzurg samajh kar uski qasam uthhaata hai to yeh kufr hai apne baap daada, buzurg, wali, ka'bah wa Jibrayeel ya Paighambar ki qasam khaana bhi na jaayez hai. (Awnul baari:3/366)

Baab 9: Jo shakhs logon ke darmiyaan sulah karaade (agar khilaaf-e-waaqe' baat kah de) to woh jhoota nahin.

1184 : Hazrat Ummeh Kulsum binte U'tba رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne kaha main ne Rasoolullah ﷺ ko yeh farmaate huye suna ke jo shakhs do aadmiyon ke darmiyaan sulah karaade aur uss mein koyi achchhi baat mansoob kare ya achchhi baat kah de to woh jhoota nahin hai. (Bukhari: 2692)

Fawaaid:Muslim ki rivaayat mein hai ke teen mawaaqe' par khilaaf-e-waaqe' baat karne mein koyi harj nahin hai ladaayi, baahami sulah wa aashti aur biwi khaawind ka ek doosre ko khush karne mein neez majboori ke waqt bhi aisa kiya jaa sakta hai. (Awnul Baari:3/368)

Baab 10: Imaam ka saathiyon se kahna ke hamen le chalo hum sulah karaden

1185 : Hazrat Sahal bin Sa'd رضي الله عنه se rivaayat hai ke Ahle Quba aapas mein lad pade yahaan tak ke unhon ne baahom patthar maare Rasoolullah ﷺ ko iski khabar di gayi to Aap ne farmaya hamein le chalo taake unki aapas mein sulah karaadein.

(Bukhari: 2693)

Fawaaid:Sangeen ikhtelafaat ke waqt qaabil-e-e'tebaar Ahle 'l'm ko chaahiye ke woh baahami sulah ka iqdaam karein aur iss baat ka intezaar na kiya jaaye ke unhein koyi sulah ki da'wat de. (Awnul Baari:3/369)

Baab 11. Dastaawezaat sulah yoon likkhi jaaye:

"Yeh sulah naama hai jis par fulaan bin fulaan aur fulaan bin fulaan ne sulah ki" neez khaandaan aur nasab naama likhna zaroori nahin.

1186 : Hazrat Bara' bin Aazib رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne Zi Qa'dah mein U'mrah ka iraadah farmaya

٩- بَابُ: لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ

بَيْنَ النَّاسِ

١١٨٤ : عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: (لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا). (رواه البخارى: ٢٦٩٢)

١٠- بَابُ: قَوْلُ الْإِمَامِ لِأَصْحَابِهِ:

أَذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحُ

١١٨٥ : عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاةٍ اقْتَتَلُوا حَتَّى تَرَامُوا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِذَلِكَ، فَقَالَ: (أَذْهَبُوا بِنَا نُصَلِّحُ بَيْنَهُمْ). (رواه البخارى: ٢٦٩٣)

١١- بَابُ: كَيْفَ يُكْتَبُ:

هَذَا مَا صَلَّحَ فُلَانٌ بِنُ فُلَانٍ وَفُلَانٌ بِنُ فُلَانٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ ١١٨٦ : عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدْعُوهُ

lekin ahle Makkah ne iss baat ko na maana ke Aap Makkah mein daakhil hon yahaan tak ke Aap ne unse iss baat par sulah karli ke teen din Makkah mein qiyaam karenge jab sulah ki dastaawez likh chuke to uske shuru' mein yoon likha yeh woh sulah naama hai jis par Muhammad Rasoolullah ﷺ ne sulah ki hai kaafir kahne lage ke hum iska eqraar nahin karenge kyun ke agar hamein yaqeen ho ke Aap Allah ke Rasool hain to hum Aap ko U'mrah se na rokthe Aap to sirf Muhammad ﷺ bin Abdullah hain Aap ne farmaya main Allah ka Rasool hoon aur Muhammad ﷺ bin Abdullah bhi hoon phir Aap ne Hazrat Ali ﷺ se farmaya ke tum Rasoolullah ke lafz ko mitaado unhon ne kaha nahin Allah ki qasam! main hargiz ise nahin mitaounga aakhir kaar Aap ne kaaghaz apne haath mein liya aur uss par likkha yeh woh sulah naama hai jis par Muhammad bin Abdullah ﷺ ne sulah ki hai ke Makkah mein khule hathyaar le kar daakhil nahin honge ya'ni talwaaren miyaan mein hongí aur Ahle Makkah mein se agar koyi unke saath jaana chaahega to use apne saath le kar na jaayenge aur apne saathyon mein se agar koyi Makkah mein rahna chaahega to use mana' nahin karenge. phir (aaindah saal) Aap Makkah mein daakhil huye aur muddat guzar gayi to Quraish Hazrat Ali ﷺ ke paas aaye aur kahne lage tum apne saahab ya'ni Rasoolullah ﷺ se kaho ke hamaare paas se chale jaayen kyun ke muddat-e-iqaamat khatm ho chuki hai chunaancheh Rasoolullah ﷺ Makkah se baahar aa gaye phir Hazrat Hamzah ﷺ ki beti Aap ke peechhe chacha chacha kahti huyi daudi to usko Hazrat Ali ﷺ ne le liya aur uska haath pakad kar Hazrat Faatimah رضي الله عنها se kaha apne chacha ki beti ko lekar uthhaalo raavi kahta hai ke phir Hazrat Ali ﷺ Hazrat Zaid ﷺ aur Hazrat Ja'far ﷺ ne iski

يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاصَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَا، فَلَوْ نَعَلِمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ، وَلَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: (أَنَا رَسُولُ اللَّهِ، وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ: (أَمُحٌ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ). قَالَ: لَا وَاللَّهِ لَا أُمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِتَابَ، فَكَتَبَ: (هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، لَا يُدْخِلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدٍ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَبْسَعَهُ، وَأَنْ يُقِيمَ بِهَا)، فَلَمَّا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجَلَ، أَتَوْا عَلِيًّا فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ، فَتَبِعَتْهُمْ ابْنَةُ حَمْزَةَ: يَا عَمَّ يَا عَمَّ، فَتَنَّاوَلَهَا عَلِيٌّ، فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: دُونَكَ ابْنَةُ عَمِّكَ أَحْمَلِيهَا، قَالَ: فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَقَالَ جَعْفَرٌ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْتِي، وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أُخِي، فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: (الْحَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ). وَقَالَ لِعَلِيٍّ: (أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ). وَقَالَ

baabat jhagda kiya Hazrat Ali رضي الله عنه ne kaha meri chacha zaad bahan hai, Ja'far رضي الله عنه ne kaha meri bhi chacha zaad bahan hai neez iski khaala mere nikaah mein hai Hazrat Zaid رضي الله عنه ne kaha yeh meri bhateegi hai Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne use uski khaala ke hawaale kar diya aur farmaya khaala maan ki tarah hai aur Hazrat Ali رضي الله عنه se farmaya tum mujh se ho aur main tumse hoon aur Hazrat Ja'far رضي الله عنه se farmaya tum meri soorat wa seerat donon ke mushaabehe ho aur Hazrat Zaid رضي الله عنه se Aap ne farmaya tum hamaare bhaayi aur aazaad kardah gulaam ho. (Bukhari: 2699)

Fawaaid:Matlab yeh hai ke sulah naama mein fulaan bin fulaan likhna hi kaafi hai lamba chauda nasab naama aur deegar ma'loomaat likhne ki zaroorat nahin.

Baab 12: Hazrat Hasan bin Ali رضي الله عنهما ke muta'alliq farmaane Nabawi صلى الله عليه وسلم ke yeh mera beta sayyed hai.

1187 : Hazrat Abu Bakrah رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke main ne Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ko mimbar par dekha jabke Hazrat Hasan bin Ali رضي الله عنهما Aap ke pahlu mein baiththe the Aap kabhi to logon ki taraf aur kabhi unki taraf mutawajjah ho jaate the aur farmaate mera yeh beta sayyed hai aur ummeed hai ke Allah iske zariye musalmaanon ki do badi jama'aton ke darmiyaan sulah karaaye ga. (Bukhari: 2704)

Fawaaid:Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ki Hazrat Hasan رضي الله عنه ke muta'alliq yeh peshan goyi sahih saabit huyi ke unke zariye Hazrat Ali رضي الله عنه aur Mu'aawiyah رضي الله عنه ki donon jama'aton mein sulah ho gayi aur log aman -o- amaan se zindagi basar karne lage.

Baab 13: Kiya (yeh durust hai ke) imaam sulah ke liye ishaarah kar de.

1188 : Hazrat Aayeshah رضي الله عنها se rivaayat hai unhon ne farmaya ke Rasoolullah صلى الله عليه وسلم ne kuchh jhaghadne waalon ki buland aawaazen darwaaze par sunin ma'loom huwa ke ek shakhs doosre se qarz mein kuchh maa'fi chaahata hai aur uske muta'alliq narmi ka mutaalbah karta hai doosra kahta

لَجَعْفَرٍ: (أَشْبَهَتْ خَلْقِي وَخُلُقِي).
وَقَالَ لَزَيْدٍ: (أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا).
(رواه البخارى: ٢٦٩٩)

١٢ - بَابُ: قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لِلْحَسَنِ
ابْنِ عَلِيٍّ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ
١١٨٧: عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى
الْمِنْبَرِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَ
هُوَ يُقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ
أُخْرَى، وَيَقُولُ: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ،
وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصَلِّحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ
عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ).
(رواه البخارى: ٢٧٠٢)

١٣ - بَابُ: هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ
بِالصُّلْحِ

١١٨٨: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَوْتَ
خُصُومٍ بِالْبَابِ، عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَ
إِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ وَ

hai Allah ki qasam! main aisa nahin karunga phir Rasoolullah ﷺ unke paas tashreef le gaye aur farmaya woh shakhs kahaan hai jo Allah ki qasam uthhaa kar yoon kah rahaa tha ke main neki nahin karunga usne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ main haazir hoon mera hareef jo chaahе main usko manzoor karta hoon.(Bukhari: 2705)

يَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: (أَيْنَ الْمُتَأَلَّى عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ). فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ.

(رواه البخارى: ٢٧٠٥)

Fawaaid: Iss se ma'loom hota hai ke sahaaba kiraam Rasoolullah ﷺ ke ishaaron ko samajhne waale aur kaarhaaye khair ko badh chadh kar baja laane waale the.

(Awnul Baari:3/375)



Shuroot ke bayaan mein

Baab 1: Aqd nikaah karte waqt mahar mein koyi shart lagaane ka bayaan.

1189 : Hazrat U'qbah bin Aamir رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya tamaam sharaayet mein sab se ziyaadah poora karne ke qaabil woh shart hai jiske zari'ah tumne auraton ki sharamgaahon ko apne liye halaal kiya hai.

(Bukhari: 2721)

Fawaaid: Iss se muraad woh sharaayet hain jo ke daayira-e-shari'at mein hon na jaayez paabandiyon ka qubool hana zaroori nahin. masalan un a'uraton ki maujoodgi mein aqd-e-saani nahin kiya jaayega ya safar mein au'rat khaawind ke hamraah nahin jaayegi. (Awnul Baari:3/376)

Baab 2: Hudooodullah mein naa rawa shart ka bayaan

1190 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه aur Hazrat Zaid bin Khalid رضي الله عنه se rivaayat hai unhon ne kaha ke ek dehaati Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ke paas aaya aur arz karne laga ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم! main Aap ko Allah ki qasam deta hoon taake Aap mere liye kitabullah se faisla kar dijiye doosra fareeq jo uss se ziyaadah samajh daar tha kahne laga. Aap hamaare darmiyaan kitabullah se faisla farmaa dein albattah mujhe ejaazat dein ke main apna haal bayaan karoon Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya achchha bayaan kar usne kaha mera beta uske haan mazdoori karta tha usne iski biwi se zina kiya aur mujh se logon ne kaha ke mere bete par rajm waajib hai to main ne 100 bakriyaan aur ek laundi uski taraf se fidyah de kar usko chhoda liya phir main ne Ahle ilm se mas'alah poochha unhon ne kaha ke mere bete ko 100 kode padenge aur ek baras ke liye jelaa watan hoga aur iski biwi sangsaar ki jaayegi Aap ne farmaya qasam hai uss zaat ki jis ke haath mein meri jaan hai main Allah ki kitab ke mutaabiq

کتاب الشُّرُوطِ

۱- بَابُ: الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ

عِنْدَ عَقْدَةِ النِّكَاحِ

۱۱۸۹ : عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ). (رواه البخاری: ۲۷۲۱)

۲- بَابُ: الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي

الْحُدُودِ

۱۱۹۰ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْشِدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ: الْخِصْمُ الْآخِرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ: نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَائْتَدَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (قُلْ)، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَيَّ هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلِيَّ ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيْدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي: أَنَّمَا عَلَيَّ ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَنَّ عَلِيَّ امْرَأَةَ هَذَا الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا

tumhaara faislah karunga laundi aur bakriyaan to tujhe waapas mil jaayenge magar tere bete par 100 kode aur ek saal ki jelaa watni hai aye Anees ﷺ! tum uss aurat ke paas jaao agar woh eqraar kare to use sangsaar kar dena. Hazrat Abu Hurairah ﷺ kahte hain ke woh uske paas gaye to usne eqraar-e-jurm kar liya phir Rasoolullah ﷺ ke hukm se woh sangsaar kar di gayi.

(Bukhari: 2724,2725)

Fawaaid: Kitabullah se muraad qaanoon-e-sharee'at hai jo Qur'an aur Hadees donon par mushtamil hai hujjiyat-e-Hadees ke liye yeh hadees ek zabardast daleel ki haisiyat rakhti hai kyun ke Rasoolullah ﷺ ne kitabullah ke hawaale se yeh faislah farmaaya hai aur Qur'an majeed mein yeh maujood nahin hai.

Baab 3: Kheti Baadi mein shart lagaana

1191 : Hazrat ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai unhon ne kaha ke jab Ahle Khaibar ne Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما ke haath paaon marod diye to Hazrat Umar ﷺ khutbah dene ke liye khade huye kahne lage ke Rasoolullah ﷺ ne yahoodiyon se unke amwaal ki baabat mu'aamlah kiya tha aur farmaya tha ke jab tak parwar digaar tum ko yahaan rakkhega to hum bhi tum ko qaayem rakkhenge aur Abdullah bin Umar رضي الله عنهما apna maal wahaan lene gaye to un par raat ke waqt hamla kiya gaya aur unke donon haath paaon tod diye gaye yahoodiyon ke elaawah hamaara koyi dushman wahaan nahin hai yaqeenan wahi hamaare dushman hain aur hamaara shubah unhin par hai main unko jela watan kardenahi munaasib khayaal karta hoon chunaancheh Hazrat Umar ﷺ ne pukhtah iraadah kar liya to Abu Huqaiq yahoodi ki aulaad mein ek shakhs aaya aur kahne laga aye Ameerul Mo'mineen! kiya Aap humko nikaal denge? haalaanke Muhammad ﷺ ne hum ko wahaan thhahraaya tha aur yahaan ke amwaal ki baabat ham se mu'aamlah kiya tha aur iss baat ki hum se shart ki thi Hazrat Umar ﷺ ne farmaya kiya tum yeh samajhte

بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَالِدَةِ وَالْغَنَمِ رَدُّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَ تَغْرِيبُ عَامٍ، اَعْدُ يَا اُنَيْسُ اِلَى اَمْرَاةٍ هَذَا، فَاِنْ اَعْتَرَفَتْ فَارْجُمِهَا). قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَاَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجِمَتْ.

(رواه البخارى: ٢٧٢٤، ٢٧٢٥)

٣- بَابُ: الْاِشْتِرَاطِ فِي الْمَزَارَعَةِ
١١٩١: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا فَدَعَ أَهْلُ خَيْبَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَامَ عُمَرُ حَطِيئًا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عَامِلًا يَهُودَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: (نُقِرُّكُمْ مَا أَقْرَكُمُ اللَّهُ)، وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ، فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَفَدَعَتْ يَدَاهُ وَرِجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ عَدُوٌّ غَيْرُهُمْ، هُمْ عَدُوْنَا وَتُهَمَّتْنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَالَتَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحَقِيقِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَ تُخْرِجُنَا وَقَدْ أَقْرَنَا مُحَمَّدٌ ﷺ، وَ عَامَلْنَا عَلَى الْأَمْوَالِ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا. فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: (كَيْفَ بَكَ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ خَيْبَرَ تَعْدُو بِكَ

ho ke main Rasoolullah ﷺ ka yeh qaul bhool gaya hoon jo Aap ne tujh se farmaya tha ke uss waqt tera kiya haal hoga jab tu Khaibar se nikaala jaayega aur tera ount tujhe kayi raaton musalsal liye phirega? uss ne kaha yeh to Abul Qasim ﷺ ka mazaq tha Hazrat Umar ﷺ ne farmaya Allah ke dushman tu jhoot bolta hai bilaakhir Hazrat Umar ﷺ ne unko jelaa watan kar diya aur paidawaar, ount, saamaan, paalaan aur rassiyan ki qism se jo kuchh bhi unka tha uski unko qeemat adaa kar di. (Bukhari: 2730)

Fawaaid: Yahoodiyon ki Khaibar se nikaalne ki kayi ek wajoohaat thin jin mein ek iss hadees mein bayaan huyi hai neez Hazrat Umar ﷺ ke saamne Rasoolullah ﷺ ka yeh farmaan bhi tha ke jazeera Arab mein do deen ya'ni Islam aur Deen-e-Yahood jama' nahin ho sakte iske e'lawaah musalmaan khud kafeel bhi ho chuke the. (Awnul Baari: 3/382)

Baab 4: Jehaad aur kuffaar se sulah karte waqt sharten lagaana aur unhen tahreer mein laana.

1192 : Hazrat Muswar bin Makhramah aur Hazrat Marwaan رضي الله عنهما se rivaayat hai un donon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ sulah Hudaibiyah ke zamaane mein tashreef le jaa rahe the ke raaste mein Aap ne mo'jizaana taur par farmaya Khalid bin Waleed ﷺ maqaame Ghameem mein Quraish ke sawaaron ke hamraah maujood hai aur yeh Quraish ka har awwal dasta hai lihaaza tum daayen jaanib ka raasta ikhtiyaar karo to Allah ki qasam! Khalid ﷺ ko unke aane ki khabar hi nahin huyi yahaan tak ke jab lashkar ka ghubaar un tak pahuncha to woh fauran Quraish ko baa khabar karne ke liye wahaan se dauda lekin Rasoolullah ﷺ chale jaarahe the yahaan tak ke Aap uss pahaad par pahunche jiske oupar se hokar Makkah mein utarte the to Aap ki ountni baithh gayi uss par logon ne use chalaane ke liye hal hal kaha magar uss ne koyi harkat na ki log kahne lage Qaswa baithh gayi Qaswa ud gayi Rasoolullah ﷺ ne farmaya Qaswa nahin baithhi aur na hi yoon udna uski aadat hai.

قَلُوبُكُمْ لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ. فَقَالَ: كَانَتْ هَذِهِ هَزِيلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ، قَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ، وَأَعْطَاهُمْ قِيمَةَ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ، مَالًا وَإِنَاءً وَعُرُوضًا مِنْ أَقْتَابِ وَحِبَالٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

(رواه البخارى: ٢٤٣٠)

٣- بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ

وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحِزْبِ وَكِتَابَةِ

الشُّرُوطِ

١١٩٢ : عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَ مَرْوَانَ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَمَانَ الْحُدَيْبِيَّةِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بَعْضَ الطَّرِيقِ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْعُغَيْمِ، فِي خَيْلِ لُقْرَيْشٍ طَلِيْعَةً، فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ)، فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَفْرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَفْرَةِ الْجَيْشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ، وَ سَارَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالسَّنِيَةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، بَرَكَتٌ بِهَ رَاجِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَلْ، فَأَلْحَتْ، فَقَالُوا: خَلَابٌ

magar jis (Allah) ne ashaabul feel ko roka tha usne qaswa ko bhi rok diya hai phir Aap ne farmaya qasam hai uss zaat ki jis ke haath mein meri jaan hai ke agar kuffaare Quraish mujh se kisi aisi cheez ka mutaalbah karein jis mein woh Allah ki taraf se hurmat wa izzat waali cheezon ki ta'zeem karein to usko zaroor manzoor karunga. phir Aap ne uss ountni ko daanta to woh just laga kar uthh khadi huyi Aap ne ahle Makkah ki taraf se rukh phera aur Hudaibiyah ke (aakhri) intehaayi hissa mein ek nadi par padaao kiya jis mein bahut kam paani tha log uss mein se thoda thoda paani lene lage aur chand lamhaat mein usko saaf kar diya phir Rasoolullah ﷺ ke saamne piyaas ki shikaayat ki gayi to Ap ne ek teer apni tarkash se nikaal diya aur irshaad farmaya ke isko uss paani mein gaad din phir kiya tha Allah ki qasam! paani josh maarne laga aur sab logon ne khoob sair ho kar piya aur unki waapsi tak yahi haal raha usi haalat mein Budail bin Warqa Khuzaayi apni qaum khuza'ah ke chand aadmiyon ko liye huye aa pahuncha aur yeh Rasoolullah ﷺ ke khair khaah aur baa e'atemaad tehaama ke logon mein se the uss ne kaha main ne Ka'b bin Luyi aur Aamir bin Luyi ko iss haal mein chhoda hai ke woh hudaibiyah ke Aameeq chashmon par farokash hain aur unke saath doodh waali ountniyaan hain aur woh log Aap se jung karna aur baitullah se Aap ko rokna chaahate hain, Rasoolullah ﷺ ne farmaya hum kisi se ladne nahin balke sirf U'mrah karne aaye hain aur be shak Quraish ko ladaayi ne kamzor kar diya hai aur unko bahut nuqsaan pahunchaaya hai lehaaza agar woh chaahen to main unse ek muddat tai kar leta hoon aur woh uss muddat mein mere aur doosre logon ke darmiyaan haayel na hon agar main ghaalib ho jaaoun aur woh

الْقُصُوءُ، خَلَّتِ الْقُصُوءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (مَا خَلَّتِ الْقُصُوءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفَيْلِ)، ثُمَّ قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعْظَمُونَ فِيهَا حُرْمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا)، ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثِبَتْ، قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَّةِ عَلَى تَمَدِّ قَلِيلِ الْمَاءِ، يَبْرُضُهُ النَّاسُ تَبْرُضًا، فَلَمْ يَلْبِثُهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ، وَشَكَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعَطَشَ، فَاَنْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيئُ لَهُمْ بِالرَّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءِ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُرَاعَةَ، وَكَانُوا أَعْيَبَةَ، نَصَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ أَهْلِ تَهَامَةَ، فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيٍّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيٍّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَمَعَهُمُ الْعُودُ الْمَطْفِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (إِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنْ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكْتَهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضْرَتْ بِهِمْ، فَإِنْ شَاؤُوا مَا دَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخْلُوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرُ: فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ

chaahein to iss deen mein daakhil ho jaayein jis mein aur log daakhil ho gaye hain warna woh mazeed chand roz aaraam haasil kar lenge, agar woh yeh baat na maanein to qasam hai uss Allah ki jis ke haath mein meri jaan' hai main to iss deen par unse ladta rahunga yahaan tak ke meri gardan kat jaaye aur yaqeenan Allah Ta'ala zaroor apne deen ko jaari karega iss par budail ne kaha main Aap ka paighaam unko pahuncha deta hoon chunaancheh woh Quraish ke paas jaa kar kahne laga hum yahaan uss shakhs ke paas se aarahe hain aur hum ne unko kuchh kahte huye suna hai agar tum chaaho to tumhein sunaoun iss par kuchh bewaqoof logon ne kaha hamein iski koyi zaroorat nahin ke tum humein unki kisi baat ki khabar do magar un mein se aqal mand logon ne kaha achchha batlaao tum kiya baat sun kar aaye ho Budail ne kaha main usko aisa aisa kahte huye suna hai phir jo kuchh Rasoolullah ﷺ ne farmaya tha woh usne bayaan kar diya itne mein U'rwah bin Mas'ood Saqfi khada huwa aur kahne laga meri qaum ke logo! kiya tum mujh par baap ki si shafqat nahin karte ho unhon ne kaha haan kyun nahin, U'rwah ne kaha kiya main bete ki tarah tumhaara khairkhaah nahin hoon? unhon ne kaha kyun nahin, U'rwah ne kaha kiya tum mere muta'alliq koyi shubah rakhte ho unhon ne kaha nahin, U'rwah ne kaha kiya tum nahin jaante ke main ne ahle Ukaaz ko tumhaari madad ke liye bulaaya magar unhon ne jab mera kaha na maana to main apne baal bachche ta'alluq daar aur paiokaaron ko le kar tumhaare paas aagaya. unhon ne kaha haan thheek hai U'rwah ne kaha uss shakhs ya'ni Budail ne tumhaari khairkhaahi ki baat ki hai usko manzoor karlo aur ejaazat do ke main uske paas jaaoun sab logon ne kaha thheek hai tum uske paas jao chunaancheh

يَدْخُلُوا فِيْمَا دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَالْأَقْدَقُ جَمْعًا، وَإِنْ هُمْ أَبَوَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَذَا حَتَّى تَنْفِرَ سَالِفَتِي، وَلَيَنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ. فَقَالَ بُدَيْلٌ: سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ، قَالَ: فَانْطَلِقْ حَتَّى آتِي قَرِيْشًا، قَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ قَوْلًا، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا، فَقَالَ سَفَهَاوُهُمْ: لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ ذُو الرِّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثْتُهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَيُّ قَوْمٍ أَلْسْتُمْ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ أَوْ لَسْتُ بِالْوَالِدِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَهَلْ تَتَّهَمُونِي؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: أَلْسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَفَرْتُ أَهْلَ عَكَظٍ، فَلَمَّا بَلَغُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَالِدِي وَمَنْ أَطَاعَنِي؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَإِنْ هَذَا قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ حُطَّةٌ رُشِدٍ، أَقْبِلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ، قَالُوا: آتِيهِ، فَآتَاهُ، فَجَعَلَ يَكْلِمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيُّ مُحَمَّدٍ، أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَنَحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ، وَإِنْ تَكُنِ الْأُخْرَى

woh Muhammad ﷺ ke paas aaya aur Aap se baaten karne laga Aap ne uss se bhi wahi guftagu ki jo Budail se ki thi U'rwah yeh sun kar kahne laga aye Muhammad ﷺ! agar tum apni qaum ki jad bilkul kaat doge to kiya faayidah hoga? kiya tum ne apne se pahle kisi arab ko suna hai ke usne apni qaum ka istesaal kiya ho? aur agar doosri baat huyi yani tum maghloob ho gaye to Allah ki qasam! main tumhaare saathiyon ke munh dekhta hoon ke yeh mukhtalif log jinhen bhaagne ki aadat hai tumhen chhod denge Hazrat Abu Bakr ﷺ ne yeh sun kar kaha jaa aur Laat ke sharmgaah par munh maar! kiya hum Rasoolullah ﷺ ko tanha chhod kar bhaag jaayenge? U'rwah ne kaha yeh kaun hai? logon ne kaha yeh Abu Bakr ﷺ hain U'rwah ne kaha qasam uss zaat ki jiske haath mein meri jaan hai! agar tumhaara ek ehsaan mujh par na hota jis ka abhi tak badla nahin de saka to main tumhen sakht jawaab deta raavi kahta hai ke phir U'rwah baaten karne laga aur jab baat karta to Rasoolullah ﷺ ki daadhi mubaarak ko pakadta uss waqt Hazrat Mugheerah bin Sho'ba ﷺ Aap ke sar ke paas kahade the jin ke haath mein talwaar aur sar par khud tha lehaaza jab U'rwah apna haath Rasoolullah ﷺ ki daadhi ki taraf badhaata to Mugheerah ﷺ uske haath par talwaar ka nichla hissa maarte aur kahte ke apna haath Rasoolullah ﷺ ki daadhi se door rakh yeh sun kar U'rwah ne apna sar uthhaaya aur kahne laga yeh kaun hai? logon ne kaha yeh Mugheerah bin Sho'ba ﷺ hain U'rwah ne kaha aye daghabaaz! kiya main ne teri daghabaazi ki saza se tujh ko nahain bachaaya huwa yoon ke zamaane jaahiliyat mein Hazrat Mugheerah ﷺ kaafiron ki kisi qaum ke saath gaye the phir unhen qatl kar ke unka maal loota aur chale aaye aur uske ba'd

فَبَاتِي وَاللَّهِ لَأَرَى وَجُوهَهَا وَإِنِّي لَأَرَى
أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَقْرُؤُوا
يَدْعُوكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: امْضُصْ
بَطْرَ اللَّاتِ، أَنْحُنْ نَفْرُ عَنْهُ وَنَدْعُهُ؟
فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: أَمَا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ لَا يَدٌ كَانَتْ
لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْرِكَ بِهَا لِأَجْبُتَكَ
قَالَ: وَجَعَلَ يَكْلِمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُلَّمَا
تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ
قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَهُ
السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمَغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى
عُرْوَةَ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ:
أَحْرِي يَدَكَ عَنِ لِحْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ عُرْوَةَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: مَنْ
هَذَا؟ قَالُوا: الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ:
أَيُّ غَدْرٍ، أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَدْرَتِكَ،
وَكَانَ الْمُغِيرَةُ صَحْبَ قَوْمًا فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَفَقْتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ
جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَمَا
الإِسْلَامُ فَأَقْبَلْ وَ أَمَا الْمَالُ فَلَسْتُ مِنْهُ
فِي شَيْءٍ)، ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ
أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْنَيْهِ، قَالَ:
قَوْلَ اللَّهِ مَا تَنْحَمِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَامَةً
إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ،
فَدَلَّكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا
أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ
كَادُوا يَقْتِيلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا

musalmaan ho gaye uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke tumhaara islam to main qubool karta hoon lekin jo maal tu laaya hai usse mujhe koyi gharz nahin uske ba'd U'rwah gosha-e-chashm se Rasoolullah ﷺ ko dekhne laga, raavi bayaan karta hai ke usne dekha ke Rasoolullah ﷺ jab thookte the to sahaab mein se kisi na kisi ke haath par hi padta tha aur woh use apne chehre aur badan par malta tha aur jab Aap unhein koyi hukm dete to woh fauran uski ta'meel karte the aur jab Aap wazoo karte to Aap ke wazoo ka gira huwa paani lene par jhapat padte the aur har shakhs use lene ki khaahish karta woh log kabhi baat karte to Aap ke saam ne apni aawaazen past rakhte aur Aap ki taraf nazar bhar kar na dekhte the yeh haal dekh kar U'rwah apne logon ke paas laut kar gaya aur unse kaha logo! Allah ki qasam! main baadshaahon ke darbaar mein gaya hoon aur Qaisar-o-Qisra neez Najjaashi ke darbaar bhi dekh aaya hoon magar main ne kisi baadshaah ko aisa nahin dekha ke uske masaahib uski aisi ta'zeem karte hon jis tarah Muhammad ﷺ ke ashaab Hazrat Muhammad ﷺ ki ta'zeem karte hain Allah ki qasam! jab woh thookte hain to un mein se kisi na kisi ke haath par padta hai aur woh usko apne chehre par mal leta hai aur jab jab woh kisi baat ka hukm dete hain to woh fauran" unke hukm ki ta'meel karte hain aur woh wazoo karte hain to log unke wazoo se bache huye paani ke liye ladte marte hain aur jab guftagu karte hain to unke saamne apni aawaazen past rakhte hain aur ta'zeem ki wajah se unki taraf nazar bhar kar nahin dekhte be shak unhon ne tumhen ek achchhi baat pesh kash ki hai tum use qubool karlo, uss par bani Kanaana ke ek aadmi ne kaha ab mujhe uske paas jaane ki ejaazat do logon ne kaha achchha

تَكَلَّمَ خَفْضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُجِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَيُّ قَوْمٍ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتَ مَلِكًا قَطُّ يُعْظِمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعْظِمُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ يَتَنَحَّمُ نُحَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَذَلِكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَانُوا يَقْتَبِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفْضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُجِدُونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ حُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا آتِيهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (هَذَا فُلَانٌ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعْظِمُونَ الْبَدْنَ، فَابْعَثُوا لَهُ)، فَبِعِثَ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلْبُونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا يَنْبَغِي لِهَؤُلَاءِ أَنْ يُصَدَّوْا عَنِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبَدْنَ قَدْ قَلِدَتْ وَأَشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدَّوْا عَنِ الْبَيْتِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ مِكَرَّرُ بْنُ حَفْصٍ، فَقَالَ: دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا آتِيهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ

ab tum unke paas jao jab woh Rasoolullah ﷺ aur Aap ke As haab ke paas aaya to Aap ne farmaya yeh fulaan shakhs hai aur yeh uss qaum se ta'alluq rakhta hai jo qurbaani ke jaanwaron ki ta'zeem karte hain lehaaza tum qurbaani ke jaanwar uske saamne pesh karo chunaancheh qurbaani uske saamne pesh ki gayi aur sahaaba kiraam ﷺ ne labbaik pukaarte huye uska istaqbaal kiya jab usne yeh haal dekha to kahne laga Subhaanallah! in logon ko baitullah se rokna zeb nahin deta chunaancheh woh bhi apni qaum ke paas laut kar gaya aur kahne laga main ne qurbaani ke jaanwaron ko dekha ke unke gale mein haar pade aur kohaan zakhmi hain main to aise logon ko baitullah se rokna munaasib nahin khayaal karta phir un mein se ek aur shakhs jiska naam Mikraz tha khada ho gaya aur kahne laga mujhe ejaazat do ke main Muhammed ﷺ ke paas jaaoun logon ne kaha achchha tum bhi jao aur jab woh musalmaanon ke paas aaya to Rasoolullah ﷺ ne farmaya yeh Mikraz hai aur badkaar aadmi hai phir woh Rasoolullah ﷺ se guftagu karne laga abhi woh Aap se guftagu kar hi raha tha ke Suhail bin Amr aa gaya uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya ab tumhaara kaam aasaan ho gaya hai phir usne kaha ke Aap hamaare aur apne darmiyaan sulah ki dastaawez tahreer karen chunaancheh Rasoolullah ﷺ ne katib ko bulaakar usne farmaya likho:

Bismillahir Rahmaanir Raheem

iss par Suhail ne kaha Allah ki qasam! hum nahin jaante ke Rahmaan kaun hai? Aap usi tarah likhwaayen "Bismika Allahumma" jaisa ke Aap pahle likha karte the musalmaanon ne kaha ke hum to wahi "Bismillaahir Rahmaanir Raheem" likhwaayenge Rasoolullah ﷺ ne farmaya "Bismika Allahumma" hi likh do phir aap ne farmaya likkho ke yeh tahreer hai jiski

عَلَيْهِمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (هَذَا مَكْرَرٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ). فَجَعَلَ يَكَلِّمُ النَّبِيَّ ﷺ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو. قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (لَقَدْ سَهَّلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ). فَقَالَ: هَاتِ اكِتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا النَّبِيَّ ﷺ الْكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اَكْتُبْ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ). قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هِيَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: وَاللَّهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (اَكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ). ثُمَّ قَالَ: (هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنْ اكْتُبْ: مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: (وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ). فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: (عَلَى أَنْ تَخْلُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَتَطُوفَ بِهِ). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَا أُحْدِثْنَا ضَغْطَةً، وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَكُتِبَ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى

bunyaad par Muhammad Rasoolullah ﷺ ne sulah ki, Suhail ne kaha Allah ki qasam! agar hum yeh jaante ke Aap Allah ke Rasool hain to hum na to Aap ko baitullah se rokthe aur na hi Aap se jung karte lehaaza Muhammad bin Abdullah ﷺ likhwaayein. uss par Rasoolullah ﷺ ne farmaya Allah ki qasam! be shak main Allah ka Rasool hoon magar tum ne meri takzeeb ki hai achchha Muhammad bin Abdullah ﷺ hi likkho lekin iss shart par ke tum hamaare aur baitullah ke darmiyaan haayel nahin hoge taake hum ka'ba ka tawaaf kar lein Suhail ne kaha Allah ki qasam! aisa nahin ho sakta kyun ke arab baatein karenghe ke hum dabaau mein aagaye hain albattah aayindah saal yeh baat ho jaayegi chunaancheh Aap ne yahi likhwaadiya phir Suhail ne kaha yeh shart bhi hai ke hamaari taraf se jo shakhs tumhaari taraf aaye agarcheh woh tumhaare deen par ho usko aap ko hamaari taraf waapas karna hoga. musalmaanon ne kaha Subhaanallah! woh kis liye mushrikon ko waapas kardein jabke woh musalmaan ho kar aaya hai abhi yeh baaten ho rahi thin ke Abu Jandal bin Suhail bin Amr ﷺ bediyaan pahne huye aahista aahista Makkah ki nasheebi taraf se aata huwa ma'loom huwa yahaan tak ke woh musalmaanon ki jmaa'at mein pahunch gaya Suhail ne kaha aye Muhammad ﷺ sab se pahli baat jis par hum sulah karte hain ke isko mujhe waapas kar do, Rasoolullah ﷺ ne farmaya abhi to sulah naama poora likkha bhi nahin gaya Suhail ne kaha to phir Allah ki qasam! hum tum se kisi baat par sulah nahin karte Rasoolullah ﷺ ne farmaya achchha tum mujhe iski mujhe ejaazat de do Suhail ne kaha main iski ejaazat nahin dunga Rasoolullah ﷺ ne mukarrar farmaya nahin tum iski ejaazat de do usne kaha main nahin dunga Mikraz bola achchha yeh Aap ki khaatir ejaazat dete hain, bil aakhir Abu

دِينِكَ إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا، قَالَ
الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، كَيْفَ يَرُدُّ
إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا،
فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلٍ
بُنْ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو يَرُسْفُ فِي قِيُودِهِ،
وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةَ حَتَّى رَمَى
بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ
سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا
أُقَاضِيكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ، فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ: (إِنَّا لَمْ نَقْضِ الْكِتَابَ
بَعْدُ)، قَالَ: فَوَاللَّهِ إِذَا لَمْ أَصَالِحْكَ
عَلَى شَيْءٍ أَبَدًا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(فَأَجِزْهُ لِي). قَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيزِهِ
لَكَ، قَالَ: (بَلَى فَاَفْعَلْ). قَالَ: مَا أَنَا
بِفَاعِلٍ، قَالَ مِكَرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزَنَا
لَكَ، قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ: أَيُّ مَعْشَرَ
الْمُسْلِمِينَ، أُرِدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ
جِئْتُ مُسْلِمًا، أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ؟
وَكَانَ قَدْ عُدَّ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ.
فَقَالَ عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ: فَاتَيْتُ نَبِيَّ
اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ
حَقًّا؟ قَالَ: (بَلَى)، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى
الْحَقِّ وَعَدُوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ:
(بَلَى)، قُلْتُ: فَلِمَ نَعْطَى الدُّنْيَةَ فِي
دِينِنَا إِذَا؟ قَالَ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ،
وَلَسْتُ أَغْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي). قُلْتُ:
أَوْ لَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَا سَأَلْتِي النَّبِيَّ
فَنَطُوفُ بِهِ؟ قَالَ: (بَلَى)، فَأَخْبَرْتُكَ

Jandal ﷺ bol uthha aye musalmaano! kiya main mushrikeen ki taraf waapas kar diya jaaunga haalaanke main musalmaan ho kar aaya hoon kiya tum nahin dekhte ke main ne kiya kiya museebatein uthhaayi hain? dar haqeeqat islaam ki raah mein use sakht takleef di gayi thi Hazrat Umar bin Khattaab ﷺ kahte hain ke main Rasoolullah ﷺ ke paas aaya aur arz kiya: kiya Aap Allah ke sachche Paighambar nahin hain Rasoolullah ﷺ ne farmaya be shak aisa hi hai main ne arz kiya to phir apne deen ko kyun zaleel karte hain Aap ne farmaya main Allah ka Rasool hoon aur main uski naa farmaani nahin karta. woh mera parwardigaar hai main ne arz kiya: kiya Aap ne nahin farmaya tha ke hum baitullah jaayenge aur uska tawaaf karenge, Aap ne farmaya: haan magar kiya main ne tum se yeh bhi kaha tha ke hum isi saal baitullah jaayenge? main ne arz kiya nahin Aap ne farmaya: tum (ek waqt) baitullah jaaoge aur uska tawaaf karoge Hazrat Umar ﷺ ka bayaan hai ke phir main Abu Bakr ﷺ ke paas gaya aur unse kaha aye Abu Bakr ﷺ! kiya yeh Allah ke sachche Nabi nahin hain? unhon ne kaha kyun nahin main ne kaha kiya hum haq par aur hamaara dushman baatil par nahin hai? unhon ne kaha haan aisa hi hai main ne kaha to phir hum deen ke muta'alliq yeh zillat kyun gawaara karen? Hazrat Abu Bakr ﷺ ne kaha bhale aadmi! woh Allah ke Rasool ﷺ hain uski khilaaf warzi nahin karte Allah unka madadgaar hai lehaaza woh jo hukm dein uski ta'meel karo aur unke rukaab ko thaam lo kyun ke Allah ki qasam! woh haq par hain, main ne kaha kiya woh hum se yeh bayaan nahin karte the ke hum baitullah jaakar uska tawaaf karenge? Hazrat Abu Bakr ﷺ ne kaha haan kaha tha magar kiya yeh bhi kaha the ke tum isi saal baitullah jaaoge aur uska tawaaf karoge? main ne kaha: nahin iss par

أَنَا نَاتِيهِ الْعَامَ)، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: (فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّتٌ بِهِ)، قَالَ: فَاتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيُّ اللَّهِ حَقًّا، قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُّوْنَا عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى، قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطَى الدَّيْنَةَ فِي دِينِنَا إِذَا؟ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَلَيْسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِعَرَزِهِ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ، قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَا سَنَاتِي الْبَيْتِ وَنَطَوِّتٌ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى، أَفَأَحْرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّتٌ بِهِ. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِصَّةِ الْكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: (قُومُوا فَاَنْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا). قَالَ: فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحَرَ بَدَنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمَ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ، نَحَرَ بَدَنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا

Hazrat Abu Bakr رضي الله عنه ne farmaya: tum baitullah pahunchoge aur uska tawaaf karoge. Hazrat Umar رضي الله عنه kahte hain ke main ne iss (be adbi aur gustaakhi ki talaafi ke liye) bahut se nek amal kiye raavi ka bayaan hai ke jab sulah naama likkha jaa chuka to Rasoolullah ﷺ ne apne sahaaba kiraam رضي الله عنهم se kaha uthho aur qurbaani ke jaanwar zabah karo neez sar ke baal mundwaao. raavi kahta hai ke Allah ki qasam! yeh sun kar koyi bhi na uthha phir Aap ne teen martabah yahi farmaya jab un mein se koyi na uthha to Aap Umme Salmah رضي الله عنها ke paas gaye aur unse yeh waaqi'a bayaan kiya jo logon se Aap ko pesh aaya tha. Hazrat Umme Salmah ne kaha ya Rasoolallah ﷺ! agar aap yeh baat chaahte hain to baahar tashreef le jaayen aur un mein se kisi ke saath kalaam na farmayen balke Aap apne qurbaani ke jaanwar zabah karke sar moondhne waale ko bulaayen taake woh Aap ka sar moond de chunaancheh Aap baahar tashreef laaye aur kisi se guftagu na ki hatta ke Aap ne tamaam kaam kar liye. qurbaani ke jaanwar zabah kiye sar moondne waale ko bulaaya jis ne Aap ka sar moonda chunaancheh jab sahaaba kiraam رضي الله عنهم ne yeh dekha to woh bhi uthhe aur unhon ne qurbaani ke jaanwar zabah kiye phir ek doosre ka sar moondne lage hujoom ki wajah se khatrah paida ho gaya tha ek doosre ko halaak kar denge uske ba'd chand musalmaan khawaateen Aap ke haan haazir khidmat huyin to Allah Ta'ala ne yeh aayat naazil farmaayi.

"Musalmaano! jab musalmaan auratein hijrat karke tumhaare paas aayen to unka imtehaan lo aayat ke aakhri hissa (بعض الكوافر) tak"

to Hazrat Umar رضي الله عنه ne uss din apni do mushrik auraton ko talaag de di jo unke nikaah mein thin un mein ek ke saath Mua'awiyah bin Abi Sufyaan رضي الله عنها aur doosri se Safwaan bin Umayyah ne nikaah karli phir Rasoolullah ﷺ Madinah waapas

رَأَوْ ذَلِكَ قَامُوا فَانْحَرُوا وَجَعَلَ
بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ
بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا عَمًّا، ثُمَّ جَاءَهُ
نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ
الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاِمْتَحِنُوهُنَّ
حَتَّى بَلَغَ ﴿بَعْضِ الْكُوفِرِ﴾ فَطَلَّقَ
عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا لَهُ فِي
الشِّرْكِ فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةَ بْنَ
أَبِي سُفْيَانَ، وَالْأُخْرَى صَفْوَانَ بْنَ
أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ، رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ
وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلْبِهِ رَجُلَيْنِ،
فَقَالُوا: الْعَهْدُ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ
إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا
ذُالْحُلَيْفَةَ، فَنَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ
لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لِأَحَدِ الرَّجُلَيْنِ:
وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ
جَيْدًا، فَاسْتَلَّهُ الْآخَرُ، فَقَالَ: أَجَلُ،
وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيْدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ
جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ: أَرِنِي أَنْظُرُ
إِلَيْهِ، فَأَمَكَّنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ،
وَقَرَّ الْآخَرُ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَدَخَلَ
الْمَسْجِدَ يَعْذُو، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
حِينَ رَأَاهُ: (لَقَدْ رَأَى هَذَا دُغْرًا)، فَلَمَّا
انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَتِلْ وَاللَّهِ
صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَهُ أَبُو
بَصِيرٍ: فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ

aaye to Abu Baseer ؓ naami ek shakhs musalmaan ho kar Aap ke paas aaya jo quraishi tha aur kuffaar-e-Makkah ne bhi uske ta'aqub mein do aadmi bheje neez Rasoolullah ؓ ko kahalwa bheja ke jo ahad Aap ne hum se kiya hai uska khayaal karen lehaaza Rasoolullah ؓ ne Abu Baseer ؓ ko un donon ke hawaale kar diya aur woh donon use le kar Zulholaifah pahunche aur wahaan utar kar khujjooren khaane lage to Abu Baseer ؓ ne ek se kaha Allah ki qasam! teri talwaar bahut u'mdah ma'lloom hoti hai usne sont kar kaha be shak u'mdah hai main ise kayi daf'a aazma chuka hoon Abu Baseer ؓ ne kaha mujhe dekhaao main bhi to dekhoon kaisi achchhi hai? chunaankeh woh talwaar usne Abu Baseer ؓ ko dedi, Abu Baseer ؓ ne usi talwaar se waar karke use thhanda kar diya doosra shakhs bhaagta huwa Madinah aaya aur daudta huwa Masjid mein ghus aaya Rasoolullah ؓ ne use dekha to farmaya yeh kuchh khaufzadah hai phir jab woh Rasoolullah ؓ ke paas aaya to kahne laga Allah ki qasam! mera saathi qatl kar diya gaya hai aur main bhi nahin bachunga, itne mein Abu Baseer ؓ bhi aa pahuncha aur kahne laga ya Rasoolallah! Allah ne Aap ka ahad poora kar diya hai Aap ne mujhe kuffaar ko waapas kar diya tha magar Allah ne mujhe najaat di hai iss par Rasoolullah ؓ ne farmaya teri maan ke liye kharaabi ho yeh to ladaayi ki aag hai agar koyi iska madad gaar hota to zaroor bhadak uthti jab Abu Baseer ؓ ne yeh baat suni to woh samajh gaye ke Aap usko phir kuffaar ke hawaale karenge lehaaza woh seedha nikal kar samandar ke kinaare jaa pahuncha doosri taraf se Abu Jandal ؓ bhi Makkah se bhaag kar usse mil gaye iss tarah jo shakhs bhi Quraish ka musalmaan ho kar aata woh Abu Baseer ؓ se mil jaata tha yahaan tak ke wahaan ek jamaa'at wajood mein aagayi phir

أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ، فَدَرَدْتَنِي إِلَيْهِمْ،
 ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
 (وَيْلٌ أُمَّهِ، مِسْعَرٌ حَرْبٌ، لَوْ كَانَ لَهُ
 أَحَدٌ)، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ
 سَيْرُهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سَيْفَ
 الْبَحْرِ، قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلٍ
 بَنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ
 لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا
 لِحَقِّ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ
 عِصَابَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعَيْرٍ
 خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ
 إِلَّا اغْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا
 أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ
 ﷺ تَنَاشِئُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ: لَمَّا
 أُرْسِلَ: فَمَنْ آتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ
 النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى:
 ﴿وَهَرَّ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ
 أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ
 أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿الْحَمِيَّةَ
 حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ
 أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا
 بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا
 بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ.

(رواه البخارى: ٢٤٣١، ٢٤٣٢)

Allah ki qasam! woh Quraish ke jis qaaflah ki baabat sunte ke woh shaam ki jaanib jaa raha hai uski ghaat mein rahte uske aadmiyon ko qatl karke unka saaz-o-saamaan loot lete phir aakhir kaar Quraish ne Rasoolullah ﷺ ke paas aadmi bheja Aap ko Allah aur qaraabat ka waastah diya ke Abu Baseer ؓ ko kahla bhejen ke woh eiza rasaani se baaz aajaye aur ab se jo shakhs musalmaan ho kar Aap ke paas aaye usko aman hai chunaancheh Rasoolullah ﷺ ne Abu Baseer ؓ ki taraf uski baabat paighaam bheja uss waqt Allah Ta'ala ne yeh aayat naazil farmayi:

Wahi Allah jis ne ain Makkah mein tumhen un par fatah di aur unke haath tum se rok diye aur tumhaare haath un se yahaan tak ke (حمية الجاهلية) ke lafz tak pahunche"

Aur jaahilaana nakhwat yeh thi ke unhon ne Rasoolullah ﷺ ki nabuwat ko na maana بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ na likhne neez musalmaanon aur Ka'ba ki darmiyaan haayel huye. (Bukhari: 2731,2732)

Fawaaid: Iss se ma'loom huwa ke kisi bade aur aham maqsad ke husool ke liye chhoti chhoti jazbaati baaton ko qurbaan kar dena chaahiye kyun ke Rasoolullah ﷺ ne baitullah ki a'zmat wa hurmat ko barqaraar rakhne ke liye kuffaar ki taraf se ba'z naarawa sharaayet ko bhi qubool kar liya.

Baab 5: Eqraar mein kis qism ki shart aur istesna durust hai.

1193 :Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya Allah ke 99 naam hain ya'ni ek kam 100 naam hain jo shakhs inko yaad kare to woh jannat mein daakhil hoga. (Bukhari: 2736)

۵- بَابُ: مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِشْرَاطِ وَالنُّتْيَا

فِي الْإِقْرَارِ

۱۱۹۳: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً إِلَّا وَاحِدًا، مَنْ أَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ).

(رواه البخارى: ۲۷۳۶)

Fawaaid: Iss hadees se un asmaaye H'usna ki khabar di gayi hai jinhein yaad karne aur unke mutaabiq amal karne waale ko dukhool-e-jannat ki bashaarat di gayi hai. waise 99 Asmaa ke elaawah bhi Allah Ta'ala ke be shumaar naam hain.(Awnul baari:3/312)

Wasiyatun ke bayaan mein

Baab 1: Wasiyat ki ahmiyat.

1194 : Hazrat Abdullah bin Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke Rasoolullah ﷺ ne farmaya ke jis musalmaan ko kisi cheez ki wasiyat karna ho use jaayez nahin ke woh do raaten bhi yoon guzaare ke wasiyat uske paas tahriri shakl mein maujood na ho.

(Bukhari: 2738)

Fawaaid: Jis shakhs ke paas maal -o-daulat ya qaabil-e-wasiyat koyi aur cheez ho to use chaahiye ke apni wasiyat ko zabt-e-tahreer mein laaye maal ki wasiyat ke liye zaroori hai ke woh kisi naa jaayez kaam aur shara'yi waaris ke liye wasiyat na kare aur na uski wasiyat 1/3 se zaayed ho.

1195 : Hazrat Amar bin Haaris رضي الله عنهما se rivaayat hai jo Rasoolullah ﷺ ke saale hain ya'ni Ummul Mo'mineen Hazrat Juwairiyah bin Haaris رضي الله عنهما ke bhaayi hain unhon ne farmaya ke Rasoolullah ﷺ ne apni wafaat ke waqt na koyi dirham chhoda; na koyi dinar aur koyi laundi ghulaam aur na koyi aur cheez sirf ek safed khachchar, chand hathiyaar aur kuchh zameen chhodi jis ko Aap waqf kar chuke the. (Bukhari: 2739)

Fawaaid: Hadees mein jin ashya ka zikr hai Rasoolullah ﷺ ne apni zindagiyan mein hi unhen Allah ki raah mein waqf kardiya tha albattah logon ko iski e'ttela' wafaat ke waqt huyi thi. (Awnul Baari:3/417)

1196 : Hazrat Abdullah bin Aufa رضي الله عنهما se rivaayat hai un se daryaافت kiya gaya ke kiya Rasoolullah ﷺ ne koyi wasiyat farmayi thi, unhon ne kaha nahin phir un se kaha gaya ke phir logon par wasiyat kaise farz huyi ya unko wasiyat ka hukm kaise diya gaya? unhon ne kaha ke Rasoolullah ﷺ ne kitabullah par amal karne ki wasiyat farmayi thi. (Bukhari: 2740)

كِتَابُ الْوَصَايَا

١- بَابُ: الْوَصَايَا

١١٩٤ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، بَيْتَ لَيْتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ).

(رواه البخارى: ٢٧٣٨)

١١٩٥ : عَنْ عُمَرَو بْنِ الْحَارِثِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَتَّى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا، وَلَا دِينَارًا، وَلَا عَبْدًا، وَلَا أَمَةً، وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَعَلْتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَسِلَاحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.

(رواه البخارى: ٢٧٣٩)

١١٩٦ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْصَى؟ فَقَالَ: لَا، فَقِيلَ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ أَمْرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. (رواه البخارى: ٢٧٤٠)

Fawaaid:Rasoolullah ﷺ ne amr khilaafat ya maali muaa'mlaat ke muta'alliq koyi wasiyat nahin farmayi uske e'laawah aap ne wafaat ke waqt wasiyat ki thi ke jazeera -e-Arab se yahoodiyon ko nikaal dena aur numaaindah hazraat ki khaatir -o- madaraat karna waghairah. (Awnul Baari:3/418)

Baab 2: Marte waqt sadqah karna.

1197 : Hazrat Abu Hurairah ؓ se rivaayat hai ke unhon ne farmaya ke kaun sa sadqah afzal hai? Aap ne farmaya ke sehat ki haalat mein jabke tumhen maal ki khaahish daulat mandi ki aarzoo aur tangdasti ka dar ho uss waqt sadqah do aur sadqah dene mein taakheer na karo ke jab halaq mein dam aajaaye to kaho fulaan ko yeh dena aur fulaan ko itna dena kyun ke uss waqt to woh maal falaan waaris ka ho hi chuka hai.

(Bukhari: 2748)

Fawaaid:Aksar ahle sarwat maali muaa'mlaat mein zindagi aur maut ke waqt Allah ki naa farmaani karne ka irtekaab karte hain ya'ni zindagi mein bukhl se kaam lete hain aur maut ke waqt naa jaayez wasiyat ke zariye apne sharayi' warsa ka haq maarte hain. (Awnul Baari:3/420)

Baab 3: Kiya A'urat aur bachche aqaarib mein shaamil hain.

1198: Hazrat Abu Hurairah ؓ se hi rivaayat hai unhon ne kaha ke jab Allah Ta'ala ne yeh aayat naazil farmayi "ke Aap apne qareebi rishte daaron ko Allah ke azaab se khabar daar karein" to Rasoolullah ﷺ ne khade ho kar farmaya aye giroah Quraish! ya aisa hi koyi lafz farmaya tum apni jaanen bachhao kyun ke main tumhen Allah ke azaab se nahin bachaa sakta, aye aulaad Abde Manaaf! main Allah ke saamne tumhaare kuchh kaam nahin aasakunga, aye Abbaas bin Abdul Muttalib ؓ! main tumhen bhi Allah ki azaab se nahin bacha sakta, aye Safiyah رضي الله عنها jo Rasoolullah ﷺ ki phoophi hain main Allah ke huzoor tumhaare kuchh kaam nahin aaounga aur aye Faatimah رضي الله عنها binte Muhammad ؐ! tum mera maal jitna chaaho le lo lekin main Allah ki azaab se

٢- بَابُ: الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

١١٩٧ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: (أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ، تَأْمَلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلَا تُمِهَلُ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ، قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ). (رواه البخارى: ٢٧٤٨)

٣- بَابُ: هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَالِدُ

فِي الْأَقْرَابِ؟

١١٩٨ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾. قَالَ: (يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاةٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِّبْنِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي، لَا أُغْنِي

tumhen nahin bacha sakta.

(Bukhari: 2753)

عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا).

(رواه البخارى: ٢٧٥٣)

Fawaaid: Qaraabat daaron mein a'uraten aur bachche shaamil hote hain jaisa ke Rasoolullah ﷺ ne apni phoophi hazrat Safiyah رضي الله عنها aur apni bachchi hazrat Faatimah رضي الله عنها ko shaamil farmaya hai lekin wasiyat mein woh rishtah daar shaamil honge jo uske tarkah se sharay'i waaris na hon.

Baab 4: Irshaad-e-Baari Ta'ala!

"Aur tum yateemon ka imtehaan lo ta aanke woh nikah ki umr ko pahunch jayein agar tum un mein salaahiyat dekho to unke maal unke hawaale kar do".

1199 : Hazrat Ibne Umar رضي الله عنهما se rivaayat hai ke unke waalid giraami Hazrat Umar ﷺ ne apna ek achchha maal Rasoolullah ﷺ ke zamaane mein sadqah kar diya aur woh ek samagh naami khujooron ka baagh tha Hazrat Umar ﷺ ne arz kiya ya Rasoolallah ﷺ! main ne ek u'mdah maal haasil kiya hai main chaahata hoon ke use sadqah kar doon to Rasoolullah ﷺ ne farmaya tum asal darakht iss shart par sadqah kar do ke woh na farokht kiye jaayen aur na bataure hibah diye jaayen aur na hi un mein wiraasat jaari ho balke inka phal kaam mein laaya jaaye chunaancheh Hazrat Umar ﷺ ne isi shart par use waqf kar diya to unka yeh sadqah Allah ki raah mein ghulaamon ki aazaadi, mohtaajon ki zaroorat, mehmaanon ki ziyaafat aur qaraabat daaron mein hi kharch kiya jaata tha uske mutawalli ko bhi ejaazat thi ke uss par koyi harj nahin ke dastoor ke mutaabiq khud khaaye aur apne kisi dost ko khilaaye bashar teke woh maal jama' karne ka iraadah na rakhta ho. (Bukhari: 2764)

Fawaaid: Imam Bukhari ne iss hadees se yeh saabit ki hai ke yateem ka sar parast uske maal mein mehnat kar sakta hai tejaarat mein laga sakta hai aur apni mehnat ka muaa'wazah bhi dastoor ke mutaabiq le sakta hai.

Baab 5: Irshaad-e-Baari Ta'ala:

"Jo log yateemon ka maal zulm se khaate hain woh apne peton mein aag bharte hain unhein an qareeb dozakh mein daala jaayega."

٣- بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى

﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾

١١٩٩ : عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ أَبَاهُ تَصَدَّقَ بِمَالٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ تَمَعٌ ، وَكَانَ نَخْلًا ، فَقَالَ عُمَرُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالًا ، وَهُوَ عِنْدِي نَفِيسٌ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ ، لَا يَسَاعُ وَلَا يُوَهَّبُ وَلَا يُورَثُ ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ) . فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ ، فَصَدَّقْتَهُ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَفِي الرِّقَابِ ، وَالْمَسَاكِينِ ، وَالضَّيْفِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ ، وَلِذِي الْقُرْبَى ، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَليَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، أَوْ يُؤْكَلَ صَدِيقُهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ بِهِ . (رواه البخارى: ٢٧٦٢)

٥- بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ

الَّذِينَ.....﴾

diya yeh sun kar sahaaba kiraam ﷺ ne unki tasdeeq ki. (Bukhari: 2778)

فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ.

(رواه البخارى: ٢٧٧٨)

Fawaaid: Imam Saahab ne iss u'nwaan se ek rivaayat ki taraf ishaarah kiya hai ke jis ke alfaaz yeh hain "kaun hai jo B'ir-e-Rooma khareed kar de aur uss mein deegar musalmaanon ki tarah apna dol bhi daale to use iss kynwen se badh kar jannat mein silah milega Imam Bukhari ne iss se yeh saabit kiya hai ke waqfi jaayedaad se waqf kunindah khud bhi deegar musalmaanon ki tarah istefaadah kar sakta hai. (Awnul Baari:3/428)

Baab 8: Irshaade Baari Ta'ala!

"Musalmaano! jab tum mein se koyi marne lage to wasiyat ke waqt tum mein se ya tumhaare ghairon se do aadil gawaah hone chaahiyeen.

1203 :Hazrat Ibne Abbaas ﷺ se rivaayat hai ke Qabeela Bani Saham ka ek shakhs tameem daari aur adi bin bada' ke saath baahar gaya to woh sahmi aisi zameen mein faut huwa jahaan koyi musalmaan na tha jab tameem daari aur Adi uska tarka laaye to uss mein se ek chaandi ka jaam ghaayeb tha jis par sunhari naqsh the uss par Rasoolullah ﷺ ne donon se half liya uske ba'd woh jaam Makkah mein mila aur logon ne kaha ke hum ne Tameem aur A'di se khareeda hai to do shakhs mayyat ke azeeron mein se khade huye aur unhon ne qasam uthhaayi ke hamaari shahaadat in donon ki shahaadat ke muqaablah mein ziyaadah wazni hai aur hum gawaahi dete hain ke yeh jaam hamaare azeer hi ka hai Hazrat Ibne Abbaas ﷺ kahte hain ke yeh aayat unhin ke haq mein naazil huyi:

"Musalmaano! wasiyat ke waqt tum par gawaahi laazim hai jabke tum mein se koyi qareebulmarg ho."

(Maayidah:106)(Bukhari: 2780)

٨- بَابُ: قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ.....إِلَى قَوْلِهِ:

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

١٢٠٣: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَهْمٍ

مَعَ تَمِيمِ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَاءٍ،

فَمَاتَ السَّهْمِيُّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا

بَنِي كَتَبَهُ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا

مِنْ ذَهَبٍ، فَأَخْلَفَهُمَا رَسُولُ

اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ وَجَدَ الْجَامَ بِمَكَّةَ،

فَقَالُوا: ابْتِغَاءَهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيِّ فَقَامَ

رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَاءِ السَّهْمِيِّ، فَحَلَمَا:

لشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ

الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ، قَالَ: وَفِيهِمْ نَزَلَتْ

هَذِهِ الْآيَةُ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

شَهِدُوا.....﴾

(رواه البخارى: ٢٧٨٠)

Fawaaid: Duraan-e-safar wasiyat ke moqe par jabke ahle islaam aa'dil gawaah na mil saken to aise haalaat mein kuffaar ki gawaahi par e'tbaar kiya jaa sakta hai aa'm haalaat mein gawaahi ke liye islaam aur a'daalat shart hai. (Awnul Baari:3/433)



1200 :Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se rivaayat hai woh Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم se bayaan karte hain ke Aap ne farmaya ke saat halaakat khez aur tabaah kün baaton se parhez karo, logon ne arz kiya ya Rasoolallah صلی اللہ علیہ وسلم! woh kiya hain? Aap ne farmaya Allah ke saath shirk karna jaadu karna, uss jaan ko naa haq qatl karna jise Allah ne haraam kiya ho,sood khana, yateem ka maal udaa lena, Maydaane jung se raah-e-faraar ikhtiyaar karna aur paak daaman aur be khabar auraton ko badkaari ki tohmat lagaana,(Bukhari: 2766)

١٢٠٠ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: (الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ). (رواه البخارى: ٢٤٢٦)

Fawaaid:Iske e'laawah padosi ki biwi se zina, waalidain ki naa farmaani aur jhooti qasam bhi halaakat khez gunaahon se hain. (Awnul Baari:3/426)

Baab 6: Waqf ke muntazim ka kharcha waqf jaayedaad se poora kiya jaaye.

1201 : Hazrat Abu Hurairah رضي الله عنه se hi rivaayat hai ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya mere waaris na dinar taqseem karein aur na dirham aur jo kuchh main apni biwiyon ke ikhrajaat aur jaayedaad ka ehtemaam karne waalon ki tankhaah se faazil chhodoon woh sab sadqah hai.(Bukhari: 2776)

٦- بَابُ: نَفَقَةِ الْقِيَمِ لِلْوَقْفِ
١٢٠١ : وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكَتْ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَوْتِي عَامِلِي، فَهُوَ صَدَقَةٌ). (رواه البخارى: ٢٤٤٦)

Fawaaid:Ma'loom huwa ke jo waqf jaayedaad ka mutawalli hai aur uska intezaam -o- inseraam karta hai woh ma'roof tareeqa se apni mehnat ka mu'aawazah wasool kar sakta hai. (Awnul Baari:3/427)








Baab 7: Agar koyi zameen ya mashroot taur par kunwa waqf kare ke uska dol bhi deegar musalmaanon ki tarah uss mein pada karega.

1202 :Hazrat Usmaan رضي الله عنه se rivaayat hai ke jab woh mahsoor ho gaye to kahne lage main tumhen Allah ki qasam deta hoon aur yeh qasam sirf ashaab-e-Rasool رضي الله عنهم ko deta hoon kiya tum nahin jaante ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya tha jo shakhs Rooma ka kunwa khade usko jannat milegi to main ne usko khod diya. kiya tum nahin jaante ke Rasoolullah صلی اللہ علیہ وسلم ne farmaya tha jo shakhs jaish-e-israt ya'ni tabook ka saamaan kar de woh jannati hai to main ne uska saamaan kar

٤- بَابُ: إِذَا أَوْقَفَ أَرْضًا أَوْ بَيْتًا أَوْ اشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ
١٢٠٢ : عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ حِينَ حُوصِرَ، أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: أَنْشُدْكُمْ اللَّهَ، وَلَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ حَفَرَ رُومَةَ فَلَهُ الْجَنَّةُ؟). فَحَفَرْتُهَا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ؟). فَجَهَّزْتُهُ، قَالَ:



Hamari Deegar Roman Kitabein



Distributor :

FAIZI BOOK DEPOT
 H. No. 9-4-57/12/10, 1st Floor Opp. Limra Hotel, Hakeempet Rd,
 Tolichowki, Hyderabad-8 (T.S.) Email : arqamtarique2@gmail.com
 Cell : 8985740592, 8125925335, 9494511336

₹ 465/-

www.minhajusunat.com